

# فتاویٰ شیدیہ (کامل)

مبہوب بطرز جدید

حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی

دارالافتاح

اردو بازار، ایم علی، جناح روڈ، کراچی ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## دیباچہ

عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ کی شخصیت علمی و مذہبی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے آپ کو یوں تو تمام علوم اسلامیہ میں ایک طرح سے منصب امامت حاصل تھا لیکن فقہ اور حدیث آپ کی سرشت میں داخل تھے۔ ان علوم کے وہ مشکل مسائل جن کے حال میں علمائے عصر پریشان و سرگرداں رہتے تھے۔ حضرت گنگوہی چٹکلی بجاتے حل کر دیا کرتے تھے۔ اور ایسے سچے تلے الفاظ میں کئی دم مارنے کی مجال باقی نہ رہتی تھی۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، علامہ شامی کے تبحر علمی کو بے حد سراہتے تھے۔ لیکن آپ نے ”فقہ انفس“ کا موزوں ترین خطاب حضرت گنگوہی کو مرحمت فرمایا۔

حضرت گنگوہی نے دین متین کے ہر اس گوشے کی حفاظت فرمائی جہاں سے رسوم جاہلیت داخل ہو کر اسلام کی شکل و صورت کو داغدار کر رہی تھیں یہ رسوم جاہلیت اور رواج قبیلہ کچھ تو نادانستگی کے سبب داخل ہو رہے تھے اور کچھ دانستہ طور پر قبول کئے جا رہے تھے۔ حضرت گنگوہی نے ان کے خلاف اپنے فتوؤں کی شکل میں جہاد کیا اور اس سیل جہالت کے مقابل زیر نظر فتاویٰ کا پشتہ کھڑا کر دیا اس طرح اسلام اور مسلمان اس یلغار قبیح سے محفوظ و مضمون ہو گئے یہ سارا فیضان ولی اللہی ہونے کا تھا اس خاندان کی للہیت خدمت اسلامی اور علمی و عملی کمالات کی ایک دنیا معترف ہے اور اس خاندان کا ہر فرد آسمان علم و عمل پر ایک درخشندہ ستارہ بن کر چکا او ظلم و جہالت و ضلالت میں ڈوبی ہوئی دنیا کو انوار نبوت اور علوم الہی سے منور کر دیا۔ حضرت گنگوہی کے یہ فتاویٰ یوں تو اس سے پہلے بھی شائع ہوتے رہے ہیں لیکن ہم نے جدید عکسی ایڈیشن کی ترتیب و تہذیب کو فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا ہے اور عصر حاضر کی ذہنی اور مزاجی کیفیات کو بھی پیش نظر رکھا ہے ہم نے جملہ مسائل کو ان کی نوعیت اور اقسام کے اعتبار سے الگ الگ کتاب اور ابواب کے ماتحت ایک جگہ کر دیا ہے اس طرح قاری کو کسی بھی مسئلہ میں اس کا جواب تلاش کرنے میں دقت اور پریشانی نہ اٹھانی پڑے گی۔ فہرست مضامین میں متعلقہ مسئلہ کی کتاب اور باب پر نظر ڈالئے اور صفحہ متعلقہ

کھول کر جواب حاصل کر لیجئے اسی طرح کچھلی اشاعت میں ملفوظات منتشر و متفرق تھے۔ ہم نے انہیں بھی ابواب کے اختتام پر ایک جلد کر دیا ہے۔ ان تمام مساعی اور کوششوں کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما تھا کہ اس مفید چیز کے افادے کو زیادہ سے زیادہ وسیع کر دیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر سعی کو قبول فرمائے۔ آمین۔

ناشرین

## ”سلوک سلیمانی“ (حضرت مولانا محمد اشرف پشاوریؒ) کا ایک منتخب اقتباس:

باہم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب دور کرنا اور محبت پھیلانا ایسی عبادت ہے جس کا درجہ (نفلی) نماز، روزہ اور صدقات سے بھی بڑھ کر ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے فرمایا:

أَنَا أُعْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ قَرَحَةِ الصِّيَامِ      کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقات سے بھی  
وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ      بڑھ کر چیز نہ بتاؤں!

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، فرمایا

إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ      (سنن ابی داؤد)      وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے۔

اس مؤثر طریقہ ادا نے خدا شناسی اور خدا آگاہی کے کتنے توہرے پر دے چاک کر دیے اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے کیا کیا طریقے ہیں۔ حضرت سعدؓ جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ میں دیدیں۔ آپ ﷺ نے انھیں بتایا کہ اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کرو کہ اس سے خدا کی رضا مطلوب ہے اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دو تو اس کا بھی ثواب ہے۔ (ادب المفرد)

ابو مسعود انصاریؓ سے ارشاد فرمایا کہ ”مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ

پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔“ (صحیح البخاری)

☆☆☆☆☆☆☆☆

نتائج و تخت میں، نے لشکر و سپاہ میں ہے      جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

☆☆☆☆☆☆☆☆

یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندِ ی؟      (اقبال)



حقیقی تصوف صرف اتنی سی بات ہے کہ:

(۱) باطنِ رزائل سے پاک ہو جائے۔ (۲) باطنِ فضائل سے متصف ہو جائے،

(۳) کثرتِ ذکر سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان چھا جائے۔ (نسبت یا داشت)

(۴) ظاہری شریعت پر مسنون طریقے سے عمل پیرا ہونا نصیب ہو جائے۔

نسبت: یہ چار باتیں انسان کی طرف سے ہیں اور فنِ تصوف ہیں۔ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں

مقبول ہو جائے تو یہ فضلِ الہی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما کر اپنے خاص بندوں میں

شامل کر لیتے ہیں۔ جسے چاہا درپے بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا

یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

(بحوالہ اصلاحِ نفس۔ ڈاکٹر فردا محمد مدظلہ)

فضائل کی فہرست: صبر، شکر، خوف، رجا، رضا، زہد، تقویٰ، توکل، سخاوت، اللہ کے احسانات کی معرفت،

حسن معاملہ، خدائے تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، خوش خلقی، حسن معاشرت، تواضع، خیر خواہی، ہمدردی، صدق، اخلاص،

اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، وغیرہ۔

رزائل کی فہرست:

مقلسی کا خوف، تقدیر سے مارا تنگی، کینہ پروری، حسد، فتن، جب جاہ، دنیا میں عیش کرنے کے لیے طویل

زندگی کی خواہش، تکبر، ریا کاری، خصم، شخی، دشمنی، بغض، لالچ، بخل، حرص، امراء کی (بوجہ مال و عہدہ) تعظیم، فقراء کی

توہین، فخر، مفاخرت، حق سے انکار، لائینی چیزوں میں اہتعال، زیادہ بولنے کی خواہش، لوگوں کا قطع کلام کرنا، دنیا کے

لیے زیب و زینت اختیار کرنا، دین میں سستی کرنا، اپنے نفس کو بڑا سمجھنا، اپنی برائیوں سے قطع نظر کر کے لوگوں کی عیب

جوئی کرنا، دل کا فکر آخرت اور خوفِ الہی سے خالی ہونا، ذرا سی رسوائی پر شدید انتقام لینا، حق کے لیے انتقام میں کمزوری

دکھانا، باطن کی دشمنی کے لیے ظاہر کے دوست بنانا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے چھن جانے کے سلسلے میں عذاب

خداوندی سے عاجل ہونا، اپنی اطاعت و عبادت پر بھروسہ کرنا، مکر، فریب، خیانت، زیادہ جینے کی توقع، شقاوتِ قلبی، سخت

کلامی، دنیا کی زندگی سے خوشی، اس کی جدائی سے ملال، مخلوق سے (غیر شرعی) محبت، ان کی جدائی سے وحشت، ظلم، بخلت

پسندی، شرم و حیا کی کمی، رحم کا فقدان، اسی طرح کی دوسری عادتیں۔ سب برائیاں، منکرات اور فواحش انہی سے جنم لیتے

(احیاء العلوم مع اضافہ۔ حجۃ الاسلام امام غزالیؒ)

ہیں۔

## ادارہ اشرفیہ عزیز نیہ کی ترتیبی ترتیب

حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی پشاور، رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ترتیبی ترتیب کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے

**درجہ اول:** تعلیم الاسلام (مفتی کفایت اللہ صاحب) کا چار پانچ مرتبہ مطالعہ تا کہ مسائل ذہن نشین ہو جائیں، جہاں سمجھ نہ آئے خود فیصلہ کرنے کی بجائے علماء سے پوچھنا، استعداد اچھی ہو تو اپنے گھر یا مسجد میں چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو سبقتاً پڑھنا۔

ام الامراض، اکابر کا سلوک و احسان، فیض شیخ (حضرت مولانا زکریا)۔

تسبیل قصد السبیل، تسبیل الموعظ، اصلاحی نصاب (دس رسالوں کا مجموعہ) (حضرت مولانا

اشرف علی تھانوی)

### درجہ دوم:

بہشتی زیور، ملفوظات حکیم الامت (مولانا اشرف علی تھانوی)، اسوہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم (حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب)، آپ مٹی (حضرت مولانا زکریا) تذکرۃ الاولیاء (شیخ فرید الدین عطار) کیمائے سعادت (امام غزالی)

**درجہ سوم:** تربیت السالک، الکشف، بوادر نوادر، انفاس عیسیٰ، بصائر حکیم الامت (حضرت مولانا اشرف علی تھانوی)، احیاء العلوم (امام غزالی)

### جہری ذکر کی احتیاط اور طریقہ

سارے تصوف کے سلاسل کی طرح ہمارے سلسلہ میں بھی ذکر و قلب کی اصلاح میں بطور بنیادی ذریعہ شامل کیا گیا ہے۔ سلسلہ کی ترتیب میں چھتیز صابریہ جہری طریقہ ذکر، ضرب کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے۔ پہلے درجہ میں صرف سوا لا الہ الا اللہ، سوا رالا اللہ اور سوا رالا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرے اور تیسرے درجہ میں لا الہ الا اللہ دو سوا رالا اللہ چار سوا رالا اللہ چھ سوا رالا اللہ کی اجازت دی جاتی ہے۔

کتابوں کا مطالعہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے جبکہ جہری ذکر کی ترتیب کے لیے بیعت، مشورہ اور اس کے طریقہ

کو بالمشافہ (آمنے سامنے) دیکھنا ضروری ہے، خود سے کرنے میں ذہنی و جسمانی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔

## حضرت مولانا اشرف صاحب سلیمانیؒ کا واقعہ

(ڈاکٹر فدا محمد صاحب دامت برکاتہ)

ایک ملاقات میں جناب پروفیسر ڈاکٹر خان بہادر صاحب وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی نے سنایا کہ خیبر میڈیکل کالج کے سال اول کے طالب علم برخوردار سرفراز چند دن میڈیکل کالج میں گزارنے کے بعد ہمارے شیخ و مربی حضرت مولانا محمد اشرف صاحبؒ) سابق پروفیسر و صدر شعبہ عربی پشاور یونیورسٹی) سے ملنے کے لئے آیا۔ برخوردار تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہوا تھا اور دینی لحاظ سے فکر مند تھا، اس نے ملتے ہی کہا، ”حضرت میں میڈیکل کی تعلیم چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں کا مخلوط ماحول اور بے دین فضا مجھے بالکل پسند نہیں۔“ حضرت نے فرمایا ”بھلے آدمی! لڑکیاں تو اس ماحول سے نہیں بھاگ رہیں اور تو مرد ہو کر ہتھیار ڈال رہا ہے۔ یہ تعلیم چھوڑ کر کرو گے کیا؟“ اس نے جواب دیا کہ میں دینی مدرسے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو علماء بہت ہیں علماء کے خادم کم ہیں۔ تم ڈاکٹر بن کر علماء کے خادم بنو۔ آدمی ٹنگ گیا، ڈاکٹر بنا، حضرت کی صحبت کا نتیجہ کہ عملی لحاظ سے کئی علماء کے لئے قابل رشک بنا اور واقعی علماء کا ایسا خادم بنا کہ جہاں بھی رہا وہاں کے علماء کی خوب خدمت کی۔ ایک حادثے میں شہادت ہو گئی لیکن آج تک اُن کی خدمات دوست احباب اور علمائے کرام کے حلقوں میں یادگار ہیں۔ ہمارے حضرت کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے مریدوں کو دنیا کے کاموں میں ایسا چلاتے تھے کہ اس دنیا کو دین اور عبادت بنا دیتے تھے۔

تمنا درود کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی

نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں

## مسلك صاحب فتاویٰ

صاحب فتاویٰ مذاہب اربعہ میں سے کسی پر طعن نہیں کرتے

الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلوة والسلام على رسوله الكريم. سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى مجتهدى ملته واتباعه الى يوم الدين

ابا بعد۔ احقر العباد بندہ رشید احمد گنگوہی عفا اللہ تعالیٰ عنہ بخد مت ارباب فہم و دیانت عرض کرتا ہے کہ بندہ کا مذہب حسب مسلک حق جملہ حق و دین یہی ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ و مجتہدین علیہم الرحمۃ کا اختلاف ہو تو اس میں سے جس جانب کو اپنی تحقیق سے یا تقلید کسی مجتہد اہل حق سے راجح سمجھے اس پر عمل درآمد رکھے اور دوسری جانب پر بھی کوئی طعن و تشنیع نہ کرے۔ اور عند الضرورت اس پر بھی عمل کر لے۔ اسی وجہ سے یہ بندہ عاجز حنفی المذہب ہے کسی اہل مذہب پر طعن نہیں کرتا اور نہ اپنے مذہب کی خواہ مخواہ ترجیح کے درپے ہوتا ہے مگر عند الضرورت جہاں کچھ رفع فساد یا اصلاح متصور ہوتی ہے تو اس مسئلہ میں کچھ لکھ دیتا ہے۔ اتنی

جواب:- مذاہب سب حق ہیں، مذہب شافعی پر عند الضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو عذر یا حجتہ شرعیہ سے ہو وے کچھ حرن نہیں ہے۔ سب مذاہب کو حق جانے کسی پر طعن نہ کرے۔ سب کو اپنا امام جانے۔ فقط

کتبہ الاحقر

بندہ رشید احمد گنگوہی عفا اللہ عنہ



## فہرست مضامین فتاویٰ رشیدیہ ہر سہ حصص کامل مبوب

۵	دیباچہ
۷	مسلک صاحب فتاویٰ
۶۷	باب اخلاق اور تصوف کے مسائل
۶۷	طریقت اور شریعت کا فرق
۷۰	شریعت اور طریقت کا فرق
۷۰	پیر، استاد، مرشد کا تصور
۷۰	شجرہ خاندان صبح و شام پڑھنا
۷۰	شیخ کے تصور کا حکم
۷۱	شیخ یا استاد یا والدین کے تصور کا حکم
۷۱	بدعتی صوفی کی بیعت
۷۲	فاسق کے ہاتھ پر بیعت کرنا
۷۲	عورت کا بیعت لینا
۷۳	عمل کا چھپانا
۷۳	ذکر اور طول قرأت
۷۳	شیخ کے تصور کا حکم
۷۴	استغفار زبانی
۷۴	صوفیائے کرام کے اشغال
۷۴	صوفیہ کے مجاہدات
۷۶	استغفار کی حقیقت
۷۷	قبروں پر شرح صدر کی اصلیت
۷۷	بیعت کی حقیقت
۷۷	اس قول کا مطلب کہ پیران پیر کا قدم سب پیروں کی گردن پر ہے۔

صفحہ	عنوان
۷۷	اس قول کا مطلب کہ العلم حجاب الاکبر
۷۸	امیر خسرو کے شعر کا مطلب
۷۹	فتاویٰ الشیخ والرسول کا مطلب
۷۹	بندہ کا بندہ ہونے کا مطلب
۷۹	مرید ہونا ضروری ہے یا مستحب
۷۹	عورتوں کا رکھی بیعت کرنا
۸۰	صوفی کے لئے زیادتی علم کی ضرورت
۸۰	کسی سے حسن ظن کا فائدہ
۸۰	حال کی تفصیل
۸۰	وجد و توجہ کا مسئلہ
۸۱	نماز میں وسوسہ
۸۱	وسوسہ پر مواخذہ
۸۱	کتاب سے دیکھ کر ذکر مقرر کرنا
۸۲	صبر و شکر
۸۲	اولیاء اللہ کا چشم ظاہری دیدار الہی کرنا
۸۳	اپنے یا کسی کے شیخ پر اعتراض
۸۳	کشف کمال ہے یا نہیں
۸۳	کلمہ کو خلاف طریقہ صوفیہ پڑھنا
۸۳	پاس انفاس
۸۴	ملفوظات
۸۴	بذریعہ خط بیعت کا جواز
۸۴	بذریعہ خط اپنے مرشد کی طرف سے بیعت کرنا
۸۴	خاندان حضرت شاہ ولی اللہ کے عقائد
۸۴	بدعتی پیر کی بیعت فسخ کرنا

صفحہ	عنوان
	کتاب التقلید والاجتہاد تقلید واجتہاد کے مسائل
۸۶	مطلق تقلید کا ثبوت
۸۸	اجماع اور قیاس کا حجت ہونا
۸۸	تقلید شخصی
۹۰	تقلید شخصی کا وجود
۹۰	تقلید شخصی کا ثبوت
۹۰	تقلید شخصی کسی پر ضروری نہیں
۹۰	غیر مقلدوں کی برائی
۹۱	ائمہ پر طعن
۹۱	غیر مسلک والوں کو برانہ کہنا
۹۱	اہل حدیث کو برانہ کہنا
۹۲	وصیت شاہ ولی اللہ صاحب
۹۲	جماعت میں غیر مقلدوں کی شرکت
۹۳	شاہ اسماعیل شہید کا مسلک
۹۳	ملفوظات
۹۳	(۱) عند الضرورت مذہب شافعی پر عمل کرنا
۹۳	(۲) اصلیت تقلید شخصی
۹۷	(۳) محرم سے نکاح پر امام صاحب کا مسلک
	(۴) اگر کوئی شخص کسی عورت پر دعویٰ کرے کہ
۹۸	وہ اس کی بیوی ہے اس میں امام صاحب کا مسلک

صفحہ	عنوان
۱۰۰	(۵) دہ درودہ کی تحدید پر امام صاحب کا مسلک
۱۰۰	(۶) ایمان کی زیادتی و کمی کے متعلق امام صاحب کا مسلک
۱۰۱	(۷) ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لئے امام صاحب کی دلیل
۱۰۱	(۸) تکبیرات کے لئے نماز میں رفع یدین
۱۰۲	(۹) نماز میں آمین خفیہ کہنے میں امام صاحب کے دلائل
۱۰۳	(۱۰) نماز کے اوقات کے لئے امام صاحب کی دلیل
۱۰۴	کتاب التفسیر والحدیث
۱۰۴	ایمان میں کمی و زیادتی کا مطلب
۱۰۶	قرآن کو غنا سے پڑھنا
۱۰۷	غرائب قرآن کا مطلب
۱۰۸	سورہ - لیسین و سورہ اخلاص کے ثواب کا مطلب -
۱۰۹	سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کا سبب -
۱۰۹	مجدد کا مطلب
۱۱۰	کتے کے ہونے پر فرشتے کا مکان میں داخل نہ ہونا
۱۱۰	احادیث اول ما خلق اللہ نوری و لولاک لما خلقت الافلاک
۱۱۱	استغفار کا مطلب
۱۱۱	حدیث اصحابی کا لٹچوم کی صحت
۱۱۲	بہتر ۷۲ فرقہ کی بحث
۱۱۲	امام زمانہ کی معرفت
۱۱۲	حضور کی رضامندی کا مطلب
۱۱۳	شہداء و کلونجی کا حکم
۱۱۳	حالات قیامت پر بحث
۱۱۵	رجال کی بحث



صفحہ	عنوان
۱۱۹	صلوٰۃ العاشقین
۱۱۹	سایہ مبارک رسول اللہ ﷺ
۱۱۹	عمارت میں خرچ کرنے کا مطلب
۱۱۹	معجزہ قدم شریف
۱۲۰	حضرت مرزا جان جاناں کا مسلک
۱۲۳	پان کھانا
۱۲۳	عمارت کو بلند نہ بنانے کا مطلب
۱۲۳	صدقہ کھانے سے دل پراثر
۱۲۳	عزامت مال کا مطلب
۱۲۵	تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا
۱۲۵	ملفوظات
۱۲۵	بسم اللہ کو جہر سے تراویح میں پڑھنا
۱۲۵	لاصلوٰۃ الا بحضور القلب کا مطلب
۱۲۶	کتاب العلم
۱۲۶	جو عالم بہ نیت و عزم میلہ میں جائے
۱۲۶	والدین کی اجازت کے بغیر طلب علم کے لئے سفر کرنا
۱۲۶	تقویٰ اور فتویٰ کا فرق
۱۲۶	عبادت کا مطلب
۱۲۷	تقرب کا مطلب
۱۲۷	نماز میں حضور قلب رکھنے کا مطلب اور اس کا حکم
۱۲۷	قاضی جس جگہ نہ ہو وہاں حکم کے فیصلہ کا حکم
۱۲۸	مناظرہ کرنے کی کس کو اجازت ہے

صفحہ	عنوان
۱۲۸	ایسے معاملات کا حکم جس میں جواز و عدم جواز کا احتمال ہو۔
۱۲۹	بشر و رت ایسے قول پر عمل کرنے کا حکم جو غیر مفتی بہ ہو۔
۱۲۹	مذہب عمل کی تعریف
۱۲۹	جہلاء سے بحث و مباحثہ کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنا
۱۳۰	تفسیر پروردگار عالم اور بدعتی صوفی میں کون افضل ہے
۱۳۰	تن پروری و کامرانی کرنے والا عالم
۱۳۱	ملفوظات
۱۳۱	جہلاء سے نہ الجھنا
۱۳۱	حافظ قرآن با ترجمہ و بلا ترجمہ میں فرق
۱۳۱	قرآن بھولنے کا گناہ
۱۳۱	خرق عادت
۴۶	رسول اللہ ﷺ کو ثواب پہنچانے کے لئے کھانا کھلانا۔
۴۷	کوئٹہ کھجڑا صحنک گیارہویں توشہ منی کا حکم۔
۴۸	خولجہ خضر کے دلینے کا حکم
۴۸	دس محرم کی مجلس شہادت
۴۹	پیران پیر کی گیارہویں
۴۹	ایام محرم میں کتب شہادت پڑھنا
۴۹	محرم میں سبیل لگانا دودھ کا شربت پلانا۔
۴۹	توشہ شاہ عبدالحق کو توشہ حق کہنا
۵۰	نذر اللہ کا نام توشہ حق رکھنا
۵۰	اہل قبور سے استغاثت
۵۲	قبروں کو پختہ بنانا اور اس پر قبہ بنوانا
۵۳	قبر کا طواف کرنا

صفحہ	عنوان
۱۵۴	قبر کو بوسہ دینا
۱۵۴	قبر پر دفن کے بعد اذان دینا
۱۵۵	بدعت کی اقسام
۱۵۶	اقسام بدعت غیر مقبولہ
۱۵۶	شرکت مجالس بدعت
۱۵۷	مساجد مدارس کی موجودہ صورت و طرز تعلیم۔
۱۵۷	عیدین میں خطبہ کے پہلے دعائے مانگنا
۱۵۷	معاذقہ خصوصاً عیدین میں
۱۵۸	الوداع کا خطبہ پڑھنا
۱۵۸	خطبہ الوداع
۱۵۸	رسالہ ہفت مسئلہ
۱۵۹	مرنے کے بعد اسقاط کا حکم
۱۶۰	کتاب آوز جندی سے فاتحہ کا ثبوت
۱۶۲	فاتحہ کا طریقہ
۱۶۲	ہدیۃ الحرمین سے فاتحہ کا ثبوت
۱۶۲	تیجہ میں قرآن شریف کا پڑھنا
۱۶۳	فاتحہ کا موجودہ طریقہ
۱۶۳	بلا تعین یوم و ذکر تیجہ
۱۶۳	جواز تیجہ کے وجوہ پر بحث
۱۶۳	ایصال ثواب کی قیود
۱۶۵	کھانا سامنے رکھ کر بیخ آیت پڑھنا
۱۶۵	مرنے کے بعد کھانا پکانا
۱۶۷	ایصال ثواب میں دن اور کھانے کی خصوصیت۔
۱۶۷	میت کے دفن کے بعد مکان پر فاتحہ۔

صفحہ	عنوان
۱۶۷	برادری کا میت کے گھر جا کر رسوم ادا کرنا
۱۶۷	بلاقیہ و رسوم ایصال ثواب کرنا
۱۶۷	اہل میت کو کھلانا
۱۶۸	مرنے کے بعد چالیس دن تک روٹی دینا۔
۱۶۸	بلاچندہ کے حافظہ کا خود مٹھائی تقسیم کرنا۔
۱۶۸	ختم قرآن کے لئے چندہ کر کے شیرینی منگوانا۔
۱۶۸	رجبی کا حکم
۱۶۹	درود تاج کا حکم
۱۷۰	شادی اور ختنہ کی روٹی
۱۷۰	صفر کے آخری چہار شنبہ کا حکم
۱۷۰	میت کے لئے چھتر ہزار بار کلمہ پڑھنا۔
۱۷۰	صلوٰۃ غوشیہ کا حکم
۱۷۱	صلوٰۃ غوشیہ و ہول معلوس
۱۷۱	صلوٰۃ الرغائب وغیرہ کا حکم
۱۷۱	۱۱/ تاریخ کو نذر اللہ کر کے غرباء اور امراء کو کھانا کھلانا
۱۷۲	تین برس کے بچہ کی فاتحہ
۱۷۲	تیجہ کن کی رسم ہے۔
۱۷۳	بروز ختم مسجد میں روشنی کرنا
۱۷۳	پیر یا استاد کی برسی کرنا
۱۷۳	مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرنا۔
۱۷۳	مرنے کے بعد چالیس شب تہلیل کرنا
۱۷۴	ملفوظات
۱۷۴	مجلس مولود، اس میں قیام حضور ﷺ کو مجلس میں حاضر جاننا،



صفحہ	عنوان
۱۷۴	بوقت ملاقات علماء و صلحاء کے ہاتھ چومنا،
۱۷۴	قبور اولیاء اللہ سے دعا چاہنے کے مسائل۔
۱۷۴	طاعون، وباء وغیرہ امراض کے شیوع کے وقت دعایا اذان۔
۱۷۴	نقل مکتوب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سلمہ اللہ تعالیٰ در بارہ مجلس میلاد
	{ نقل خط حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ
۱۷۵	صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفیہا۔
۱۷۵	در مسئلہ مجلس میلاد فاتحہ برفح شبہات مولوی نذیر احمد صاحب رامپوری
۱۷۵	قبور اولیاء اللہ۔
۱۷۶	توشہ مردہ کے ساتھ لے جانا۔
۱۷۶	بزرگان اہل سنت کے قدم کو بوسہ دینا اور زیار شد اللہ کہنا
۱۷۷	آخری چار شنبہ کی اصل
	کتاب الایمان
	ایمان اور کفر کے مسائل
۱۷۸	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نذر ماننا
۱۷۸	جھوٹ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا
۱۷۹	اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی نام کا وظیفہ۔
۱۸۰	غیر اللہ کی نداء کب شرک ہوگی۔
۱۸۲	غیر اللہ سے پناہ مانگنا
۱۸۳	موہم شرک اشعار
۱۸۴	تصدیق قلبی کے باوجود شرک کرنا بغیر مجبور کرنے کے۔
۱۸۴	مشرکانہ حکایات پر اعتقاد
۱۹۱	تعویذ میں موہم شرک الفاظ لکھنا۔
۱۹۱	شرک فی التسمیہ کا گناہ۔

صفحہ	عنوان
۱۹۲	یزید کو کافر کہنا
۱۹۲	مولانا اسلمیل کو کافر کہنا۔
۱۹۳	اشیاء کو مؤثر بالذات ماننا
۱۹۵	عملاً کلمہ کفر بولنا
۱۹۸	روافض کا کفر
۱۹۸	علماء حق کی اہانت کرنا
۱۹۹	قرآن شریف کو نظم کرنا
۱۹۹	زندوں کا مردوں سے مانگنا
۲۰۱	اہل قبور سے مدد مانگنا
۲۰۲	انبیاء کے علم غیب کا قائل
۲۰۳	یا رسول اللہ پکارنا
۲۰۴	رسول اللہ کو صنم وغیرہ کہنا
۲۰۶	یا رسول اللہ کا وظیفہ
۲۰۶	علم غیب کا قائل ہونا۔
۲۰۷	سجدہ قبور وغیرہ
۲۰۷	تعزیہ پرستی
۲۰۸	بزرگوں کے خلاف شرع کام
۲۰۹	یا شیخ عبدالقادر جیلانی کا وظیفہ
۲۱۰	وظیفہ یا خوبہ سلیمان
۲۱۰	طواف قبر
۲۱۱	قبر پر جانا اور اس کا بوسہ
۲۱۱	نبی بخش وغیرہ نام رکھنا
۲۱۱	کتب فقہ و حدیث کا انکار
۲۱۱	ہنود یا انگریزوں کا لباس پہننا

صفحہ	عنوان
۲۱۲	بیوہ کا نکاح ثانی عیب سمجھنا
۲۱۳	پردہ کی تنبیہ نہ کرنے والا مرد
۲۱۳	رنڈی کا تاج ولہو لعاب
۲۱۷	یزید پر لعنت کرنا
۲۱۹	شاہ اسمعیل شہید کے متعلق رائے
۲۲۰	شاہ اسمعیل شہید کے مختصر حالات
۲۲۱	شاہ اسمعیل شہید کے فتویٰ پر رائے
۲۲۳	کتاب تقویۃ الایمان کے متعلق رائے
۲۲۵	تقویۃ الایمان کے بعض جملوں کی تشریح۔
۲۲۵	تقویۃ الایمان کے مسائل
۲۲۶	تذکیر الاخوان کی عبارت کی تشریح
۲۲۷	مراقبہ کا حکم
۲۲۸	رسول ﷺ کے علم غیب کا معتقد
۲۲۹	ملفوظات
۲۲۹	وظیفہ یا شیخ عبدالقادر اور طلباء کو دو ظائف کا پڑھنا، پانی کا بہت پینا اور ماش کی دال اور غلیظ اشیاء کا کھانا ذہن کی تیزی کا وظیفہ۔
۲۲۹	شینا اللہ کا پڑھنا
۲۳۲	حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا پڑھنا وہ استعانت جو کفر ہے اس کی تصریح
۲۳۳	استحلال معصیت کی صراحت، عورت کا زینت کے ساتھ نکلنا۔
۲۳۳	عیدین کے درمیان نکاح
۲۳۴	کتاب العقائد
۲۳۴	اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت

صفحہ	عنوان
۲۳۵	اللہ کی طرف بالفعل جھوٹ کی نسبت
۲۳۶	خلاصہ صحیح علماء مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ
۲۳۶	نقل خط حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ
۲۳۶	در مسئلہ امکان کذب برفع شبہات مولوی نذیر احمد خاں صاحب رام پوری۔
۲۳۸	علم غیب الہی
۲۳۸	علم غیب الہی۔
۲۳۹	دیدار الہی
۲۴۰	لوجہ اللہ صدقہ کا اظہار
۲۴۰	دعا کرتے وقت بحق فلاں کہنا
۲۴۰	کفار کے حقوق
۲۴۰	بشریت رسول کا مطلب
۲۴۱	انبیاء کا علم غیب
۲۴۲	نبی کو پکارنا
۲۴۲	تشہد میں صیغہ خطاب کی تبدیلی
۲۴۲	بلا عقیدہ غیب نبی کو پکارنا
۲۴۲	رسول اللہ ﷺ کا علم غیب۔
۲۴۵	رحمۃ للعالمین
۲۴۲	شفاعت کبریٰ
۲۴۵	حضور کے والدین کا اسلام
۲۴۵	مزارات اولیاء سے فیض
۲۴۵	اولیاء کی کرامات
۲۴۵	اولیاء کی کرامات
۲۴۶	اولیاء و شہداء کے عذاب قبر کا مسئلہ۔
۲۴۶	بڑے پیر کی کرامات



صفحہ	عنوان
۲۴۸	بڑے پیر صاحب کا حضور کو کندھا دینا۔
۲۴۸	منصور حلاج
۲۴۸	منصور کون تھے
۲۴۹	ہر صدی کا مجدد
۲۴۹	مردوں کا سننا
۲۴۹	مردوں کا سننا
۲۴۹	صحابہ رسول کی بے ادبی
۲۵۰	ازواج مطہرات اور عام عورتوں میں فرق۔
۲۵۰	کرم اللہ وجہہ کہنے کی وجہ
۲۵۰	روحانی زندگی
۲۵۰	وہابیوں کے عقائد
۲۵۱	فرعون کا جھوٹ
۲۵۱	خلوص دل سے توبہ کرنا
۲۵۱	بیوہ عورت کا نکاح نہ کر کے عبادت کرنا۔
۲۵۱	اہل قبور سے دعا کرنا
۲۵۲	شرافت نبوی
۲۵۲	حضور کا جسم مبارک مٹی میں ملنے کا مطلب۔
۲۵۳	جنات کا تکلیف دینا
۲۵۳	ملفوظ
۲۵۳	امکان کذب کا مطلب
۲۵۳	کتاب البدعات
۲۵۳	مجلس میلاد کی ابتداء

صفحہ	عنوان
۲۵۵	مردوبہ مجلس میلاد
۲۵۵	مجلس مولود و عرس جس میں خلاف شرع امور نہ ہوں۔
۲۵۶	بدون تجدید نعمت حقیقی کے سرد و فرحت کا اعادہ۔
۲۵۶	مکہ معظمہ میں مجلس میلاد
۲۵۷	مجلس میلاد
۲۵۸	مجلس میلاد کو جائز جاننا
۲۵۸	رسالہ مائتہ مسائل سے میلاد شریف کی اباحت۔
۲۵۸	مجلس میلاد میں حضور کا تشریف لانا
۲۵۹	مجلس میلاد کا حکم
۲۷۰	بدون قیام مجلس میلاد کا انعقاد
۲۷۰	مجلس میلاد و عرس و موسم وہ، جہلم
۲۷۱	مجلس میلاد کا کرنا
۲۷۱	محفل میلاد جس میں صحیح روایات پڑھی جائیں،
۲۷۱	فتویٰ مولوی احمد رضا خاں صاحب دربار میلاد شریف۔
۲۷۳	عرس میں شرکت۔
۲۷۳	ہر سال عرس کرنا
۲۷۳	عرس کا حکم
	کتاب الجمانز
	جنازے اور میت اور قبروں کے مسائل کا بیان
۲۷۷	مردوں کو ثواب کس طرح پہنچتا ہے
۲۷۷	ثواب میت کو کس طرح پہنچے گا۔
۲۷۷	ثواب پہنچنے کا طریقہ
۲۷۸	ایک قرآن مجید کا ثواب کسی کو کس طرح پہنچے گا۔

صفحہ	عنوان
۲۷۸	طعام المیت۔ میت القلب کا صحیح مطلب و منشاء
۲۷۸	غنی کو کھلانے کا ثواب مردوں کو
۲۷۸	قبرستان میں قرآن شریف کیسے پڑھے
۲۷۹	قبر پر مردے کو ثواب پہنچانے کے لئے ہاتھ اٹھانا۔
۲۷۹	قبر پر قرآن شریف پڑھنا
۲۷۹	مٹی ہوئی قبروں پر قرآن مجید پڑھنا
۲۷۹	قبر پر قرآن شریف پڑھنا
۲۸۰	قبروں پر قرآن مجید پڑھنا
۲۸۰	قبر پر خوشبو لگانا پھول رکھنا روشنی کرنا۔
۲۸۰	میت کے لئے کلام اللہ پڑھنے کی اجرت۔
۲۸۰	دفن کے بعد فاتحہ پڑھنا
۲۸۱	مسئلہ تلقین میت
۲۸۱	مومنین کی روحوں کا شب جمعہ اپنے گھر آنا۔
۲۸۲	مردہ کی روح کا شب جمعہ گھر آنا
۲۸۲	شب جمعہ مردوں کی روحوں کا اپنے مکان میں آنا۔
۲۸۲	رافضی تبرائی کے جنازہ کی نماز
۲۸۲	بدعتیوں کے جنازہ کی نماز
۲۸۲	مردہ کوزمین میں امانت رکھنا
۲۸۲	مرے ہوئے بچہ کے پیدا ہونے پر نام رکھنا۔
۲۸۳	عورت کے انتقال کے بعد اس کے شوہر کا اس کے جنازہ کو ہاتھ لگانا۔
۲۸۳	موت کے بعد بیاں بیوی کا ایک دوسرے کا منہ دیکھنا۔
۲۸۳	قبل دفن میں مردہ کا منہ دیکھنا
۲۸۳	جنازہ کے لئے جائے نماز نکالنا
۲۸۵	کفن میں سے جائے نماز نکالنا

صفحہ	عنوان
۲۸۵	میت کو قبر میں کیسے لٹایا جائے
۲۹۰	قبر میں دفن کرتے وقت پیری کی لکڑی رکھنا۔
۲۹۱	دلی کی اجازت کے بغیر جنازہ سے جانا۔
	<b>ملفوظات</b>
۲۹۱	شیعہ کی تجہیز و تکفین سنی کیسے کریں
	زمین غیر وقف میں میت کے استخوان بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جاویں تو
۲۹۱	اس پر زراعت و بناء کا حکم۔
	<b>مسائل منشورہ</b>
۱۹۱	انجمن حمایت الاسلام لاہور کی کتابوں کا مرکز
۱۹۲	تقویۃ الایمان و صراط مستقیم
۲۹۳	محمد بن عبدالوہاب نجدی کا مذہب
۲۹۲	دہالی کا عقیدہ
۲۹۳	حبیب حسن واعظ سہارنپوری
۲۹۳	حضرت معاویہ کا زیند کو خلیفہ بنانا
۲۹۳	حضرت معاویہ کا وعدہ حسینؑ سے
۲۹۳	کیا شمر حافظ قرآن تھا۔
	<b>کتاب الطہارت</b>
	<b>طہارت کے مسائل</b>
۲۹۴	غسل و وضو کا بیان
۲۹۴	منی کے مسائل
۲۹۴	سر کے مسح کرنے کا بیان
۲۹۴	استنجہ کا پچا ہوا پانی

صفحہ	عنوان
۲۹۵	وضو کا پانی اگر لوٹے میں گر جائے
۲۹۵	آنکھ دکھنے کی وجہ سے اگر پانی آنکھ سے ہے۔
۲۹۵	شک سے وضو جانے کا حکم
۲۹۵	جہی ہوئی مٹی سے وضو اور غسل پر اثر۔
۲۹۶	وضو کے بعد رومالی پر پانی چھڑکنے کا حکم
۲۹۶	وضو کے بعد رومالی پر پانی چھڑکنا فرض ہے یا واجب۔
۲۹۶	جس کو قطرہ آتا ہو وہ وضو کے بعد رومالی پر پانی چھڑکے یا نہیں۔
۲۹۶	وضو اور غسل کے لئے پانی کا وزن
۲۹۷	نماز جنازہ کے وضو سے فرض نماز کا حکم۔
۲۹۷	نماز جنازہ کے وضو سے نوافل کا حکم۔
۲۹۷	جو وضو یا تیمم نہ کر سکے وہ نماز کیسے پڑھے۔
۲۹۷	اس پانی کا بیان جس سے وضو اور غسل جائز ہے۔
۲۹۷	کس تالاب کا پانی نجس نہیں ہوتا
۲۹۷	دو درہہ تالاب بول و براز پڑنے سے نجس نہیں ہوتا۔
۲۹۸	دو درہہ پانی کب نجس ہوگا۔
۲۹۸	کنوئیں کے احکام و مسائل
۲۹۸	کنوئیں سے زندہ مرغی بخینے کا حکم
۲۹۸	من ٹوٹے کنوئیں کے گڑھوں میں کنوئیں کے پانی پینے کے بعد کا حکم۔
۲۹۹	کنوئیں میں اگر جوتا گر جائے تو اس کا حکم
۲۹۹	نجس کنوئیں کے پانی سے بنائے ہوئے گلاب کا حکم
۲۹۹	من ٹوٹے کنوئیں کے گڑھوں سے کتے پانی پی لیں تو اس کا حکم۔
	ملفوظات
۳۰۰	کنوئیں میں نجاست معلوم ہو تو کب سے اس کی نجاست کا حکم لگایا جائے گا۔

صفحہ	عنوان
	باب: نجاستوں اور اس کو پاک کرنے کے مسائل
۳۰۰	منہ کی رال کا حکم
۳۰۰	کھلیان کے غلہ کا حکم
۳۰۱	گویری کا حکم
۳۰۱	شراب اگر سرکہ بن جائے تو اس کا حکم۔
۳۰۱	مردہ جانور کی اون کے متعلق حکم
۳۰۱	بلی چوہے کوے وغیرہ کے جھوٹے کا حکم۔
۳۰۲	کولہو کے رس کا حکم
۳۰۲	منی کا حکم
۳۰۲	ناسور کے پانی کا حکم
۳۰۲	سرخ پڑیا کا حکم
۳۰۳	پڑیا کا حکم
۳۰۳	پڑیا کے نجاست کی وجہ
۳۰۳	پڑیا میں رنگا ہوا کپڑا کیسے پاک ہوگا۔
۳۰۳	پڑیا میں رنگے ہوئے کپڑے کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ۔
۳۰۴	مٹی کا برتن کس طرح پاک کیا جائے
	ملفوظات
	پڑیہ کے رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے سے
۳۰۴	اعادہ نماز لازمی نہیں۔
۳۰۴	پڑیہ کے رنگ کی حقیقت
۳۰۵	پڑیہ میں شراب پڑنے سے پڑیہ کا حکم۔
۳۰۵	پڑیہ میں کون سی شراب پڑتی ہے۔

صفحہ	عنوان
۳۰۶	پڑیہ میں شراب پڑتی ہے یا نہیں۔
	کتاب الصلوٰۃ
	نماز کے مسائل
۳۰۷	نماز کے وقتوں کا بیان
۳۰۷	آفتاب کے طلوع و استواء و غروب کے وقت سجدہ تا اوت اور نماز جنازہ کا حکم۔
۳۰۷	نماز جمعہ کس مسجد میں پڑھی جائے جہاں جلد ہو کہ دیر سے ہو۔
۳۰۷	جمعہ اور ظہر کی نماز کے اوقات میں فرق۔
۳۰۸	ظہر کا صحیح وقت
۳۰۸	ظہر کا وقت ایک مثل تک رہنے سے امام ابوحنیفہؒ نے رجوع کیا یا نہیں۔
۳۰۸	عصر و ظہر کے اوقات کے صحیح حدود۔
۳۱۰	مذہب حنفیہ میں عصر کا صحیح وقت
۳۱۱	نماز عصر کا صحیح وقت
۳۱۱	دونمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا مسئلہ۔
۳۱۱	زوال کا صحیح وقت گھنٹوں میں
۳۱۲	نماز جمعہ کا گھنٹوں سے وقت
۳۱۲	مغرب کا انتہائی وقت صحیح
۳۱۲	جماعت کے لئے گھنٹوں سے وقت مقرر کر لینے کا حکم
۳۱۳	نجر کی سنتیں قبل طلوع آفتاب ادا کرنا۔
	ملفوظات
۳۱۳	دونمازوں کے جمع کرنے کا مسئلہ
۳۱۴	جمعہ یا ظہر کا صحیح وقت گھنٹوں سے
۳۱۴	حد اسفار

صفحہ	عنوان
۳۱۴	ظہر کا وقت کب کا مل ہے کب ناقص؟
۳۱۵	عصر کا صحیح وقت
	<b>اذان اور اقامت کا بیان</b>
۳۱۵	مؤذن کیسا ہو
۳۱۵	اذان اور جماعت میں کتنا فرق ہونا چاہئے۔
۳۱۵	اذان کے وقت اور اذان دینے کے درمیانی وقفہ میں دنیا کی بات
۳۱۶	خطبہ کی اذان کا جواب اور اس کے بعد کی دعا۔
۳۱۶	فجر کی اذان میں ” الصلوٰۃ خیر من النوم “ کا جواب۔
۳۱۶	اذان کے بعد دوبارہ نمازیوں کو بلانا۔
	<b>نماز کی کیفیت کا بیان</b>
۳۱۶	نمازی کے قدموں کے درمیان کا فاصلہ۔
۳۱۶	ایک نماز کا دوسرے نمازی کے قدموں کے درمیان فاصلہ۔
۳۱۸	جو لوگ بیت اللہ سے دور ہیں وہ قبلہ کسے قرار دیں۔
۳۱۹	نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھیں کہ نیچے
۳۲۰	نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں
۳۲۰	امام کے پیچھے الحمد پڑھنے والے اور آمین بالجہر کہنے والے کا مسئلہ۔
۳۲۰	مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا
۳۲۱	مسئلہ رفع یدین
۳۲۱	مسئلہ آمین بالجہر
۳۲۲	قومہ میں ہاتھ باندھنا
۳۲۲	تشہد پڑھتے وقت انگلی سے اشارہ کیسے کیا جائے۔
۳۲۳	تشہد کے وقت انگلی کب سے کب تک اٹھائے رکھے۔



صفحہ	عنوان
۳۲۳	تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا کیسا ہے۔
۳۲۳	قعدہ اخیرہ کی فرضیت کس قدر ہے
۳۲۵	نوافل میں محبت رسول ﷺ کی بنا پر رفع یدین کرنا۔
۳۲۶	نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا
۳۲۶	جمعہ کی سنتیں کتنی ہیں۔
۳۲۶	اعتکاف کتنے دن کا ہے۔
	<b>قرأت اور تجوید کا بیان</b>
۳۲۶	علم تجوید کا سیکھنا کیسا ہے
۳۲۶	قرآن مجید کس لہجہ میں پڑھیں۔
۳۲۷	عیدین و جمعہ کی نماز میں مخصوص سورتیں پڑھنا۔
۳۲۷	تہجد میں قرأت کیسے پڑھیں
۳۲۷	بسم اللہ کو تمام قرآن مجید میں کہاں پڑھے۔
۳۲۸	ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا۔
۳۲۸	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا
۳۲۹	دل میں قرأت ادا کرنا۔
۳۲۹	حرف ضاد ادا کرنے کا طریقہ
۳۲۹	حرف ضاد ادا کرنے کا طریقہ
۳۳۱	قرآن مجید کے مختلف اوقاف کا مسئلہ
۳۳۹	علامات ”ط“ اور ”ل“ پڑھنے پر یا نہ پڑھنے۔
۳۴۰	کسی مقتدی کو جماعت میں شریک نہ ہونے پر امام کا قرأت مختصر کرنا۔
	<b>ملفوظ</b>
۳۴۰	آیت پر لا ہو تو ٹھہرنا نہ چاہئے

صفحہ	عنوان
	باب کن امور سے نماز میں کراہت آتی ہے اور کن سے نہیں۔
۳۳۰	نماز محلکے آگے جو تیوں کا رکھنا
۳۳۰	آمین بالجبر نماز میں حرام ہے یا بدعت
۳۳۱	آمین بالجبر سے نماز میں فساد ہوتا ہے یا نہیں۔
۳۳۳	ریشمی کپڑے سے نماز پڑھنا۔
۳۳۳	نماز میں آنکھیں بند کرنا
۳۳۳	نماز سے پہلے نماز میں سورتیں پڑھنے کا تعین کر لینا۔
۳۳۳	دھوبی کے یہاں بدلے ہوئے کپڑے سے نماز۔
۳۳۵	سرخ استر کے کپڑے سے نماز
۳۳۵	نمازی کے سامنے قرآن مجید کا ہونا
۳۳۵	نماز کی نیت توڑنا۔
۳۳۵	جلسہ اور قومہ کی دعائیں
۳۳۶	بلا عمامہ کے نماز پڑھنا۔
۳۳۶	بلا عمامہ کے نماز کا حکم
۳۳۶	بلا عمامہ کے نماز پڑھانا
۳۳۶	بغیر عمامہ کی نماز پڑھانے والے سے جنگ کرنا۔
۳۳۶	عمامہ والی نماز کا ثواب
۳۳۷	امام کا بلا عذر بغیر عمامہ کے عمامہ والوں کی امامت کرنا
۳۳۷	بحالت نماز نمازی کے پیر کے نیچے کپڑا ادب جانا۔
۳۳۸	امام زمین پر اور مقتدی جانماز پر
۳۳۸	اگر مقتدی قالین پر اور امام بغیر فرش کے ہو تو اس کا مسئلہ۔
۳۳۸	امام کے مصلے پر رومال ڈالنا۔
۳۳۸	مسجد کے باہر کے دروں میں امام کا کھڑا ہونا۔

صفحہ	عنوان
۳۴۹	امام کا خفی امور کو سیٹی کی سی آواز سے ادا کرنا۔
۳۴۹	کن امور سے نماز فاسد ہوتی ہے اور کن سے نہیں نماز میں لڑ کوئی ایسا کلمہ چھوٹ جانا جس سے مطلب میں کوئی خرابی نہ پڑے۔
۳۴۹	ضاد کو دال کے مشابہ پڑھنا
۳۵۰	بغیر علم کے نماز نہ ہونے کا مطلب
۳۵۰	امام کو لقمہ دینا۔
۳۵۱	نماز میں وضو ٹوٹ جانے کا بیان
۳۵۱	جمعہ کے دن اگر کوئی شخص پہلی صف میں ہو اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا حکم۔
۳۵۱	قطرہ آنے سے نماز کا ٹوٹ جانا
۳۵۱	نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے۔
۳۵۲	باب: فوت شدہ نمازوں کی قضا پڑھنے کا بیان۔
۳۵۲	قضا نمازیں کیسے ادا کی جائیں
۳۵۲	قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ
۳۵۲	قضا نماز کی جماعت۔
۳۵۳	باب: امامت اور جماعت کا بیان
۳۵۳	عالم وقاری میں جماعت کے لئے کون افضل ہے۔
۳۵۳	قاری اور عالم میں امامت کا کون اہل ہے۔
۳۵۳	والدین کے نافرمان کی امامت
۳۵۳	عالم تارک جماعت کی امامت
۳۵۳	غیر مقلد کی امامت
۳۵۳	رنڈیوں کے ساتھ جانے والے کی امامت۔
۳۵۵	رسوم و عرس وغیرہ کا اچھا جاننے والا اور برا جان کر کرنے والا دونوں کی امامت۔
۳۵۵	انعت کو غلط پڑھنے والے کی امامت

صفحہ	عنوان
۳۵۵	گناہ کبیرہ کے مرتکب کی امامت
۳۵۷	مراہق کی امامت۔
۳۵۷	جامع مسجد کا امام بدعتی و فاسق ہو تو کیا کیا جائے۔
۳۵۷	بدعتی کی امامت
۳۵۷	رسول اللہ کو غیب داں جاننے والے کی امامت۔
۳۵۸	مشرک بدعتی فاسق کی امامت
۳۵۸	بدعتی گمی امامت کا حکم
۳۵۸	بدعتیہ شخص کی امامت
۳۵۸	دائی کے شوہر کی امامت
۳۵۸	بدعتی کے پیچھے جمعہ پڑھنا
۳۵۸	امام کا جماعت شروع کرنے میں کسی کا انتظار کرنا۔
۳۵۹	کسی شخص کی یہ خواہش کہ امام اس کی وجہ سے جماعت میں تاخیر کرے۔
۳۵۰	امام یا واعظ کا اپنی اجازت کے بغیر امامت یا وعظ نہ کرنے دینا۔
۳۶۰	قبرستان میں نماز باجماعت ہو تو سترہ کس کے لئے ضروری ہے۔
۳۶۰	نوافل کی جماعت کا مسئلہ۔
۳۶۰	جماعت ثانیہ کا حکم۔
۳۶۰	جماعت ثانیہ کا حکم۔
۳۶۰	جماعت ثانیہ کا حکم۔
۳۶۱	رمضان مبارک میں تہجد کی جماعت کا حکم۔
۳۶۱	مقررہ وقت سے پہلے کی جماعت کا حکم۔
۳۶۱	مقررہ وقت سے پہلے تکبیر کہنا
۳۶۲	مقررہ وقت جماعت سے پہلے جماعت کرنا۔
۳۶۲	کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے یا نماز قضا ہو جائے تو اس کی تلافی۔
۳۶۳	امام کو قعدہ میں پا کر دوسری مسجد میں نماز کے لئے جانا۔

صفحہ	عنوان
۳۶۳	فجر کی سنتیں فرض کے بعد پڑھنے کا مسئلہ۔
۳۶۳	مغرب کی نماز میں تیسری رکعت پانے والا باقی نماز کس طرح ادا کرے
۳۶۳	مقیم نے مسافر کی اقتدا کی تو باقی نماز کس طرح ادا کرے۔
۳۶۳	امام کے ساتھ جماعت میں کب تک ہو سکتا ہے۔
۳۶۳	اذان کہہ کر لوگ نہ آئیں تو مؤذن کہاں نماز پڑھے۔
۳۶۵	غیر آباد مسجد میں نماز کا حکم
۳۶۵	مستقل تارک جماعت کو کیا کہیں گے۔
۳۶۵	نابالغ لڑکے صف میں کہاں کھڑے ہوں۔
۳۶۵	ایک بالغ مقتدی کے ساتھ کئی نابالغ مقتدی کیسے کھڑے ہوں۔
۳۶۶	بدعتیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا۔
۳۶۶	بعد نماز سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کا وظیفہ۔
۳۶۷	دھوبی کے پاس سے کپڑا بدل کر آنے کا مسئلہ۔
۳۶۷	امامت تراویح یا فرائض کے لئے عمر کا تعین۔
۳۶۷	بدعتی کے پیچھے جو جمعہ پڑھا جائے اس کا اعادہ کیوں نہ کیا جائے۔
۳۶۷	داڑھی منڈانے والے کی امامت
۳۶۸	جس شخص کی یہاں پردہ شرعی نہ ہو اس کی امامت۔
۳۶۸	قاتل کی امامت
<b>ملفوظات</b>	
۳۶۸	الزاق منا کب والقدم کا مطلب
۳۶۸	پابند رسوم کفار کی امامت
۳۶۹	جماعت ثانیہ کا حکم
۳۶۹	طمع دنیا رکھنے والے کی امامت
۳۶۹	سنتوں اور نفلوں کا بیان

صفحہ	عنوان
۳۶۹	فجر کی سنتیں قبل طلوع آفتاب پڑھنا
۳۶۹	فجر کی سنتیں بعد طلوع آفتاب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔
۳۶۹	عیدین کے روز اشراق و چاشت پڑھنا۔
۳۶۹	تہجد و اشراق کی قضا کا مسئلہ
۳۷۰	صلوٰۃ التبیح کے قومہ میں ہاتھ باندھیں یا کھلے رکھیں۔
۳۷۰	ظہر و مغرب کی نوافل کا ثبوت
۳۷۰	جمعہ کے بعد کی رکعات
۳۷۰	سنتوں کے بعد قضاء عمری پڑھنا
۳۷۱	عشاء کے بعد کی نفل کس طرح پڑھے
۳۷۱	وتر کے بعد کی نوافل کس طرح پڑھے
۳۷۱	تہجد کی رکعات
<b>ملفوظات</b>	
۳۷۲	تہجد کا کوئی خاص طریقہ نہیں
۳۷۲	بعد وتر نفل کھڑے ہو کر پڑھنا
۳۷۳	تراویح کا بیان
۳۷۳	تراویح کے رکعات کی تعداد پر مفصل بحث۔
۳۹۲	جو نماز تراویح کی آٹھ رکعت پڑھے
۳۹۲	حفاظ کو تراویح میں قرآن مجید سنانے کا معاوضہ دینے کے مسائل۔
۳۹۳	تراویح میں قرآن مجید سننے والے کی اجرت۔
۳۹۳	چار چار رکعت پڑھنے کا مسئلہ
۳۹۴	نماز تراویح میں قرآن مجید کا سننا کیسا ہے۔
۳۹۴	تراویح میں قرآن مجید سنانا
۳۹۴	شبینہ کا مسئلہ۔

صفحہ	عنوان
	<b>ملفوظات</b>
۳۹۵	ایک مسجد میں مکمل تراویح پڑھنے کے بعد دوسری مسجد میں تراویح میں شریک ہونا۔
۳۹۵	تراویح میں سورۃ اخلاص کی تکرار
	<b>بھول کے سجدوں کا بیان</b>
۳۹۶	سنن و نوافل میں تعدد اولیٰ کا چھوڑنا۔
۳۹۷	سنن و نوافل میں ضم سورۃ کا حکم
۳۹۸	قومہ و جلسہ کی دعاؤں کا حکم۔
	<b>وتر کا بیان</b>
۳۹۸	فرض پڑھانے والے کے سوا وتر کوئی اور پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟
۳۹۸	جس کو فرض کی جماعت نہ ملے وہ وتر کیسے پڑھے۔
۳۹۸	دعاء قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا
	<b>جمعہ و عیدین کا بیان</b>
۳۹۹	جمعہ کہاں اولیٰ ہوگا
۳۹۹	قریہ میں جمعہ و عیدین کا ہونا
۳۹۹	دیہات میں جمعہ پڑھنا
۴۱۸	قریہ میں جمعہ پڑھے یا ظہر
۴۱۸	احتیاط الظہر کا مسئلہ
۴۲۰	جواب دوم از علمائے دہلی و امت افادہ ہم۔
۴۲۲	شہر اور دیہات میں احتیاط الظہر پڑھنے کا حکم۔
۴۲۲	احتیاط الظہر کا مسئلہ
۴۲۵	احکام فطر و تکبیرات تشریح کب بیان کرے۔

صفحہ	عنوان
۴۲۶	عید الفطر کی تکبیرات کا جہر پڑھنا
۴۲۶	خطبہ عیدین و جمعہ ایک شخص پڑھے نماز دوسرا شخص پڑھائے۔
۴۲۶	خطبہ میں اشعار کا پڑھنا
۴۲۷	خطبہ میں عربی عبارت کا ترجمہ کرنا
۴۲۷	غیر عربی عبارت میں خطبہ کا پڑھنا
	ملفوظ
۴۲۸	جمعہ کا ثواب کس مسجد میں زیادہ ہوگا۔
	باب: جنازہ کی نماز کا بیان
۴۲۹	مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا
۴۳۰	بجہ عذر نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا
۴۳۰	نماز جنازہ کے نمازگاہ مسجد میں ہوں اور جنازہ خارج مسجد۔
۴۳۰	قبرستان میں نماز جنازہ
۶۳۰	نماز جنازہ سنتوں سے پہلے پڑھے یا بعد۔
۴۳۰	نماز جنازہ جوتے کے ساتھ پڑھنا
۴۳۱	جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔
۴۳۱	نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا
۴۳۲	کئی جنازوں کی نماز ایک ساتھ اور محزون کی نماز جنازہ۔
	سجدہ تلاوت کا بیان
۴۳۳	سجدہ تلاوت کے لئے تکبیر کا مسئلہ۔
	بیمار کی نماز کا مسئلہ
۴۳۳	بیٹھ کر نماز پڑھنا



صفحہ	عنوان
	مسافر کے احکام کا بیان
۴۳۳	مسافر امام مقتدی مقیم کی نیتوں کا مسئلہ۔
۴۳۳	سفر میں سنت و نفل پڑھنا
۴۳۳	فرخ اور میل کی صحیح حد
۴۳۳	صحیح مسافت سفر
	ملفوظ
۴۳۳	اگر اسٹیشن شہر میں داخل نہیں ہے تو قصر کرے۔
	شہید کا بیان
۴۳۳	چوراہہ ظالم کے ہاتھ سے مارے جانے والے کی شہادت۔
۴۳۵	حضرت حسینؑ کی شہادت
	کتاب الزکوٰۃ
	زکوٰۃ کے مسائل کا بیان
۴۳۶	نوٹ پر زکوٰۃ کا حکم
۴۳۶	مال نصاب سے کوئی چیز خرید لینا
۴۳۶	زکوٰۃ اپنے مخصوصین کو دینا
۴۳۷	دوسرے شہر میں زکوٰۃ ادا کرنا
۴۳۷	زکوٰۃ کی رقم سے کوئی چیز خرید کر دینا۔
۴۳۷	مدیون کے قرضہ کو زکوٰۃ میں محسوب کرنا۔
	ملفوظ
۴۳۷	زکوٰۃ میں غلہ دینا اور اسقاط حمل کا بیان۔

صفحہ	عنوان
	<b>باب: عشر و صدقہ و زکوٰۃ کن کن کو دیا جائے اس کا بیان</b>
۴۳۸	جو زمیندار صاحب نصاب نہ ہو اور عشر دیتا ہو۔ اس کو عشر لینا جائز ہے یا نہیں؟
۴۳۸	کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
۴۳۸	رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ
۴۳۸	رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے کہ غیر رشتہ داروں کو۔
۴۳۸	زکوٰۃ کے روپیہ سے کتب خرید کر تقسیم کرنا۔
۴۳۹	زکوٰۃ کی رقم تعمیر مسجد میں لگانے کے لئے حیلہ شرعی۔
۴۳۹	رفاعی انجمن کا چندہ زکوٰۃ سے دینا
۴۳۹	زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کے لئے کسی کو وکیل بنانا۔
۴۴۰	صدقہ کے زیادہ مستحق ہم وطن ہیں کہ عرب۔
۴۴۰	حجاز ریلوے میں زکوٰۃ کی رقم دینا۔
۴۴۰	زکوٰۃ کا روپیہ مسجد میں لگانا۔
۴۴۰	زکوٰۃ کی رقم سید کو دینا۔
	<b>ملفوظ</b>
۴۴۱	زوجین میں سے کسی کو آپس میں زکوٰۃ دینا۔
	<b>صدقہ فطر کا بیان</b>
۴۴۱	صدقہ فطر صاحب نصاب شخص کن کن کا ادا کرے۔
۴۴۱	صاحب نصاب کن کن کا صدقہ فطر نکالے۔
۴۴۱	صاحب نصاب شخص کو کن کن کا فطر ادا کرنا لازم ہے۔
۴۴۲	قربانی و صدقہ فطر واجب ہونے کا نصاب۔
۴۴۲	عید الفطر کے صدقہ کے لئے ہندوستانی وزن۔
۴۴۲	صاع اور ہندوستانی وزن سے کتنے کے ہیں۔

صفحہ	عنوان
	ملفوظ
۴۴۳	رطل بنانے کا طریقہ اور مد بنانے کا طریقہ۔
	عشر و خراج کے احکام کا بیان
۴۴۴	بیانی میں عشر کا مسئلہ۔
۴۴۴	عشری زمین کی شناخت کا طریقہ
۴۴۴	عشر مالکذاری ادا کرنے کے بعد دیا جائے یا پہلے۔
۴۴۴	ہندوستانی ارضیات عشری ہیں کہ خراجی۔
۴۴۵	سرکاری جمع اور معافی شدہ زمین کے متعلق عشر کا مسئلہ۔
۴۴۵	آم کا عشر کس طرح ادا کیا جائے۔
۴۴۵	نقد کر ایہ کی زمین پر عشر۔
۴۴۵	زمانہ گزشتہ کی واجب الادا زکوٰۃ و عشر کا مسئلہ۔
۴۴۵	جس باغ کو پانی نہ دیا جاتا ہو اس کا حکم۔
۴۴۶	مواضع مال گذاری کا مسئلہ
	ملفوظ
۴۴۶	بینڈ اور پولے کے مسائل
	کتاب الصوم
	روزے کے مسائل کا بیان
۴۴۷	بچے کب سے روزہ رکھیں
۴۴۷	چاند کے معاملہ میں ایک شہر کی خبر سے دوسرے شہر پر کیا اثر پڑے گا۔
۴۴۷	چاند کی خبر کے لئے خط اور تار کا اعتبار۔
۴۴۸	ایک شہر میں چاند نظر آئے تو دوسرے شہر میں کیا کیا جائے۔

صفحہ	عنوان
۴۴۸	چاند کے دیکھنے میں اختلاف مطلع کا اثر کن مہینوں پر پڑے گا۔
۴۴۸	اگر تیس دن گزرنے پر شوال کا چاند نہ نظر آئے۔
۴۴۹	تار پر چاند کی خبر کا حکم
۴۵۰	ستائیسویں رجب کے روزہ کی فضیلت۔
۴۵۱	ہزاری کے روزہ کا مسئلہ
۴۵۱	رجب کے روزہ کا مسئلہ
۴۵۲	۲۷ رجب کے روزہ کو ہزاری روزہ سمجھنا۔
۴۵۲	شہادت معتبرہ سے اگر ثابت ہو کہ جس دن روزہ رکھنا چاہئے تھا نہیں رکھا گیا تو کیا کیا جائے۔
	<b>ملفوظات</b>
۴۵۳	چاند کی خبر خط کے ذریعہ
	<b>روزہ کی قضا اور کفارہ کا بیان</b>
۴۵۳	کفارہ کی ادائیگی میں دیر کرنا
۴۵۳	کئی رمضان کے کئی روزوں کا کفارہ۔
۴۵۳	کئی روزے توڑنے کے کفارے کتنے ہوں گے۔
۴۵۳	عید کی خبر دوسری جگہ سے آنے پر روزہ رکھنے والے کیا کریں۔
	<b>ملفوظات</b>
۴۵۵	غیر رمضان کا روزہ توڑنا
۴۵۶	باب : روزہ کس بات سے فاسد ہوتا ہے اور کن باتوں سے نہیں
۴۵۶	بو اسیر کے مسوں کو دبانے کا روزہ پراثر۔
۴۵۷	منجن سے روزہ پراثر

صفحہ	عنوان
	ملفوظ
۳۵۷	اگر اس قدر کھانا کھالے کہ بعد طلوع آفتاب کے ڈکاریں آئیں اور پانی بھی آئے تو روزہ پر کیا اثر ہوگا۔
	باب: اعتکاف کا بیان
۳۵۸	اعتکاف مسنون کی مدت
۳۵۸	مکلف کا علاج کرنا
۳۵۸	مکلف حقہ کہاں پئے
۳۵۸	مکلف کن وجوہ کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے۔
۳۵۸	اعتکاف فاسد ہو جائے تو کیا کرے
	ملفوظ
۳۵۹	اعتکاف مسنون اگر فاسد ہو جائے
	کتاب الحج
	حج کا بیان
۳۶۰	رشوت کے روپیہ سے حج کرنا
۳۶۰	حج بدل کا مسئلہ
۳۶۰	عالم کا ہجرت کرنا
۳۶۰	مدینہ منورہ کی زیارت کا حکم
	کتاب النکاح
	نکاح کے مسائل
۳۶۲	بذریعہ خط ڈاک نکاح کا مسئلہ

صفحہ	عنوان
۴۶۲	نامرد سے نکاح
۴۶۲	نکاح کا صحیح طریقہ
۴۶۳	نکاح کا غلط طریقہ
۴۶۳	زوجہ کی بھانجی سے نکاح کا مسئلہ
۴۶۳	نکاح کے وقت کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کرنے کی شرط۔
۴۶۵	ایک ماہ بعد طلاق دینے کی نیت سے نکاح۔
۴۶۵	ایک ماہ کے بعد طلاق کی شرط سے نکاح کرنا۔
۴۶۵	مرد کو چار نکاح کی اجازت کی وجہ
۴۶۶	سنی عورت کا رافضی سے نکاح کرنے کا مسئلہ۔
۴۶۶	فاسق سے نکاح کرنا
۴۶۷	غیر کی بیوی سے نکاح کر لینا
۴۶۸	بے نمازیوں کے نکاح میں شہادت
۴۶۸	فاسق کا نکاح فسق سے فسخ ہونے کا مسئلہ۔
۴۶۸	عرس میں جانے والوں کے نکاح کا مسئلہ۔
۴۶۹	حلالہ کا صحیح طریقہ
۴۶۹	لڑکی کا قبل بلوغ نکاح ہونے پر بعد بلوغ رضا مندرہ کر پھر انکا کرنا۔
۴۷۰	لڑکی شیبہ کس کو کہتے ہیں۔
<b>باب: رضاعت کا بیان</b>	
۴۷۱	رضاعی بھتیجی سے نکاح
۴۷۱	رضاعی بہن کب سبھی جائے گی
۴۷۲	مدت رضاعت

صفحہ	عنوان
	کتاب الطلاق
	طلاق کے مسائل
۳۷۳	ایک مجلس میں تین طلاق کا حکم
۳۷۴	تین طلاق بیک وقت دینا
۳۷۴	طلاق کے گواہوں کا نہ ہونا
۳۷۵	ثبوت طلاق کا نصاب شہادت
۳۷۵	طلاق کے لئے گواہوں کی ضرورت
۳۷۵	طلاق کے بعد میاں بیوی کا راضی ہو جانا۔
۳۷۶	بیوی کو ماں کہنا
۳۷۶	شوہر کا بیوی کو ماں بہن کہنا اور بیوی کا شوہر کو باپ بھائی کہنا۔
۳۷۶	بیوی کو گھر سے نکل جانے کا حکم دینا۔
	عدت کا بیان
۳۷۷	عدت والی عورت کا باپ کی عیادت کو جانا۔
۳۷۷	عدت والی عورت کا طاعون زدہ مقام سے نکلنا۔
	باب: بچوں کی پرورش کا بیان
۳۷۸	بچوں کی پرورش کا حق کن کن کو حاصل ہے اور مدت بلوغ کیا ہے؟
	اولیاء اور کفو کا بیان
۳۷۹	ماں کی ولایت نکاح
۳۷۹	چچا کی ولایت نکاح
۳۸۰	دادا کی ولایت نکاح
۳۸۰	غیر کفو میں نکاح ہو تو فسخ کا مسئلہ

صفحہ	عنوان
۴۸۳	باب: وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا بیان
۴۸۳	اگر لڑکا اپنے باپ پر اپنی بیوی سے زنا کی تہمت لگائے۔
۴۸۳	اگر عورت اپنے خسر پر زنا کے ارادہ کی تہمت لگائے۔
۴۸۳	باب: غائب شخص کی بیوی کے مسائل
۴۸۳	اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے
۴۸۸	کتاب: خرید و فروخت کے مسائل
۴۸۸	غلہ کی تجارت کا حکم۔
۴۸۸	چڑھاوے کے جانور
۴۸۸	نوٹ کی خرید و فروخت
۴۸۹	مندرا اور قبر کا چڑھاوہ خریدنا
۴۸۹	چڑھاوے کے جانور کا بیچنا
۴۸۹	تمباکو خوردنی و نوشیدنی کی تجارت
۴۸۹	بدعتیوں کی کتابوں کی تجارت
۴۶۹	مردار جانور کی ہڈی کی تجارت
۴۹۰	شربت خشکاش کا بیچنا۔
۴۹۰	زمین مزروعہ مشتری کہ شرکاء میں اپنی ملک فروخت کرنا۔
۴۹۰	حشرات الارض فروخت کرنا۔
۴۹۰	بغیر قبضہ کے جائیداد فروخت کرنا
۴۹۱	تصویر دار برتن کی فروخت
۴۹۱	امام باڑہ کی تعمیر کے لئے سامان بیچنا
۴۹۱	حرام مال والے کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا
۴۹۲	حرام کمائی والوں کو کوئی چیز بیچنا



صفحہ	عنوان
۴۹۲	نقد میں کم ادھار میں زیادہ قیمت لینا
۴۹۲	ادھار چیز کو زیادہ قیمت پر دینا۔
۴۹۳	غریب کو کم قیمت میں اور امیر کو زیادہ قیمت میں دینا۔
۴۹۳	قیمت معلوم کئے بغیر دو الے جانا اور بروقت حساب ادا کر دینا۔
۴۹۳	اگر مشتری چیز پر قبضہ نہ کرے لیکن نہ قیمت دے نہ بیع منع کرے۔
۴۹۳	چیز دوسری جگہ سے لا کر نفع لے کر فروخت کر دینا۔
۴۹۴	قبر کی زمین خریدنے کے بعد کس کی ملک ہوگی۔
۴۹۴	بیعانہ کا مسئلہ۔
	ملفوظ
۴۹۴	جو شخص اپنا حلال مال اس کو بیچے جس کے پاس حرام روپیہ ہے۔
	بیع فاسد کا بیان
۴۹۵	ایکھ بونے کے وقت اس کی خریداری۔
۴۹۶	راب کے موسم کے پہلے کسی موضع کے نرخ سے کم مقرر کرنا۔
۴۹۶	پھول پھل کی تیاری سے پہلے نرخ مقرر کرنا۔
۴۹۷	کتب کا حق تالیف ہبہ یا بیع کرنا۔
۴۹۷	کسی کے مال سے خرید کردہ چیز کی بیع کا حکم۔
۴۹۷	بازار میں عموماً ملنے والی چیز کے نمونہ پر نرخ مقرر کرنا۔
	باب: بیع میں کون سی چیز داخل ہوتی ہے اور کون سی نہیں
۴۹۸	عام سڑک میں سے کچھ حصہ میں مکان یا مسجد بنانا
۴۹۹	سڑک کا ایک کونہ مکان میں داخل کرنا۔
۴۹۹	سڑک میں سے کچھ حصہ مکان کے لئے لینا۔

صفحہ	عنوان
	<b>ملفوظات</b>
۳۹۹	شارع عام میں سے کچھ حصہ اپنے مکان میں شامل کر لینا
۳۹۹	مکان خریدنے کے بعد مکان میں سے روپیہ نکلنا۔
	<b>باب: سود کے مسائل کا بیان</b>
۵۰۰	منی آرڈر سے روپیہ بھیجنا۔
۵۰۰	منی آرڈر میں روپیوں کے ساتھ پیسے بھیج دیں تو جائز ہو گا یا نہیں۔
۵۰۰	کفار سے سود لینا
۵۰۰	منی آرڈر کا محصول ادا کرنا۔
۵۰۰	منی آرڈر کے جواز کے لئے حیلہ شرعی۔
۵۰۱	منی آرڈر کی بجائے رقم بھیجنے کا دوسرا طریقہ۔
۵۰۱	منی آرڈر اور ہنڈی کا فرق
۵۰۱	ہنڈی کے عدم جواز کی وجہ
۵۰۲	بنک میں روپیہ رکھنے کا مسئلہ
۵۰۲	سود لیتے ہوئے بنک میں روپیہ رکھنا۔
۵۰۲	بنک کے سود کا صحیح مصرف
۵۰۳	ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں۔
۵۰۳	کل کی بنی ہوئی چیزیں کس عدد میں ہیں۔
۵۰۳	کوڑیاں اور پیسے بڑے روپیہ ہیں یا نہیں۔
۵۰۴	کافر کو سود دینا
۵۰۴	اصلی علت سود
۵۰۵	آنٹے میں ملاوٹ ہو تو کیا کیا جائے

صفحہ	عنوان
	باب: بدھنی کا بیان
۵۰۵	کوڑیوں اور پیسوں میں بدھنی جائز ہے یا نہیں۔
۵۰۵	چیزوں سے الٹ پھیر کرنے کی بیع کا بیان۔
۵۰۵	سونار کا نیارہ چاندی سونے کا کیسے خریدا جائے۔
۵۰۶	روپیہ کو خوردہ سے بدلنا۔
۵۰۶	کلاہتوں کی خرید و فروخت
	ملفوظ
	جاء نماز و درمی وغیرہ سرکار جو قیدیوں سے بنوائے۔ اور ملازمین جو قہراً بنوائیں
۵۰۶	اس کو خریدنا اور اس پر نماز پڑھنا۔
	بیع صرف زبان سے ایجاب و قبول سے ہونا اور بیع میں قبضہ شرط نہ ہونا اور
۵۰۶	ہبہ کا بغیر قبضہ کے معتقد نہ ہونے کے متفرق مسائل
	کتاب الدعوی
	دعویٰ کے مسائل
۵۰۷	مہر کا دعویٰ سسر پر
۵۰۷	کسی کا سکوت اس کے قبول کرنے کی دلیل ہے یا نہیں۔
	کتاب الاجرة
	اجرت کے مسائل
۵۰۸	کلام اللہ کے ختم کا ہدیہ
۵۰۸	قرآن شریف کے ختم پر نذرانہ لینا
۵۰۹	قرآن شریف کے ختم کا ہدیہ لینا
۵۰۹	تعلیم دین کی اجرت

صفحہ	عنوان
۵۱۰	وعظ کرنے کے لئے نذرانہ لینا
۵۱۰	دلالی کی اجرت لینا۔
۵۱۰	باغ کو سیراب کرنے کی اجرت
۵۱۱	سواری کو کرایہ پر دینا
۵۱۱	درخت کو کرایہ پر دینا
۵۱۲	غیر مسلم کے پاس ملازمت
۵۱۲	سو دکھانے والے کے پاس ملازمت۔
۵۱۴	رہن شدہ چیز کا کرایہ لینا
۵۱۲	مکان کو رہن رکھ کر مالک کی اجازت سے کرایہ پر لینا۔
۵۱۳	مکان کو جائز کاموں کے لئے کرایہ پر دینا۔
۵۱۳	ناجائز اشیاء بیچنے والوں کو مکان دوکان کرایہ پر دینا۔
۵۱۳	زمین کو کرایہ پر دینا
۵۱۳	کھیت کی عمل داری کرنا
۵۱۳	فرائض پورے ادا نہ کر کے تنخواہ لینا۔
۵۱۴	اجرت میں فاسد شرط نہ کرنی چاہئے۔
۵۱۵	کسی کو مال دے کر مقررہ قیمت سے کم و زیادہ لینے کی اجازت دینا۔
۵۱۵	ملازمین کا ایام رخصت کی تنخواہ بلا مالک کی اجازت کے لینا۔
	ملفوظ
۵۱۵	قرآن شریف پڑھنے کی اجرت
۵۱۵	رمضان شریف میں تراویح میں قرآن مجید سنانے کی اجرت۔
۵۱۵	ختم قرآن میں شیرینی مسجد کے مال سے دینا۔

صفحہ	عنوان
۵۱۶	باب: فیصلہ اور حکم حاصل کرنے کے مسائل حکم کے حکم سے کب پھر سکتے ہیں
	کتاب الرهن رہن کے مسائل
۵۱۷	رہن شدہ چیز سے نفع اٹھانا
۵۱۷	رہن شدہ چیز سے نفع اٹھانا
۵۱۷	مکان رہن رکھ کر اس میں رہنا
۵۱۸	مسکونہ مکان کو رہن و غلی لینے کا مطلب۔
۵۱۸	چیز رہن رکھتے وقت رہن رکھانے والے کو ادائے خراج کا ذمہ دار بنانا۔
۵۱۹	مکان رہن لے کر رہنا یا کرایہ سے دینا۔
	کتاب الہبہ بخشش کے مسائل
۵۲۰	تمسک و ہبہ کا فرق۔ راہ کے معنی خبر۔
۵۲۰	فاسق پر بعد تحری کے عمل بوجہ کثرت و تواتر خطوط و رجسٹری غلبہ ظن پر عمل
	باب: قرض کے مسائل
۵۲۰	اس شرط پر روپیہ قرض لینا کہ منافع فی روپیہ دے گا۔
۵۲۰	کوشش کے باوجود قرض نہ ادا کر سکتا۔
۵۲۱	ادھار ایک قسم کی جنس لے کر دوسری قسم کی جنس دینا۔
۵۲۱	ایک قسم قرض لے کر دوسری جنس فصل پر ادا کرنے کا وعدہ۔
۵۲۱	ایک قسم کی جنس کے بدلے دوسری قسم کی جنس کے وعدہ پر ادھار لینا

صفحہ	عنوان
	<b>باب: جوئے کا بیان</b>
۵۲۲	اپنی حقیقت کا مقدمہ فروخت کرنا۔
۵۲۲	لاٹری کا ڈالنا۔
	<b>باب: رشوت کا بیان</b>
۵۲۳	حوالدار کا گاؤں سے دودھ یا گئے لانا۔
۵۲۳	مقررہ تنخواہ کے علاوہ ملازمین سرکار کا زائد لینا
۵۲۳	ملازمین پولیس کا عام لوگوں سے مانگنا
۵۲۳	بادشاہ نواب۔ پیر، ولی کو نذر دینا
۵۲۳	اہل عملہ ملازمین محکمہ کو خوشی سے دینا
۵۲۳	ظلم سے بچنے کے لئے رشوت دینا
۵۲۳	کسی کام کی کوشش کا عوض۔
۳۲۵	زمینداروں کا قصاب سے گوشت ستا لینا۔
	<b>ملفوظات</b>
۵۲۵	جس چیز کا لینا دینا پہلے سے معروف نہ ہو اس کا بعد ملازمت لینا دینا۔
	اسٹنٹ صاحب کو جو شیرینی دی جائے۔ گیارہویں کی شیرینی قبضہ پنج شنبہ
۵۲۵	و محرم کا طعام۔ رعایا سے مکان کرایہ پر لینا وغیرہ۔
۵۲۵	حکام کو جو دیا جاتا ہے اس کا حکم
	<b>کتاب الامانۃ</b>
	<b>امانت کے مسائل</b>
۵۲۶	رقم امانت کی تبدیلی
۵۲۶	امانت کو اپنے ذاتی خرچہ میں لاکر دوسری رقم دینا۔

صفحہ	عنوان
۵۲۶	کسی کے پاس رقم امانت جمع کرا کر کسی کو دلانے کا صحیح طریقہ۔ کتاب اللقطۃ
۵۲۷	گری پڑی چیز کے مسائل
۵۲۷	مسجد میں گری ہوئی رقم خادم کھالے تو کس طرح ادا کرے۔
۵۲۷	کوئی شخص دکان پر کوئی چیز بھول جائے تو کیا کرے۔
۵۲۸	کتاب کسی کو مجبور کرانے کے مسائل حرام کھانے اور کفر کے کام کرنے پر کسی کو مجبور کرنا۔
۵۲۸	زبردستی چھیننے کے مسائل
۵۲۸	دریا سے مچھلی پکڑنے والوں سے دریا کے مالک کا مچھلیاں لینا۔
۵۲۸	حاکم کا کسی چیز کو کسی سے زبردستی لے کر کسی کو بخش دینا۔
۵۲۹	کتاب وقف کے مسائل واقف کی اجازت کے بغیر موقوف شے میں تصرف
۵۲۹	وقف کے بعد بیع
۵۳۰	مسجد کی موقوفہ زمین پر مکان بنانا
۵۳۰	واقف کی اجازت کے بغیر ایک مسجد کا مال دوسری مسجد میں صرف کرنا۔
۵۳۰	متولی کی اجازت کے بغیر مسجد کی آمدنی صرف کرنا۔
۵۳۱	مسجد کا مال اپنے مال میں ملا لینا
۵۳۱	مسجد کے بوریا اور تیل کا بیچنا
۵۳۱	مسجد کا مال اپنے ذاتی استعمال میں لانا۔
۵۳۲	مدرسہ کے چندہ کا خرچ
۵۳۲	قبرستان میں مسجد بنانا

صفحہ	عنوان
۵۳۲	قبرستان کی زمین کا حکم
۵۳۲	رقم چندہ محصل چندہ یا مہتمم کے ذاتی اخراجات میں صرف کرتا۔
۵۳۳	مسجد کا تیل
۵۳۳	مسجد کی خراب اشیاء کا مسئلہ
	ملفوظات
۵۳۳	کسی مسجد کا چندہ دوسری مسجد میں صرف کرتا۔
۵۳۳	مسجد کا چندہ اور روپیہ میں ملانا
۵۳۳	مسجد کے چندے سے مسجد کے لئے زمین خریدنا۔
	باب: مساجد کے احکام کا بیان
۵۳۳	مسلمان بھنگی کا مال مساجد میں لگانا
۵۳۳	شیعہ کی بنوائی ہوئی مسجد
۵۳۳	تعمیر مسجد کے لئے کافر سے چندہ وصول کرنا۔
۵۳۳	کافر کی بنوائی ہوئی مسجد
۵۳۵	طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد
۵۳۵	مسجد کے لئے کافر کا چندہ
۵۳۵	مراثی و طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد
۵۳۵	مسجد و مدرسہ میں کافر کا روپیہ لگانا
۵۳۵	مسجد میں کافر کا روپیہ لگانا۔
۵۳۶	کافر کی بنوائی ہوئی مسجد
۵۳۶	رمضان شریف میں مساجد میں زیادہ روشنی کرنا۔
۵۳۶	مسجد میں رمضان میں ضرورت سے زیادہ روشنی۔
۵۳۶	مسجد میں ضرورت سے زیادہ روشنی



صفحہ	عنوان
۵۳۷	مساجد میں مٹی کا تیل دیا سلامی جلانا
۵۳۷	مسجد میں دیا سلامی جلانا۔
۵۳۷	مساجد میں مٹی کا تیل جلانا
۵۳۸	مساجد میں زیب و زینت کرنا
۵۳۸	مسجد کے اس گوشہ کی تعمیر جو خارج از مسجد ہو۔
۵۳۹	صحن مسجد میں قبور قدیمہ پر مسجد کے لئے حوض بنوانا۔
۵۳۹	سود کے مال سے مسجد کا بنانا
۵۳۹	مسجد میں خرید و فروخت کرنا
۵۳۹	مسجد کو فروخت کرنا
۵۴۰	حرام مال سے بنائے ہوئے مکان میں نماز۔
۵۴۰	حرام مال سے مسجد کا غسل خانہ بنوانا
۵۴۰	طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد کی تعظیم
۵۴۰	مسجد کا روپیہ کنویں کی مرمت میں لگانا۔
۵۴۱	مسجد کے پھلدار درختوں کا مسئلہ
۵۴۱	مسجد کا بچا ہوا تیل
۵۴۱	مسجد کا حجرہ بنوانے کی جہت
۵۴۱	مسجد کی زمین میں حجرہ بنانا
۵۴۲	مسجد کی افتادہ زمین کا مسئلہ
۵۴۲	مسجد میں چار پائی بچھانا
۵۴۲	مساجد میں ذکر جہری
۵۴۳	مسجد میں راستہ داخل کرنا
۵۴۳	مسجد کے لئے جبراً جگہ لینا
۵۴۳	مسجد کی حفاظت کے لئے جہاد
۵۴۴	مسجد میں زیادتی کے لئے تعمیر

صفحہ	عنوان
۵۴۴	مسجد کا ثواب اندر و باہر
۵۴۴	مسجد کے اندر وضو کرنا
۵۴۴	مسجد کی رقم سے گھنٹہ وغیرہ خریدنا۔
۵۴۴	جنگل میں عید گاہ بنانا
۵۴۴	مسجد میں ختم قرآن کی رات ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا۔
۵۴۵	مسجد میں دیاسلائی جلانا
۵۴۵	مسجد میں چارپائی بچھانا
<b>باب: نذر اور قسم کا بیان</b>	
۵۴۶	نذر کا پورا کرنا کب واجب ہے
۵۴۶	نذر اللہ کا کھانا کون کھا سکتا ہے۔
۵۴۶	نذر کا کھانا نذر کرنے والا کھا سکتا ہے۔
۵۴۶	نذر کا روپیہ اغنیاء یا اعزہ کو کھلانے کا حکم
۵۴۷	مسجد میں کھانا بھیجنا
۵۴۷	کسی کے نام پر مرغیا بکرا ذبح کرنا۔
۵۴۷	ناجائز اشیاء بیچ کر نذر اللہ کرنا
۵۴۸	اللہ کے سوا کسی کی نذر کرنا
<b>ملفوظ</b>	
۵۴۹	اگر کسی نے نذر کی تو اس کے پورا کرنے کے لئے اس پر جبر۔
<b>کتاب شکار اور ذبح کے مسائل</b>	
۵۴۹	دریائی جانور اور بلاؤ کی انڈے
۵۴۹	جھینٹوں کا کھانا
۵۴۹	خرگوش کا حکم

صفحہ	عنوان
۵۴۹	بلگے کا حکم
۵۴۹	اوجھڑی کا کھانا
۵۴۹	اوجھڑی یعنی آنت یا جگری کھانا
۵۴۹	اور جھڑی اور کھیری کا کھانا
۵۴۹	حلال جانور کی حرام اشیاء
<b>ملفوظات</b>	
۵۵۰	یوم کی حلت
۵۵۰	ہندو اور کافر کے گھر کی شئی کی حلت و حرمت اور ذبیحہ کے متعلق اس کا قول۔
<b>کتاب: قربانی اور عقیدہ کے مسائل</b>	
۵۵۰	قربانی کب واجب ہوتی ہے۔
۵۵۰	قربانی کا جانور کس عمر کا ہو۔
۵۵۱	میت کی طرف سے قربانی کرنے پر گوشت کی تقسیم کیسے ہو۔
۵۵۱	میت کی طرف سے قربانی کرنا اور اس کا گوشت کھانا۔
۵۵۱	قربانی کی کھال کے دام مسجد میں صرف کرنا یا مؤذن کو دینا۔
۵۵۱	قربانی کی کھال مہتمم مدرسہ کو دینا
۵۵۲	عقیدہ مباح ہونے کا مطلب۔
<b>کتاب: جواز و حرمت کے مسائل</b>	
۵۵۳	اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا
۵۵۳	بزرگوں کے مزارات پر جانا۔
۵۵۳	میلوں اور بازاروں میں وعظ کہنا
۵۵۳	اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کو جانا۔
۵۵۳	مسلمانوں کے میلوں میں سوداگری کے لئے جانا۔

صفحہ	عنوان
۵۵۴	ملازمین سرکاری کا بغرض انتظار کفار کے میلوں میں جانا۔
۵۵۴	کفار کے میلوں میں بغرض تجارت جانا۔
۵۵۴	میلوں اور عرسوں میں تجارت کے لئے جانا۔
۵۵۵	نفع لینے کی شرعی حد
۵۵۵	نفع لینے کی شریعت میں مقررہ حد
۵۵۵	دلالی کا مسئلہ
۵۵۵	کمیشن کا مسئلہ
۵۵۶	دلالی کب طے کرنی چاہئے۔
۵۵۶	مشتبہ چیز کا خریدنا
۵۵۶	حکیم کا عطار سے حصہ لینا
۵۵۶	طیب کا نذرانہ
۵۵۶	بے بیانی عورت کا حمل گرانا
۵۵۷	کسی شخص کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا
۵۵۷	پاؤں چومنا۔
۵۵۷	کسی مسلمان کی عزت بچانے پر جھوٹ بولنا۔
۵۵۸	اپنا حق ثابت کرنے کے لئے جھوٹ کہنا یا کسی سے کہلوانا۔
۵۵۸	برادری کے قوانین کا مسئلہ
۵۵۹	فاسق کی تعریف کرنا
۵۵۹	کافر و فاسق کی تعریف کرنا
۵۶۰	فاسق فاجر کی غیبت
۵۶۰	مردوں کو ہنڈولے میں جھولنا۔
۵۶۰	قرآن یا قتل ہوا اللہ احد یا تبت وغیرہ نام رکھنا۔
۵۶۰	مغرب کے بعد سو جانا۔
۵۶۰	امام مسجد کا مغرب کے بعد سو جانا

صفحہ	عنوان
۵۶۱	مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے سو جانا۔
۵۶۱	اونچا مکان بنانے کی حد
۵۶۱	انسان کے اجزاء کا استعمال کرنا
۵۶۱	ضرورت کے لئے غدر روکنا
۵۶۱	کسی مقام کو شریف کہنا
۵۶۲	مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا استعمال کرنا۔
۵۶۲	پیتل کے بلا قلعی برتن میں کھانا۔
۵۶۲	برہمنی برتنوں میں کھانا۔
۵۶۲	حقہ پینا
۵۶۳	حقہ پینے والے کا درود شریف۔
۵۶۳	تمباکو کھانا، سوگھنایا حقہ پینا
۵۶۳	حقہ نوش کا درود شریف
۵۶۳	پان میں تمباکو کھانا اور حقہ پینا
۵۶۳	نمبر دار کے حقوق تلف کرنا
۵۶۳	حکام دریا و جنگل کا اشیاء جنگل و دریا پر محصول لگانا۔
۵۶۳	پولیس کا باغ بہاری کو لوٹنا
۵۶۳	ریل میں بلا اجازت سامان زیادہ لے جانا
۵۶۳	مقدمہ میں سچی گواہی کو چھپانا۔
۵۶۵	بزرگوں کو قبلہ و کعبہ وغیرہ لکھنا
۵۶۵	وعدہ کو پورا نہ کرنا۔
۵۶۵	خط میں القاب قبلہ و کعبہ کا لکھنا
۵۶۶	معافی طلب کرنے والے کو معاف نہ کرنا۔
۵۶۶	وعظ کے بعد واعظ سے مصافحہ
۵۶۶	شادی میں نکاح کے وقت کھجور لٹانا۔

صفحہ	عنوان
۵۶۶	نکاح کے وقت کھجور لٹانا
۵۶۷	رسم بسم اللہ کا مسئلہ
۵۶۷	بچوں کی سالگرہ منانا
۵۶۷	ذوم کے گھر کا کھانا
۵۶۷	طلبہ کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا
۵۶۷	شادی سے پہلے کا کھانا کھانا
۵۶۸	گانے والے کی دعوت
۵۶۸	نعت یا حمد کے اشعار بلند آواز سے پڑھنا۔
۵۶۸	بغیر باجے کے راگ وغیرہ سننا۔
۵۶۸	راگ کے مسئلے۔
۵۶۹	چنگ درباب و ساز کا مسئلہ
۵۶۹	ڈومنیوں کو بیاہ میں گوانا
۵۶۹	عیدین میں بانسری، تاشہ، باجا وغیرہ بجانا۔
۵۷۰	ہندوں کے تہوار میں خوشی کے گیت گانا۔
۵۷۰	آواز ملا کر چند لوگوں کا مناجات پڑھنا۔
۵۷۰	حرام مال سے بنائے ہوئے مکان میں رہنا۔
۵۷۱	حرام مال سے کنواں بنوانا
۵۷۱	حرام مال والے کا ہدیہ قبول کرنا۔
۵۷۱	حرام مال سے بنا ہوا مکان خریدنا
۵۷۱	حرام میراث
۵۷۱	حرام پیشہ والے کی دعوت قبول کرنا۔
۵۷۲	حرام آمدنی والے کا ہدیہ
۵۷۲	سود کی آمدنی والے کا ہدیہ
۵۷۳	تھانیدار کا ہدیہ

صفحہ	عنوان
۵۷۲	دو امیں شراب کا استعمال
۵۷۳	حرام کسب والے کا ہدیہ
۵۷۳	انگریزی پڑیا کارنگ
۵۷۳	سرخ پڑیا کا حکم
۵۷۴	انگریزی پڑھنا پڑھانا۔
۵۷۴	کفار کو سلام کرنا۔
۵۷۴	آریہ سماج کا لکچر سننا
۵۷۴	انگریزی ادویہ
۵۷۵	بسکٹ نان پاؤ کا مسئلہ
۵۷۵	ہندوؤں کا ہدیہ قبول کرنا
۵۷۵	ہندوؤں کی شادی میں جانا
۵۷۵	ولایتی قند اور تر و خشک مٹھائی کا حکم۔
۵۷۵	ہندوؤں کے پیادے کا پانی پینا
۵۷۶	حضرت حسینؑ کی مجلسِ غم سنانا
۵۷۶	رافضیوں سے مراسم رکھنا
۵۷۶	حسینؑ کی تصویر گھر میں رکھنا
۵۷۶	حسینؑ کا غم کرنا۔
۵۷۷	تعزیہ داری
۵۷۷	مرثیوں کی کتابوں کا جلانا
۵۷۷	شیعہ کا ہدیہ قبول کرنا
۵۷۷	مالدار آدمی کا سوال کرنا
۵۸۰	سوال مذکور پر مولوی احمد رضا خاں صاحب کا علیحدہ جواب۔
۵۸۱	گھوڑے سوار سائل کا سوال کرنا
۵۸۲	سوال کرنا کس کو جائز ہے۔

صفحہ	عنوان
۵۸۲	مردوں کو سرخ رنگ کا کپڑا پہننا
۵۸۳	دولہا کو گونہ لچکا لگا ہوا کپڑا پہننا
۵۸۳	مرد کا گونے کناری لگا ہوا کپڑا پہننا۔
۵۸۳	سرخ رنگ نول یا پڑیہ کا حکم
۵۸۳	عالم کا سرخ کپڑے پہننا
۵۸۲	مردوں کو سرخ رنگ کا کپڑا استعمال کرنا۔
۵۸۲	بغیر کسم کارنگا ہوا کپڑا مردوں کو پہننا۔
۵۸۵	مردوں کو رنگین کپڑے پہننا
۵۸۵	سوائے زعفران کے زرد رنگ کا کپڑا مردوں کو پہننا وغیرہ۔
۵۸۵	مردوں کو نول رنگ کا کپڑا استعمال کرنا۔
۵۸۵	نول اور پڑیہ کا رنگ مردوں کو استعمال کرنا۔
۵۸۶	مردوں کو تون اور کسم کارنگ ملا کر استعمال کرنا۔
۵۸۶	گیرو میں رنگے ہوئے کپڑے پہننا
۵۸۶	مردوں کو چاندی کی لیس کا پہننا
۵۸۶	ترکی ٹوپی کا پہننا۔
۵۸۶	گول ٹوپی
۵۸۷	رسول اللہ ﷺ کے جبہ کی مقدار۔
۵۸۷	کرتے کی گھنڈی یا بٹن کھلا رکھنا
۵۸۷	مردوں کو چاندی کے بوتام
۵۸۷	چاندی کے بٹن کا مسئلہ
۵۸۸	چاندی سونے کے بٹن کا استعمال کرنا۔
۵۸۸	چاندی کے بٹن
۵۸۸	لکڑی کی کھڑاؤں کا پہننا
۵۸۸	کھڑاؤں کا مسئلہ



صفحہ	عنوان
۵۸۹	کمر میں سوت باندھنا
۵۸۹	مردوں کو مہندی لگانا
۵۸۹	بالوں کو سیاہ کرنا
۵۸۹	اچکن وانگر کھا پہننا
۵۹۰	اچکن وانگر کھے کا حکم
۵۹۰	داڑھی کے بالوں کا کتر وانا
۵۹۰	داڑھی کی شرعی مقدار
۵۹۰	بینگے سر ننگے پاؤں رہنا
۵۹۰	بوجہ گرمی سر میں پان کھلوانا
۵۹۰	سر میں پان بنوانا
۵۹۱	بیماری کے عذر سے بیچ سے سر منڈانا۔
۵۹۱	گردن کے بال منڈوانا
۵۹۱	گردن کے بال منڈوانا
۵۹۱	صرف گردن کے بال منڈوانا
۵۹۲	کاکلوں کا مسئلہ۔
۵۹۲	قینچی سے زیر ناف کے بال لینا
۵۹۲	خط بنوانا
۵۹۲	سینہ اور پیٹ کے بال منڈوانا
۵۹۳	عورتوں کا قبروں پر جانا
۵۹۳	شرعی پردہ
۵۹۳	بلا قصد غیر محرم کا دیکھنا
۵۹۳	عورتوں کو پیر کے سامنے آنا
۵۹۳	ہندوستان کی کافرات کا حکم
۵۹۳	عورتوں کا ناک کان چھدوانا

صفحہ	عنوان
۵۹۲	عورتوں کو تعزیرت کے لئے جانا
۵۹۲	عورتوں کو اونچی ایڑی کا مردانی جوتا پہننا۔
۵۹۲	کانچ کی چوڑیاں عورتوں کو پہننا
۵۹۵	نامحرم مرد جس جگہ نہ ہو وہاں عورت کو باجہ والا زیور پہننا۔
۵۹۵	عورتوں کو پتیل تانبہ کا زیور پہننا
۵۹۵	عورتوں کو چاندی سونے کے علاوہ زیورات کا پہننا۔
۵۹۶	زیور کے لئے کلمہ کاروپہ تڑوانا
۵۹۶	عورتوں کو کانچ کی چوڑیاں پہننا
۵۹۶	چیتے وغیرہ جانوروں کی کھالوں کا مسئلہ۔
۵۹۶	چھلی کا شکار کرنے میں گھینے کو کام میں لانا۔
۵۹۷	کھیتی کی حفاظت کے لئے کتابالنا
۵۹۷	دوا میں بحری جانور کا استعمال کرنا
۵۹۷	قاضی کو عیدین میں ہاتھی پر سوار کرنا
۵۹۷	نخر پیدا کرنے کا طریقہ استعمال کرنا۔
۵۹۸	گھوڑوں کو خسی کرنا۔ بیل کو خسی کرنا۔
۵۹۸	جوں کو گرم پانی یا دھوپ میں مارنا۔
۵۹۸	حلال کو اکھانا
۵۹۸	بھڑوں کو جلانا
	<b>ملفوظات</b>
۵۹۸	جا گلپوری کپڑے
	ذوق و شوق پیدا ہونے کا وظیفہ اور جس شے کی ماں باپ
۵۹۹	کی طرف سے صراحت ہو۔
۵۹۹	جو ظروف سب زن و مرد کو حرام ہیں ان کا بنانا۔

صفحہ	عنوان
۵۹۹	سیاہ خضاب مرد کے لئے اور عورتوں کو نماز میں پشت پا اور پشت دست کا ڈھلکنا۔
۵۹۹	فقرا کو غلہ تقسیم کرنا
۶۰۰	سارے سر پر بال ہوں اور مرض ہو تو ان کا منڈوانا۔ مسلمان کا ذبیحہ اگر تحقیق ہو تو اس کا کھانا اور داڑھی کتنی کٹوائے۔
۶۰۰	حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں رہنا۔ اور کافر کا غائبانہ گوشت جو بچے اس کا لینا۔
۶۰۱	عورتوں کو ہر قسم کی چوڑیاں پہننا اور عدت میں عورتوں کو زینت کا ترک کرنا اور جس کی آمدنی نو روپیہ حلال ہو دس روپیہ حرام یا برعکس یا مساوی اس کا ہدیہ یا ضیافت قبول کرنا۔
۶۰۱	لوہے اور پیتل کی انگٹھی مرد و عورت دونوں کے لئے۔
۶۰۱	پیرنا محرم اور عورت بہت بڑھیانہ ہو تو اس کو پیر کے سامنے آنا ہاتھ سے مس کرنا۔
۶۰۱	ہمزاد سے بات کرنا
۶۰۱	قبہ قبہ اور حاکم کا فرق
۶۰۲	ناخن کاٹنے کہ کٹوائے۔ چوہڑے چمار کے گھر کی روٹی۔
۶۰۲	خچر بنانا۔ خصی کرانا۔
۶۰۲	جس گھڑی کا چاندی سونے کا کیس ہو یا چاندی سونا اس پر غالب ہو اس کا استعمال۔
	کتاب وراثت کے مسائل
۶۰۲	پوتوں کا حصہ
۶۰۲	وصیت کے مسائل
۶۰۸	بیوی بھائی لڑکی کے حصے لا ولدیت کا وارث

صفحہ	عنوان
	ملفوظ
۶۰۹	ترک کی تقسیم
	کتاب: ذکر و دعاء آداب قرآن و تعویذ کے مسائل
۶۱۰	ذکر جہری
۶۱۰	ذکر جہری کی حقیقت
۶۱۰	ذکر جہری کا ثبوت
۶۱۱	ذکر جہری
۶۱۱	ذکر جہری
۶۱۲	ذکر جہری میں ضرب کا طریقہ
۶۱۲	ذکر کے وقت تصور
۶۱۲	ذکر جہری افضل ہے یا خفی
۶۱۲	حیض و نفاس کی حالت میں ذکر کرنا
۶۱۳	بغیر وضو کے ذکر کرنے کا مسئلہ
۶۱۳	جن درودوں کا ذکر احادیث میں نہیں آیا ہے۔
۶۱۳	تراویح میں قرآن مجید کا اجرت پر سننا۔
۶۱۳	قرآن مجید کے اوراق کی تعظیم کا طریقہ۔
۶۱۳	قرآن کو تعویذ بنانا۔
۶۱۳	قرآن مجید کے گرانے کا صدقہ
۶۱۳	بغیر وضو کے کلام اللہ کو چھونا
۶۱۳	حالت جنابت میں قرآن مجید کا چھونا۔
۶۱۳	قرآن مجید کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا
۶۱۵	چور معلوم کرنے کے لئے سورہ یسین شریف پڑھ کر لوٹنا پھرانا۔

صفحہ	عنوان
۶۱۵	نماز فجر کے بعد تلاوت و ذکر کرنا
۶۱۵	وضو کی دعائیں۔
۶۱۵	ہیضہ کے لئے دعا
۶۱۶	عہد نامہ کا پڑھنا
۶۱۶	اداے قرض کی دعا
۶۱۶	دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا
۶۱۶	فرض نماز کے بعد دعا بلند آواز سے پڑھنا۔
<b>ملفوظات</b>	
۶۱۷	خط کے ذریعہ بیعت
۶۱۷	تعویذ مرسل پیر
۶۱۷	یا باسط۔ یا مغنی دعاء و ضرب الحجر کے اوقات۔
<b>باب: حقوق کے مسائل</b>	
۶۱۸	حقوق العباد میں روزہ دلایا جائے گا یا نہیں
۶۱۸	کس قدر مقبول نمازیں کتنے قرضہ میں دلائی جائیں گی۔
۶۱۸	والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا۔
۶۱۸	والدین کے خلاف شرع احکام
۶۱۸	والدین اور مرشد میں اگر اختلاف ہو جائے۔
۶۱۹	خفیہ نکاح کرنے کے بعد بیوی سے احکام شرع کی تعمیل کرانا۔
۶۱۹	زنا حقوق اللہ میں سے ہے کہ حقوق العباد میں
۶۱۹	مہر بخشوانے کا طریقہ۔
۶۱۹	محلہ کی مسجد کی بجائے جامع مسجد کو جانا۔

صفحہ	عنوان
۶۲۰	والدین کے احکام کی تعمیل کے حدود۔
۶۲۰	ہمسایہ کے حقوق بنانا میں کیا ہیں۔
۶۲۰	میت کے حقوق کی ادائیگی
۶۲۱	بزرگان دین سے حق تلفی کا مواخذہ۔
۶۲۱	دستوری کے احکام
	ملفوظ
۶۲۲	نمازی کے نیچے سے بوریا کھینچنا
	کتاب آداب اور معاشرت کے مسائل
۶۲۲	کھانے کے پہلے اور بعد میں ہاتھ کا دھونا۔
۶۲۲	سونے کے بعد اٹھ کر ہاتھ دھونا
۶۲۲	سونے کے بعد اٹھ کر ہاتھوں کا دھونا۔
۶۲۲	بغیر طب پڑھنے کے اپنا اور دوسروں کا علاج۔
۶۲۳	بغیر سند کے علاج کرنا
۶۲۴	طیب کی صفات
۶۲۴	بدعتیوں اور مشرکوں سے تعلقات رکھنا
۶۲۴	بدعتی نمازیوں کی امام کی خاطر تواضع کرنا
۶۲۴	احسان کر کے ظاہر کرنا۔
۶۲۴	زوجہ کو کب تک نماز کی نصیحت کرے۔
	ملفوظات
۶۲۴	اندیشہ ضعف ہو تو خدا تر قوی کھانا۔
۶۲۴	سنت و فرض فجر کے درمیان تھوڑی دیر سو جانا۔

## باب اخلاق اور تصوف کے مسائل

### طریقت اور شریعت کا فرق

(سوال) شریعت کہ جس کو علم سفینہ اور طریقت کہ جس کو علم سینہ کہتے ہیں فی الحقیقت یہ ایک چیز ہیں یا دو اگر یہ ایک ہی ہیں تو فقط علم ظاہر سے ہی تزکیہ کیوں نہیں ہو جاتا اور ہر عالم صوفی کیوں نہیں ہوتا اور ہر صوفی کو عالم ہونا کیوں شرط نہیں ہے اور جو حضرات علم ظاہری کے مجتہد ہوئے۔ انہوں نے طریقت کا اجتہاد کیوں نہ فرمایا۔ مثلاً حضرت امام اعظم صاحب شریعت کے امام ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی طریقت کے مجتہد ہیں۔ کہیں اس کے برعکس نہیں سنا گیا صوفیا کرام نے جو اشکال افکار، اذکار، مراقبہ، ذکر جہز ذکر راگ کیماس کا پکڑنا، تصور شیخ ضربیں لگانا، چلہ کرنا، جس دم وغیرہ وغیرہ بہت سے امر تعلیم فرمائے کہیں یہ بات نہیں سنی گئی کہ امام اعظم صاحب نے بھی کوئی بات اس قسم کی کہیں کسی کو تعلیم فرمائی ہو یا حضرت خواجہ صاحب نے کسی مسئلہ شریعت میں اجتہاد فرمایا ہو یا ان کو کوئی شخص امام اور مجتہد جانے یا امام صاحب کو کوئی شخص طریقت کا امام جانے بلکہ بعض علماء کو تو تصوف کے ہونے سے ہی

انکار ہے میری یہ غرض ہرگز نہیں کہ طریقت شریعت کے خلاف ہے یا امام صاحب طریقت نہیں جانتے تھے یا حضرت خواجہ صاحب شریعت نہیں جانتے تھے معاذ اللہ منہما مثلاً حضرت اولیس قرنی سرور عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار سراپا انوار سے فیضیاب نہ ہوئے تھے اور کوئی عالم بھی ایسے نہ تھے کہ اپنے زمانہ کے عالم ہوں۔ لیکن ان کو فیض باطنی سرور عالم رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر عطا ہوا تھا کہ وہ واصل الی اللہ ہوئے اور تمام صوفیوں کے سر حلقہ اور اہل سلسلہ اور مقتداء ہوئے۔ اور ان سے ان شاء اللہ تعالیٰ تاقیامت سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر طریقت علم ظاہری کی ہی وجہ سے ہوتی تو سلسلہ رویہ میں غالباً بہت سے آدمی حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ سے علم ظاہری میں زیادہ ہوئے ہوتے تو اس قیاس سے جو عالم و فاضل زیادہ ہو وہی مرتبہ ولایت میں زیادہ ہونا چاہئے اور یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے اس میں ایک صوفی صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں علم ظاہری کا کچھ تعلق نہیں ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی۔ لہذا یہ بڑے لوگ ہوئے اور جن کو اولیا، اللہ سے نسبت ہوگی، وہ اس رحمۃ اللہ علیہ کے ولی ہوں گے۔ مثلاً حضرت بابا صاحب اور حضرت صابر صاحب

وحضرت نظام الدین وغیر ہم یہ سب لوگ عالم اور بڑے فاضل ہیں۔ لیکن ان سے اس وقت تک علم ظاہری کا کوئی سلسلہ نہیں سنا گیا۔ اور طریقت میں یہ اہل سلسلہ میں ہزار ہا عالم فاضل ان کے سلسلہ طریقت میں موجود ہیں۔ مگر زمرہ علماء میں ان کا کہیں پتہ نہیں اور نیز ابن تیمیہ اور ابن قیم محدث کہ جو نقد حدیث میں بڑے فاضل ہیں۔ لیکن ان سے کوئی سلسلہ صوفیوں میں نہ چلا بلکہ زمرہ صوفیوں میں ان کا کہیں نام نہیں اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ طریقت اور شریعت ایک ہوں اور ایک ان میں سے صوفی ہوا اور ایک ان میں سے عالم ہو یہ کیا معنی۔ امام محمد غزالی شافعی ہیں۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی حنبلی ہیں۔ بڑے پیر صاحب حنبلی۔ لیکن یہ لوگ حنفی صوفیوں کے بھی مقتدا ہیں۔ اور اہل نسبت کو برابر ان سے فیض ہوتا ہے اور کبھی لحاظ مذہب کا اس میں نہیں ہوتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں۔

علم حق در علم صوفی گم شود  
 این سخن کے باور مردم شود

یعنی اس بات کا آدمیوں کو کب یقین آئے گا کہ علم حق صوفیوں میں ہے اور یقین نہ آنے کی وجہ کیا ہے یہ ہے کہ آدمی جانتے ہیں کہ خدا کا جو علم ہے، اور رسول اللہ ﷺ کا جو ارشاد ہے وہ کتابوں پر ختم ہو گیا ہے جو کچھ ہے وہ علماء ظاہر ہی جانتے ہیں اور یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے علم شریعت علماء کو عطا ہوا اور علم طریقت فقراء کو عطا ہوا۔ اور اگر مولانا کی یہ غرض نہ ہوتی تو یوں فرماتے کہ علم حق در علم عالم گم شد اور مصرع ثانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہر عالم کا صوفی ہونا تو کیا معنی بلکہ بہت سے عالم تو صوفیوں کی روایت بھی نہیں لیتے۔ مثلاً اگر کسی فقط عالم سے پوچھا جاوے کہ اہل نسبت کو قبر اولیاء پر مراقب ہونا کیسا ہے اور دل میں مرشد کا خیال جمانا اور اس کا تصور کرنا جائز ہے یا نہیں تو وہ عالم صاحب بے محابا یہ فرمائیں گے کہ شرک ہے کفر ہے گور پرستی اور تصور پرستی ہے اور ہرگز یہ خیال نہ فرمائیں گے کہ پہلے صوفی ہی اس کو رکھنا اعظم فرما چکے ہیں ہم صرف حرام ہی پر اکتفا کر لیں شرک اور کفر بتانے میں تو بہت سے آدمی مرتکب کفر ہو جائیں گے تو اب ایسے علماء کو بھی کیا صوفی جانیں نہیں نہیں بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی شریعت اور چیز ہے۔ اور طریقت اور چیز ہے یہ حضرات جو فرماتے ہیں۔ ان کا بھی فرمانا بجا ہے جو شخص واقف طریقت نہ و اہل نسبت نہ ہو واقعی وہ یہی کہے گا کہ چشت پرستی ہے اور تصور پرستی جو اہل مذاق ہو تو اس کو بٹک ان باتوں سے فیض ہوتا ہے۔ چنانچہ صوفیہ



چشت کی بہت کتابیں ان مقدمات سے مملو ہیں۔ اکثر صوفیا فرماتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے۔ پھر شریعت اور طریقت کو ایک چیز کیسے جانیں گے۔ حضرت مولانا محمد و مناہدینا حاجی محمد امداد اللہ صاحب سلمہ اپنے کلمات پند و نصیحت میں فرماتے ہیں کہ بعد اداے فرائض و واجبات و سنن شغل بہ باطن گذارو برزیادتی اور ادو نوافل نہ پردازو بلکہ شغل باطنی فرائض دائمی بداندا اگر کسی فقط عالم سے کہ جو صوفی نہ ہو یہ مسئلہ دریافت کیا جائے تو بے شک وہ کہہ دے گا کہ نماز افضل العبادت ہے ہر وقت اسی میں رہنا چاہئے نوافل سے قریب ہوتا ہے اور شغل باطن چیز ہی کیا ہے صرف صوفیوں کی باتیں ہیں تو اب ہم اسے سوائے اس کے اور کیا کہیں کہ بھائی عالم صاحب اس راہ سے واقف نہیں۔ شغل ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات میں جمع عبادت سے بہتر ہے اور جو نہ جانے اس کا کہنا خلاف ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ شریعت اور طریقت کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے اور فی الحقیقت یہ ایک ہی چیز ہے یا دو اور اس میں صوفیہ کیا فرماتے ہیں۔

(جواب) اس سوال کو بے فائدہ اس قدر طویل لکھا۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ علم شریعت و علم طریقت ایک ہی ہے۔ جب آدمی کو حکم شریعت معلوم ہو علم شریعت حاصل ہوا۔ اور جب کہ اس حکم کی معلوم ہوئی وہ علم طریقت ہوا اور عمل بقدر اداے فرض و واجب کے بحکلف نفس سے کرانا عمل بشریعت کہلاتا ہے اور جب اخلاص و حب حق تعالیٰ دل میں ساری ہوگئی۔ اس کو عمل بطریقت کہتے ہیں جب تک کشاکش علم و عمل کی ہے شریعت ہے جب طمانیت ہوگئی وہ طریقت ہے ابتداء اور انتہاء کا فرق ہے جس نے اصل شے کے واحد ہونے کو خیال کیا ایک کہا اور یہ بھی درست ہے جس نے اول آخر کا تفرقہ کیا دو کہہ دیا یہ بھی صحیح ہے مطلب دونوں کا واحد ہے اور ائمہ مجتہدین بھی صاحب طریقت تھے مگر اس فن کی تحقیق میں مصروف نہ ہوئے کہ ظاہر شریعت فرض تھا اس کا شرح کرنا زیادہ ضرور جانا اگرچہ طریقت سے خوب ماہر تھے کہ طریقت احادیث سے ہی ثابت و مستنبط ہے اور اکثر ائمہ طریقت عالم تھے۔ مگر وہ ظاہر شرع کی تحقیق میں مصروف نہ ہوئے کہ ایک جماعت علماء کی اس میں تھی وہ کافی تھی انہوں نے باطنی شرع کی تحقیقات لکھی۔ ہر فن کو ایک ایک جماعت نے لیا۔ اور بعض اولیاء جو قدر ضرورت علم رکھتے تھے۔ وہ ماہر و عالم دقائق طریقت کے تھے۔ مگر دونوں امر کو تحریر نہیں کیا۔ بہر حال بعض علماء دونوں علم کے محقق و قیصر تھے اور بعض ایک کے اور بعض دونوں میں دوسرے سے کم تھے اس کے تفاوت سے سمجھ لینا چاہئے مگر

ضروری علم شرع سے سب واقف تھے کہ بجز امتثال حکم شرع کے عمل مقبول نہیں ہوتا اور بدون قبول عمل کے ولایت نہیں ملتی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## شریعت اور طریقت کا فرق

(سوال) شریعت اور طریقت دو ہیں یا ایک۔ اگر دو ہیں تو کس صورت سے اور اگر دونوں ایک ہیں تو کیسے اور طریقت کا موجد کون ہے۔

(جواب) یہ دونوں ایک ہیں ظاہر سے عمل کرنا شرع ہے اور جب قلب میں حکم شرع کا داخل ہو کر طبعاً عمل شرع پر ہونے لگے وہ طریقت ہے دونوں کا حکم قرآن و حدیث سے ہے ادنیٰ درجہ شرع ہے اس کا ہی اعلیٰ درجہ طریقت کہلاتی ہے۔

## پیر استاد مرشد کا تصور

(سوال) تصور کرنا پیر کا یا استاد یا مرشد وغیرہ کا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) کسی کا تصور کرنا بطور خیال کے کچھ حرج نہیں مگر رابطہ جو مشائخ میں مروج ہے کہ اس کو مشائخ نے کسی علاج کے واسطے تجویز کیا تھا اگر اسی حد پر بزرگوں نے تجویز کیا تھا تو چنداں دشوار نہیں گو ترک اس کا بھی اولیٰ ہے کہ مختلف فیہ بین العلماء ہے اور ایسا ضروری بھی نہیں کہ بدون اس کے کام نہ چل سکے۔ اور اس حد سے بڑھ جاوے تو البتہ ناجائز ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

الجواب صحیح محمد یعقوب نانوتوی

محمد یعقوب

## شجرہ خاندان صبح و شام پڑھنا

(سوال) اکثر آدمی شجرہ خاندان کا صبح و شام پڑھتے ہیں یہ کیسا ہے۔

(جواب) شجرہ پڑھنا درست ہے کیونکہ اس میں بتوسل اولیاء کے حق تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## شیخ کے تصور کا حکم

(سوال) تصور شیخ کو جو صوفیہ چشت کا معمول ہے اور اقوال حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور

حضرت مجدد صاحبؒ اس کے مؤید ہیں اور مولوی اسمعیل صاحب دہلویؒ اس کو حرام اور کفر و شرک بتاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک نفس تصور شیخ جائز ہے یا حرام اور کفر و شرک۔ (جواب) نفس تصور جائز ہے اگر کوئی امر ممنوع اس کے ساتھ نہ ہو جیسا کہ تمام اشیاء کا آدمی خیال و تصور کرتا ہے جب اس کے ساتھ تعظیم اس شکل کا کرنا اور متصرف باطن مرید میں جاتا مفہوم ہوا تو موجب شرک کا ہو گیا لہذا اقدماء اس کی تجویز کرتے تھے کہ اس میں خلط معصیت کا نہ تھا اور متاخرین نے اس کو حرام کہا تو یہ حکم کا اختلاف اہل زمانہ کے ہوا ہے۔

### شیخ یا استاد یا والدین کے تصور کا حکم

(سوال) تصور کرنا پیر یا استاد یا والدین وغیرہ کا جائز ہے یا ناجائز۔ (جواب) کسی کا تصور کرنا بطور خیال کے کچھ حرج نہیں مگر رابطہ جو مشائخ میں مروج ہے کہ اس کو مشائخ نے کسی علاج کے واسطے تجویز کیا تھا اگر اس ہی حد پر رہے کہ جس حد پر بزرگوں نے تجویز کیا تھا تو چنداں دشواری نہیں گو ترک اس کا بھی اولیٰ ہے کہ مختلف فیہ بین العلماء ہے اور ایسا بھی نہیں کہ بدون اس کے کام نہ چل سکے اور جو اس حد سے بڑھ جاوے تو البتہ ناجائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بدعتی صوفی کی بیعت

(سوال) اگر کوئی صوفی بعض کام خلاف شریعت کرتا ہو۔ مثل مولود شریف معہ قیام و عرس بلا راگ و فاتح بر آب و طعام دست برداشتنہ و نماز معکوس و مراقبہ بر قبور بسورۃ الم نشرح و پارچہ رنگین اور کوئی بات کفر و شرک کی کرتا ہو تو فرمائیے کہ ایسے صوفی سے مرید ہونا اور اس کی صحبت میں بیٹھنا جائز ہے یا نہیں اور ایسے صوفی کو بوجہ اپنے مجاہدہ اور تہجد گزاری کے اور حب الہی کے محنت شاقہ کے کچھ کمال بھی حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں۔

(جواب) جو صوفی ہو اور خلاف شرع کام کرے وہ قابل بیعت کے نہیں اور نہ وہ صاحب طریقت ہے بلکہ شیطاں ہے، شعر۔

خلاف پیمبر کے رہ گزید

کہ ہر گز بمنزل نخواستہ رسید

سعدی لکھ گئے ہیں جس قدر امور آپ نے لکھے ہیں۔ کوئی جائز ہے کوئی ناجائز مثلاً پارچہ

رنگین میں کوئی گناہ نہیں یا قبر پر بیٹھ کر سر جھکا کر کچھ پڑھے یہ گناہ نہیں اور خلاف شرع کو کوئی کمال ہو دے تو کچھ شب نہیں کفار جوگیوں کو بھی ہو جاتا ہے مگر وہ کمال کہ مقبولیت عند اللہ تعالیٰ ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔

### فاسق کے ہاتھ پر بیعت کرنا

(سوال) زید کو جناب مولانا مرشدنا حاجی امداد اللہ صاحب مدظلہ نے ایک دستار مکہ معظمہ سے بایں غرض ارسال کیا ہو کہ زید کو اجازت ہے کہ مرید کیا کرے اور سابق میں زید کا حال جناب موصوف نے بخوبی دیکھا ہو اور اب زید تارک الجماعت ہے تو ایسے مرشد تارک الجماعت کی تقلید میں ان کو کرنی چاہئے یا نہیں اور مرید کرے یا نہ کرے۔

(جواب) زید نے اگرچہ اجازت اخذ بیعت شیخ سے حاصل کی مگر چونکہ تارک جماعت فاسق ہے ہرگز ہرگز اس سے بیعت نہ کرنا چاہئے کہ وہ لائق شیخی نہیں ہے اگرچہ اول صالح تھا اب فاسق ہے اور لائق شیخی نہیں رہا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عورت کا بیعت لینا

(سوال) مسئلہ عورت نیک خصلت پابند شریعت واقف طریقت اپنے ہاتھ پر عورتوں کو اور مردوں کو بیعت کرنا شروع کر دے تو از روئے تصوف و شریعت کے درست ہے یا منع فقط۔

(جواب) اخذ بیعت اہل تصوف کے نزدیک عورت کو درست نہیں مگر ہاں کسی کو شغل و وظیفہ بتا دینا جائز ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں درآ خر مکتوب شصت و ششم بجانب بوجد اسلام خاتون در بیان عدم جواز خلافت مرزنان را ہر چند کمال مردان رسد آں خواہ در ہمت میاں مردان حق تعالیٰ قدم زدہ است لائق است کہ چشمہ پیران فرستادہ نہ شد و لباس خرقدہ مشائخ حوالہ کردہ نہ شد و مجاز گرد آئندہ نہ شد۔ اما باید کہ چون صادقے از عورت مرد التماس ارادت کند عورات بحضور و غیبت و مرداں را بغیبت کلاہ دادنسنے بوکالت پیر خود ہد و شجرہ پیر خود نو یا آئندہ بد ہد و مرید پیر خود گردند و اس دولت را دولتی عظیم داند۔ عاقبت محمود باد۔ آئینی کلامہ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) آخر خط ۶۶ میں لکھتے ہیں بجانب بوجد اسلام خاتون عورتوں کو خلافت جائز نہ ہونے کے بارے میں ہر چند کہ مردوں کے کمال تک پہنچ جائیں وہ بہن حق تعالیٰ کے مردوں کی ہمت کے درمیان قدم رکھی ہے لائق ہے کہ پیروں کا چشمہ نہ بھیجا جائے اور مشائخ کا خرقدہ حوالہ نہ کیا جائے اور ان کو بیعت کا مجاز نہ کیا جائے لیکن یہ ضرور چاہئے کہ اگر کوئی صادق عورت سے مرد ارادت کا احساس کرے تو عورتوں کو حاضری و غیاب میں اور مردوں کو غیاب میں ٹوٹی اور دامن اپنے پیر کی وکالت سے دے اور اپنے پیر کا حجرہ لکھوا کر دے دے اور اپنے پیر کا مرید بنائے اور اس دولت کو بڑی دولت سمجھے۔ آخرت محمود۔ ختم ہوا آپ کا کلام۔

## عمل کا چھپانا

(سوال) بندہ گرمی میں پہلے کوٹھے پر رہتا تھا وہیں ذکر بھی کرتا تھا بعض شخص میری آواز سن کر اٹھتے تھے اب نیچے مکان میں سوتا ہوں تو آواز دور نہیں جاتی ہے اب مجھ سے لوگوں نے کہا کہ تم ذکر نہیں کرتے ہو یہ طبیعت نہیں چاہتی کہ ان سے ایسا کہا جاوے نہ انکار کیا جاوے تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اقرار بھی نہ ہو بلکہ یہی ہوتا ہے کہ کہتا ہوں کہ اب اوپر نہیں سوتا انکار کو طبیعت نہیں چاہتی باوجودیکہ اظہار میں ریاء وغیرہ کو دخل ہوتا ہے۔ اب غرض ہے کہ ایسی صورت میں گناہ تو نہیں ہے یا جہر ترک کر دوں۔

(جواب) اپنے ذکر کے اخفا و اظہار میں آپ مختار ہیں اگر نیت اچھی ہو تو مضائقہ نہیں ہے مگر حتیٰ الوسع اپنے عمل کا اخفاء مناسب ہے کیونکہ مآل کار ریاء کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ فقط والسلام۔

## ذکر اور طول قرأت

(سوال) ذکر نفی اثبات و پاس انفاس سے طول قرأت نماز تہجد کا زیادہ ثواب ہے یا ذکر کا۔

(جواب) ذکر نفی اثبات و پاس انفاس سے طول قرأت کا زیادہ ثواب ہے۔

## شیخ کے تصور کا حکم

(سوال) تصور شیخ و شغل برزخ جو برائے جمعیت خاطر و دفع خطرات مشائخ زمانہ کرتے ہیں اور اس کو رکن طریقت و واجبات سے جانتے ہیں کہ بدوں اس کے حصول فیوض و برکات محال ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں یہ شغل کرنا کیسا ہے اور قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر میں کسی صحابی و تابعین و آئمہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے یا نہیں۔ کیونکہ جب ایسا ضروری ہو تو صحابہ کس طرح اس فعل سے محروم رہے ہوں گے اور جو زمانہ خیر القرون میں اس کا وجود نہ تھا تو پھر کس طرح ایسا ضروری مذکور سوال ہو سکتا ہے گو عقیدہ شرک تک نہ پہنچا ہو۔

(جواب) اس شغل میں متاخرین صوفیہ نے غلو کیا اور شرک تک نوبت پہنچی لہذا متاخرین علماء نے اس کو منع فرمایا اور اب علمائے متاخرین کے قول پر عمل کرنا چاہئے اس شغل کی کچھ ضرورت نہیں اور نہ صحابہ میں اس شغل کا کچھ اثر تھا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## استغفار زبانی

(سوال) زبان سے کہے استغفر اللہ ربی اور توبہ وغیرہ کا دل میں کوئی اثر نہ ہو تو یہ استغفار کچھ کفارہ گنہ ہوگا یا نہیں۔

(جواب) استغفار زبانی میں ذکر زبان کا تو ہر حال حاصل ہے خالی ثواب سے نہیں۔

## صوفیہ کرام کے اشغال

(سوال) صوفیہ کرام کے یہاں جو اکثر اشغال اور اذکار مثل رگ، یاس کا پکڑنا اور ذکرارہ اور حلقہ برقم اور جس دم وغیرہ جو قرونِ خلافت سے ثابت نہیں بدعت ہے یا نہیں۔

(جواب) اشغال صوفیہ بطور معالجہ کے ہیں سب کی اصل نصوس سے ثابت ہے جیسا اصل علاج ثابت ہے مگر شریعت ہفتہ حدیث صریح سے ثابت نہیں ایسا ہی سب اذکار کی خاص بنیت ثابت ہے جیسا تو یہ بندوبست کی اصل ثابت ہے اگرچہ اس وقت میں نہ تھی سو یہ بدعت نہیں ہاں ان بنیات کو سنتِ سروری جاننا بدعت ہے۔ اور اس کو کبھی علماء نے بدعت لکھا ہے۔

## صوفیہ کے مجاہدات

(سوال) بعض حضرات صوفیہ و بزرگانِ دین کے احوال جو سنے جاتے ہیں والعلم عند اللہ کہ وہ اپنے نفس پر تکالیف شاقہ و دشوار میں مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ مثلاً ناٹ زنجیریں پہننا۔ خصی کر ڈالنا، جنگلوں میں نکل جانا، سختی میں پڑنا، ترک لباس، ترک طیبات لحم وغیرہ امور کو گویا اپنے اوپر حرام کر لینا کہ جو حسب شرع شریف سنن اور مستحسن یا مباح ہیں اور مصائب و سختی میں پڑنا ممنوع کیونکہ آیت لا یكلف اللہ نفسا الا وسعہا اور قول ان الدین یسر . (۱) کے خلاف ہے البتہ یہ رہبانیت یہود و نصاریٰ میں تھی سو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی قال اللہ تعالیٰ ورہبانۃ ن ابتدعوها ما کتبنا ہا علیہم الا یہ . (۲) اور ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا تشددو اعلیٰ انفسکم فی شددہ، اللہ علیکم فان قوما شدوا اعلیٰ انفسہم فی شددہ اللہ علیہم وتلک بقایا ہم فی الصوامع والدیار ورہبانۃ ن ابتدعوها ما کتبنا علیہم . (۳) جب کہ ایسے امور بدعت اور ممنوع ٹھہرے تو ان کے باعث

(۱) دین آسان ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ رہبانیت تھی جو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں فرمایا تھا۔

(۳) اپنے نفسوں پر تشدد نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم پر تشدد فرمائے گا کیونکہ ایک قوم نے اپنے اوپر تشدد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدد فرمایا یہ انہیں کا بقایا ہے مگر جو لوہر کلیسوں میں وہ رہبانیت جو انہوں نے خود اختر آ کر لی ہم نے ان پر فرض نہیں کیا۔

کمال تو کیا بلکہ ذوالہجہ کا بعض کونسا ہے کہ بارہ برس چاہ میں لٹکے رہے اور دریا میں چھ ماہ سر مائیں اور چھ ماہ گر مائیں دھوپ میں پڑے رہے امور سے سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز وغیرہ حوائج دین و دنیا کس طرح ادا ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ احوال بزرگان اہل دین کے لوگ بیان کرتے ہیں اور عوام جہاں صوفیوں کا کیا ذکر اور کیا پوچھنا لہذا عرض یہ ہے کہ اسلام کی درویشی تو محض اتباع سنت و اتباع شریعت پر موقوف ہے۔ خلاف اس کے ہرگز نہیں ہو سکتی اگرچہ کیسا ہی کمال حاصل کرے مگر معتبر نہیں پھر یہ امور تو سنت اور صحابہ کے رویہ کے خلاف ہیں چہ جائے کہ ان کو کمال مانا جانا جاوے ان امور و اولیاء کی طرف نسبت کرنا اور کمال معتبر جانا چاہئے یا خلاف قرآن و حدیث جان کر ان کو رد کرے۔

(جواب) بزرگان دین نے جو مجاہدات کئے ہیں کوئی ایسا امر نہیں کیا جس سے کوئی بروئے شرع کے ان پر طعن کر سکے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وجاهدوا فی اللہ حق جہادہ (۱) اور مخالفت نفس و شیطان کی کرنا خود جہاد اکبر ہے۔ نفس سے یہ بات ثابت ہے پس تہذیب نفس کے واسطے لہذا مذموبات لباس و راحت وغیرہ کو انہوں نے ترک کیا تھا تاکہ نفس ان کا تقاضائے معصیت سے باز رہے اور نفس امارہ ان کا مطمئن ہو جاوے، خود فخر عالم علیہ السلام نے بعض اوقات مرغوب شے کو ترک کر دیا جائے سبحانہ نے بھی اور بحکم اذہتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا (۲) لہذا مذکور نہیں کھایا اور خود زینت مکان کرنے سے حضرت فاطمہ: پر رنج ظاہر کیا تو اشارۃً ثابت فرمادیا کہ اگر مباحات کو تہذیب نفس کے واسطے چھوڑ دیں درست ہے اور آپ علیہ الصلوٰۃ کا فقر اختیاری تھا نہ اضطراری اس سے ان مباحات کے ترک کرنے سے اجازت نکلتی ہے۔ اور بزرگوں نے ترک مباحات لہذا مذکور کیا ہے نہ یہ کہ تحریم اپنے نفس پر کر لی ہو۔ مریض اگر بسبب مرض کے کوئی شے ترک کرے اور تمام عمر بیماری کی وجہ سے اس کو نہ کھاوے تو کچھ ملامت شرع کی نہیں اور نہ وہ مجرم ہوتا ہے ایسا ہی بزرگوں نے طیبات کو ترک کیا ہے۔ بوجہ معالجہ باطنی اخلاق بدنفس کے نہ بوجہ تحریم کے اور خصی ہونا اور دریا میں پڑا رہنا تبرک صلوٰۃ وغیرہ یہ بزرگوں سے نہیں صادر ہوا۔ کسی احمق نے بزرگوں پر تہمت لگائی ہے۔ ہاں اگر چاہ میں لٹکے اور دریا میں کسی وقت سزائے نفس کے واسطے گرے تو نماز فرائض و اوراد کو بوجہ احسن ادا کر کے یہ کام کیا ہوگا ورنہ تمام مشتاق صلاح و تکمیل صلوٰۃ و صوم کے واسطے کرتے تھے۔ اس کو کیسے ترک کرتے یہ غلط تہمت

(۱) اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے کے طریقہ سے کوشش کرو۔

(۲) تم نے اپنے لہذا مذکور کو اپنی زندگی میں ختم کر دیا۔

ہے اور ترک نکاح کرنا اکثر بزرگوں سے ہوا بوجہ اپنی شہوت پر اعتماد کر کے کہ معصیت سرزد نہ ہو سکے گی اور فراغ خاطر کی وجہ سے عبادت میں اور مال حرام سے بچنے کو نفع حلال کا پیدا کرنے میں زوجہ کے واسطہ دشواری جانتے تھے اور اپنے نفس پر گھاس حلال پر قانع ہوتے تھے تو ان وجوہ سے ترک نکاح معیوب نہیں بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے کہ نکاح نہ کرے پس یہ طعن شرعاً بالکل خطا نہیں و ناواقفیت دین کے قواعد سے ہے۔ بہر حال ان کا مجاہدہ یا اشارہ نصوص ہے اور اس مجاہدہ کے سبب ان کو قوت روحانی اور تہذیب اخلاق و نفس حاصل ہوتی تھی۔ لہذا یہ ان کے حق میں عبادت تھا اور ترک مباح پر کوئی گناہ و عتاب نہیں ہوتا۔ البتہ مباح کو حرام کرنا بدعت و مخالفت ہے سو ان سے یہ امر ہرگز سرزد نہیں ہوا۔ ترک مباحات بطور معالجہ امراض نفس کے ہوا ہے پس ان اکابر کے جملہ افعال عین کمال تھے اور عین موافقت حکم شرع کے ہے۔

کار پا کاں راقیاس از خود  
گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## استغفار کی حقیقت

(سوال) شرع شریف میں فضائل استغفار کے بہت آئے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث شریف میں جا بجا اس کی تاکید و ترغیب ہے اب دریافت طلب یہ بات ہے کہ مراد استغفار سے کیا ہے یا توبہ مراد ہے اور توبہ استغفار ایک ہی چیز ہے یا غیر اور جو لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور کبار و صفائے میں مبتلا ہیں وہ اگر استغفار کریں تو کس طور سے کریں۔ اور کس نیت سے کریں اور ان کو فوائد اور فضائل استغفار کے کیسے حاصل ہوں یا بغیر توبہ کے استغفار صحیح نہیں اور فضائل و نتائج اس کے بغیر توبہ کے حاصل نہیں ہوتے اور استغفار فقط ندامت معاصی بغیر توبہ کے حاصل کئے کافی ہوگی یا نہیں اور استغفار کفار کی قرآن شریف میں وارد ہے جیسا کہ فرمایا ہے و ما کان اللہ معذبہم و ہم یستغفرون (۱) آیا توبہ کفر سے مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے فقط۔

(جواب) توبہ استغفار ایک شے ہے اللھم اغفر لی کہیں استغفر اللہ کہیں۔ الہی میری سب گناہوں سے توبہ ہے یہ کہیں یا جس عبادت سے چاہیں فقط دل میں نام ہونا ہی استغفار ہے۔

(۱) اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ مغفرت طلب کرتے ہیں۔



اگرچہ زبان سے نہ کچھ کہے وہ لوگ کفار غفرا تک کہا کرتے تھے فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## قبروں پر شرح صدر کی اصلیت

(سوال) بعض بعض صوفی قبور اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورۃ الم نشرح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھلتا ہے اور ہم کو بزرگوں سے فیض ہوتا ہے اس بات کی کچھ اصل بھی ہے یا نہیں۔

(جواب) اس کی بھی اصل ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر بہ نیت خیر ہے۔ فقط واللہ اعلم

## بیعت کی حقیقت

(سوال) بیعت ہونے سے یعنی کسی پیر کے مرید ہونے سے مراد اصلی کیا ہے اور بغیر ہوئے واصل الی اللہ ہونا ممکن ہے یا نہیں۔

(جواب) مراد بیعت سے تحصیل اخلاص اور نور اسلام کا تجلیہ ہے اور یہ بدون شیخ کے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اثر یہی ہے کہ کسی کے توسل کی ضرورت ہے۔

## اس قول کا مطلب کہ پیران پیر کا قدم سب پیروں کی گردن پر ہے

(سوال) بعض بعض صوفیوں کا یہ قول ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے اور پیران پیر صاحب کا قدم سب پیروں کی گردن پر ہے اور جب تک بندہ کا بندہ نہ ہو جائے تب تک خدا نہیں ملتا تو اب یہ فرمائیے کہ ان باتوں کا پتہ کہیں طریقت اور تصوف میں بھی ہے یا نہیں۔

(جواب) اس قول کے یہ معنی ہیں کہ جس کا کوئی راہ بتانے والا نہیں وہ شیطان کی کند میں ہے۔ قرآن، حدیث، استاد، باپ کوئی دین نہ سکھاوے گا تو خود شیطان کی تقلید کرے گا سو یہ بات درست ہے پیر سے مراد پیر مروج نہیں باقی پیران پیر کا قدم ہونا سب کی گردن پر مراد ان کی بزرگی اور بڑائی ہے اس میں کیا حرج ہے جو ان سے بڑے ہیں ان کا قدم حضرت پیران پیر کی گردن پر ہے اور بندہ کا بندہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ کسی خدائے تعالیٰ کے مقبول کا مطیع ہو کر عمل کرے یہ بھی درست ہے مگر بظاہر لفظ ایسا بولنا اچھا نہیں جو موبہم برے معنی کا ہو مگر اصل مراد درست ہے۔

## اس قول کا مطلب کہ العلم حجاب الاکبر

(سوال) العلم الحجاب الاکبر اس کے کیا معنی ہیں۔ سالک کی جس وقت علم کی جانب توجہ ہوگی وہ

اس راہ سے محروم رہ جائے گا۔ علم کو کیا اس وجہ سے حجاب کہا ہے اگر علم بھی اس وجہ سے حجاب ہو گیا تو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور اطاعت والدین کے سوائے یاد الہی حجاب ہو جانا چاہئیں۔ اور یہاں صرف علم کی ہی نسبت فرمایا ہے۔ اور اگر یہ وجہ ہے کہ علم بڑھنے سے وہ عالموں میں باعث اختلاف رائے بنیٹیں اور جھگڑے واقع ہو جاتے ہیں اور لڑنا اور جھگڑے کرنا تو فصل ہے جو چاہے سو کرے اس میں علم کا کیا قصور ہے بلکہ اختلاف رائے علماء تو رحمت ہے اور اگر اس کے یہ معنی ہیں کہ درمیان بندہ اور معبود کے علم کا ایک حجاب حائل ہے تا وقتیکہ علم کا حجاب طے نہ ہو جاوے یعنی علم نہ سیکھ لے خدا نہ ملے تو یہ معنی صوفیہ نے اس کے ہرگز نہیں لئے اس معنی سے تو تاکید نکلتی ہے اور یہاں یہ مقصود ہی نہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ یہاں مراد علم سے علم دنیوی مثل معقول و فلسفہ وغیرہ ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا چونکہ صوفیہ اور علماء علم دین کو علم کہتے ہیں نہ اور فنون کو اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ قول صوفیہ کا نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ہرگز انکار مت کر کہ علم حجاب نہیں ہے علم بے شک حجاب اکبر ہے۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ علم جو ارشاد ہے خدا اور رسول کا اگر یہی حجاب اکبر ہو گیا تو بے حجاب کون سی چیز ہوگی اس میں باریکی کیا ہے اور صوفیہ نے کس معنی سے اس کو حجاب کہا ہے۔

(جواب) اس فقرے کے یہ معنی ہیں کہ اپنا جاننا کہ میں بھی اصل ہوں یہ حجاب ہے جب تک اپنی خودی تکبر و عجب کو نہ فنا کر دیوے مجھ ہے مثل شیطان کے اور جب خود اپنے آپ کو لاشئ جان لیوے اور اپنے کمالات کو محض موبہب حق تعالیٰ کی جان گیا اور دل میں اپنی حقیقت ٹھل گئی۔ حجاب رفع ہو گیا مراد علم سے اپنی خودی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## امیر خسروؒ کے شعر کا مطلب

(سوال) حضرت خسروؒ ہلوی کا یہ قول

خلق میگوید کہ خسروبت پرستی میکند

آرے آرے میکند با خلق عالم کار نیست

شعر مذکور کا مطلب کیا ہے کیونکہ اولیاء اللہ سے اور بت پرستی سے کیا علاقہ غالباً کوئی

اصطلاح ہوگی۔ اگرچہ حسب ظاہر تو خلاف معلوم ہوتا ہے۔

(جواب) حسب اصطلاحات شعرا، مطلب صحیح ہے بت پرستی سے مراد ان کی تابعداری محبوب

کی ہوتی ہے تو محبوب ان کے سیدی شیخ نظام الدین قدس سرہ تھے ان کی اطاعت اطاعت حق

تعالیٰ کی تھی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## فتاویٰ الشیخ والرسول کا مطلب

(سوال) فتاویٰ الشیخ اور فتاویٰ الرسول کیا ہوتا ہے اور کہاں سے ثابت ہے اور اس کی نسبت صوفیہ کیا فرماتے ہیں۔

(جواب) یہ دونوں لفظ اصطلاح مشائخ کے ہیں اتباع کرنا اور محبت کا غلبہ بوجہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کی اصل شرع سے ثابت ہے۔ فاتبعونی یحییکم اللہ، الایۃ (۱)۔

بندہ کے بندہ ہونے کا مطلب

(سوال) بعض بعض صوفی یہ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ کا بندہ نہ ہو خدا نہ ملے تو یہ کلمہ کیا ہے۔  
(جواب) اس کے معنی درست ہیں مگر بظاہر لفظ موہم ہیں اس واسطے یہ لفظ نہ کہے۔

مرید ہونا ضروری ہے یا مستحب

(سوال) عالم یا فقیر سے مرید ہونا کوئی ضروری بات ہے یا مستحب ہے۔  
(جواب) مرید ہونا مستحب ہے واجب نہیں۔

عورتوں کا رسمی بیعت کرنا

(سوال) اکثر عورتیں جو بعض صوفیوں سے بیعت ہوتی ہیں۔ بلا حجاب بے پردہ سامنے آتی ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتی ہیں اور کچھ عیب نہیں سمجھا جاتا ہے اور خود یہ بیعت بھی رسمی ہوتی ہے کیونکہ خود شرک و بدعت میں مبتلا ہوتی ہیں نماز تک نہیں پڑھتیں چہ جائیکہ طریقت اور اس پر فخر ہوتا ہے۔ اور جو عورتیں کہ بیعت نہیں ہیں ان کو طعن کیا جاتا ہے لہذا ایسا بیعت ہونا حرام ہے یا نہیں۔

(جواب) ایسے پیر سے بیعت ہونا حرام ہے اور ایسی بیعت بھی حرام اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا غیر محرم عورتوں کو حرام ہے رسول اللہ ﷺ بیعت عورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) میری اتباع کرو واللہ تعالیٰ تم کو درست رکھے گا۔ (آیت شریف)

## صوفی کے لئے زیادتی علم کی ضرورت

(سوال) صوفی کو علم وافر کی ضرورت ہے یا صرف مسائل ضروریات روزمرہ ہی سیکھ لینا کافی ہیں۔ اور سالک کو طلب حق کے واسطے تعلم و تعلیم قرآن و حدیث و فقہ و کثرت نوافل ہو جائیں گے یا بغیر ان باتوں کے کہ جو صوفیائے کرام نے مقرر و تعلیم فرمادی ہیں کام نہ چلے گا۔

(جواب) قدر حاجت کے علم صوفی کو ضرورت ہے کہ فرض واجب عقائد و عبادات سے مطلع ہو جاوے تاہم علم کا ضروری نہیں اور طلب راہ حق کے واسطے قرآن و حدیث و فقہ کافی ہے مگر تحصیل نسبت بدو ن شیخ کے حاصل ہونا شاذ و نادر ہے اگرچہ ممکن ہے اور بعض کو حاصل بھی ہو جاتا ہے۔

## کسی سے حسن ظن کا فائدہ

(سوال) زید عمر سے مرید ہے اور عمر بکر سے مرید ہے اور بکر خالد سے مرید ہے اب ولید زید سے مرید ہونا چاہتا ہے اور خالد کو کہ جو زید کے دادا پیروں میں ہیں خوش عقیدہ اور بزرگ نہیں جانتا۔ اب استفسار طلب یہ امر ہے کہ یہ شخص ولید زید سے مرید ہو کر کچھ فیضیاب بھی ہو سکتا ہے یا نہیں درآں حالیکہ خالد کو برا جانتا رہے اور اپنے دل میں خالد کی جانب سے کچھ بغض شرعی بھی رکھتا ہے۔

(جواب) اگر زید کو کامل جانتا ہے اور فی الواقع زید میں کمال ہے تو یہ شخص زید سے فیضیاب ہو سکتا ہے

## حال کی تفصیل

(سوال) مسئلہ یہ جو بعض لوگوں کو حال آتا ہے یہ کیا بات ہے حال کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے یا یہ مکروہ ہے۔

(جواب) صلحاء کا حال صالح ہے اور فساق کا حال خراب ہے صحابہ کو بھی حال آتا تھا۔ مگر قرآن حدیث ذکر و عظم پر نہ ڈھول سارنگی پر کسی کو دنیا کے غم میں رونا آتا ہے۔ کسی کو آخرت کے غم میں۔ اس میں کیا شبہ ہوتا ہے جو حدیث سے دلیل طلب ہے جہاں معاصی ہوں۔ اس مجلس میں شریک ہونا حرام۔ فقط۔

## وجد و توجہ کا مسئلہ

(سوال) مسئلہ وجد شرمناہ مذموم ہے یا مباح ہے یا مستحب ہے کہ جو بے اختیار ذوق و شوق سے ہو کیونکہ فقہاء کرام اس کو برا کہتے ہیں۔

(جواب) وجد جو بے اختیار ہو وہ مستحسن ہے اور باقی اس پر واجب و مستحب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔  
 وجد و استحباب خاص مکلف و اختیاری کی صفت ہے البتہ یہ وجد جو بے اختیاری، شرعی اگرچہ  
 مستحسن ہے کہ ثمرہ ذکر ہے مگر اس سے جو اہل اس کا نہ ہو اور اس سے تکلیف ہوتی ہو۔ اس کو مسجد  
 سے نکال دینا جائز ہے اور تواجید جو بے تکلف، ہوفتہاء نے منع لکھا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### نماز میں وسوسہ

(سوال) ایک شخص کو نماز پڑھنے میں اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے الحمد شریف نہیں پڑھی، کبھی  
 یہ خیال ہوتا ہے کہ بیچ کا تعدہ نہیں کیا۔ کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ سجدہ ایک کیا ہے دوسرا نہیں کیا۔ کبھی  
 یہ خیال ہوتا ہے کہ نیت ہی نہیں کی اس سبب سے اکثر اس کو نیت توڑنا اور سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اور  
 نماز میں قسم قسم کے تخیلات باطنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے اور ایسے شخص کو بار بار نیت  
 توڑنا اور سجدہ سہو کے کرنا چاہئیں یا نہیں۔

(جواب) ایسے ایسے خطرات پر التفات نہ کرے ظن غالب پر عمل کرے۔

### وسوسہ پر مواخذہ

(سوال) دل کے خیال فاسدہ سے جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں دل سے دور نہ ہوں اگرچہ ان کو برا  
 جانتا ہے تو گناہ ہو گا یا نہیں۔

(جواب) صرف دل میں خطرہ آوے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کو دفع کرتا رہے تو گناہ نہیں  
 ہے اور اگر اس کا ارتکاب دل میں ٹھان لے گا تو بے شک گنہگار ہوگا۔

### کتاب سے دیکھ کر ذکر مقرر کرنا

(سوال) حضور نے جو ذکر بتلایا اس کو کرتا ہوں کچھ حضور نے باتیں زبانی بتلانی تھیں۔ ان میں  
 سے بعض بعض میں بھول گیا تھا مگر ضیاء القلوب کے دیکھنے سے یاد آ گئیں بندہ کو اور بھی فرصت  
 ہے اگر ضیاء القلوب سے دیکھ کر اور کچھ پڑھو تو حضور کیا فرماتے ہیں جو ارشاد عالی ہو وہ کیا  
 جاوے، فدوی سابق سے مسبغات عشر پڑھتا تھا اب حضور نے واسطے منافع دنیا کے یا باسط گیا رہ  
 سومرتبہ و یا معنی گیا رہ سومرتبہ بعد نماز فجر بتلایا تھا وہ بھی پڑھتا ہوں مگر مسبغات عشر کی یہ شرط ہے  
 کہ قبل طلوع پڑھے اگر پہلے بعد نماز فجر کے مسبغات کے وقت طلوع ہو جاتا ہے لہذا عرض ہے  
 کہ اس وظیفہ کا یا تو اور وقت حضور اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمادیں یا طلوع کی شرط نہ ہو ذکر کفری و

اثبات میں معنی کی طرف خیال کرتا ہوں مگر ذکر اثبات مجرد و ذکر اسم ذات میں کیا خیال کروں۔ (جواب) بخد مت شریف مولوی محمد یحییٰ صاحب و حکیم مسعود احمد صاحب السلام علیکم بندہ نے جو ذکر آپ کو بتلایا تھا اگر زیادہ فرصت ہے تو اس کو ہی دو گنا اور ڈیوڑھا کر لیں مگر اپنی رائے سے کتاب دیکھ کر کوئی ذکر مقرر کرنا مناسب نہیں ہے اور ذکر نفی و اثبات میں جب پورے معنی کی طرف دھیان رہتا ہے ان ہی پورے معنی کی طرف اثبات مجرد اور اسم ذات میں بھی اسی طرف خیال کرنا چاہئے مبعثات عشر جو آپ فجر کو پڑھتے ہیں۔ وہ پہلے پڑھ لیا کیجئے اور بعد اس کے وظیفہ یا معنی اور یا باسط پڑھا کریں کہ دین کا کام کار دنیوی سے مقدم ہونا چاہئے۔

### صبر و شکر

(سوال) زید کہتا ہے کہ مصائب میں صبر اور راحت و خوشی میں شکر کرنا چاہئے کہ اس کا امر قرآن وحدیث میں وارد ہے۔ اور عمر کہتا ہے کہ نہیں بلکہ مصائب و امراض وغیرہ میں شکر کرنا چاہئے۔ یہ حصہ انبیاء علیہم السلام کو عطا ہوا تھا۔ نعمت در شاہ انبیاء علیہم السلام کی مرحمت ہوئی ہے اور راحت و عیش میں صبر کرنا چاہئے کہ یہ عیش دنیا کا کفاروں کا حصہ ہے لہذا قول کس کا صحیح ہے۔

(جواب) تکالیف میں صبر کرنا اور نعمت پر شکر کرنا چاہئے اور تکالیف پر راضی ہونا اعلیٰ درجہ کے اولیاء کی شان ہے جو اپنے ارادہ سے فنا ہو رہے ہیں وہ دوسری شان ہے۔ اور صبر و شکر بلا نعمت پر دوسری شان ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم اس میں دونوں قول بجائے خود صحیح ہیں۔ اور علی الاطلاق سب افراد میں دونوں بے جا ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### اولیاء اللہ کا پچھتم طاہری دیدار الہی کرنا

(سوال) یہ قول کہ حضرات اولیاء اللہ پچھتم طاہری در بیداری دیدار رب العزت تعالیٰ شانہ کرتے ہیں غلط ہے یا صحیح۔

(جواب) یہ قول ان کا صحیح نہیں (۱) بلکہ ماؤل ہے اگر کسی عالم سے منقول ہے اور مردود ہے اگر

(۱) اور محدثین و فقہاء و متکلمین و مشائخ طریقت کا اجماع اس بات پر ہے کہ اولیاء کو حاصل نہیں ہے تعریف میں کہتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کہ اس نے اس کا دعویٰ کیا ہو اور کسی سے بھی یہ دعویٰ صحت کو نہیں پہنچا مگر جمہول لوگوں کی جماعت کہ ان کو کوئی نہیں پہنچاتا اور مشائخ کا اتفاق ہے اس مدعی کے قبول کرنے اور جھٹلانے پر اور کہتے ہیں کہ اس قسم کا دعویٰ اللہ کے نہ پہنچانے کی نشانی ہے اور جو شخص کہ یہ دعویٰ کرے ہتھیانہ اس نے خدا کو نہ پہنچانا ہوگا۔ اور شیخ علاء الدین قونوی شرح تصرف میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی معتبر شخص سے اس کی نقل صحت کو پہنچا ہو تو اس کی تاویل کرنی چاہئے۔ اور کتاب انوار فقہ شافعی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کو علانیہ دیکھتا ہوں اور بالمشافہ اس سے بات کرتا ہوں تو کافر ہوگا۔ اور زاد المعاد تفصیل مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی مرحوم میں دیکھنا چاہئے۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی بحکم الایمان)

کسی جاہل سے مروی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

اپنے یا کسی کے شیخ پر اعتراض

(سوال) کوئی مرید اپنے شیخ پر یا کوئی غیر شخص کسی غیر پیر پر کوئی شرعی اعتراض کرے تو وہ اپنے معترض کو جواب بزری تمام دے یا بجائے جواب ناخوش ہو جاوے اور بالفرض اگر یہ شخص اپنے معترض کو جواب کافی نہ دے گا کہ جس سے معترض کی تسکین ہو جاوے تو گنہگار ہو گیا یا نہیں۔

(جواب) جواب زری سے بھی درست ہے بعض مواقع میں اور غصہ سے بھی درست ہے بعض محل میں اور بعض مضمون فہمائش کے قابل ہوتے ہیں بعض نہیں لہذا ہر شخص اور ہر محل کا جدا معاملہ ہے اس کا جواب کلی نہیں ہو سکتا۔

کشف کمال ہے یا نہیں!

(سوال) فقراء کے یہاں کشف کوئی بڑی بات ہے یا نہیں۔

(جواب) کوئی کمال معتبر نہیں اگرچہ کمال ہو کیونکہ یہ امر مشترک ہے مومن و کافر میں تو کمال تو ہوا مگر خیر سے خیر ہے اور شر سے شر۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کلمہ کو خلاف طریقہ صوفیہ پڑھنا

(سوال) یہ قول بعض حضرات صوفیہ رحمہم اللہ کہ لا الہ الا اللہ اگر بطریق صوفیہ کے کہا جائے تو عاقبت میں نافع ہوگا۔ ورنہ نہیں تو کیا محض اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جو ہر خاص و عام پر فرض ہے نافع نہ ہوگی تا وقتیکہ خاص صوفیہ کے طور پر نہ ہو ہاں وہ ایک اعلیٰ درجہ ہوگا نہ کہ نافع ہی نہ ہو لہذا یہ قول صحیح ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ قول بھی بجائے خود صحیح ہے یا اور معنی بھی صحیح ہیں۔ مگر اس سوال کے جواب کی نہ مجھ کو لیاقت ہے نہ مسائل لائق ہے نہ اس کا جواب قرطاسی ہے فقط واللہ اعلم کلمہ پڑھے معنی سمجھ کر نافع ہووے گا بفضلہ تعالیٰ فقط۔

پاس انفاس

(سوال) سانس کی آمد و رفت میں جو ذکر اللہ ہوا کرتے ہیں اس میں ثواب بھی ہوتا ہے یا نہیں اور اگر ہوتا ہے تو فقط زبان کی برابر ہے یا اس کا ثواب کم ہے یا زیادہ ہے؟

(جواب) سانس کی آمد و رفت کا اور ذکر لسانی کا ثواب جو دریافت کیا ہے تو بعض وجوہ سے تو ذکر لسانی افضل ہے اور بعض سے انفاص فقط۔

### ملفوظات

#### بذریعہ خط بیعت کا جواز

۱۔ از بندہ رشید احمد غنی عنہ بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائید۔ آپ کا خط بطلب بیعت کے آیا سو بندہ تم کو اتباع سنت رسول اللہ ﷺ پر بیعت کرتا ہے سب امور موافق شریعت کے کرتے رہو اور ہجگانہ نماز اور ادائے فرائض میں چست رہو۔ اگر کسی وقت فرصت ہو اور کچھ حرج نہ ہو تو ملاقات کا مضائقہ نہیں ورنہ دور قریب سب محبت میں یکساں ہیں۔ اگر وظیفہ ورد کی حاجت ہو تو دوسرے وقت بتایا جائے گا۔ فقط والسلام مورخہ ۴ رمضان۔

#### بذریعہ خط اپنے مرشد کی طرف سے بیعت کرنا

۲۔ از بندہ رشید احمد غنی عنہ السلام علیکم۔ آج کارڈ جوابی آپ کا آیا اگر چہ لائق اخذ بیعت نہیں ہوں مگر حسب درخواست آپ کے اپنے حضرت مرشد سلمہ کی طرف سے اخذ بیعت کر کے آپ کو داخل سلسلہ کرتا ہوں آپ صلوٰۃ خمسہ کو خوب بطمانیت و جماعت اپنے وقت پر ادا کرتے رہیں اور ممنوعات شرعیہ اور بدعات سے اجتناب رہے اور معاملات و سنت ادا کرتے رہیں۔ یہی خلاصہ بیعت کا ہے اور اسی واسطے بیعت ہوتے ہیں۔ فقط والسلام مورخہ دوم ذی الحجہ روز پنجشنبہ۔

#### خاندان حضرت شاہ ولی اللہ کے عقائد

۳۔ بندہ خاندان حضرت شاہ ولی اللہ صاحب میں بیعت ہے اور اسی خاندان کا شاگرد ہے گوان کے عقائد کو حق اور تحقیقات کو صحیح جانتا ہے الا ماشاء اللہ کوئی امر جو مقتضائے بشریت خاصہ لازمہ انسان ہے صادر ہو گیا ہو تفسیر شاہ عبدالعزیز صاحب عقد الحمید مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا تنویر العین مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید جیسا کہ مشہور ہے ایسے ہی ہے اس خاندان کے عقائد تقویۃ الایمان ظاہر ہیں۔ فقط والسلام۔

#### بدعتی پیر کی بیعت فسخ کرنا

۴۔ اگر ایک شخص سے کوئی مرید ہو اور پھر معلوم ہوا کہ وہ پیر بدعتی ہے اور کسی وجہ سے قابل



بیعت کرنے کے نہیں ہے تو اس کی بیعت کا فسخ کرنا واجب ہے اگر بیعت کو فسخ نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے المرامع من احب سواگر بدعتی سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہو جاوے گا اور بدعتی سے محبت حرام ہے اور وہ جو پیر قابل بیعت ہے مگر مرید کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو بھی دوسرے پیر سے مرید ہو جانا درست ہے مگر پہلے پیر سے بھی اعتقاد رکھے اور جو پہلے پیر سے باوجود فائدہ ہونے کے بیعت فسخ کر دے اور دوسرے سے مرید ہو جاوے تو بھی گناہ نہیں پیری مریدی دوستی ہے آدمی جس سے چاہے۔ دوستی دین کی کر لیوے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں مگر ہاں اچھے پیر اہل سنت کو چھوڑنا بلاوجہ اچھا نہیں کہ ایسے مرید پر مشائخ التفات نہیں کرتے لہذا اس کو فائدہ نہیں ہووے گا ورنہ کوئی گناہ کی بات نہیں یہ سب کتب تصوف میں مشائخ صوفیہ نے لکھا ہے اور پہلے پیر کے چھوڑنے کو کفر کہنا تو یہ کسی نے بھی نہیں لکھا یہ مقولہ بالکل کسی جاہل نادانف کا ہے کہ اپنے دیکھ گمانے کے واسطے مگر پھیلایا ہے یہ قول بالکل غلط اور مردود ہے مشائخ قدیمہ دو دو تین تین اور زیادہ سے بیعت ہوئے ہیں چنانچہ کتب سلاسل سے ظاہر ہے تو اس شخص کے قول فاسد پر سب پر کفر عاید ہووے گا۔ معاذ اللہ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## کتاب التقلید والا اجتہاد تقلید و اجتہاد کے مسائل

### مطلق تقلید کا ثبوت

(سوال) کتب اصول میں قاعدہ مقرر ہے کہ حکم مطلق کو مقید کرنا اور مقید کو مطلق کرنا اپنی رائے سے تعدی حدود اللہ حرام ہے اسی کو بدعت بھی کہتے ہیں۔ مثلاً مسجد مولود کہ اہل بدعت نے مطلق ذکر اللہ تعالیٰ خواہ امر ونہی و دیگر سیر و حالات ہوں مقید کر کے علیحدہ ایک مجلس ٹھہرائی ہے اسم باسمی لہذا بدعت و حرام ہوئی یا قیام مجلس مولود میں کہ مطلق ذکر اللہ تعالیٰ و ذکر رسول اللہ ﷺ کی مندوب ہے مگر خاص ذکر مولود ہی پر مقید کرنا بدعت ہو گیا۔ ایصالِ ثواب الی المیت کہ مطلق تھا۔ بلا تعین و تخصیص کے جب چاہو کروا اہل بدعت نے اس کو مقید بقیود کر لیا ہے یہ تعدی حدود اللہ اور بدعت ہے۔ علی ہذا تقلید مجتہدین مسائل اجتہاد یہ میں کہ حکم شارح علیہ السلام مطلق ہے چاہے جس فرد ماہور پر بلا تعین عمل کرے جس اہل ذکر مجتہدین سے چاہے دریافت کر لے کوئی قید شارح نے مقرر نہیں فرمائی۔ جو مقید کر لیا جائے البتہ نوع واحد پر عمل بوجہ سہولت و اصلاح عوام بلا لزوم عقیدہ و جوہ مضا تقہ نہیں کہ یہ نطلق ہی ہے مگر وجوب مقرر کرنا تعدی حدود اللہ ہو کر حرام ہوگا۔ اور صرف مصلحت عمل کرنے کو وجوب کا عقیدہ کر لینا تغیر حکم شرع ہے اور مثلاً جو لوگ جہاں مجتہدین کو برا کہیں وہ خود فاسق ہیں۔ مگر شرع کو ان کی وجہ سے مقید کرنا داخل تعدی حدود اللہ ہوگا ورنہ لازم ہوگا کہ جو جہاں محدثین کی توہین کریں ان کی وجہ سے وجوب شخصی کو غیر شخصی کر دیا جاوے مگر ایسا نہیں لہذا شخصی و غیر شخصی دونوں ماہور اور داخل حکم مطلق ہیں۔ برابر جانیں اور کسی مصلحت سے ایک پر ہی عمل کرنے کو مناسب و مندوب جانے اور عقیدہ و وجوب و ضروری کا نہ رکھے تو وہ مصیبت ہے یا نہیں۔

(جواب) تقلید شخصی اور غیر شخصی دونوں امور من اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور جس پر عمل کرے عہدہ امتثال سے فارغ ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ مسئلہ درست ہے اور جو ایک فرد پر عمل کرے اور دوسری پر نہ کرے اس میں دراصل کوئی عیب نہ تھا اور بوجہ مصلحت ایک پر عمل کرنا درست ہے پس فی الواقع اصل یہی ہے لہذا جو تقلید شخصی کو شرک کہتے ہیں اور جو بدون حکم شرع کے غیر شخصی کو حرام کہتا ہے وہ

بھی گنہگار ہے کہ مامور من اللہ کو حرام بتاتا ہے دونوں ایک درجہ کے ہیں۔ اصل میں اور مسائل خود اقرار کرتا ہے کہ مطلق شرعی کو اپنی رائے سے مقید کرنا بدعت ہے یہ قول اس کا صحیح ہے مگر حکم شرع سے خواہ اشارۃً ہو یا صراحتاً اگر مقید کرے تو درست ہے پس جب سنو کہ تقلید شخصی کا مصلحت ہونا اور عوام کا اس میں انتظام رہنا اور فساد و فتنہ کا رفع ہونا۔ اس میں ظاہر ہے اور خود مسائل بھی مصلحت ہونے کا اقرار کرتا ہے لہذا یہ امتحان اور عدم وجوب اسی وقت تک ہے کہ کچھ فساد نہ ہو اور تقلید غیر شخصی میں وہ فساد و فتنہ ہو کر تقلید شخصی کو شرک اور انمہ کو سب و شتم اور اپنی رائے فاسد سے رخصت ہونے لگے۔ جیسا کہ اب مشاہدہ ہو رہا ہے تو اس وقت ایسے لوگوں کے واسطے غیر شخصی حرام اور شخصی واجب ہو جاتی ہے اور یہ حرمت اور وجوب غیر کہلاتا ہے کہ دراصل جائز و مباح تھا کسی عارض کی وجہ سے حرام اور واجب ہو گیا تو اس سبب فساد عوام کی وجہ سے کہ ہر ایک مجتہد ہو کر خرابی دین میں پیدا کرتا ہے۔ خود مولوی محمد حسین بنالوی ایسے مجتہدین جہلا کو فاسق لکھتے ہیں۔ پس اس رفع فساد کے واسطے شخصی کا واجب ہونا اور غیر شخصی کا ایسے جہلاء کے واسطے حرام ہونا اور عوام کو اس سے بند کرنا واجب ہوا۔ اور اس کی نظیر شرع میں موجود ہے۔ لہذا یہ تقلید کی نص کی گئی ہے نہ بالرائے دیکھو کہ جناب فخر عالم علیہ السلام نے قرآن پڑھنا ہفت زبان عرب میں حق تعالیٰ سے جائز کرایا اور علی سبیل البدل کسی لغت میں پڑھو جائز ہے اور اس وسعت کو آپ علیہ السلام نے بڑی مشقت و سعی سے حلال کرایا اور حق تعالیٰ نے اجازت فرمائی مگر جب اس اختلاف لغات کے سبب باہم نزاع ہو اور اندیشہ زیادہ نزاع کا ہو تو باجماع صحابہ قرآن شریف کو ایک لغت قریش میں دیا گیا۔ اور سب لغات بجز موقوف کر دیئے گئے کہ جملہ دیگر لغات کے مصاحف جلا دیئے اور جبراً چھین لئے گئے۔ دیکھو یہاں مطلق کو مقید کیا مگر بوجہ فساد امت کے جب کہ تقلید غیر شخصی کرنے میں فساد ظاہر ہے اس میں کسی کو بشرط انصاف انکار نہ ہوگا تو اگر واجب غیر شخصی کو کہا جاوے اور غیر شخصی کو منع کیا جاوے تو یہ بالرائے نہیں بلکہ بحکم نص شارع علیہ السلام کے ہے کہ رفع فساد واجب ہر خواص و عوام پر ہے۔ الحاصل جو کچھ مسائل نے لکھا وہ درست ہے مگر یہ امر اس وقت تک ہے کہ فساد نہ ہو اور خاص کے واسطے ہے نہ عوام کے واسطے اور ایسی حالت موجودہ میں جو چشم خود مشاہدہ ہو رہا ہے وجوب شخصی کا بالرائے نہیں بلکہ بالخصوص ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## اجماع اور قیاس کا حجت ہونا

(سوال) اجماع امت اور قیاس مجتہد کا ماننا کہاں سے واجب ہوا۔

(جواب) لا تجتمع امتی علی الضلالة (۱) الحدیث اجماع کے قطعی ہونے کی دلیل ہے  
فاعتبروا یا اولی الابصار (۲) قیاس کی حجت ہے اور بہت دلائل ہیں اہل علم پر واضح ہیں فقط۔

## تقلید شخصی

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین متین اور مفتیان شرح رسول سید العالمین در باب تقلید شخصی  
آیا یہ واجب ہے یا جیسا غیر مقلدین معاذ اللہ گمان کرتے ہیں شرک یا بدعت ہے۔

(جواب) تقلید مطلق فرض ہے فسنلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون (۳) حق تعالیٰ  
نے اس آیت میں مطلق تقلید کو فرض فرما دیا ہے۔ اور تقلید کے دو فرد ہیں ایک شخصی کہ سب مسائل  
ضروریہ ایک ہی عالم سے پوچھ کر عمل کرے دوسرے غیر شخصی کہ جس عالم سے چاہے دریافت  
کر لیوے اور آیت بسبب اپنے اطلاق کے دونوں قسم تقلید کو متضمن ہے لہذا دونوں قسم تقلید کی  
ماور من اللہ تعالیٰ اور مفروض حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس فرد تقلید پر کوئی عمل کرے گا حق  
تعالیٰ کے حکم فرض کا عامل ہوگا۔ لہذا جو شخص تقلید شخصی کو جو ماور و مفروض من اللہ تعالیٰ ہے شرک یا  
بدعت کہتا ہے وہ جاہل و گمراہ ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی مخالفت میں خدا تعالیٰ کے مفروض کو شرک کہتا  
ہے اور نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ نے جہاں مطلق حکم فرمایا ہے۔ مکلف کو مختار فرمایا ہے کہ جس فرد مقید  
پر چاہے عمل کرے کیونکہ مطلق کا من حیث الاطلاق کہیں خارج میں وجود نہیں ہوتا بلکہ اپنے افراد  
کی ضمن میں خارج میں موجود ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کا وجود من حیث الاطلاق کہیں جدا نہیں پایا جاتا  
بلکہ افراد کے ضمن میں ہی خارج میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی تقلید کا وجود جدا ہوا اور شخصی اور غیر شخصی کا جدا  
ہو یہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ تقلید جہاں کہیں ہووے گی یا شخصی کے ضمن میں یا غیر شخصی کے ضمن  
میں ہووے گی۔ لہذا دونوں قسم میں مکلف مختار ہے جس پر چاہے عمل کرے اور عہدہ امر سے

(۱) میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی ۱۲ حدیث شریف۔

(۲) حکم الہی اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو ۱۲۔

(۳) ارشاد الہی اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔

فارغ ہووے۔ پس مامور من اللہ تعالیٰ کو بدعت یا شرک کہنا خود معصیت ہے بلکہ دراصل دونوں نوع تقلید کے جواز میں یکساں ہیں مگر اس وقت میں کہ عوام الناس بلکہ خواص پر بھی ہوائے نفسانی کا غلبہ اور اعجاب کل ذی رائے برائیہ کا اور تقلید غیر شخصی ان کی ہو اور اعجاب کو عمدہ ذریعہ جواز و اجراء کا ہو جاتا ہے اور موجب لا ابالی پن کا دین کی طرف سے اور سبب زبان درازی و تشنیع کا شان مسلمین و ائمہ مجتہدین میں ان کے واسطے بن جاتا ہے اور باعث تفرقہ و فساد کا باہم مسلمین میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ سب مشاہدہ ہے لہذا ایسے وقت میں تقلید غیر شخصی کا اختیار کرنا اس وجہ سے جہاں پر مفاسد برپا ہوں درست نہیں رہا اور فقط شخصی اتثال امر فعلوا کے واسطے معین و مشخص بحکم شرع ہوگئی ہے۔ کیونکہ اتفاق اور اتحاد کرن اعظم دین اسلام کا ہے تو اس کی محافظت بھی فرض اعظم ہے قال اللہ تعالیٰ: و اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا الایۃ (۱) ان اللہ لا یحب الفساد..... الایۃ اور اکثر احادیث اس باب میں وارد ہیں لہذا محافظت اس فرض اعظم کے واسطے اور رفع ان مفاسد و شائع کی ضرورت سے ایک شق مامور علی التخیر سوال کو ترک کرنا اور دوسری شق کو جو معین و مقوی اس فرض اعظم کو اور دفع شائع مذکورہ کو ہے اختیار کرنا شارع علیہ السلام ہو گیا ہے۔ چنانچہ قرأت قرآن شریف کی سبعتہ احرف میں مختیر تھی اور باجماع صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کر کے ایک لغت قریش میں مقصود کر دیا۔ اور یہ محض رفع فساد و تفرقہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ صحیح بخاری اس کی شاہد ہے۔ اور فخر عالم علیہ السلام قتل ذوالنویصرہ کے باب میں جو واجب القتل: بب کلمات کفر و گستاخی فخر عالم علیہ السلام کے تھا۔ فرمایا تھا: دعہ فان الناس یقولون ان محمد ایقتل اصحابہ . (۳) اور یہ حکم بسبب فتنہ کے ہوا تھا لا غیر الحاصل ایسے وقت نازک میں تقلید شخصی واجب مشخص ہے اور غیر شخصی ان فتن مشاہدہ کے سبب ممنوع ہے البتہ اگر کہیں یہ فساد غیر شخصی میں نہ پایا جاوے تو وہ بھی مامور علی التخیر ہے مثل شخصی کے پس واضح ہو گیا کہ تقلید شخصی واجب ہے اور اس کو بدعت یا شرک کہنا جہل محض ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور متفرق نہ رہو۔

(۲) بے شک کہ اللہ تعالیٰ فساد کو دوست نہیں رکھتا۔

(۳) اس کو چھوڑنیے اس لئے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کیا کرتا ہے۔

## تقلید شخصی کا وجوب

(سوال) تقلید شخصی کے وجوب کی کیا دلیل ہے۔

(جواب) فاسئلوا اهل الذکر (۱) الایة اور نا اتفاق ہونا اور لا ابالی ہونا عوام کا بسبب عدم تقلید کے دلیل وجوب شخصی کی ہے اس میں انتظام عوام ہے۔

## تقلید کا شخصی ثبوت

(سوال) مسئلہ قرون ثلاثہ میں تقلید شخصی کا ثبوت ہے یا نہیں۔

(جواب) تقلید شخصی خود قرآن شریف سے ہی ثابت ہے تو پھر قرون ثلاثہ کی کیا پوچھ ہے قولہ تعالیٰ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## تقلید شخصی کس پر ضروری نہیں

(سوال) جو شخص مجتہدین علیہ الرحمۃ کو یا مقلدین کو برا جانے یا تقلید مجتہدین کو شرک کہے۔ معاذ اللہ وہ تو فاسق اور گنہگار سخت ہے مگر جو شخص ایسا نہ جانے بلکہ سب ائمہ دین کو اپنا پیشوا و مقتدائے دین اپنے عقیدہ جانتا ہو تو وہ شخص عمل ظاہر سنت پر کہ حدیث سے ثابت ہو اور کسی مذہب کے موافق ہو مذہب اربعہ میں سے کر ليوے اور باعث فتنہ و فساد کا اور پریشانی عوام کا بھی نہ ہو اس کے عمل کرنے سے کیونکہ تقلید معین کو جو واجب اور ضروری کہتے ہیں تو اس باعث سے کہ موجب درستی اعمال اور صلاحیت اور بوجہ عدم پر اگندی و پریشانی و فتنہ و فساد عوام کے ورنہ چاہے کہ تقلید کرے۔ مذہب اربعہ میں تو ایسی صورت میں کہ باعث فتنہ و فساد عوام کا نہ ہو مختار ہے چاہے جس پر عمل کرے یا نہیں فقط احقر آپ کا خادم احمد وہاب بازار چوک۔

(جواب) اس صورت میں اگر ہوائے نفسانی سے بھی خالی ہے تو اس کو جائز ہے کہ کسی مذہب کے موافق عمل کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## غیر مقلدوں کی برائی

(سوال) غیر مقلدوں میں کیا برائی ہے۔

(۱) ارشاد الہی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کرو۔

(۲) ارشاد الہی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کرو۔

(جواب) مجتہدین کو برا کہنا اور تقلید کو شرک بتانا۔ مسلمان مقلدوں کو مشرک جاننا نفسانیت سے عمل کرنا برا ہے اور حدیث پر عمل کرنا لوجہ اللہ تعالیٰ اچھا ہے، سب حدیث پر ہی عامل ہیں۔ مقلد ہو یا غیر مقلد واللہ تعالیٰ اعلم۔

### آئمہ پر طعن

(سوال) جو شخص آئمہ مجتہدین پر مقلدین پر طعن کرنے والے کو برا نہ جانے بلکہ ان کی تعریف کرے اور ان کو بزرگ ہی جانے وہ شخص بد عقیدہ ہے یا نہیں۔

(جواب) طعن کرنے والا آئمہ مجتہدین پر فاسق ہے اور جو شخص طعن کرنے والے کو بزرگ جانے اس وجہ سے وہ بھی فاسق ہے اور اگر طاعن میں کوئی صفت دینی ہو اور اس وجہ سے اس صفت میں اس کو بزرگ جانے تو معذور ہے بشرطیکہ اس طعن کو اس کی برائی جانتا ہے اور اگر باوجود اس کے کہ اس صفت شنع طعن کو بھی اچھا جانے تو وہ بھی مثل اس کے ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### غیر مسلک والوں کو برا نہ کہنا

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ غیر مقلد مثل مولوی نذیر حسین یا مولوی محمد حسین بنالوی وغیرہ و نیچریان مثل سید احمد و مسٹر محمود وغیرہ کو پیچھے برا کہنا یا الفاظ سخت ست کہنے یا ان کے معاونین کے سامنے جائز ہے یا نہیں اور مکروہ ہے تو تحریمی یا تنزیہی حرام ہے یا غیر حرام فقط۔

(جواب) جو غیر مقلدین آئمہ کو سب سے یاد کریں ان کو برا کہنا اس وجہ بالا سے درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### اہل حدیث کو برا نہ کہنا

(سوال) مولانا سید نذیر حسین صاحب کو جو دہلی میں محدث ہیں جو لوگ ان کو مردود اور خارج اہل سنت جانتے ہیں اور لاندہ ب کہتے ہیں آیا یہ کہنا ان کا صحیح ہے یا نہیں باوجود صحیح نہ ہونے کے ایسے لوگ فاسق، بدکار ہیں یا نہیں اور مولانا صاحب کے عقائد اور اعمال موافق اہل سنت و الجماعت ہیں یا نہیں اور حضرت سلمہ کے عقائد اور مولانا صاحب کے عقائد میں کچھ فرق ہے یا متفق ہیں گو بعض جزئیات میں یا اکثر میں مخالف ہو تو یہ کچھ ایسا امر نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ایسا گمان کیا جائے جو اب بطور بسط کے ارقام فرمادیں۔ کیونکہ ایک عالم ان کو لعن طعن کرتا ہے اور

بدر فاسقین سے جانتا ہے۔ فقط

(جواب) بندہ کو ان کا حال معلوم نہیں اور نہ میرے ساتھ ان کی ملاقات ہے لیکن جو لوگ ان کے حال کے بیان میں مختلف ہیں اگرچہ ان کو مردود اور خارج اہل سنت سے کہنا بھی سخت بے جا ہے۔ عقائد میں سب متحد مقلد غیر مقلد ہیں البتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### وصیت شاہ ولی اللہ صاحبؒ

(سوال) مقالۃ الوصیۃ فی الصحیۃ والوصیۃ مؤلفہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ۔ اول وصیت این فقیر چنگ زون است بکتاب وسنت در اعتقاد و عمل و پیوستہ بتدبیر ہر دو مشغول شدن و ہر روز حصہ از ہر دو خواندن و اگر طاقت خواندن نداشت ترجمہ درتے از ہر دو شنیدن دور عقائد مذہب قدمائے اہل سنت اختیار کردن و از تفصیل و تفتیش نکردند اعراض نمودن و بہ تفسیر کات خام معقولیان التفات نہ کردن و در فروغ پیروی علمائے محدثین کہ جامع باشند میاں فقہ و حدیث کردن و اوہما تفریحات فقیہہ را بر کتاب وسنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در خیر قبول آوردن والا کالائے بد بریش خواند دادن امت رایج وقت از عرض مجتہدات بر کتاب وسنت استغناء حاصل نیست و سخن مقسّمہ، فقہاء کہ تقلید عالمی را دست آورز ساختہ بتج سنت را ترک کردہ اند شنیدن و بدیشاں التفات نکردن قربت خدا جستن بدوری اینان فقط اور وصیت قول الجملی مؤلفہ شاہ صاحب علیہ الرحمۃ: و منہان لا یحکم فی ترجیح مذہب الفقہاء بعضہا علی بعض بل یضعہا کلہا علی القبول بجملة و یتبع منہا ما وافق صریح السنۃ و معروفہا فان کان القولان کلاہا منخرجین اتبع ما علیہ الا کثرون فان کانا سواء فهو بالخیار و یجعل المذہب کلہا کلمذہب واحد من غیر تعصب۔

(جواب) ہر دو وصیت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جملہ اہل حق یہی فرماتے ہیں بندہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اور عمل، اسی خاندان سے مستفید و مطمئن ہوا۔ اس کے خلاف کا خیال مت کرو۔ فقط۔

### جماعت میں غیر مقلدوں کی شرکت

(سوال) اگر کوئی غیر مقلد ہمارے پاس جماعت میں کھڑا ہو اور فریضہ میں اور آئین بالجہر کرتا ہو تو



اس کے پاس کھڑے ہونے سے ہماری نماز میں تو کچھ خرابی نہ آئے گی یا ہماری نماز میں بھی کچھ فساد واقع ہوگا۔

(جواب) کچھ خرابی نہ آئے گی۔ ایسا تعصب اچھا نہیں وہ بھی عامل بالحدیث ہے اگرچہ نفسانیت سے کرتا تو فعل تو فی حد ذاتہ درست ہے۔

## شاہ اسمعیل شہید کا مسلک

(سوال) جو لوگ کہ حضرت مولانا محمد اسمعیل شہید علیہ الرحمۃ کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ مجتہدین رحمہم اللہ کی تقلید نہیں کرتے تھے آپ کے نزدیک یہ قول صحیح ہے یا نہیں اور مولانا صاحب مرحوم کی تالیفات سے اس امر کی تصریح ہو سکتی ہے یا نہیں۔

(جواب) بندہ نے جو کچھ سنا ہے مولانا مرحوم کا حال وہ یہ ہے کہ جب تک حدیث صحیحہ غیر منسوخ ملی اس پر عمل کرتے تھے اگر نہ ملتی تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور بندہ نے ان کی زیارت نہیں کی جو مشاہدہ اپنا لکھوں اور ان کی تصانیف سے بھی غالباً یہی نکلے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقط۔ (رشید احمد گنگوہی غمی عنہ)

## ملفوظات

### عند الضرورت مذہب شافعی پر عمل کرنا

۱۔ مذہب سب حق ہیں۔ مذہب شافعی پر عند الضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہو۔ عذر یا حجت شرعیہ سے ہووے کچھ حرج نہیں سب مذاہب کو حق جانے کسی پر طعن نہ کرے سب کو اپنا امام جانے فقط۔

### اصلیت تقلید شخصی

۲۔ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے رسول کا اتباع فرض کیا اور احادیث تمام اس پر دال ہیں اور یہ بات سب کے نزدیک مقرر ہے مگر فہم کی بات ہے کہ اتباع حضرت وہ کر سکے جس سے آپ کی زیارت کی ہو ورنہ بدون حضور خدمت کیونکر ہو سکتا ہے۔ لہذا فخر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خود

فرمایا کہ اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم اہتدیتم (۱) حق تعالیٰ نے فرمایا: فاستلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون (۲) تو کچھ لوں پر پہلو سے پوچھا اور دیکھنا فرض فرمایا صحابہ سے تابعین نے پڑھا۔ اور ان کا اقتداء کیا اور علی ہذا تابعین سے تبع تابعین نے کہ خود فرما چکے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلو نھم ثم الذین یلو نھم (۳) ان قرون کی تعریف سے بھی یہ مقصد ہے کہ تابعین نے صحابہ سے سیکھا اور تبع تابعین سے اور یہ ہر سہ قرن خیر امت ہیں تم ان سے میرا طریقہ لو کیونکہ خیریت ان کی بسبب علم و عمل کے ہے اور جو علم و عمل میں اولیٰ ہوتا ہے وہی مقتدی ہوتا ہے تو بس اب متبعین سنت نبوی پر تحصیل دین محمدی علیہ السلام صحابہ سے اور ان کے بعد تابعین سے فرض ہو اور علی ہذا آج تک یونہی قرن بقرن چلا آیا کہ خود فرمایا بلغوا عنی سب عالم کو خطاب کیا کہ تم تبلیغ دین کی کرو تو ہر زمانہ میں بعبارت صریح قرآن و حدیث کے علماء سے دین کی تحقیق اور علم نبوی کا سیکھنا فرض ہوا۔ کیونکہ بدون تقلید پہلوں کے پچھلوں کو ہرگز دین نہیں مل سکتا۔ مجتہد کو بھی تو دین پہلو سے ہی معلوم ہوا ہے۔ کچھ اس پر القاء نہیں ہو اوجی بند ہی ہوگی کہ کسی کی بات ماننا اور اس کو صادق جان کر عمل کرنا اس کے معنی تقلید ہیں۔ اتنی بات مقلدین وغیر مقلدین سب مسلم رکھتے ہیں مگر غیر مقلدین صرف لفظوں کی تقلید کرتے ہیں کہ پہلوں سے لفظ سن کر قبول کئے اور معانی آپ خود لگا دیئے۔ گو دین کے موافق ہو یا مخالف سبحان اللہ۔ صحابہ جو عربی داں تھے۔ اور فصاحت و نکات اپنے کلام کے جانتے تھے۔ قرآن و حدیث کے معنی کو حضرت سے اور باہم تحقیق کرتے تھے اور مقصد و معانی کے سیکھنے کی ضرورت جانتے تھے کہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس برس میں سورہ بقرہ کو سیکھا یہ معانی پڑھتے تھے یا الفاظ الفاظ کے پڑھنے کی ان کو کیا ضرورت تھی تفسیر پڑھی تھی اور علی ہذا تابعین و تبع تابعین اور سب علماء کو معنی کی تقلید ضروری ہوئی مگر جہلا چند کو کچھ حاجت نہ رہی کہ فقط پہلے لوگوں کے لفظ دیکھ کر اپنی رائے سے جو چاہے معنی گھڑ لئے احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ و تابعین قرآن کے متعارض مضامین کو اور غریب لغات کو تحقیق کرتے تھے۔ بہر حال تقلید لفظ کی اور معنی کی دونوں کی دین میں واجب ہے تو بس اب حسب ارشاد شارع کی تقلید واجب ہوئی اور جو کوئی کسی عالم تابعین سے لے کر آج تک تقلید کرتا ہے تو تقلید صحابہ اور رسول اللہ ﷺ کی ہی تقلید کرتا ہے۔ کیونکہ یہ سب واسطہ

(۱) میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جن کی تم نے اقتداء کر لی ہاں پالی۔

(۲) اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔

(۳) بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو ان سے قریب ہیں پھر ان لوگوں کا جو ان سے قریب ہیں۔

و مسائل آپ کے ہیں۔ سوتا بعین اور تبع تابعین کی تقلید اور ان کے شاگردوں کی تقلید صحابہ کی تقلید رسول اللہ ﷺ کی تقلید تو ضرور تقلید ابوحنیفہ کی تقلید رسول اللہ ﷺ کی ہوئی اور مقلد شافعی وغیرہ کا بھی مقلد آپ کا ہی ہوا۔ اب باوجود اس بات کے کہ تقلید رسول اللہ ﷺ کی بدون صحابہ کے اور تقلید صحابہ کی بدون تابعین کے محال ہے اور قرآن و حدیث میں ان کی تقلید کا حکم مصرح مذکور ہو چکا تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حکم تقلید ائمہ اربعہ کے وجوب کے کیا معنی ہیں آیا یہ مقصود ہے کہ قرآن شریف میں یا حدیث میں خاص کر بنام ابوحنیفہ رحمہ اللہ یا شافعی رحمہ اللہ مثلاً حکم ہو کہ فلاں امام کے تقلید کرنا واجب جانو اگر یہ مطلب ہے تو محض دھوکہ مسلمان کو دینا ہے۔ بخاری و مسلم کے الفاظ کی تقلید کی کون سی مصرح حدیث یا قرآن کی آیت ہے یا صحابہ میں سوائے چند نام کے کس کے نام کی تصریح آئی ہے معاذ اللہ اور اگر صحابہ کے قرن میں عموم لفظ..... پر قناعت ہے تو ثم الذین یلوہم اور لفظ اہل الذکر کے عموم میں کیا قناعت دیکھی جو یہاں تخصص اسی کی ضرورت پڑی اگر مشہر بمسی ابوحنیفہ یا شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصریح اسم کے نص مانگتا ہے تو ہم بھی صحابہ کے ہر ہر واحد کے نام کی صراحتہً نص پوچھتے ہیں اور بخاری و مسلم وغیرہ ہا تمام ائمہ حدیث کی تقلید لفظی کی حدیث صریح طلب کرتے ہیں۔ الغرض یہ سب مغالطہ اور دھوکا ہے بات یہ ہے کہ جیسا صحابہ نے حضرت سے دین لیا ویسا ہی تابعی نے صحابہ سے لیا اور جب صحابہ کی تقلید کا ارشاد کیا تو سب صحابہ کا گویا نام ہی لے دیا اور جب کہ تابعین کا علم صحابہ کا علم ہے تو سب تابعین کی تقلید کو ضروری فرمادیا اور علیٰ ہذا القیاس بعد کے قرون میں اور امام ابوحنیفہ بھی تابعی ہیں۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ اس باب میں لکھا ہے تو ان کی تقلید نص سے ثابت ہوئی کیونکہ ان کا سب فقہ حدیث اور صحابہ کے اقوال و افعال سے حاصل و مستنبط ہے اور علیٰ ہذا القیاس شافعی رحمہ اللہ وغیرہ ائمہ تبع تابعین کے شاگرد ہیں ان کا علم بھی صحابہ ہی سے مستفاد ہے سواب کس منہ سے کوئی انکی تقلید سے انکار کر سکتا ہے اور ان کے نام کی نص صریح مانگنے میں مشہر کا قافیہ تنگ ہوگا۔ دیکھیں گے وہ کس کس اپنے مقتدیوں کے لئے نص صریح لا دے گا ہاں ایک بات باقی رہی وہ یہ ہے کہ مشہر کا یہ مطلب ہو کہ تقلید سب صحابہ و تابعین کی درست و ضرور ہے اور پھر خاص کر ایک ہی کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے اور وجوب تقلید ایک ہی شخص کا کس نص میں آیا ہے نص قرآن و حدیث تو علیٰ العموم سب کی تقلید کی ارشاد فرماتی ہے اور تابعین اور تبع تابعین کے طرز سے بھی یہی ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کے شاگرد نہیں بلکہ بہت لوگوں سے ان کا علم

حاصل ہے تو البتہ یہ قابل التفات جواب ہے تو اول تو ہوش کر کے یہ بات سنو کہ حدیث اصحابی کا انجوم کے یہ معنی ہیں کہ میرے سارے اصحاب ہر ہر واحد مثل ستارہ کے ہے تم جس کسی ایک اصحابی کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے تو مطلب حضرت ﷺ کا یہ ہے کہ فقط ایک صحابی خواہ کوئی جو ہدایت کے واسطے کافی ہے یہ معنی نہیں کہ جو سب کی اقتداء کرو گے تو ہدایت ہووے گی ورنہ نہیں مگر ہاں جب ایک کی اقتداء میں ہدایت ہے تو اگر چند صحابہ کی اقتداء ہوگی اور مسائل و مواقع متعددہ میں اصحاب متعددہ سے اقتباس کرے گا تو بھی ہدایت ہووے گی تو بس اس حدیث میں آپ نے ایک صحابی کی تقلید کو کافی فرمایا اور زیادہ کی تقلید کو منع نہیں فرمایا اور فی الواقع مسئلہ مختلف میں تو ایک ہی اقتداء ممکن ہے دو یا تین کی تقلید ہو ہی نہیں سکتی اور اوپر کی تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ تقلید تابعی کی تقلید صحابی کی ہے اور علیٰ ہذا تو یہ حکم جب صحابہ کی نسبت ہے ویسا ہی تابعین تبع تابعین وغیرہم کی نسبت بھی ہے کہ ایک کی تقلید ضروری ہے اور زیادہ کی منع نہیں تو بہر حال اتباع ایک عالم کا کرنا جس کا نام تقلید شخصی ہے جائز ہوئی کہ اس کے کرنے سے دین حاصل ہوتا ہے اور ہدایت پاتا ہے اور امر فسولوا الخ کا امتثال پورا حاصل ہوتا ہے اور اصحابی کا انجوم پر کامل عامل بنتا ہے اور اس تقلید میں کوئی کراہت یا کوئی ترک اولیٰ نہیں اور نہ مطلق تقلید کی جو مامور ہے یہ بھی ایک فرد ہے۔ اگرچہ دوسرے فرد کہ چند علماء کا مقلد ہوتا ہے وہ بھی دراصل رد اور جائز ہے اور ہم پلہ اس تقلید شخصی کے ہے تو پس مقلد ابو حنیفہ کا اور شافعی وغیرہما کا مقلد رسول اللہ ﷺ کا ہے ان میں سے کسی کے نام لے کر فرمانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کلیہ کے جزئیات اور عام کی افراد بحکم صراحت ہی ہوتے ہیں اور اگر مشہور کا مذہب کلیہ میں صراحت آئی کا ہے تو تمام کلیات و عموماً و ارادہ نصوص لغو ہو جاویں گے سب زانی و سارق و غاصب اپنے نام کی تصریح مانگیں گے جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے کہ خاص ہمارے نام کا حکم نامہ لاؤ الخ حاصل یہ نہایت چربوز مطالبہ اور واپسی بات اور محض دھوکہ ہے بعد اس بات کے دریافت کے دوسری بات یہ سنو کہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں بقولہ لا تفرقوا (۱) حکم اتفاق کا اہل اسلام کو دیتا ہے اور اجتماع اور عدم تنازع کو فرض فرماتا ہے اور جو اہر تفریق ڈالنے والا ہو اس کو حرام منع فرماتا ہے اگرچہ وہ امر مستحب ہی ہو سو جو امر کسی وقت میں مستحب تھا جب اس امر سے مسلمانوں میں فساد ہونے لگے تو وہ امر حرام ہو جاتا ہے دیکھو کہ رسول اللہ ﷺ نے باندیشہ افتراق امت کے بیت اللہ کی دیوار کو اپنے موقع پر نہ بنایا

اور خود اپنے طویل قرآن فی الصلوٰۃ کو مستحب فرمایا تھا کہ عمدہ نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاوے اور حضرت معاذ نے اس پر عمل کیا تو جب ایک صحابی نے شکایت کی کہ ہم زراعت کرنے والے ہیں معاذؓ کی طویل قرأت سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو حضرت ﷺ نے حضرت معاذؓ کو فغان فرمایا اور چھوٹی قرأت کو واجب کر دیا کیونکہ قرأت کے ادا کرنے کو ادنیٰ درجہ کافی تھا اور یہ طریقہ موجب اتفاق تھا اور دوسرا طریقہ حالانکہ مستحب تھا۔ مگر وقت افتراق کے اس کو فتنہ فرمایا اور اس پر عمل کرنے والے کو فتنہ انگیز ٹھہرایا تو بس یہ قاعدہ مسلم شرع کا ہے کہ اگر ادائے واجب کے دو طریقہ ہوں ایک میں فساد ہوتا ہو اور دوسرے میں اتفاق رہتا ہو تو وہ طریقہ جس میں افتراق ہوتا ہے اصل میں عمدہ ہی کیوں نہ ہو مگر اس عارض امر سے حرام بن جاتا ہے اب ان دونوں امر کے اند جواب اس خدشہ کا صاف نکل آیا کہ تقلید شخصی کرنے والے اہل ہند کے مثلاً اپنے فرض سے فارغ تھے اور ایشیائے امرخداوندی و نبوی میں سرگرم اب اگر عدم تقلید شخصی کو کوئی گرایا چاہتا ہے تو بحکم مقدمہ ثانیہ معلوم ہوا کہ فتنہ و افتراق امت میں ڈالتا ہے لہذا یہ امر ناجائز ہوا اور تقلید شخصی واجب ہوئی۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ اب تقلید شخصی واجب بالغیر ہوگی اور عدم تقلید حرام بالغیر بنی اور جو کچھ فتنہ اور نزاع اور باہم اختلاف اس عدم تقلید میں ہے وہ سب کو نظر آتا ہے مگر ہاں حق تعالیٰ جس کو کور باطن بنا دے وہ اس فساد کے معائنہ سے معذور ہے اب بفضلہ تعالیٰ وجوب تقلید شخصی بخوبی ثابت ہو گیا اور تقلید ائمہ اربعہ میں کسی امام کی بالعمین واجب ثابت نص قرآنی سے اور حدیث نبوی سے ہوگی کسی مسلمان کو ترددا لکن نہیں اور یہ سوال مشہور کا اصل سب سوالات کی ہے اور یہ بات اس کی جڑ ہے بہت سے خدشات کی اور ماہہ الافتخار اس کا ہے اس واسطے ہم نے اس کو بہت دراز لکھا ہے اس جواب کو بہت غور سے دیکھنا چاہئے کہ بعد صحت فہم کے سب خدشہ رفع ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم واحکم و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔

کتبہ الاحقر بندہ رشید احمد غنی عنہ۔ رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔

### محرم سے نکاح پر امام صاحب کا مسلک

(۳) امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی اپنی محرم سے نکاح کر لے تو بے شک وہ زانی ہے اس کو تیز دینی چاہئے اور امام جو تیزیر اس کی تجویز کرے درست ہے یہاں تک کہ قتل بھی کر دیوے تو روا ہے مگر وہ حد شرعی کہ زنا میں ہوتی ہے (مہسن کو سنگسار کرنا اور غیر مہسن کو سو کوڑے مارنا وہ اس میں نہیں آتے اور دلیل اس کی وہ حدیث ہے کہ ابوداؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں۔

عازب قال لقیتم عمی ومعہ رایۃ فقلت لہ این ترید فقال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل نکح امرأۃ ینہ فامرنی ان اضرب عنقہ واخذ مالہ . (۱)

دیکھو خود شارع علیہ السلام نے اس واقعہ میں حد شرعی نہیں ماری بلکہ تعزیر سخت دی تو امام صاحب پر کیا طعن ہے کہ وہ تو عامل بالحدیث ہیں چشم بینا ہو تو اعتراض نہ کرے واللہ اعلم۔

اگر کوئی شخص کسی عورت پر دعویٰ کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے اس میں امام صاحب کا مسلک

(۳) جاننا چاہئے کہ بیگانے مال کا مالک ہونا بیگانے مال پر تصرف مانکانہ کرنا بدون کسی ایک عقد کے کہ شرع نے اسباب ملک مقرر فرمائے ہیں حلال نہیں ہو سکتا جیسا بیع یا ہبہ یا اجارہ مثلاً اور ایسا ہی دوسرے کے نفس پر تصرف روا نہیں بدون اس عقد کے کہ حلت کے واسطے مشروع ہوئے ہیں، جیسے نکاح و اجارہ خدمت کا مثلاً اگر بدون ان عقود موضوعہ شرع کے کوئی قبض و تصرف ہوگا تو وہ غصب و سرقہ و زنا کہلائے گا اور حرام ہوگا یہ امر تو مسلم تمام امت کا ہے حاجت دلیل و سند کی نہیں رکھتا دوسرے یہ کہ یہ تصرفات جیسے متعاقبین باہم کر سکتے ہیں ایسا ہی حاکم اپنی طرف سے اس کی مصلحت کے واسطے کر سکتا ہے اور یہ تصرف حاکم در حق محکوم بحالت رضا و سکوت نافذ ہوتا ہے ظاہر مثلاً مدیون کی جائیداد کو حکام بلا رضانیلام کرتا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غلام مدبر ایک صحابی کا کہ وہ مفلس تھے بیع کر دیا اور کہیں ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام کو وکیل کیا ہو بلکہ بظاہر خلاف رضا ان کی کے تھا کیونکہ وہ تو اس کو مدبر بنا چکے تھے اور مثلاً عنین کے واقعہ میں آپ نے زوج کی طرف سے عورت پر طلاق واقع کر دی اور جس شخص نے اپنے غلام کو خسی کر دیا تھا آپ نے اس غلام کو بدون رضا مالک کے آزاد کر دیا۔ اور افعال صحابہ سے بھی ایسا ہی مستفاد ہے عنین کی زوجہ کو تفریق کر دینا اس قسم سے ہے تو ان سب واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ حاکم کو ایجاد عقد کا اختیار ہے تو حاکم نے اگر کسی کی شے بیع کر دی تو مشتری کو اس

(۱) براء بن عازب سے روایت ہے کہ میں اپنے چچا سے ملا اور اس کے ہاتھ میں ایک علم تھا جو کہیں لڑنے کے لئے جانے کی نشانی تھی، میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کے قتل کے لئے بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے اس لئے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی گردن ماروں اور اس کا مال لے لوں۔

میں تصرف روا ہے اور اگر نکاح کر دیا تو زوجہ کی مباشرت حلال ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب وجود عقد کا ثابت ہو جاوے گا تو حلت ظاہر اوباطن ثابت ہووے گی جیسا کہ اگر متعاقبین باہم ان عقود کو کر لیں تو حلال ہونا ظاہر و باطن ثابت ہوتا ہے۔ (۱) ہاں اگر قاضی کسی کی شے دوسرے کو بغیر عقد و سبب دے تو غضب ہے اور حرام جیسا کوئی کسی کی شے بلا عقد لیوے تو غضب ہوتا ہے تو تصرف حرام ہوتا ہے مگر یہ یاد رہے کہ بیع اپنے محل میں ہوتی ہے اور نکاح بھی اپنے محل میں ہوتا ہے تو باہم بیع و نکاح جب ہی ہوتا ہے کہ شے قابل بیع ہو اور عورت قابل اس شخص کے نکاح کے ہو یہ نہیں کہ جس عورت سے چاہے قاضی نکاح کر دے اگرچہ ماں بہن ہی ہو اب سنو کہ امام صاحب نے بنا بریں دوامیہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت پر دعویٰ نکاح کا کیا اور عورت انکار کرتی ہے مرد نے جھوٹے گواہ پیش کئے قاضی نے خوب حسب قاعدہ عدالت گواہوں کی تحقیق کر کے حکم نکاح کا دے دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ پہلے سے نکاح نہیں ہوا تھا مگر اب قاضی کے حکم سے منعقد ہو گیا کہ قاضی ایجاد نکاح کا مختار ہے اور قاضی کا کہنا کہ میں نے نکاح کو نافذ کر دیا یہ کہنا ہے کہ میں نے نکاح کر دیا اور اس حکم کے وقت دو گواہ ہونے ضرور ہیں تو اب جب کہ عقد ثابت ہو گیا تو عورت مرد کو بسبب اس نکاح قاضی کے ظاہر و باطن حلال ہو گئی اور عورت کو اول انکار کرتی ہے مگر قاضی نے اس کے انکار کو رد کر کے اب نکاح کر دیا اور حکم قاضی سے نکاح منعقد ہو گیا کہ اس میں مصلحت ہے اور رفع نزاع ہے اور قاضی اسی واسطے ہوتا ہے اور بعد عقد کے موجب اس کا حلال ہونا تصرف کا ہے اور بس اور یہ واقعہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کے زمانہ میں نہیں ہوا کہ اس کی کوئی حدیث صریح لائی جاوے مگر یہ دونوں امر جس میں سے یہ بات نکلے حدیث سے ہی ثابت ہوئے ہیں اور حضرت علیؑ کے زمانہ میں یہ حادثہ ہوا اور اس حکم حضرت علیؑ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے جو امام صاحب فرماتے ہیں تو بحسب ارشاد نبوی علیہ السلام کہ جس صحابی کا تم اقتداء کرو گے۔ ہدایت پاؤ گے۔ امام صاحب مہندی اور حق فرمانے والے ہیں اور کوئی حدیث

(۱) اور اس کے مجملہ (یعنی مجملہ منصب امامت) یہ بھی ہے کہ اس کے حکم کو نافذ کر دیا جائے بی آدم کے عقد اور معاملات میں پس جس وقت کہ نبی وقت دو شخصوں کے معاملات میں سے کسی معاملہ کا فیصلہ فرماوے، جیسے بیع یا نکاح کا انعقاد یا اس کے مثل اور کوئی عقد تو اس کے حکم کے ساتھ یہ عقد منعقد ہو جائے گا کہ پھر اس میں کسی کو چون چرائی گنجائش نہ رہے گی جیسا کہ ارشاد الہی ہے آیت۔ کہ کسی مومن اور مومنہ کو اس کا حق نہیں کہ جب اللہ و رسول نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا تو ان کے معاملہ میں ان کو (کرنے نہ کرنے کا) اختیار باقی ہے اسی طرح مذکورہ عقود امام ہاں کے نائب کے حکم سے جو کہ قاضی ہے خود بخود منعقد ہو جاتے ہیں کسی کو گفتگو کی مجال نہیں رہتا جیسا کہ مسئلہ ”قاضی کا حکم ظاہر و باطن میں نافذ ہوتا ہے“ متون و شرح میں صراحت سے موجود ہے۔ (مولانا طفیل شہید)

مخالف قول امام صاحب کے نہیں ہے اور وہ حدیث بخاری وغیرہ کی جس میں یہ لفظ ہیں۔ فمن قضیت له بشیء من حق اخیه فلا یا خلدہ ..... جس کے واسطے حکم کر دوں میں دینے کا کچھ اپنے بھائی کے حق سے تو ہرگز نہ لیوے تو یہ مطلق شے دلانے کے باب میں وارد ہوئی ہے نہ ایجاد سبب کے باب میں اور معلوم ہو چکا کہ بلا ذریعہ سبب کے کوئی شے یعنی غصب ہوتا ہے بعد اس کے سنو کہ مشہر نے جو تشریح کی کہ کسی کی جو رو کو اپنی زوجہ ہونے کا دعویٰ کر کے دو جھوٹے گواہ گذران کر کے لیوے تو وہ عورت مدعی کو درست ہو جاتی ہے محض افتراء ہے کہ کوئی عالم اور کتاب اس کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ غیر کی منکوحہ محرمات شرعیہ میں ہے اس کا نفاذ نکاح کب ہو سکتا ہے سو یہ مشہر کی محض خیانت ہے دروغ گوئی کو شیوہ اغواء عوام کا ٹھہرایا ہے واللہ اعلم۔

### دہ دردہ کی تحدید پر امام صاحب کا مسلک

(۵) دہ دردہ کی تحدید ہرگز امام صاحب کا مذہب نہیں (کذا فی المصنفی و معیار الحق و ایضاً الحق) نہ اور کسی محقق حنفی کا بلکہ بعض متاخرین نے عوام کی فہم کے واسطے ایک حد لگا دی ہے اور یہ بھی اس واسطے ہوا کہ جو تحدیدات قلعین وغیرہ کی حدیث سے معلوم ہوتی ہیں ان کا ثبوت لفظاً نہیں با معنی کلام ہے تو اسی موقعہ پر امام صاحب نے حسب قاعدہ شرعیہ رائے مجتہدی بہ پر چھوڑا تھا۔ عوام کی رفع حرج کے واسطے دہ دردہ مقرر کر دیا تھا کہ احتیاط ہاتھ سے نہ جاوے ایسے باب میں حدیث طلب کرنی جہالت ہے اگر مشہر پہلے حدیث صحیح سے کوئی حد ثابت کر لیتا تو پھر دوسروں کو تکلیف حدیث تحدید کی دینی مناسب تھی۔ اللهم احفظنا من شرور انفسنا ومن وسواس الخناس علو نا امین۔

### ایمان کی زیادتی و کمی کے متعلق امام صاحب کا مسلک

(۶) اول حقیقت اس مسئلہ کی سنو کہ امام صاحب نے یوں فرمایا ہے (کذا فی شرح الفقہ الا کبر ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ) کہ اجزاء ایمان کی زیادت زمانہ رسول اللہ ﷺ میں ہوئی تھی بایں معنی کہ ایک آیت یا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں نے اس کو قبول کیا پھر دوسرا حکم آیا اس کو مان کر ایمان زیادہ ہوا اور پھر اور حکم آیا اس کو قبول کر کے اور زیادہ ہو گیا اور علیٰ ہذا القیاس آیات و احکام بڑھتے جاتے تھے۔ ایمان بھی زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جب خاتم الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمائے آخرت ہوئے تو احکام ختم ہو چکے ایمان کی بھی ایک حد معین ٹھہر گئی اب کمی



زیادتی ایمان بایں معنی نہیں ہو سکتی اگر کوئی حکم زائد ان احکامات پر کوئی کر دیوے وہ بھی کافر ہے اور جو ایک حکم کو نہ مانے وہ بھی کافر اور بایں معنی ایمان افراد مومنین کا اور انبیاء اور سب ملائکہ کا برابر ہے کہ جو امور مامور بہا کہ جس پر ایمان لانا فرض ہے مومنین کا وہی ملائکہ و انبیاء کا قال اللہ تعالیٰ امن الرسول بما انزل الیہ من ربه و المؤمنون الایة غرض ایمان سب احکام خداوندی کا ماننا ہے اس میں مومن و نبی و جبرائیل وغیرہ فرشتے سب برابر ہیں ہاں اجمال تفصیل کا فرق ہے اور کمی زیادتی کیفیت کی اور قوت و ضعف اس کا اور شے ہے وہ البتہ یکساں نہیں اب یہ عقیدہ کہ قرآن کی آیت سے نکلتا ہے یا نہیں اور اس کا منکر کون ہوتا ہے اگر خود کی چشم بند ہوں کوئی کیا کرے اور خود امام صاحب کے اس کلام سے یہ مطلب ظاہر ہے کہ یوں فرماتے ہیں کہ ایمانی کا ایمان جبرئیل ولا اقول مثل ایمان جبرئیل۔ یعنی ایمان میرا مشابہ ایمان جبرائیل کے ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ مثل ایمان جبرائیل کے ہے اس واسطے کے مماثلت جب ہوتی ہے کہ کل الوجوہ برابر ہو جاوے اور یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ کو جس میں مشابہت ہے اور یہ بات فارسی خواں بھی جانتے ہیں کہ محبوب کو سر دے مشابہت دیتے ہیں تو فقط راسی قد کی مشابہت مقصود ہوتی ہے سب امور میں مشارکت و مماثلت نہیں ہوتی غرض یہ بات محض عناد کی ہے ورنہ اس کا فہم کچھ دشوار نہ تھا واللہ العالی۔

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لئے امام صاحب کی دلیل

(۷) تیسیر الوصول میں روایت ہے۔ عن ابی حنیفہ ان علیا رضی اللہ عنہ قال السنة وضع الکف فی الصلوة تحت السرة اخروجه رزین (۱) اور سنت فعل رسول اللہ ﷺ کا ہوتا ہے تو بس اس روایت سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے خوب روشن ہیں انکار اس کا بجز تعصب اور کیا ہوگا واللہ اعلم۔

تکبیرات کے لئے نماز میں رفع یدین

(۸) یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں سوائے تحریمہ کے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الا اصلی بکم صلوة رسول اللہ

(۱) اہل حنفیہ سے روایت ہے کہ علی نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ناف کے نیچے رکھا جائے اس کو زریں نے روایت کیا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیه الا فی اول مرة وفى الباب عن براء بن عازب قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن به بقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان واهل کوفہ (۱) اس حدیث کو ترمذی خود تصحیح کرتا ہے اور کوئی ضعف اس میں نہیں اور حضرت ﷺ کا رفع یدین رکوع وغیرہ میں سوائے تحریمہ کے نہ کرنا بروایت عبداللہ بن مسعود و براء بن عازب کے ثابت ہو گیا اور فقط یہ دو صحابی ہی یہ نہیں فرماتے بلکہ بہت سے صحابہ کی یہی روایت و رائے ہے کہ سوائے تحریمہ کے رفع یدین نہ ہونی چاہئے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت جیسے نماز پڑھنے کے یہ معنی تھے کہ جس طرح حضرت نے نماز پڑھی اور جو جو فعل آپ نے نماز میں ادا فرمائے وہ سارے کر کر دکھلا دیں پھر اب عدم رفع یدین میں سوائے تحریمہ کے کون سا خفا رہا اور کوفہ میں بعد وفات رسول اللہ ﷺ پندرہ سو صاحب تشریف رکھتے تھے اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو اہل کوفہ کا مذہب عدم رفع یدین کا تھا تو اکثر ان اصحاب مقیمین کوفہ کا یہ قول تھا کیونکہ اہل کوفہ نے ان ہی اصحاب سے دین لیا تھا بعد اس واضح روایت کے انکار کرنا محض نفسانیت ہے لہذا مسلمانوں کو ایسی تلبیسات پر التفات نہیں کرنا چاہئے۔

### نماز میں آمین خفیہ کہنے میں امام صاحب کے دلائل

(۹) آمین کو خفیہ کہنا حضرت ﷺ کا حدیث سے ثابت ہے کہ مستدرک میں حاکم نے باسناد صحیح روایت کیا ہے۔ وائل بن حجر انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین وخفض بها صوتہ . (۲) اس حدیث سے حضرت ﷺ کا خفیہ آمین کہنا ثابت ہو گیا بعد اس کے انکار کرنا محض تعصب ہے اس باب میں اور بھی روایت ہیں پس کسی کو اشتباہ نہ ہونا چاہئے۔

(۱) عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایسی نماز پڑھا دوں جو رسول اللہ ﷺ نے پڑھی تھی پھر انہوں نے نماز پڑھی اور جو پہلی مرتبہ کے پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا اور اسی باب میں براء بن عازب فرماتے ہیں ابو یوسف نے کہا کہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اور اکثر اہل علم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب اور تابعین یہی فرماتے ہیں اور سفیان اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

(۲) دلائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تلاوت فرمائی تو آمین فرمایا اور آمین کہنے کے لئے اپنی آواز پست فرمائی۔

(۱۰) صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر کبروا و اذا قراء فانصتوا (۱) اور خود حق تعالیٰ ہی قرآن شریف میں فرماتا ہے واذ اقصری القرآن فاستمعوا له وانصتوا (۲) چونکہ خود قرآن شریف و حدیث صحیح سے انصت مقتدی کا ثابت ہو گیا تو پھر چون و چرا کرنا دھوکا دینا ہے واللہ البہادی۔

## نماز کے اوقات کے لئے امام صاحب کی دلیل

(۱۱) بخاری نے روایت کیا ہے عن ابی ذر قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاراد المؤمن ان یؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد حتی یساوی الظل التلول (۳) سنو کہ ٹیلوں کا سایہ جب مساوی ٹیلوں کی ہوتا ہے کہ سایہ ایک مثل سے بہت زیادہ ہو جاوے جس کا دل چاہے مشاہدہ کر لیوے تو اگر بعد ایک مثل کے وقت باقی تھا تو آپ نے اس وقت میں نماز پڑھی بعد اس روایت صحیح کے طعن کرنا جہالت ہے واللہ اعلم

(۱) امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تکبیر کہو اور جب وہ قرآن شریف پڑھے تو خاموش رہو۔

(۲) اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو دل لگا کر سنو اور خاموش رہو۔

(۳) ابی ذر سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے جب مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے پھر (تھوڑی دیر کے بعد) جب اس نے ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے پھر (تھوڑی دیر کے بعد) اس نے جب ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے حتیٰ کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو جائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کتاب التفسیر والمحدث

ایمان میں کمی و زیادتی کا مطلب

(سوال) زید کہتا ہے کہ جو شخص کہے کہ ایمان کم و زیادہ ہوتا ہے وہ کافر ہے اور یہ بات بھی علماء پر ظاہر ہے کہ اکابر میں سے مثل حضرت علی و ابن مسعود و معاذ بن جبل و ابو برداء و ابن عباس و عبد اللہ بن عمر و عمار و ابو ہریرہ و حذیفہ و حضرت عائشہ و غیر ہم رضی اللہ عنہم کی زیادتی ایمان کے قائل تھے از قسط لانی شرح بخاری وغیرہ اور ایسے ہی تابعین عظام اور اتباع ان کے اور جملہ محدثین اور فقہاء خاص کر تینوں امام مالک و شافعی و احمد بن حنبل جن کے مذہب حق سمجھے جاتے ہیں اور سفیان ثوری اور اوزاعی و اسحاق بن راہویہ خصوصاً حضرت امام حنفی استاد امام صاحب یہاں تک کہ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سب اہل سنت اکابرین دین کی زیادتی ایمان کے قائل تھے اور اہل حق میں شمار کیونکہ ان سب کا استدلال قرآن و حدیث رسول اللہ ﷺ سے تھا پس ظاہر ہے کہ زید کے قول بالا عام میں یہ سب اکابر ان دین شامل ہوتے ہیں بلکہ معاذ اللہ خدا اور رسول ﷺ تک نیز بے ادبی ہے ہاں اختلاف ائمہ کا دوسری بات ہے مگر اختلاف کی وجہ سے ایک نے دوسرے کو کافر نہیں فرمایا اور احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کوئی کسی کو کافر یا ملعون کہتا ہے اگر وہ قابل کفر یا لعنت ہوتا ہے تو اس پر پڑتی ہے والا وہ کفر و لعنت کہنے والے کی طرف عاید ہوتی ہے اور اگر زید کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس قول سے توبہ کرو تو ہرگز نہیں مانتا بلکہ اپنے قول پر زیادہ مصر ہوتا ہے اور ہٹ کرتا ہے مطلقاً باز نہیں آتا پس صورت مذکورہ بالا کا کیا حکم ہے یعنی اکابر ان دین بفضلہ تعالیٰ کسی طرح کفر کے مصداق نہیں ہیں اب زید باوجود اس تکفیر عام کے اور اصرار کبیرہ کے قابل کفر ہے یا نہیں اور جب تک تائب نہ ہوئے اس کے چھپے نماز جائز ہے یا نہیں اور امام صاحب سے لے کر سلف و خلف حنفیہ معتبرین میں سے کسی نے زید کا سافوتویٰ ایمان کے کم و زیادہ کہنے والوں کے حق میں دیا ہے یا نہیں حنفی مذہب کی معتبر کتابوں سے اس کا جواب تحریر فرما کر مہر ثبت فرمادیں۔

(جواب) از عدالت شرع شریف صدر ریاست ٹونک راجپوتانہ اختلاف سلف صالح کا اس مسئلہ میں کہ ایمان کم و بیش ہوتا ہے یا نہیں اہل علم میں مشہور اور کتب شرعیہ میں مذکور ہے اور

اختلاف ائمہ امت میں یہی حکم ہے کہ جو قول و فعل ایک کے نزدیک راجح ہے آپ اس کا پابند رہے مگر دوسرا شخص جو اس کے خلاف پر ہے اس کی تعمیل نہ کرے چہ جائیکہ اس کی تکفیر کرے پس زید جو قائلان کی بیشی ایمان کو بسبب اس قول کے کافر کہتا ہے وہ خود بسبب اس تکفیر کے دائرہ اسلام سے خارج ہے زید پر لازم ہے کہ جس طرح اس نے علی الاعلان قائلانہ کی بیشی ایمان کی بسبب اس قول کے تکفیر کی ہے اسی طرح علی الاعلان اس تکفیر سے توبہ کرے اور نام ہو ورنہ اہل اسلام نہ اس کا وعظ نہیں نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں بلکہ اس کے اختلاط سے بالکل کنارہ کریں۔ فقط ۳۰ محرم ۱۳۱۷ھ مواہیر عدالت شرع شریف در ریاست ٹونک۔

دوست محمد، عبدالحمید، محمد عظیم، محمد امام الدین۔

(جواب) اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایمان باعتبار کیفیت کے اور مراتب کمال کے کم و زیادہ ہوتا ہے اور باعتبار کمیت کے کم و زیادہ نہیں ہوتا پس نزاع مابین الفرقین صرف لفظی ہے جو ثانی کم و زیادہ ہیں کمیت کو کہتے ہیں اور جو مثبت کم و زیادت ہیں وہ کیفیت کے اعتبار سے اثبات زیادت و نقصان کرتے ہیں اور جب اصل منشاء اختلاف میں باعتبار مآل و مقصود اتحاد ہے تو فریقین کا قول حق ہوا اور نسبت خطا و ضلال کسی ایک کی طرف بھی نہیں ہو سکتی اس لئے ان میں سے کسی ایک کو کافر یا مشرک کہنے والا خود خاطی اور سخت جری ہے مگر چونکہ اس کی تکفیر بناء پر تاویل ہے ہوائے نفس نہیں اس لئے اس کو بھی کافر کہنا مناسب نہیں البتہ اس قدر ہے کہ فقہاء اور محدثین کی جماعت کو کافر کہنے سے وہ سخت درجہ کافاسق اور گنہگار ہے واللہ اعلم بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

الجواب صحیح عزیز الرحمن عفی عنہ دیوبندی رشید احمد ۱۳۰۱، و توکل علی العزیز الرحمن مفتی

مدرسہ عالیہ دیوبند۔

الجواب صحیح بندہ محمود عفی عنہ الہی عاقبت محمود گردان مدرسہ اول مدرسہ عالیہ دیوبند۔

ایمان زیادہ ہو جانا یا ناقص ہو جانا امام شافعی کا مذہب ہے اور اصل جو ہر ایمان کو برقرار تصور کرنا حضرت امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو سرے سے خلاف نہیں کیونکہ اگر ایمان نام تصدیق کا ہے تو وہ کیفیت اذہانی ہے قبول زیادت و نقصان نہیں کرتا اور اگر طاعات کا نام ہے تو قبول کرے گی۔ قال الامام هذا بحث لفظی لان المراد بالايمان ان كان هو التصديق فلا يقبلهما وان كان الطاعات فيقبلهما (۱) یعنی شرح بخاری قول

بکفر ناجائز ہے اور قائل کو تعزیر دینا چاہئے عبد الجبیل عفی عنہ عبد الجبیل مدرس اول مدرسہ فتحپوری دہلی۔

الجواب صحیح محمد منفع علی عفی عنہ محمد منفع علی مدرس مدرسہ فتحپوری دہلی زید کا یہ مقولہ سخت فسق اور قریب بکفر ہے اگر یہ مقولہ زید بادصف علم۔

اس امر کے ہے کہ جملہ صحابہ اور ائمہ اہل ملت والدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس عقیدہ پر ہیں تو قطعی کفر ہے اور ایسے مقولہ سے کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج اور باوجود عدم علم مذاہب سلف ائمہ امت کے یا علم اس حدیث موضوع منقولہ فوائد مجموعہ فی احادیث الموضوع مؤلف امام ربانی قاضی محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث من قال الایمان یزید وینقص فقد خرج من امر اللہ ومن قال انا مومن انشاء اللہ فلیس له فی الاسلام نصیب رواہ محمد بن تمیم وهو واضعہ . (۲) کفر نہ ہوگا اگرچہ فسق سے خالی بھی نہیں بالخصوص واعظ خلق اللہ ہو کر فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر بندہ ابوسعید عفا اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوسعید احمد ۱۳۱۷۔

## قرآن کو غنا سے پڑھنا

(سوال) احادیث میں جو تعنی بالقرآن کو محمود و مستحسن فرمایا گیا ہے بالخصوص اس حدیث میں لیس منامن لم یستن بالقرآن۔ (۳) اس میں گویا واجب اور اس کے ترک کو حرام کر دیا گیا ہے لہذا مراد تعنی بالقرآن سے حسن صوت بے تکلف بلا زیادتی کی الفاظ ہے یا بہ موسیقی و مطربان کیونکہ اقوال فقہاء مختلف ہیں بعض ممنوع مطلق کہتے ہیں بعض مطلق اجازت دیتے ہیں اگرچہ بقوانین موسیقی ہو بعض بے تکلف طبع و ساحت جواز وہ موسیقی و مطربان عدم جواز کے قائل ہیں لہذا مطلب حدیث موید بقول ثالث ہے یا نہیں۔

(جواب) اس حدیث میں مراد حسن صوت سے اور خوش انانی سے پڑھنا ہے اور ایسی طرح تعنی کرنا کہ حروف میں زیادتی و کمی نہ ہو۔ جائز بلکہ مستحسن ہے اور ایسی طرح پر پڑھنا کہ حروف میں کمی

(۱) امام نے فرمایا ہے کہ یہ بحث لفظی ہے اس لئے کہ مراد ایمان سے اگر تصدیق ہے تو وہ ان دونوں کو قبول نہیں کرتے اور اگر طاعات ہے تو ان دونوں کو قبول کریں گے۔

(۲) جس نے کہا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے تو وہ امر الہی سے نکل گیا اور جس نے کہا کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ اس کو اسلام میں کوئی حصہ نہ ملے گا اس کو محمد بن تمیم نے روایت کیا ہے اور وہی اس کا گھڑنے والا ہے۔

(۳) وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتے۔

زیادتی پیدا ہو جاوے جائز نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## غراب قرآن کا مطلب

(سوال) لفظ غریب سے ان عبارات میں جو ذیل میں درج ہیں سوائے اس اصطلاح کے جو اہل حدیث کی ہے کوئی اور معنی مراد ہیں یا کیا۔ اتقان میں ہے اعرابوا القرآن والتسموا غرائبہ۔ (۱) اعرابوا القرآن واتبوا غرائبہ (۲) مجالہ نافعہ میں ہے ویرائے شرح غریب و توجیہات عبارات آن کتاب مجمع البحار شیخ محمد طاہر حقنی است از جمع مواد۔ (۳) نواز الکبیر میں ہے واز انجملہ شرح غریب است وبنائے آن بر تفتح لغت عرب ست یا تفتن بہ سیاق و سباق آیت و دانستن مناسبت لفظ باجزاء جملہ کے دوران واقع شدہ است (۴) و بعد چند سطور کے اسی کتاب میں ہے ولہذا احوال صحابہ و تابعین درین باب مختلف شد ہر یکے رائے سلوک کرد تفسیری مصنف رادو بار شرح غریب می باید سنجید کیے در استعمالات عرب کہ کدام وجہ اقوی و ارجح است و دیگر در مناسبت سابق و لاحق کہ کدام وجہ اولی واقع اسے۔ بعد احکام مقدمات و تتبع موارد استعمال و تفحص آثار (۵) اور کتاب میں ہے فصل غریب قرآن کہ در احادیث ال راہزیدہ اہتمام در بیان فصل تحفیس کردہ شد انواع است (۶) موسوی میں ہے۔ وایمن ما مست الیہ الحاجۃ فی معانیہ اللغویۃ من شرح غریب و ضبط مشکل او معانیہ الفقہیۃ من بیان علة الحکم و اقسامہ۔ (۷) مصنفی میں ہے پس مصنف محدث روایت حدیث ست و تمیز تحریف از غیر آن و شرح

(۱) قرآن کو اعراب لگاؤ اور اس کے غریب باتوں کو تلاش کرو۔

(۲) قرآن کو اعراب لگاؤ اور اس کے غریب باتوں کی پیروی کرو۔

(۳) غریب کی شرح اور اس کے عبارات کی توجیہات کے لئے کتاب مجمع البحار شیخ محمد طاہر حقنی کی ہے تمام مواد۔

(۴) اور اس جملہ غریب کی شرح ہے اور اس کی بنیاد لغت عرب کی تلاش پر ہے یا آیت کے سیاق و سباق، کہنے پر اور یہ جاننے پر کہ لفظ کی مناسبت اس جملہ کے اجزاء سے کیا ہے جس میں وہ واقع ہوا ہے۔

(۵) اور اسی لئے صحابہ و تابعین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں اور ہر ایک نے یہ رائے اختیار کی۔ مصنف کی تفسیر کو دوبارہ غریب کی شرح میں تولنا چاہئے ایک تو استعمالات عرب میں کہ کون سی وجہ زیادہ قوی و ارجح ہے اور دوسری سابق و لاحق کی مناسبت میں کہ کون سی وجہ اولی اور پیشینے والی ہے بعد احکام مقدمات اور استعمالات کے مواقع کے تتبع اور تفحص آثار کے۔

(۶) فصل قرآن کا غریب کہ احادیث میں اس کو مزید اہتمام اور فصل کے بیان کے ساتھ مخصوص کیا ہے وہ کئی قسم پر ہے۔

(۷) اور میں ظاہر کرتا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لغوی معانی بیان کرنے میں غریب کی شرح اور مشکل کو ضابطہ کرنے یا اس کے فقہی معانی سے جو حکم کی علت اور اس کے اقسام بیان کریں۔

غریب و دلالت عبارت کہ باعتبار لغت بودہ باشد۔ (۱) نیز اتفاق میں ہے۔ قال ابو بکر ابن الانباری قد جاء من الصحابة والتابعین کثیر الا حتجاج علی غریب القرآن و مشکله بالشعر الی ان قال و لیس الامر کما زعموه من انا جعلنا الشعر اصلا للقران بل اردنا تبیین الحرف الغریب من القرآن بالشعر۔ (۲) اور اسی کتاب میں دوسری جگہ ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشعر دیوان العرب انتھی فاذا خفی علینا حرف القرآن الذی انزل اللہ بلغة العرب رجعنا الی دیوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه ثم اخرج من طریق عکرمہ عن ابن عباس قال اذا سالتمونی عن غریب القرآن فالتمسوه فی الشعر فان الشعر دیوان العرب..... (۳) پس ان احادیث صدر اور عبارات کتب شرعیہ مفصلہ صدر میں معنی لفظ غریب قرآن اور غریب حدیث کے کیا ہیں آیا الفاظ اور لغات مشککہ مراد ہیں یا کیا اور نیز حدیث شریف و اتبعوا غرائبہ یا التمسو غرائبہ میں غریب سے کیا مراد ہے جواب مشرح لکھوادیتجیحے کہ باعث تسکین ہو۔ (جواب) ان سب میں مراد غریب سے وہ لفظ ہے کہ جس کے معنی ظاہر نہ ہوں مگر لفظ اجوعا غرائبہ میں غرائب کا لفظ عام ہے نکات و معانی غیر معروف اور الفاظ غیر معلومہ سب کو متناول ہے فقط واللہ تعالیٰ۔

### سورہ اخلاص و سورہ یسین کے ثواب کا مطلب

(سوال) حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے اور یسین شریف ایک بار پڑھنے سے دس قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے یہ ثواب مطابق ان لوگوں کے ملتا ہے جو کہ سورہ بقرہ سے سورہ والناس تک پڑھتے ہیں یا حدیث شریف کا کچھ اور مطلب ہے اور اس ثواب سے کس قدر ثواب مراد ہے۔

(۱) پس محدث کا منصب حدیث کی روایت ہے اور تحریف کا امتیاز کرنا اس کے غیر سے اور غریب کی شرح کرنا اور عبارت کی دلالت جو اعتبار لغت ہوئی ہو۔  
 (۲) ابو بکر بن انباری نے کہا ہے کہ صحابہ اور تابعین سے غریب قرآن اور اس کے مشکل پر بہت حجتیں شعر سے آئی ہیں حتیٰ کہ یہ کہا اور معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم نے شعر کو قرآن کے لئے اصل قرار دیا ہے بلکہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے قرآن کے غریب حرف کو شعر سے ظاہر کرنا۔  
 (۳) اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ شعر دیوان عرب ہے جب ہم پر قرآن کا حرف جس کو اللہ تعالیٰ نے لغت عرب میں اتارا ہے پوشیدہ ہو جائے تو ہم نے دیوان عرب کو دیکھا تو ہم نے اس کی معرفت وہاں سے حاصل کی عکرمہ کے واسطے سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے کوئی غریب قرآن پوچھو تو اس کو شعر میں تلاش کرو کیونکہ شعر عرب کا دیوان ہے۔



(جواب) جو تمام قرآن پڑھے گا اس کا ثواب بے نہایت ہے مگر ثواب ایک اصل ثواب ہے ایک انعام ہے معنی یہ ہیں کہ قل ہو اللہ تین بار کا انعام اصل ثواب تمام قرآن کے برابر ہے۔

### سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کا سبب

(سوال) شروع سورۃ توبہ میں بسم اللہ شریف نہ ہونے کا کیا سبب ہے یا سورۃ توبہ اور سورۃ انفال ایک سورۃ ہیں تو اس صورت میں فاصلہ کیوں ہے اور نام ان کے علیحدہ علیحدہ کیوں مقرر ہوئے اور اگر وہ ہیں تو بسم اللہ شریف اس پر کیوں نہیں لکھی گئی اس واسطے کہ شروع ہر سورۃ پر بسم اللہ شریف ضرور ہوتی ہے اور اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھے تو جائز ہے یا نہیں اور جواز مع الکرہت ہے یا بدون کرہت اور بعض شخص جو بوقت شروع سورۃ توبہ کے یہ دعا پڑھتے ہیں یہ ثابت بالسنت ہے یا نہیں اور وہ یہ ہے۔ اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار والعز قللہ ولو سوله وللمومنین۔ (۱)

(جواب) حدیث ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ انفال اول نازل ہوئی تھی اور توبہ اخیر میں اور آپ علیہ الصلوٰۃ نے یہ نہ فرمایا کہ دوسور میں ہیں یا ایک اور قصہ دونوں کا شبیہ تھا۔ لہذا بسم اللہ توبہ پر نہ لکھی کہ شاید انفال کا جزو ہو اور جمع بھی نہ کیا کہ شاید دوسور میں ہوں لہذا فصل بلا تسمیہ کے کر دیا ہے اور بسم اللہ اگر کوئی اس پر پڑھے بلا کرہت درست ہے اور جو معمول بعض کا ہے کہ بجائے تسمیہ کے اعوذ مذکور سوال پڑھتے ہیں اس کی کوئی اصل معتد بہا نہیں اور دوسری روایت جو حضرت علیؓ سے نقل کرتے ہیں وہ چنداں معتبر نہیں وجہ تسمیہ نہ لکھنے کی جو حضرت عثمانؓ سے نقل ہوئی معتبر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مجدد کا مطلب

(سوال) اس حدیث ان اللہ بعث لہذہ الامۃ علی راس کل ملۃ سۃ من مجد دلھا امر دہنھا رواہ ابو داؤد۔ (۲) میں مراد شروع صدی ہے یا آخر اور علامات مجدد کی کیا ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانا جاوے اور تمام دنیا میں ایک ہی مجدد ہوا ہے یا جگہ جگہ جہاں ضرورت تجدید کی ہو اور اس کے نام

(۱) میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں آگ سے اور کفار کے شر سے اور جبار کے غضب سے اور عزت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے۔

(۲) بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر سال کے سرے پر ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے جو اس کے لئے اس کے دینی معاملات کی تجدید کرے اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

میں احمد یا محمد ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں اور اس ۱۳۰۰ھ تک کو کون کون مجدد اور کہاں کہاں ہوئے اور صدی حال کا کون کون مجدد اور کہاں ہے مفصل ارقام فرمادیں۔

(جواب) اس سر کو کہتے ہیں لہذا مجدد شروع صدی میں ہووے گا مگر جو شروع صدی ہے وہ آخر پہلی صدی کا بھی ہے بایں اعتبار اس کو کوئی آخر کہہ دیوے تو ہو سکتا ہے ورنہ جس صدی میں ہووے گا اس کی ابتداء میں ہووے گا تا کہ آخر تک تجدید کا اثر ہے اور علامت اس کی یہی ہے کہ اس کی تقریر تحریر سے اور سعی اور کوشش سے بدعات رفع ہوویں سنت کا شیوع اور مردہ سنن کا احیاء ہووے اور احمد یا محمد ہونا اس کے نام میں ضرور نہیں نہ کسی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اور ان کا علی التعمین جاننا محقق نہیں ہوا اپنے ظن و تخمین سے بعض علماء نے جس کو عالم محقق دیکھا مجدد اس کو ٹھہرا لیا۔ چنانچہ بعد رسول اللہ ﷺ کے تمامی صدی اول پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو اکثر لوگوں نے لکھا ہے دوسری کی تمامی پر کسی نے شافعی رحمۃ اللہ کو کہا کسی نے دوسرے کو کہا علی ہذا مگر کوئی محقق قول نہیں اور جلال الدین سیوطی نے کچھ اس میں لکھا ہے بندہ کے نزدیک وہ قول اسلم ہے جس نے یہ کہا کہ مجدد صدی کا ایک عالم ہونا ضروری نہیں ہر وقت میں دو چار دوس، بیس، پچاس ہوگا۔ مجموعہ ہو یا ایک ہو لہذا بعد ہر صد سال کے جماعت متفرقہ عالم میں ہوتی ہے اور سب کی سعی اصلاح دین میں ہوتی ہے ان کو بقدر اپنے علم ورتبہ کے حصہ تجدید کا ملتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ مگر کسی کو مقرر معین نہیں کہہ سکتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ تحقیقۃ الحال۔

کتے کے ہونے پر فرشتے کا مکان میں داخل نہ ہونا

(سوال) حدیث میں جو وارد ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتہ رحمت کا نہیں آتا اس سے کیا مراد ہے۔

(جواب) اس کتے سے وہ مراد ہے جو حفاظت کا نہ ہو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

احادیث اول ما خلق اللہ نوری ولولاک لما خلقت الافلاک

(سوال) اول ما خلق اللہ نوری (۱) اور لولاک لما خلقت الافلاک (۲) یہ دونوں صحیح حدیثیں ہیں یا وضعی۔ زیدان کو وضعی بتلاتا ہے فقط بینوا تو جروا۔

(۱) سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا تھا وہ میرا نور تھا۔

(۲) اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا۔

(جواب) یہ حدیثیں کتب صحاح میں موجود نہیں ہے مگر شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی کچھ اصل ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### استغفار کا مطلب

(سوال) شرح شریف میں جا بجا اس کی تاکید و ترغیب ہے اب سوال یہ ہے کہ مراد استغفار سے کیا ہے یا توبہ مراد ہے اور توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے یا غیر اور جو لوگ کہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اور کبار و صغائر میں مبتلا ہیں۔ وہ اگر استغفار کریں تو کس طور سے کریں اور کس نیت سے کریں اور ان کو فوائد اور فضائل استغفار کیسے حاصل ہوں یا بغیر توبہ کے استغفار صحیح نہیں اور فضائل اور نتائج۔ اس کے بغیر توبہ حاصل نہیں ہوتی اور استغفار فقط بہ ندامت معاصی بغیر توبہ کامل کے کافی ہوگی یا نہیں اور استغفار کفار کی کہ قرآن شریف میں وارد ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ ماکان اللہ معذبہم وهو یستغفرون (۱)..... آیا توبہ کفر سے مراد ہے فقط۔

(جواب) توبہ اور استغفار ایک شے ہے توبہ کے معنی رجوع کرنا اپنی تقصیر سے اور نادم ہونا اور استغفار کے معنی بخشش چاہنا اپنی تقصیر سے یہ بھی رجوع ہی ہے پس توبہ ہی کہنا مثلاً ندامت فعل کے ساتھ یا استغفر اللہ کہنا یا کوئی کلمہ کہنا جس کے معنی یہ ہوں یا دل میں نادم و شرمندہ ہونا یہ سب توبہ و استغفار و ندامت ہے پس جس لفظ سے اور جس عبارت و زبان سے چاہے کہے مگر ندامت اپنے فعل پر اور پھر اس کو نہ کرنا مصمم ہو پس یہ ہی توبہ اور یہ ہی استغفار۔ اور اس کا ہی ثواب ہے اور آیت قرآن میں جو وہم یستغفرون وارد ہے اس کی تاویل میں چند اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ کفار قریش طواف کرتے ہوئے غفرانک کہا کرتے تھے۔ پس ان کا مطلب غفران بعض اور امور سے تھا جن کو وہ برا جانتے تھے۔ اگر اپنے کفر سے مغفرت چاہتے تو مسلمان ہی ہو جاتے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حدیث اصحابی کا نجوم کی صحت

(سوال) حدیث اصحابی کا نجوم الخ کیا عند الحدیثین موضوع ہے اگر نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہ حدیث جھوٹی بناوٹی ایک زئیل ہے اور بے دینی اور بد مذہبی ہے گستاخی نسبت حدیث اور گناہ ہے یا نہیں۔

(۱) اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ مغفرت طلب کرتے ہیں۔

(جواب) یہ حدیث موضوع نہیں اور اس کی تائید دوسری حدیث سے موجود ہے اختلاف امتی رحمۃ پس گستاخانہ کلام کرنا خود جرأت حصہ بددینی کا ہے اور تبادل کہنا گناہ نہیں زبل کہنا اس کا اگر فسق ہو تو عجب نہیں کہ بیباکی نسبت حدیث کے ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بہتر فرقہ کی بحث

(سوال) کتاب سفر السعادت میں خاتمہ الکتاب احکامات متفرقہ کے آخر میں لکھا ہے در باب افتراق امت برہنہ تادور فرقہ چیزے ثابت نشدہ۔ (۱) اس کا کیا مطلب ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس امت کے بہتر ۷۲ فرقے ناری ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا اس کی اصلیت ہے یا نہیں اور مضمون سفر السعادت کو اس مشہور بات سے کچھ مخالف ہے یا نہیں اگر مخالف ہے تو اس کی کیا وجہ ہے فقط۔

(جواب) صاحب سفر السعادت نے جو تحریر کیا ہے اس کا مفصل جواب شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شرح سفر السعادت میں دیا ہے اور احادیث صحیحہ متعددہ ترمذی والیوداؤد وغیرہ میں ثابت ہوتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم اگر ضرورت ہو تو شرح سفر السعادت میں دیکھ لو فقط۔

### امام زمانہ کی معرفت

(سوال) حدیث میں جس امام زمان کی معرفت کی تاکید ہے اس سے کیا مراد ہے اگر سلطان ہے تو پہچانا مشکل ہے اور اگر پیر طریقت ہے تو وہ مریدوں کا امام ہے نہ زمانہ کا لہذا معلوم ہونا چاہئے۔

(جواب) ہر زمانہ میں مسلمانوں کا ایک حاکم ہوتا ہے اگر ہو تو اس کا جانا ضروری ہے اور اگر نہ ہو تو نہ ہے نہ جانا جاوے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حضور کی رضامندی کا مطلب

(سوال) ایک روایت بطور حدیث قدسی کے اس ملک میں مشہور ہے اور بعض علماء کو دیکھا ہے کہ خطبہ میں بھی پڑھتے تھے۔ اور بعض رسالوں میں بھی اس کو دیکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ تکمیل الایمان تصنیف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ میں بھی تحت مسئلہ شفاعت مندرج ہے مگر

(۱) امت کے بہتر ۷۲ فرقوں سے تفریق ہونے کے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔

کسی جگہ اس کی سند نہیں دیکھی گئی۔ اور نہ کسی کتاب حدیث شریف سے منقول پایا اور وہ روایت یہ ہے۔ ہمہ خلق رضائی من طلبند ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن رضائی تو طلبم کلہم من لدن العرش الی تحت الا رضین یطلبون رضائی وانا اطلب رضاءک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ (۱) یہ عبارت بعض خطیب سے سنی گئی ہے آیا یہ روایت معتبر ہے۔ یا غیر معتبر اور اس کے معنی کیا ہیں اور معنی میں اس کے مطابق شرع شریف کے ہیں یا نہیں۔

(جواب) ۱۔ کہ سند وصحت بندہ کو معلوم نہیں۔ اور جو اس کے معنی آیت ولسوف یعطیک ربک فترضی (۲) کے لئے جاویں تو معنی صحیح ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

### شہد اور کلونجی کا حکم

(سوال) دربارہ شہد اور کلونجی کے جو مروی ہے کہ ہر مرض کی دوا اور شفاء ہے اس کا کیا مطلب ہے۔

(جواب) شہد میں شفاء کا ہونا تو ثابت ہے اور کلونجی میں ہر مرض میں نافع ہونا آیا ہے معنی یہ ہیں اگر حق تعالیٰ چاہے تو شفاء ہوتی ہے کہ ایسی خاصیت رکھی ہے موافقت کا ہونا شرط ہے۔

### حالات قیامت پر بحث

(سوال) کتاب مقاصد الصالحین صفحہ ۳۶ میں ہے۔ نقل ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی آنحضرت ﷺ حضرت ابو بکر صدیق کو حکم کریں گے کہ تم دوزخ کی راہ گھیر کر کھڑے ہو جاؤ اگر کسی شخص کو میری امت سے دوزخ میں لے جائیں تو ہرگز نہ جانے دیجو جب تک میں نہ پہنچوں اور عمر رضی اللہ عنہ کو حکم ہوگا کہ تم میزان کے پاس جا کھڑے رہو اور خیر دار ہو کہ اعمال میری امت کے اچھے تو لے جاویں اگر کسی کا پلہ عبادت کا ہلکا ہو تو اس کا تولنا موقوف رہے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ جب آنحضرت ﷺ خود تشریف لے جاویں گے حکم ہوگا کہ اس کی عبادت میرے رو بروزن کرو فرشتے آپ کا حکم بجالائیں گے۔ جب تولنے کے وقت پلہ کسی کی عبادت کا سبکی کی

(۱) تمام مخلوق میری رضامندی طلب کرتے ہیں اے محمد ﷺ اور میں تیری رضا طلب کرتا ہوں اور سب عرش سے لے کر زمینوں کے نیچے تک رہنے والی میری رضا طلب کرتے ہوں اے محمد ﷺ۔  
(۲) اور عنقریب تجھ کو تیرا خدا عطا فرمائے گا کہ اس سے تو راضی ہو جائے گا۔

طرف مائل ہوگا آپ دست مبارک سے اس پہلہ کو دبا دیں گے کہ بھاری ہو جاوے گا تب فرشتوں کو حکم الہی پہنچے گا کہ اے فرشتو میرے دوست کے خلاف مرضی کوئی کام نہ کرنا کہ آج میں نے اس کو اختیار دیا ہے جو چاہے سو کرے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حوض کوثر پر مامور ہوں گے کہ سب سے پہلے میری امت سیراب ہو دے اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ دوزخ کے دروازے پر متعین کئے جائیں گے کہ کوئی امتی میرا دوزخ میں نہ جانے پائے جب تک میں نہ جاؤں اور آنحضرت ﷺ سایہ عرش میں جا کر اپنے عاصیان امت کی شفاعت میں مصروف ہوں گے اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام ہر اسمہ آپ کے پاس آئیں گے آپ ان سے سب

ممراتگی کا پوچھیں گے وہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ﷺ اس وقت میرا گزر دوزخ کی طرف ہوا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کی امت کا عذاب میں گرفتار ہے اور رو کر کہتا ہے کہ افسوس کوئی ایسا نہیں کہ میرا حال پیغمبر ﷺ سے عرض کرے اور آپ کو میری خبر دے اس کی فریاد میں میرا حال متغیر ہوا آپ یہ سن کر روتے ہوئے دوزخ کی طرف جائیں گے اور اس کو عذاب سے چھوڑائیں گے مالک کو حکم ہوگا کہ ہرگز میرے حبیب کے امورات میں دخل نہ دینا اور چونکہ چرنا بعد اس کے آنحضرت ﷺ میزان کے پاس تشریف لیجائیں گے اور اعمال کے تولنے والوں کو حکم دیں گے کہ اعمال میری امت کے اچھی طرح سے تولنا پھر کنارہ دوزخ پر جا کر فرمائیں گے کہ اے مالک اگر کوئی شخص میری امت کا آئے اس پر سخت نہ کیجئے جب تک کہ میں نہ آؤں آخر کو یہاں تک نوبت پہنچے گی جس شخص کو ملانکہ کے ہاتھ میں دیکھیں گے جناب باری میں عرض کریں گے اے بار خدا اس کو میری التماس سے بخش دے یا مجھ کو بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم دے انتہی۔ اے عزیز کچھ جانتے ہو کہ احکام الہی میں کیا کیا اسرار ہیں فقط لہذا اس کا پڑھنا اور اعتقاد کرنا ان روایات کا صحیح ہے یا غلط اور موضوع ہے۔ بیخود تو جروا۔

(جواب) عبارت مذکورہ بالا کا مضمون احادیث صحاح کے خلاف ہے لہذا غلط ہے اور یہ احادیث مذکورہ بالا موضوع ہیں اور واضح ان کا اور ان پر عقیدہ رکھنے والا داخل حدیث من کذب علی متعمدا فلینبأ مقعده من النار . (۱) اور ایسا شخص فاسق ہے اور اندیشہ کفر کا بھی اس پر ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) جو شخص کہ مجھ پر عداوت جھوٹ کے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔

## رجال کی بحث

(سوال) حدیث شریف لا تشد الرجال الا الى ثلاثة مساجد (۱) الحدیث کے تحت میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ البالغہ میں ارقام فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرجال اقول کان اهل الجاہلیہ یقتضون مواضع معظمہ بزعمهم یزورونہا یتبر کون بہا وفيہ من التحریف والفساد مالا یخفی فساد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفساد لتلا یتحق غیر اشعائر بالشعائر ولنلا یصیر فریعة لعبادة غیر اللہ والحق عندی ان القبرو محل عبادقولى من اولیاء اللہ والطور کل ذالک سواء فی النهی۔ (۲) اور مصنفی شرح موطا: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں تحت حدیث شریف مالک عن یزید بن عبد اللہ بن الہاد عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی ہریرة قال لقیتم بصرة بن ابی بصرة الغفاری قال من این اقبلت فقلت من الطور فقال لو ادركتک قبل ان تخرج الیہ ما خرجت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تعمل المطی الا الی ثلاثة مساجد الی مسجد الحرام والی مسجدی ہذا والی مسجد ایلیا ویت المقلس بشک انتہی (۳) فرماتے ہیں مترجم گوید رضی اللہ عنہ وارضاه تحقیق در نیجا آنت کہ در جاہلیت سفر میکردند بمواضع متبرکہ بزعم خویش پس آنحضرت ﷺ سبب تحریف فرمود و سفر را برائے مواضع متبرکہ کہ غیر مساجد بقصد خصوصیت تبرک باں مواضع منع فرمود تا امر جاہلیت رواج نگیرد آیانی مبنی کہ بصرہ غفاری نبی راشا شامل طور والسنت و ابو ہریرہ از طور منع

(۱) کجاوے معرکے لئے نہ باندھے جائیں مگر تین مساجد کے لئے۔

(۲) نبی ﷺ کا ارشاد لا تشد الرجال اس کے متعلق کہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت لوگ بزرگ مقامات کا قصد کیا کرتے تھے اور اپنے گمان سے ان کی زیارت اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے کیا کرتے تھے اور اس میں جو خرابیاں اور مفاسد ہیں مخفی نہیں ہیں تو نبی ﷺ نے اس فساد کو روک دیا تاکہ غیر شعائر شعائر کے ساتھ نہ لجا جائیں اور تاکہ یہ غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ نہ بن جائیں اور حج تو یہ ہے کہ میرے پاس قبر اور اولیاء اللہ میں سے کسی دل کی عبادت گاہ اور طور سب ممانعت میں یکساں ہیں۔

(۳) مالک نے یزید بن عبد اللہ بن الہاد سے اور انہوں نے محمد بن ابراہیم بن حارث نجفی سے اور وہ سلمہ بن عبد الرحمن سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بصرہ بن ابی بصرہ غفاری سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو میں نے کہا طور سے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں تم کو جانے سے پہلے پالیتا تو نہ نکلتا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ تو سواری نہ کس مگر تین مساجد کے لئے۔ مسجد حرام اور میری یہ مسجد اور مسجد ایلیا بابت المقدس (اس میں شک ہے راوی کو کتاب نے مسجد ایلیا کہا بابت المقدس کہا)

کرد۔ (۱) واللہ اعلم انہی اور ان کے خلف الصدق حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بحديث شریف لاشد الرحال تعلیقاً علی البخاری فرماتے ہیں والمستثنیٰ منه المخلوف فی هذا الحدیث اما جنس قریب او جنس بعید فعلی الاول تقدیر الکلام لا تشد الرحال الی المساجد الا الی ثلثة مساجد وح مسوی مسکوت عنه وعلى الوجه الثانى لا تشد الرحال الی مواضع یقرب به الا الی ثلثة مساجد الی آخره فحینئذ شد الرحال الی غیر المساجد الثلثة المعظم منہی عنه بظاہر سیاق الحدیث ویؤیدہ ماروی ابو ہریرہ عن بصرة بن ابی بصرة الغفاری حین راجع عن الطور وتماہمہ فی الموطا وهذا الوجه قوی من جہتہ مدلول حدیث بصرة واللہ اعلم بالصواب۔ (۲) انہی اور تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں واز ہمیں جاوئ شمس تا کید بلخ کہ حدیث شریف در نبی از زیارت قبور اوز شد الرحال بسوئے موضع غیر از مساجد ثلثہ واز آنکہ قبور انبیاء را مساجد سازند اور شدہ مدعا ہمیں ست کہ درین عمل اکثر جہال را اعتقاد یکہ مشرکین را در بزرگان خود بہم رسید ست بہم میرسد و توجہ الی اللہ محض باقی نما نہ گردد پروردہ حجاب آن ارواح انہی۔ (۳) اور مولانا اسماعیل صاحب شہید علیہ الرحمۃ بھی انہی کے قدم بقدم صراط مستقیم میں فرماتے ہیں۔ از انجملہ قصد زیارات قبور انہا است از جوانب و اقطار زمین بہ کشیدن متاعب و مصائب اسفار و مقاسات آلام لیل و نهار و این اسفار ہم باوجودیکہ در آن کتاب آن صعوبات می درزند بر ظلمات شرک میکشد بودی مخط از دی میرساند عوام این سفر را برابر بلکہ بہ بعض وجوہ بہتر از سفر حج میدانند و صورت احرام و حرمان شنیدہ بعینہا یا بہ مثلہا بر

(۱) یہ فارسی عبارت در اصل ابوہریرہ کی عربی عبارتوں کا ترجمہ ہے۔

(۲) اور اس حدیث میں سختی منحدوف ہے جو یا تو جنس قریب ہے یا جنس بعید اگر جنس قریب ہے تو پھر تو جملہ کا یہ مطلب ہوا کہ مساجد کے لئے کیاوے نہ کے جاویں مگر جن مساجد کے لئے اور لکی صورت میں مساجد کے علاوہ مقامات سے سکوت کیا گیا ہے اور جنس بعید کی صورت میں معنی ہوں گے کہ ان مقامات کے لئے کیاوے نہ کے جاویں جن سے تقرب مقصود ہو مگر جن مساجد کے لئے تو لکی صورت میں ان تین بڑی مساجد کے علاوہ جملہ مقامات ممنوع ہوں گے ظاہراً سیاق حدیث کے لحاظ سے اور اس کی تائید ابوہریرہ کی روایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے بصرہ بن ابی بصرة الغفاری سے روایت کی ہے جب کہ وہ طور سے لوٹے تھے اور پوری حدیث موطا میں ہے اور یہ وجہ بہت قوی ہے حدیث بصرہ کے مدلول کی طرف سے واللہ اعلم بالصواب۔

(۳) اور اس جگہ سے واضح ہوتا ہے راز تا کید بلخ کا جو حدیث شریف میں زیارت قبور سے ممانعت کے بارے میں آیا ہے شد الرحال جو اس مقام کے لئے جو تینوں مساجد کے علاوہ ہو اور انبیاء کی ان قبوروں سے علاوہ ہو جن کو مساجد بنایا گیا ہو و اور ہے اس سے مدعا یہی ہے کہ اس عمل سے اکثر جہال کو جو اعتقاد کہ مشرکین کو اپنے بزرگوں کے متعلق حاصل ہوا ہے بہم پہنچتا ہے اور توجہ الی اللہ محض باقی نہیں رہتی ہے مگر در پردہ ان ارواح کے حجاب میں۔



خودی بند و عبادہ بر آن قیود زائدہ و اہمیہ خود آن مسافران بد انجام در سفر و تمام متعلقان ایشان در حضر التزام میکند القصد اگر چہ ارباب بواطن صافہ را قطع منازل سربسوتے قبور اہل اللہ متفہعے قلیلہ ہی متخذ لیکن بعوام مؤمنین آنقدر مضرتے عظیمہ میرساند کہ خارج از میان اسر۔ پس لا بد ہمہ خواص و عوام را لازم است کہ ازین امر بالکل اعراض کردہ آنرا سنیا سنیا سازند اتھی۔ (۱) اور حضرت مولانا شاہ محمد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماتہ مسائل میں اسی روش پر چلے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں درین مسئلہ علماء را اختلاف است۔ بعضے جائز داشتہ و بعضے حرام نوشتہ چنانچہ در قسطلانی شرح صحیح بخاری و ترجمہ مشکوٰۃ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مرقوم و مسطور است و فی الجمعہ شرح الموصوف ہکذا اما مسافرت برائے زیارت قبور صالحین و رسیدن بمواضع متبرکہ خلاف است بعضے مباح دارند و بعضے حرام گویند اتھی۔ (۲) و فی القسطلانی و اختلاف فی شد الرحال الی غیرہا کالذہاب الی زیارت الصالحین احیاء و امواتا و المواضع الفاضلۃ للصلوٰۃ فیہا و التبرک بہا فقال ابو محمد الجونی یحرم عملا بظاہر الحلین و اختارہ قاضی حسین و قال بہ القاضی عیاض و طائفہ و الصحیح عند امام الحرمین و غیرہ من الشافعیۃ الجواز۔ انتہی و فی شرح المشکوٰۃ لملا علی قاری فہب بعض العلماء الی الاستدلال بہ علی المنع من الرحلۃ لزیادۃ المشاہدۃ و قبور العلماء الصالحین۔ (۳)۔ بحدہ عبارت حجۃ اللہ البالغہ نقل استدلال

(۱) مجملہ ان کے ان بزرگوں کے قبروں کی زیارت کا قصد ہے زمین کی ہر جہت و سمت سے سفروں کی مصیبتیں اور مشقتیں جو برداشت کر کے اور رات دن کے رنج و دکھ کے قیاسات کے ساتھ اور یہ سفر بھی باوجود یکہ اس کے کرنے میں بہت تکالیف اٹھاتے ہیں ان کو شرک کی ظلمات میں گھنچ لے جاتا ہے اور ناراضگی خدا کے جنگل میں پہنچا دیتا ہے عوام اس سفر کو برابر بعض وجہ سے سترج سے بہتر جانتے ہیں اور صورت حرام کی اور غرموں کی کن کر یا تن کر عیبہ یا اسی کے منکس یا بندھ لینے ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور قیود کا جو زائد اور لغو ہوتی ہیں وہ مسافران بد انجام سفر میں اپنے اوپر اور اپنے تمام متعلقین پر قیام کی حالت میں لازم مقرر کر لیتے ہیں حاصل کلام یہ کہ صاف باطن والو کو اگر چاہل اللہ کے قبور کی طرف سفر کرنے کے لئے قطع منازل کرنا قلیل نفع بخشا ہے لیکن عام مسلمانوں کو اس قدر نقصان پہنچاتا ہے کہ خارج از میان ہے لہذا جملہ خاص و عام کو لازم ہے کہ اس امر سے بالکل اعراض کر کے اس کو سنیا سنیا کر دیں۔

(۲) اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے بعض جائز اور بعض حرام لکھتے ہیں چنانچہ قسطلانی شرح صحیح بخاری اور ترجمہ مشکوٰۃ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں مرقوم و مسطور۔ اور شرح موصوف کے ترجمہ میں اسی طرح ہے صالحین کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا اور تبرک مقامات پر پہنچنا اس میں اختلاف ہے بعض مباح رکھتے ہیں اور بعض حرام کہتے ہیں۔

(۳) قسطلانی میں ہے کہ اس کے علاوہ مقامات کے جانے کے لئے کیاوے کے تھامنے کے لئے جاننا اور تبرک حاصل کرنے کی غرض سے پران کی زیارت کے لئے جانا اور تبرک مقامات پر وہاں عبادت کرنے کے لئے جاننا اور تبرک حاصل کرنے کی غرض سے جانا تو اس کے متعلق ابو محمد جوتی کہتے ہیں کہ ظاہر حدیث پر عمل کرنے کے لحاظ سے حرام ہے اور اسی کو قاضی حسین نے اختیار کیا ہے اور اس کو قاضی عیاض نے اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے اور امام حرمین و غیرہ شوافع کے پاس صحیح یہ ہے کہ جائز ہے۔

میں فرمائی ہے اور مولانا سید احمد حاشیہ مائتہ المسائل میں فرماتے ہیں دریں زمانہ کہ مادرانیم شد  
 رحال یعنی مسافرت نمودن برائے زیارت قبور بزرگان عبارت ازاں شدہ است کہ قافلہ مثل  
 حاجیان جمع ساختہ واعلاہ ہدی گرفتہ در زمان معین و مقرر کہ اکثر قریب زمانہ موت صاحب آن  
 قبری باشد بعد بستن جامہ مثل احرام و انداختن نگہا در گردن میر و ند و اطفال خود را ہمراہ خودی بر بند  
 در انجا رفتہ بعد زیارت سرہائے اطفال خود را می تراشد و زوجامت می کند و جداوات نذر نیاز کہ قبل از  
 رفتن استجا بر خود واجب و لازم شمرده اند مودی می سازند و این فعل را در عرف عام رفتن در چھڑی ہائے  
 خوبہ جی و مدار صاحب وغیرہ گویند پس این قسم رفتن بدعتیست بد بلکہ اکثر مردمان مرکب شرک ہم  
 میشوند مولانا علیہ الرحمۃ کہ جواب این سوال مع اختلاف آن ارقام فرمودہ اند صرف جواب آنست  
 کہ برائے زیارت قبر از فاصلہ دور دراز آنجا مرکب کدای امور غیر مشروع نشود سید احمد ۱۲۔ (۱) اب  
 ان حضرات اکابرین نے دلائل مذکورہ سے استدلال منع پر فرمایا ہے۔ اور خود صحابہ نے بھی  
 استدلال منع پر حدیث سے فرمایا گویا ان کے نزدیک معنی حدیث معین تھے بظاہر اس سے عمدہ  
 دلیل کیا ہوگی جو رائے صحابہ ہوئی اور اگرچہ اختلاف بسیر کسی قاعدہ پر کرنے کی گنجائش کسی کو ہو مگر  
 اولیٰ معنی حدیث صحابی کے ہوں گے اور نیز مصالح شرعیہ اسی پر مشتمل ہیں کہ جہلا کو دروازہ فساد کھلا  
 ملے گا چنانچہ فضل رسول بدایونی نے آنحضرت اکابرین دہلی پر طعن و تشنیع بد زبانی کی ہے کہ قلب کو  
 صدمہ ہوتا ہے اور سوائے صبر چار انہیں لہذا گذارش فدویانہ کی جاتی ہے کہ جو رائے مسئلہ ہذا میں  
 مناسب رائے حضور ہوا اس سے مطلع فرمادیں کہ عملدرآمد اس کے مطابق کیا جاوے۔

(جواب) یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے دونوں جانب اکابر علماء ہیں اب اس میں فیصلہ ممکن نہیں آپ کو  
 اختیار ہے کہ چاہے جس پر عمل کریں اور دوسری جانب طعن بھی نہ کریں مگر ہاں عرس کے جمع میں  
 جانا اور عوام کا اس میں غلو کرنا حرام ہے اور مانعین کی غرض بھی جہلا عوام کو روکنا اور سد باب تحریف کا

(۱) یہ زمانہ جس میں ہم ہیں ”شدر حال“ یعنی بزرگوں کے قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ قافلہ  
 مثل حاجیوں کے جمع کر کے اور جہنڈے اور فریادیاں لے کر مقررہ معین زمانے میں کہ یہ زمانہ اکثر اس صاحب قبر کی  
 موت کے زمانہ سے نزدیک ہوتا ہے کہ پڑا مثل احرام کے باندھ کر اور پھول گردن میں ڈال کر جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو  
 بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر زیارت کے بعد اپنے بچوں کے سروں کو منڈواتے ہیں اور حجامت بخواتے  
 ہیں اور نذر نیاز جو دعا گئی سے پہلے اپنے پر واجب و لازم کر چکے تھے ادا کرتے ہیں اور اس فعل کو عرف عام میں ”خوبہ جی  
 کی چھڑی میں جانا“ مدار صاحب کی چھڑی میں جانا“ کہتے ہیں پس اس کا جانا بدعت ہے بلکہ اکثر لوگ شرک کے بھی  
 مرکب ہو جاتے ہیں مولانا علیہ الرحمۃ کہ اس سوال کا جواب مع اس کے اختلاف کے لگھ چکے ہیں اس کا جواب صرف یہ ہے  
 کہ زیارت قبر کے لئے دور دراز کے قافلہ سے اس جگہ کسی امور غیر مشروع کا مرکب نہیں ہوتا ہے سید احمد۔

ہی ہے تو صحیح ہے بہر حال مسئلہ وہ ہی ہے جو لکھا گیا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### صلوٰۃ العاشقین

(سوال) چار رکعت وقت صبح کاذب کے رکعت اول میں بعد فاتحہ و اخلاص کے یا اللہ سو۱۰۰ بار رکعت دوم میں بعد الحمد و اخلاص کے یا رحمن ۱۰۰ سو بار رکعت سوم میں بعد فاتحہ و اخلاص کے یا رحیم ۱۰۰ سو بار رکعت چہارم میں بعد فاتحہ و اخلاص یا دو سو۱۰۰ بار پڑھنے سے مقرب خدا تعالیٰ کا ہوگا یہ نماز ایک کتاب میں لکھی ہے اور اس نماز کو صلوٰۃ العاشقین کہتے ہیں یہ نماز جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) اس صلوٰۃ کی سند کسی حدیث کی کتاب سے یا فقہ سے بندہ نے نہیں دیکھی۔

### سایہ مبارک رسول اللہ ﷺ

(سوال) سایہ مبارک رسول اللہ ﷺ کا پڑتا تھا یا نہیں اور جو ترمذی نے نوادر الاصول میں عبدالمالک بن عبد اللہ وحید سے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سایہ نہیں پڑتا تھا سند اس حدیث کی صحیح ہے یا ضعیف یا موضوع ارقام فرمادیں۔ (جواب) یہ روایت کتب صحاح میں نہیں اور نوادر کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں کہ کیسی ہے نوادر الاصول حکیم ترمذی کی ہے نہ ابو یسٰی ترمذی کی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عمارت پر خرچ کرنے کا مطلب

(سوال) اس حدیث ترمذی شریف النفقة کلها فی سبیل اللہ الا النباء فلا خیر فیہ۔ (۱) میں مطلق بناء کو فلا خیر فیہ میں داخل فرمایا ہے مگر بعض بناء تو ضرورت پڑتی ہوتی ہے اگر وہ بھی فلا خیر فیہ میں داخل ہوئی تو بڑی دشواری ہوگی یا بناء زائد از حاجت مراد ہوگی۔ (جواب) جو بناءئے حاجت سے زیادہ ہو یہ حدیث اس میں وارد ہوئی ہے۔ جیسا بعض آدمیوں کو زائد از حاجت بناء کا شوق ہوتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### معجزہ قدم شریف

(سوال) معجزہ قدم شریف یعنی سنگ موم ہو کر نقش قدم ہو جانا چنانچہ بکثرت دیکھا جاتا ہے کہ

(۱) تمام خرچ اللہ کی راہ میں ہیں بجز عمارت کے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

لوگ لئے پھرتے ہیں احادیث صحیحہ مستندہ سے ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب) کتب احادیث سے تو اس کا پتہ نہیں چلتا البتہ تصدیق ہمزہ میں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ نقش قدم کا ظاہر ہوا ہے لیکن آج کل جو لئے پھرتے ہیں ان کا اعتبار نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## حضرت مرزا جان جاناں کا مسلک

(سوال) ملفوظات حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ہے عجب است کہ حدیث صحیح غیر منسوخ کہ محدثین بیان آن نمودہ اند و احوال رواة آن معلوم است و بچند واسطہ می رسد بہ نبی معصوم کہ خطا را بر آن راه نیست و بزیاہ از وہ واسطہ می رسد بچہد کہ خطا و صواب از شان اوسط معمول گرویدہ است رہنالا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا. (۱) اس عبارت کی وجہ سے وہ لوگ جو باوجود احادیث صحیحہ غیر منسوخ کے جس کی شہادت عند الحمد ثین اہل فن ثابت ہو گئی ترک کر کے دیگر کتب و اقوال پر کہ ان کا حال بضبط ناقلاں ثابت نہیں عمل کرتے ہیں حضرت مرزا صاحب قدس سرہ کو غیر مقلد اور برا کہتے ہیں۔ یہ قول ان کا گناہ اور ناحق ہے یا نہیں اور عبارت مذکورہ صحیح ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ عبارت صحیح ہے اور یہ حکم اس شخص کے لئے ہے کہ تمام احادیث کی صحت و سقم سے واقف ہو اور دلائل ائمہ مجتہدین اور فقہاء سے بھی واقف ہو پس یہ عبارت کچھ غیر مقلدوں کو مفید نہیں اور اس عبارت کی وجہ سے حضرت مرزا صاحب علیہ الرحمۃ کو غیر مقلد اور برا کہنے والا قاسق ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## معجزہ کی حقیقت

(سوال) قرآن میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. (۲) اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الخ. (۳) فطرت وہی ہے جس پر خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا ہے اور خدا کی فطرت میں

(۱) تعجب ہے کہ حدیث صحیح جو منسوخ بھی نہیں جس کو محدثین نے بیان کیا ہے اور اس کے راویوں کا حال بھی معلوم ہے اور وہ چند واسطوں سے نبی معصوم تک پہنچتی ہے جس میں خطا کو کوئی دخل نہیں ہے اس کو تو عمل میں نہیں لاتے ہیں اور فقہ کی روایت جس کو نقل کرنے والے قاضی و مفتی ہیں اور ان کے ضبط و عدل کا حال معلوم اور اس واسطے سے زیادہ میں مجتہد تک پہنچتی ہے اور خطا و صواب واسطوں کا معمول بن گیا ہے اللہ ہماری گرفت نہ فرما اگر ہم نے بھول کی یا خطا کی۔

(۲) اس قابلیت کا اتباع کرو جس قابلیت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کر دیا ہے اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

(۳) اور تم اللہ کی سنت میں نہ پاؤ گے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔

تبدیلی نہیں ہوگی اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ خدا کے طریقہ میں ہرگز تبدیلی نہیں ہوگی اور خدا کا کلام اور وعدہ بالکل سچا ہے تو فطرت کے خلاف عصا کے اڑدہا ہونے اور باکرہ کے بچہ پیدا ہونے اور ناقہ وغیرہ معجزات کا کیسے ظہور ہوا اگر یہ فرمادیں کہ خداوند تعالیٰ کو سب قدرت ہے تو ان آیات میں استثناء ہونا چاہئے تھا جیسا اکثر جگہ بعض جزئیات کو خداوند تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے۔  
- لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس۔ (۱) تو ایسے ہی استثناء ہونا چاہئے تھا ورنہ معجزات انبیاء کا ثبوت دشوار ہے۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی ایمن کی ذنی طرف سے درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ ادھر میں خداوند رب العالمین ہوں، اس میں یہ تردد ہے کہ درخت میں ذات باری تعالیٰ نے حلول فرما کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ ندا دی اور درخت ادنی مخلوقات میں سے ہے اور جو یہ خیال کیا جاوے کہ ذات باری تعالیٰ نے درخت میں جلوہ نہیں فرمایا بلکہ درخت کو حکم فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ بولنے لگا کیونکہ خداوند تعالیٰ کو سب قدرت ہے تو یہ فریاد مانا غلط ہو جائے گا کہ انا اللہ رب العالمین۔ (۲) اور ظاہری اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر تاویل پر کیسے اعتبار ہوگا۔

(۳) خداوند تعالیٰ کلام مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ یہ آں مجید پہاڑ پر نازل کیا جائے تو پہاڑ خوف سے شق ہو جاتا اس میں تردد ہے کہ پہاڑ بے حس اور آدمی ظاہری اور باطنی و حواس رکھتا ہے جس کے اندر خوف کا مادہ بھر ہوا ہے اس کو جنبش تک نہ ہو سو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمادیا اس کا ثبوت عقلی و نقلی دلائل سے دے کر اطمینان فرمادیں۔

(جواب) واللہ الموفق للصواب فطرة الله التي فطر الناس الاية اس آیت کے اگر یہی معنی ہوں جو مسائل نے سمجھے ہیں تو مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی پیدائش کو کوئی متغیر نہیں کر سکتا مگر خدائے تعالیٰ جل شانہ خود اپنی خلق کو جس طرح چاہے متغیر کر سکتا ہے اور معجزہ بھی خدائے تعالیٰ کی طرف سے بسبیل خرق عادت ہوتا ہے کوئی مستقل طور پر اس کے اصدار پر قادر نہیں نبی کو بھی اس کے اصدار پر بالکل وبالاستقلال قدرت نہیں ہوتی لہذا عصا کا اڑدہا ہونا پہاڑ سے ناقہ کا پیدا ہونا وغیرہ امور یہ سب خدائے تعالیٰ ہی کا بدلا ہوا ہے پس اس پر کچھ اشکال نہیں دیکھو حق تعالیٰ بیضہ پیدا کرتا ہے اگر اس کو توڑ کر دیکھیں تو اس میں زردی و سفیدی ہوتی ہے۔ پھر وہی اس کو خون بنا کر

(۱) ان کی بہت سے سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جس نے حدیث کا حکم دیا کسی ننگی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا۔

(۲) جس ہی اللہ ہوں جو رب العالمین ہے۔

اس میں سے بچہ پیدا کرتا ہے ایسے ہی نطفہ سے آدمی بلکہ بہت سے تغیرات پر باذن اللہ تعالیٰ آدمی بھی قادر ہوتا ہے۔ جیسے کسی شے کو جلا کر راکھ بنا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جملہ تغیرات باذنہ تعالیٰ ظہور پذیر ہیں پس ان تبدیلیات کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے فہم سے اصلاً بہرہ نہ ہو اور آیت شریفہ میں ہرگز یہ معنی مراد نہیں ہیں۔

(۲) کلام مذکور درخت کی جہت سے اور درخت میں سے اگر آیا ہو تو اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ وہ شجر متکلم ہو مثلاً اگر کوئی شخص دیوار کے پیچھے سے یا پردہ کی آڑ سے یا تابدان میں آواز دے تو ظاہر ہے کہ آواز ان اشیاء میں سے ہو کر نکلے گی مگر اس سے وہ آواز اس شے میں سے نکلی ہے کوئی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیوار اور کپڑا اور تابدان متکلم ہیں متکلم تو وہی ہے کہ جس سے اصدا کلام کا ہوا ہے اور جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہے نہ کہ وہ دیوار اور پردہ اور تابدان پس اسی طرح یہاں بھی متکلم جناب باری تعالیٰ عزاسمہ ہیں اور جانب وجہت صدور نہ آواز شجرہ ہے اس سے شبہ حلول یا شبہ کہ وہ جو شجرہ مدعی الوہیت ہو سراسر نادانی ہے۔

(۳) لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرابته خاشعا متصدعا من خشية الله. (۱) اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے احکام قرآنی بشر پر نازل ہوئے ہیں اگر یہ حکم جبل پر نازل ہوتا اور اس کو متکلف بنایا جاتا تو اس کا خشیت باری تعالیٰ سے یہ حال ہوتا کہ وہ کھڑے کھڑے ہو جاتا پس انسان باوجودیکہ احساس و ادراک میں اس سے بہت زیادہ ہے مگر اس کو اس قدر غفلت ہے کہ اصلاح اثر نہیں ہوتا اس پر یہ استعجاب کہ انسان پر باوجود جو اس عشرہ ظاہرہ و باطنیہ کے اثر نہیں ہوتا بے محل ہے اس لئے کہ اگر انسان پر غفلت و قسوت کا پردہ نہ ڈالا جاتا تو بے شک وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا مگر چونکہ اس میں جبل کے برخلاف شہوات وغیرہ کو غالب کر دیا ہے اس لئے وہ برداشت کر دیتا ہے اور جب قسوت و غفلت کم ہو جاتی ہے تو انسان کی بھی حالت قابو میں نہیں رہتی چنانچہ بہت سے اکابر کے حالات اس قسم کے مشہور ہیں کہ قرآن شریف سن کر ان کا کیا حال ہوا حتیٰ کہ بہت سے اسی وقت مر گئے ہیں اور جن مقربان بارگاہ کو باوجود حضور قلب و حصول تدبیر و تفکر کے پھر بھی تغیر نہیں ہوتا تو یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو قوت و اثبات و استقلال جو عطا ہوتا ہے اس کی برکت و سبب سے ہے اور یہ کہنا کہ جبل وغیرہ کو اصلاً احساس نہیں ہے۔ اصول اسلامیہ کے خلاف ہے اور واقف حدیث نبویہ ان اشیاء میں ایک قسم کا ادراک و احساس سے انکار

(۱) اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ عاجزی کرنے والا ہوتا۔ اور اللہ کے خوف سے پارہ پارہ ہو جاتا۔

نہ کرے گا حق تعالیٰ نے ان جملہ اشیاء میں ایک قسم کا ادراک و احساس رکھا ہے اگرچہ وہ ادراک اس قسم کا نہ ہو کہ انسان و ملائکہ و جن کو دیا گیا ہے۔ مگر وہ..... اپنے اس نوع ادراک سے بوجہ اپنی قوت و وحیہ کے اور نہ ہونے قساوت کے اور نہ ہونے اس قوت کے جو خواص بشر میں رکھی گئی ہے اگر اس پر قرآن شریف نازل کیا جاتا تو ہرگز اس کی برداشت نہ کرتا اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ اگر جبل کو ادراک دیا جاتا جو انسان کو دیا گیا ہے تب اس کا یہ حال ہوتا پس اگر یہ معنی لئے جاویں تب تو کوئی اشکال ہی وارد نہیں ہوتا اور بندہ بوجہ معذوری چشمہ کے بسط جواب سے معذور بھی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

### پان کھانا

(سوال) پان کھانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں زید کہتا ہے کہ پان کھانے کی بہت تعریف حضرت ﷺ نے فرمائی ہے قول زید صحیح ہے یا غلط ہے۔  
(جواب) جو شخص پان کھانے کی فضیلت آنحضرت ﷺ کے قول سے ثابت بتاتا ہو وہ بڑا جاہل بلکہ بے دین ہے اس کی بات بھی نہ سنا چاہئے۔

### عمارت کو بلند نہ بنانے کا مطلب

(سوال) ایک کتاب میں لکھا ہے کہ چھ گز سے زیادہ تعمیر کو بلند کرنا حدیث میں بالصرحت منع آیا ہے چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک گول گھر بلند بنایا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے سلام علیک ترک کر دیا بعدہ ان صحابی نے وہ مکان گرا دیا تو حضرت ﷺ خوش ہو گئے لہذا اصل مسئلہ فرمادیتے۔

(جواب) ضرورت سے زیادہ تعمیر موجب باز پرس ہے اور باعث خسارہ آخرت بھی ہے اور اصحاب سے ایسا فعل اور بھی زیادہ بعید اس لئے حضرت ﷺ ناراض ہوئے چھ گز کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ مدارج حاجت ہے فقط۔

### صدقہ کھانے سے دل پر اثر

(سوال) طعام المیت یمیت القلب طعام المریض یمرض القلب. (۱) حدیث ہے

(۱) میت کا کھانا دل کو مارتا ہے اور بیمار کا کھانا دل کو بیمار ڈال دیتا ہے۔

یا قول طعام ایصال ثواب مثل یازدہم غوث الاعظم یا برسی و ششماہی وغیرہ کہ ہندوستان میں رائج ہے یا بلا تودیوم وغیرہ طعام ایصال ثواب کے واسطے تیار کیا جاوے تو اس کا کھانا حرام ہے یا مکروہ تحریمیاً تزیہاً جائز خصوصاً ذکرین شاعلمین کے حق میں کیا حکم ہے۔  
(جواب) یہ قول ہے اور یازدہم کا طعام بھی ایسا ہی ہے سب صدقہ ہے اور سب کا کھانا موجب امانت قلب ہے فقط۔

### عزامت مال کا مطلب

(سوال) السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غرامت مال کا حدیثوں میں جہاں مذکور ہے محشی اسے منسوخ لکھتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ اس کا نسخ کیا ہے اور نسخ میں اتنی قوت ہے کہ ان احادیث ثلاثہ ثابت کو اس کے مقابلہ کی کہہ سکیں۔ مشہور یوں ہے کہ اگر شخص اکیلا گھر میں نماز پڑھے اور پھر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے تو ظہر و عشا میں شریک جماعت ہو جاوے اور صبح و عصر اور مغرب میں شریک نہ ہو حالانکہ ابوداؤد شریف میں جو واقعہ مذکور ہے اس میں حضرت ﷺ کی جنگی کی وجہ صبح کی جماعت میں شریک نہ ہونا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے۔ فقط

(جواب) غرامت مالی ابتداء اسلام میں تھی پھر حکم ہو گیا لا یحل مال احد الا باذنه او کما قال یہ اس کا نسخ ہے اور اس مسئلہ کو طحاوی نے لکھا ہے **ترجمہ** دیکھ لینا اور اس پر اجماع بھی ہے اور ابوداؤد شریف میں جو حدیث وارد ہوئی ہے وہ صبح کے وقت میں ہوئی کہ صبح کے وقت کی ادا کو آپ نے نہیں فرمایا اگرچہ عتاب کا لفظ عام اور بعد صلوة صبح کے نوافل کی ممانعت عموماً ہے وہ اس کی نسخ بھی ہو سکتی ہے مگر یہاں نسخ کی حاجت نہیں کہ عتاب بوجہ عدم شرکت کے تھا اور بعد معلوم ہونے کے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں آپ نے اس وقت کی نماز میں کچھ نہیں فرمایا بلکہ کلیتہً یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ کے آیا کرے نماز میں شریک ہو جاوے چونکہ اس وقت کے نفلوں کی ممانعت پہلے ہی ہو چکی تھی لہذا رسول اللہ ﷺ نے اس کی تصریح نہیں فرمائی اور نہ یہ فرمایا کہ اگرچہ تم پڑھ کر آئے تھے تم کو شریک ہونا تھا بلکہ کلیتہً مسئلہ بیان فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ کے آوے شریک جماعت ہو جاوے متغلاً اسی واسطے عبد اللہ بن عمر عصر کی نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے کہ صحابہ اس استثناء سے مطلع تھے فقط و سلام۔



تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا

(سوال) تین دن سے کم قرآن کو ختم کی کراہت حدیث ترمذی سے معلوم ہوتی ہے۔ مگر بعض اکابر فقہاء سے یہ امر ثابت ہے اس سے کیا مراد ہے۔

(جواب) کراہت کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ یہ ہے کہ ایسے پڑھنے میں افہام نہیں ہوتا مگر پڑھنے میں ثواب بلا کراہت ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ملفوظات

بسم اللہ کو جہر سے تراویح میں پڑھنا

(سوال) (۱) عام قاری کے نزدیک جن کی قرآن ہندوستان میں پڑھی جاتی ہے اور تمام قرآن مطبوعہ اسی کے موافق ہیں۔ بسم اللہ ہر سورۃ کا جزو ہے لہذا ان کے نزدیک ہر سورۃ کے اوپر بسم اللہ کو جہر کے ساتھ پڑھنا چاہئے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ ایک آیت قرآن شریف کی ہے اس کو کسی ایک جگہ جہر سے پڑھ دینا چاہئے سوائے سورۃ نحل کے پس جو لوگ کہ مذہب حنفیہ کی رعایت رکھتے ہیں وہ بسم اللہ کو ایک بار پکار کر پڑھ لیتے ہیں سوائے سورۃ نحل کے کیونکہ یہ بسم اللہ کسی سورۃ کا جزو نہیں مستقل آیت ہے امام صاحب کے نزدیک پس برعایت مذہب حنفیہ جس سورۃ کے ساتھ چاہے اس کو پڑھ لیوے۔ کوئی قید نہیں کہ اور اگر رعایت قاری عام کی منظور ہے تو ہر سورۃ کے اوپر جہر پڑھنا چاہئے در صورت مذہب حنفیہ کوئی احتیاط کی بات نہیں یکساں ہے۔

## لا صلوة الا بحضور القلب کا مطلب

(۲) مسئلہ لا صلوة الا بحضور القلب . (۱) میں حضور قلب مطلق واقع ہوا ہے اور مطلق کا قاعدہ ہے کہ اگر ادنیٰ سے ادنیٰ فرد بھی اس کی پائی جاوے تو امتثال امر ہو جاتا ہے پس ادنیٰ حضور یہ ہے کہ نماز پڑھنا جانے اور بکبیر تحریرہ میں نیت نماز کی ہو اور ہر رکن میں یہ جان لے کہ فلاں رکن کرتا ہوں پس فرض ادا ہوا کہ مطلق حضور کی ادنیٰ فرد موجود ہے اسی طرح اگر اول سے آخر کسی رکن میں سو گیا تو رکن ادا نہیں ہوتا پس فرض نماز تو اس قدر حضور سے ادا ہوتی ہے اور کمال کی انتہا نہیں۔ والسلام۔

(۱) حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کتاب العلم

جو عالم بہ نیت و عزم میلہ میں جائے

(سوال) عالم کو بطور وعظ کے میلہ میں جانا مثل میلہ پیران کلیئر کے درست ہے یا نہیں اور اس کی نیت ہاں جانے سے یہ ہے کہ وہاں جا کر مباحثہ مخالفان سے کرے۔

(جواب) میلہ میں جا کر عالم اگر سیر و تماشا نہ کرے اور میلہ کی برائی بیان کرے اور لوگوں کو وہاں سے چلے جانے کی ہدایت کرے تو درست ہے بلکہ بہتر و موجب ثواب ہے البتہ اگر وعظ و تماشا دونوں کرے تو گنہگار ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

والدین کی اجازت کے بغیر طلب علم کے لئے سفر کرنا

(سوال) بلا اجازت والدین کے طلب علم سفر کرنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر علم فرض کی تعلیم کو باہر بدوں اذن والدین کے جاوے بشرطیکہ شہر میں حاصل نہیں ہو سکتا تو درست ہے ورنہ درست نہیں فقط۔

## تقویٰ اور فتویٰ کا فرق

(سوال) تقویٰ کس کا حکم ہے اور فتویٰ کس کا حکم ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ اور ان دونوں میں سے ہم پر کس پر عمل کرنا فرض ہے۔

(جواب) فتویٰ یہ ہے کہ جس کو علماء نے بدلیل قرآن و حدیث جائز کہا اس پر عمل کرے اگرچہ بعض وجہ سے اس میں ممانعت بھی معلوم ہوتی ہو اور تقویٰ یہ ہے کہ جہاں شبہ ہو اس کو بھی نہ کرے پہلی کو رخصت کہتے ہیں اور دوسری کو عزیمت دونوں حکم شرع کے ہی ہیں اور دونوں میں جس پر عمل کرے درست ہے رخصت سے باہر نہ نکلے اور تقویٰ کرے تو بڑا اجر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## عبادت کا مطلب

(سوال) شرع شریف میں معنی عبادت کے کیا ہیں کہ جو سب افراد و اقسام عبادت پر صادق

ہوویں اور معنی مشہور غائت التذلل لغایۃ التعظیم (۱) سب افراد پر بذہن ناقص شامل و صادق نہیں ہوتے اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے معنی عبادت اطاعت لکھے ہیں رسالہ ایہا الولدین پس ایسے معنی ارشاد ہوویں کہ تمام امور حسنہ اور پسندیدہ شارع پر صادق آویں۔  
(جواب) یہ حد سب عبادات پر صادق ہے کیونکہ مستحب میں بھی لوجہ اللہ ہی تذلل و اطاعت ہوتا ہے۔

## تقرب کا مطلب

(سوال) معنی تقرب کیا ہیں کہ جس کے کرنے سے واسطے غیر اللہ تعالیٰ کے شرک لازم آتا ہے فقط۔  
(جواب) معنی تقرب کے کسی سے نزدیکی و اقلیت حاصل کرنا کہ اس میں جملہ حوادث سے امن چاہے اور استقلالاً اس سے نفع چاہے۔

## نماز میں حضور قلب رکھنے کا مطلب اور اس کا حکم

(سوال) مراد حضور نماز سے کیا ہے کہ جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی اور وہ حضور فرض اور واجب ہے اور وہ کس قدر ہے۔ فقط۔  
(جواب) مطلق حضور فرض ہے ادنیٰ اس کا یہ ہے کہ ان افعال کو جان کر کرے۔ فقط۔

## قاضی جس جگہ نہ ہو وہاں حکم کے فیصلہ کا حکم

(سوال) مسئلہ جہاں قاضی شرعی نہ ہو تو وہ احکام جو قضا پر موقوف ہیں اگر باتفاق ہو تو مدعی خود اپنا حق بدون قلت و تجاوز کے لے سکتا ہے اگر دونوں اپنے اپنے زعم میں حق پر ہوں تو عرف و اتفاق سے حکم ہو سکتا ہے مدعی کو اپنی حقیقت پر وثوق کامل نہیں تو بے تحکیم کچھ نہیں ہو سکتا۔  
(جواب) جہاں قاضی نہ ہووے تو تحکیم سے جو بشرائط خود ہووے فیصلہ کرانا چاہئے اور حکم حکم مثل حکم قاضی کے ہووے گا مگر مدعی کو جس حق میں خود وثوق ہووے ایسی شے کو بحکم حکم لینا بھی درست نہ ہوگا معہذا اگر تحکیم کرنا مدعی نے لے لیا تو معاف کروالیویں ورنہ مال مشتہر رہے گا اور ایسی صورت میں مدعی گناہ سے خالی نہیں ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) انتہائی تعظیم کے لئے انتہائی ذلت اختیار کرنا ہے۔

## مناظرہ کرنے کی کس کو اجازت ہے

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین حامیان شرع متین ان مسکلوں میں۔ اولاً یہ کہ رد کرنا کفار کا خصوصاتی زمانہ جو کفر نے بمقابلہ اسلام تحریر و تقریر و طبع کو شدت پیش کیا ہے تو اب اہل اسلام کو واسطے تکذیب کفر کے باوجود آزادی بہ نسبت تنازع باہمی تحریر و تقریر کیا حکم ہے دوسرا یہ کہ بیان کرنا خوبی اصول اسلام و قباحت کفرہ مجموعوں میں اور بازاروں میں بطور وعظ بہ نسبت جلوس خلوتوں کے کیا حکم ہے سوئم یہ کہ باوجود لیاقت علمی و مالی بقدر وسعت امور مذکورہ بالا میں سعی نہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ بیوا تو جروا۔

(جواب) جو شخص جملہ علوم شرعیہ سے بخوبی واقف اور دقائق عائد و کلام و تحقیق اعمال و اخلاص سے ہمہ وجوہ نامور ہو اور فہم و ذکا اور تدین سے مزین ہو اور مناظرہ و تردید کفر ایسی عمدہ طرح پر کر سکے کہ کسی وجہ سے اسلام پر کوئی حرف و عیب عائد نہ ہو اور خود تشکیک مخالفین میں طوٹ نہ ہو جاوے تو ایسے شخص کو رد نصاریٰ و دیگر منکرین اسلام کا کرنا اور بازار و جامع میں حمایت و خوبی اسلام کا اظہار و وعظ کرنا درست ہے اور کتب مخالفین کو بھی دیکھنا جائز ہے اور جو کوئی ان شرائط مذکورہ سے مفقود ہو تو اس کام میں پڑنا سخت حرام ہے اور موجب فساد اسلام ہے اور جو شخص متقی اس وصف مذکورہ بالا کا ہو تو اس کو یہ کام کرنا بہ بعض وجوہ اولیٰ خلوت سے ہے اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ کوئی امر مذموم نہ رہے اس کے ساتھ مختلط نہ ہو ورنہ ہرگز حلال نہ ہوے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

## ایسے معاملات کا حکم جس میں جواز و عدم جواز کا احتمال ہو

(سوال) مسئلہ جو معاملات ایک دلیل سے جائز دوسرے اعتبار سے ممنوع ہوں مثلاً اجارہ قرار دیں تو ناجائز ہے اور بیع سمجھیں تو جائز ہے اور کسی طرف نص صریح نہ ہو تو بنظر سہولت دلیل جواز اقویٰ و اولیٰ ہے یا نہ۔

(جواب) اگر ایک عقد میں احتمال صحت و فساد و وجہت سے ہو سکے اگرچہ تصریح نہ ہوے تو حمل کرنا عقد صحیح پر چاہئے چنانچہ ہدایہ میں اکثر جائد کورہا ہے باب الصرف میں ہے وانہ طریق متعین لتصحیحہ یحتمل علیہ تصحیحاً لتصرفہ انتھی (۱) واللہ اعلم۔

(۱) اور اس کی صحت کا ایک طریقہ متعین ہے جس پر اس کے تصرف کی صحت کا احتمال ہے۔

بضرورت ایسے قول پر عمل کرنے کا حکم جو غیر مفتی بہ ہو

(سوال) مسائل مختلفہ مجتہد فیہا میں غیر مفتی بہا پر عمل کرنا درجہ کراہت سے زیادہ نہیں ہو سکتا مگر گاہے گاہے حالت ضرورت میں غیر مفتی بہ یا غیر مقلد کی قول پر عمل کرنا کیسا ہے۔  
(جواب) ضرورت کے وقت روایت غیر مفتی بہا پر اور مذہب غیر پر عمل کرنا درست ہے اگرچہ اولیٰ انہیں خصوصاً اضطراری و عموم بلویٰ میں کذا فی رد المحتار واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عالم بے عمل کی تعریف

(سوال) عالم بے عمل وہی ہے کہ اوروں کو بتائے اور آپ نہ کرے یا عالم بے عمل اور ہے یہ نہیں۔

(جواب) عالم بے عمل جو تلقین کرے اور خود خلاف شرع کرے اگر لوگوں کو وظائف نوافل تلقین کرے خود نہ کرے وہ برائے نہیں مگر واجبات کو ترک کر کے ممنوعات کو کرے وہ عالم بے عمل ہوتا ہے۔

### جہلاء سے بحث و مباحثہ کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنا

(سوال) زید ایک معمولی سامولوی ہے لوگوں سے مسائل متنازعہ فیہ میں گفتگو کر کے فساد کرتا ہے اور عوام اور جہلاء سے بلاوجہ بحث و مباحثہ کرتا ہے مسائل مختلفہ فیہ میں نہایت تشدد کرتا ہے چنانچہ عمرو سے جو ایک مبتدی طالب علم فقہ الیمن وغیرہ پڑھتا ہے مسئلہ رفع یدین فی الصلوٰۃ عند الركوع میں گفتگو کی زید نے کہا رفع یدین عند رکوع ممنوع فی الحدیث ہے۔ عمرو نے جواب دیا نہیں بلکہ سنت ہے چنانچہ سبیل الرشاد میں رفع و عدم رفع کو سنت تحریر فرما کر عدم رفع کو راجح لکھا ہے ممنوع نہیں ہے اگر ممنوع فی الحدیث ہوتا تو سبیل الرشاد میں ضرور تحریر فرمایا جاتا تو زید نے اس کے جواب میں کہا میں کسی کا کلام نہیں مانتا اور چند کلمات سخت کہے۔ عمرو نے بھی اس کے جواب میں غصہ سے یہ کہا جو سنت کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کو ممنوع کہے وہ ملحد ہے لہذا عرض ہے جو طور سبیل الرشاد میں تحریر ہوا ہے یہی درست ہے یا رفع یدین مذکور ممنوع فی الحدیث ہے اور زید جو لوگوں کو ایسے الفاظ کہتا ہے اور کہلاتا اور لوگوں کو اور غلاتا ہے کس جرم کا مستحق ہے اور اس حدیث کا مصداق ہے یا نہیں من طلب العلم لیجاری بہ العلماء

ولیساری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار . (۱) اور عمر و نے جو اس کے جواب میں طحہ کہا وہ کس درجہ کا گناہ ہے بیوا تو جروا۔

(جواب) جو طور سبیل الرشاد میں مذکور ہے وہ ہی صحیح ہے احادیث صحیحہ سے دونوں امر ثابت ہیں کسی ایک کو ممنوع اور اس کے فعل کو ارتکاب منہی اور فعل منکر نہ کہنا چاہئے اور جو شخص ایسے کلمات کہے یا مجازات و مہارات کو مقصود تحصیل علم بناوے وہ سخت گستاخ بلکہ مستحق تعزیر ہے اور قابل تادیب فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## نفس پرور عالم اور بدعتی صوفی میں کون افضل ہے

(سوال) جو عالم کہ خوب کھاوے اور خوب پہنے اور نماز میں جماعت کی پابندی بھی نہ کرے۔ چاہے جماعت طے یا نہ طے اپنے نفس کی خاطر مسائل کو تاویل کرے تو یہ عالم اچھا یا یہ صوفی بدعتی تہجد زار حاجی و سنی مذکور الصدر اچھا فرمائیے۔

(جواب) میرے نزدیک یہ دونوں برے ہیں مگر عالم نفس پرور زیادہ بد ہے صوفی مبتدع سے کیونکہ اس کا گناہ لوگوں کو بہت نقصان دیتا ہے صوفی بدعتی کم نقصان دیتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## تن پروری و کامرانی کرنے والا عالم

عالم کہ کامرانی و تن پرور کند

او خویشتم گم ست کرار بہری کند۔ (۱)

(سوال) یہ شعر واقعی سچ اور ٹھیک ہے یا صرف مضمون شاعری ہی ہے۔

(جواب) معنی شعر کے درست ہیں تن پروری یہ ہے کہ اپنے نفع دنیا کے واسطے خلاف شرع بھی کر لیوے۔ منہ دیکھ کر فتویٰ دیوے اور جو مباح کھانے پینے میں موافق حکم شرع کے عمل کرے اور مباحات کا امر کرے وہ داخل شعر کے مضمون میں نہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) جس نے علم اس نیت سے پڑھا کہ علماء سے بحث کرے یا جہلا پر فخر کرے یا لوگوں کا منہ اس علم کے ذریعہ اپنی طرف تیسے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔

(۱) جو کہ تن پروری اور کامرانی سے زرارہ ہے وہ خود گم ہے کس کی رہبری کرے گا۔

## ملفوظات

جہلاء سے نہ الجھنا

(۱) جہلاء سے مت الجھنا وہاں چند آدمی بد وضوح جمع ہیں ان سے مت الجھنا اپنے عقائد و اعمال جیسے یہاں ہیں ویسے ہی رکھنا۔

حافظ قرآن با ترجمہ و بلا ترجمہ میں فرق، قرآن بھولنے کا گناہ

(۲) مسئلہ:- حافظ قرآن کے مدارج محدث ترجمہ میں زیادہ ہیں اور بلا ترجمہ میں اس قدر نہیں ہیں اور بھول جانا سارے قرآن کا زیادہ گناہ ہے اور کم کام گناہ اور گناہ بھولنا ہے جو اس بھولنے والے کی کم توجہی اور بے اعتنائی سے ہوا اور اگر کسی مجبوری یا مرض سے ایسا ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

خرق عادت

(۳) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما خرق عادت پس بیانش آنکہ حق جل و علا بقدرت کاملہ خود بنا بر تصدیق انبیاء علیہم السلام چیزے اظہاری نماید کہ صدور آں چیز بہ نسبت ایشان ممنوع می نماید اگر چه بہ نسبت دیگر کس ممنوع نمی باشد۔ تفصیلش آنکہ وجود بعضی اشیاء بحسب عادت اللہ موقوف می باشد بر اثر اہم آمدن اسباب ادوات آں چیز پس کسیکہ ادوات و آلائش حاصل میدارد صدور چیز مذکور از خرق عادت نیست و کسیکہ ادوات مذکور حاصل نمیدارد البتہ صدور آں و از قبیل خرق عادت است مثلاً نوشتن بہ نسبت نویسنده خرق عادت نیست و بہ نسبت امی خرق عادت و کشتن بسلاح خرق عادت نیست و مجروح و ہمت و دعا خرق عادت پس ازین بیان واضح گشت کہ این معنی لازم نیست کہ ہر خرق عادت خارج از مطلق طاقت بشری باشد بلکہ ہمیں قدر لازم است کہ نسبت صاحب خارقہ صدور آں خلاف عادت باشد بجهت فقدان ادوات و آلات بس بسیار چیز است کہ ظہور آں از مقبولیست حتی از قبیل خرق عادت شمردن می شود حالانکہ امثال همان افعال بلکہ اقوی و اکمل از اں ارباب سحر و اصحاب طلسم ممکن الوقوع باشد پس وقتیکہ بر حاضران واقعہ این قدر ثابت باشد کہ صاحب خارقہ مہارت در فن دیدار پس لابد صدور خارقہ مذکور علامت صدق او

تواند ابولہذا نزول مانده از معجزات حضرت مسیح شمرده می شود بخالف آنچه اہل سحر بسیارے رازا شیاء نفسیہ از جنس میوہ و شرمینی باستعانت شیاطین حاضری آرنند و در دوستان و ہم نشینان خود آبان افتخاری نمایند۔ چون معنی خرق عادات واضح گشت لابد دریں مقام تامل باید نمود کہ خرق عادت چہر اظاہر میگردد و چگونہ ظاہر میشود اما اول پس باید دانست کہ ظہور خوارق بالذات از اسباب ہدایت نیست گو کہ در حق بعضی سعداء اتفاقا سبب ہدایت گردد بلکہ ظہور آن بالذات برائے اتمام حجت و اسکات مخالفین و الزام مجادلین است الخ اما آنکہ چگونہ حادث میشود پس بیانش آنکہ حق جل و علا بقدرت کاملہ خود در عالم تکوین تصرف عجیب و غریب بنا بر تصدیق مقبولے از مقبولان خود میفر باید نہ آنکہ قدرت صدور خرق عادت در او ایجاد میفر ماید و او را با ظہار آن مامور مینماید حاشا و کلا قدرت تصرف در عالم تکوین از خواص قدرت ربانی است نہ اند آثار قوت انسانی ۱۲۔ رسالہ منصب امامت تصنیف مولانا محمد اسمعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ از صفحہ ۳۱ تا صفحہ ۳۲ ترجمہ منصب امامت از صفحہ ۲۱ تا ۲۳۲۔ اما نزول برکت پس بیانش آنکہ چنانکہ حق جل و علا حکمت بالغہ خود جرم آفتاب را واسطہ اشراق عالم فرمودہ و دافع تاریکی قرار دادہ پس ہر چند انتشار نور در اطراف عالم و استحلال ظلمت از روئے زمین محض از قدرت کاملہ او تعالی است ہر کہ آفتاب را خالق نور قرار دہد ہر آئینہ کا فر گردد و العیاذ باللہ لیکن سنت اللہ بایں طریق جاری گردید کہ ہر گاہ آفتاب طلوع می کند۔ تمام عالم از انوار میشود و روئے زمین از غبار ظلمت پاک میگردد و همچنین از سلسلہ اکابر ایشان مکی اندو بشر فلکی وجود ایشان آفتابے است کہ برداج چرخ ملکوتی تا بندہ قمرے است از جبروت کہ در شب تار ناسوت در شیدہ لابد ہمراہ نزول ایشان یک نورے از غیب الغیب بروزی فرماید کہ سبب اصلاح عالم و انتظام بنی آدم و باعث تقلب اودارد و تغییر اطوار میگردد پس آنچه از تغییرات و تقلبات مذکورہ چہ در اقطار عالم و اطوار بنی آدم حادث میگردد ہمہ از قدرت کاملہ ربانی است نہ از نتائج طاقت امکانی نہ اینکه حق جل و علا ایشان را قدرت آثار تصرف عالم عطا فرمودہ و کاروبار بنی آدم بایشان تفویض نمودہ پس ایشان با مرالہی قدرت خود صرف مینمایند و این تصرفات گوناگون و تغییرات بوقلمون در عالم کون بروئے کاری آرنند کہ این اعتقاد شرک محض و کفر بحث ہر کہ بجناب ایشان این عقیدہ قبیحہ داشتہ باشد بیشک مشرک مردود است و کافر مطرود با جملہ تقدیر نزول الہی بنا بر وجاہت کسے بادعا کسے از مقبولین امرے دیگر و صدور تصرفات کوئی از ہمان مقبول اگر چہ با مر اللہ باشد امرے دیگر کہ اول عین اسلام است و ثانی محض کفر عیبین تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔“ ۱۳۔ رسالہ منصب امامت مذکور تصنیف



مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ در صفحہ ۱۔ ترجمہ منصب امامت از ۶۳ تا ۶۴ فائدہ اگر خواہی کہ سرکار دریابی ہوش گرد آرد گوش بمن دار تنقیح مرام و توضیح مقام موقوف بر بیان نکتہ است کہ فہمیدی دارد و آن اینکه قدرت و اختیار چیزے عطا فرمودند و قوت اقتدار آن تفویض نمودن مفہومے دیگر است و فعل خالص خود در چیزے ظاہر کردن مضمونے دیگر مثلاً تو ان گفت کہ زید بقلم نوشت و فعل خالص خود کہ کتابت است در قلم ظاہر کردنی تو ان گفت کہ زید قدرت و اختیار حرکت و قوت و اقتدار کتابت بقلم سپرد زیرا کہ قلم تا وقتیکہ مثل زید انسان نشود قدرت و اختیار حرکت و قوت و اقتدار از کتابت حاصل نمیتوان کرد و خاصتہ انسان بدست تنوں آورد۔ پس اگر کسی گوید کہ زید قلم را قدرت و اختیار نوشتن داد و تفویض خاصہ خود نبواخت محصل کلامش ہمیں خواهد بود کہ زید قلم را انسان ساختہ اگر گوید کہ زید بقلم نوشت مفادش آن باشد کہ فعل کتابت خاصہ زید است و قلم را بیچہ در آن فعل قدرتے و اختیارے نیست و قوتے و اقتدارے نے عین تفادت رہ از کجاست تا بہ کجا۔ چون این سخن دلنشین و خاطر نشان شد بر اصل مطلب میر ویم میگویم کہ قدرت و اختیار افعال خاصہ احدیت و قوت و اقتدار آثار خاصہ صمدیت یکے یا چیزے سپردن از مرتبہ امکان بمرتبہ و جوب بیرون است زیرا کہ مبدع قدرت و اختیار آن افعال و مدارقوت و اقتدار آن آثار نیست الا وجوب وجود پس ہر کہ آن قدرت و اختیار و آن قدرت و اقتدار برائے غیر ثابت میکند۔ محصل کلام و مآل مرآش ہمیں خواهد بود کہ خداوند تعالیٰ اورا واجب الوجود گردانیدہ است ازس تقریر رشیق و تحقیق اینق کہ شنیدی و فہمیدی فوائد بسیار میتوان برداشت اینجا بیان بعضے از انہا میتوان کرد اول آنکہ بعض افعال خاصہ الہیہ کہ گاہے در ذوات ملائکہ و انبیاء علیہم السلام جلوہ میکند ایشان را اور در قوع آنہا بر بیچہ قدرتے و اختیارے قوتے و اقتدارے نمیشا شد پس آن افعال را جوں خوردن و پوشیدن از جنس افعال اختیارییہ و اعمال مقدرہ نمی توان شمر د و طلب ایقاع و ایجاد آنہا ز ایشان بدان ماند کہ از کاتب قطع نظر کردہ با قلم خطاب کنند کہ ہاں اے قلم چنین و چنان بنویس و بدانند کہ قلم در ایقاع این فعل عاقل است و قدرت و اختیارش محال و باطل و پیش ایشان برائے ایقاع آن افعال تدلل و تعظیم بجا آوردن و سجدہ بردن چنان باشد کہ پیش قلم غایت تدلل و تعظیم بجا آرد و امید دارند کہ بنا بر قدرتے و اختیارے کہ کاتب باد سپردہ ست چنین و چنان تو اند نوشت شعر۔

فعل خاص حق چو ظاہر در ملک شد یا بنی۔

اختیار و قدرت ایشان نہ فہم جز غبی

اختیار و قدرت آنجا نیست نے بیش و نہ کم۔

زانکہ دست آن چون ظہور فعل کاتب از قلم

دوم آنکہ نسبت تفویض و تصرف و تدبیر کہ بہ بعض ملائکہ و غیر ہم میکند همان نسبت قلم و کاتب است و همان معنی است کہ انشا پردازان مینویسند کہ تفصیل این و آن حوالہ قلم نموده ایم نہ آنکہ قدرت و اختیار خلق و تکوین بحر دارادہ کن فیکون بایشان تفویض نموده باشد کہ حصول آن موقوف بر حصول وجوب وجود دست کما رسوخم آنکہ ازین تقریر بر دلالت معجزات بر رسالت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نیز میتوان دریافت زیرا کہ وقوع آنها متفرع بر قوہ مودعہ و قدرہ مفوضہ نمی باشد و عقل و قدرت و استقلال آنها در ایجاد آنها اصلا و مطلقاً جائز نمیدارد و میداند کہ این فعل خاص جناب الہی است و قدرت و اختیار را در آن بہ بیچ و بد غلطی نے و اعطاء قدرت این چنین افعال بحال است کہ ظرف تنگ ممکنات دعاء این چنین عطیات نمیتواند شد پس گویا این چنین افعال خاصہ واجب متعال است بزبان حالی گویند کہ ما افعال خاصہ حضرت الہی ایم کہ بر نبوت این بی گواہیم چہارم آنکہ مقام فنا کہ بعض اولیاء دست میدہد همیشه نہ آنست کہ ایشان عین ذات واجب الوجود شوند یا قدرت افعال خاصہ احدیث و آثار خصوصہ صمدیت بایشان مفوض گردد بلکہ غایتش آنست کہ قدرت و اختیار افعال اختیار یہ بشریہ قوت و اقتدار اعمال مقدورہ انسانہ اند ذات ایشان بکلی محو مینمایند و بہر وجہ سلب میفرمایند بعد از الہمان افعال خاصہ الہیہ در ذوات ایشان جلوه میکنند و چون قلم در دست کاتب خالی از شعور و اختیار و محرر از قوہ و اقتداری باشند و ازینجا بمعنی حدیث فکنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ الحدیث میتوان رد پنجم (۵) آن کہ دانستن مغیبات کہ در بعض اوقات از انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام رو می دہد ہم ارین قبیل است یعنی متفرع بر قوت و قدرتی و شمانے و صفحہ نیست کہ در ذوات طیبہ ایشان و دلالت نہادہ باشند بلکہ محض فعل خاصہ الہی است کہ این جا جلوه میکند مثل حرکت قلم بہ فعل کاتب ششم (۶) آنکہ مشرکین سابقین و لاحقین درین دو معنی خلط مینمایند کہ واجب تعالی قدرت و اختیار این افعال و قوت اقتدار ایقاع این آثار باین ذوات داده است و چون افعال اختیار یہ انسانیت و اعمال مقدورہ بشریہ در قبضہ تصرف آنها نہادہ و بناء بر ہمین اعتقاد بے بنیاد پیش آنها سجدہ می برند و ذور و فرامین و تضرع و زاری بعمل می آرند و ادا شرک می دہند و نمیدانند کہ تا وقتیکہ نہا واجب الوجود نشوند قدرت اختیار این افعال خاصہ الہیہ حاصل نتوانند کرد ہفتم آن کہ لفظ علم ذاتی و تصرف استقلال و مثل آنکہ در کلام

بعض علماء مثل مولانا شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز نسبت بکفار واقع شدہ مراد از ان ہمین اثبات قدرت و اختیار از درگاہ پروردگار است کہ موجب شرک کفار تا بکارست ورنہ مشرکین عرب ذات و صفات اصنام را مخلوق خدا و قدرت و اختیار آنہا عطا فرمودہ جناب کبریا میدانستند کما مر تحقیقہ و وجہ اطلاق لفظ استقلال ظاہرست زیرا کہ مشرکین بیدین آن افعال خاصہ الہیہ را بہ سبب اعتقاد و تفویض قدرت و اختیار در افعال اختیارییہ و اعمال مقدوریہ داخل نمودند و بر افعال اختیارییہ بندگان جمیع احکام استقلال جاری میشود و استحقاق مدح و ذم طاری گوہ کہ ہمہ افعال عباد بر قوت و قدرۃ خدا داد مبنی باشد ہشتم (۸) آن کہ مشرکین بے تمکین چون اصنام را بر افعال خاصہ الہیہ قادر و در ایتقاد آنہا مختار دانستند و آن مستلزم وجوب وجود دست و وجوب وجود مستجمع جمیع صفات کمال پس گویا معبود است کہ اورا با خدا برابر و در ہمہ کمالات ہمسر میدانند و بیضاوی ہم اشارتے باین امری کند آنجا کہ میگوید و تسمیة ما یعبده المشرکون من دون اللہ انداداً و ما ز عمو انہا تساویہ فی ذاتہ و صفاتہ و لا انہما تخالفہ فی افعالہ لا نہم لا ترکوا عبادۃ الی عبادتہا و سموها الہیة شابهت حالہم حال من یعتقد انہا ذوات واجبة بالذات قادرۃ علی ان تدفع عنہم باس اللہ و تمنعہم ما لم یرد اللہ لہم خیر انتہی یعنی مشرکین اصنام را واجب الوجود میخوانند و در صفات او شریک نمی گردانند لیکن چون بر منصب استحقاق عبادت می نشانند گویا کہ در ہمہ چیز برابر امیدانند باید دانست کہ میان افعال اختیارییہ عباد با افعال خاصہ رب العباد تفاوت بسیارست چہ ایجاد چیز ہا کہ از بندگان اود ہد با آلات و ادوات مشروط است بشرائط و اسباب مشروط مثلاً نوشتن است کہ چند چیزی خواهد دوات و قلم و کاغذ و کاردو قطزن و نور بصر و نور آفتاب و عقل و خیال و ارادہ و شوق دید و اصابع و حرکت آنہا را ایجاد رب العباد نہ بانہا منوط نہ بانہما مشروط بجز دارادہ ہر چہ میخواہد بوجودی آرد حاجت اسباب و آلات ندارد و ایجاد کدائی را کہ نمی بر مجرد ارادہ است تعبیر بکن فیکون میکند انما امرہ ارادہشیا ان یقول لہ کن فیکون پس اثبات قسم اول از افعال برائے بندگان ایز و متعال صحیح است اثبات قسم ثانی کفر صریح و شرک قبیح بالجملہ طلب افعال اختیارییہ از ایشان رواست و طلب افعال الہیہ بیجا چہ آن مقدور ایشان است و ایشان ذات بے نشان ۱۲۔ رسالہ رد بوارق تصنیف مولوی حسین شاہ صاحب بخاری بت شکن صاحب خلعت الہنود ۱۲۔ فصل اعلم ان معنی تسمیة ما جاءت بہ الانبیاء معجزۃ ہوان الخلق عجزوا عن الایان بمثلہا و ہی علی ضرب ہو من نوع قدرۃ البشر

فِعْجَزُوا عَنْهُ فَبِعْجَزِهِمْ عَنْهُ هُوَ فَعَلَ اللَّهُ ذَلَّ عَلَى صَدَقِ نَبِيِّهِ كَصَرِّ فِهِمْ عَنْ تَمْنَى الْمَوْتِ وَبِعْجَزِهِمْ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِ الْقُرْآنِ عَلَى رَأْيِ بَعْضِهِمْ وَنَحْوِهِ وَضَرْبِ هُوَ خَارِجٌ عَنِ قُدْرَتِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ كَأَحْيَاءِ الْمَوْتَى وَقَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً وَخَارِجِ نَاقَةٍ مِنْ صَخْرَةٍ وَكَلَامِ الشَّجَرَةِ وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الْأَصَابِعِ وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ مِنْ فَعَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْدِيثِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ يَكْذِبِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ تَعَجُّزَ لَهُ ۲ اشفاء قاضی عیاض صفحہ ۲۲ اقال المتکلمون وتحت المعجزة بكونها فعل الله تعالى وليست داخله تحت قدرة البشر ۱۲ شرح الشفا المسمى بفتح الصفاء هل كنت الا بشر اكسانو الناس رسولا كسانو الرسل فكانوا لا ياتون قومهم الا بما يظهره الله عليهم على ما يلانم حال قومهم ولم يكن امرا لآيات اليهم ولا لهم ان يتحكموا على الله حتى يتخيروا. بياضی ۱۱۲ التور پستی در کتاب معتمد فی المعتقد در باب دوم در فصل اول در معنی نبوت واثبات ان در ذکر معجزات فرموده که امثال این چه یاد کردیم از معجزات انبیاء علیهم الصلوٰة والسلام جز خدائے تعالیٰ نتواند کردون دور فصل ششم در ایمان بخدائے تعالیٰ فرموده و دلیل برین آنست که قرآن مجزاست و معجز آن باشد که جز خدائے تعالیٰ دیگرے بر آن قادر نباشد و اگر قول جبرائیل بودے معجز بودے و اگر قول پیغمبر بودے ہم چنین معجز نبودے ۱۲ مولانا حیدر علی ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ بعض مصنفات خود تحریر فرموده و کرامتہ الا ولیاء حق و معجزتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا فی کتب الکلام و ما یزعم العوام ان الکرامتہ فعل الا ولیاء انفسهم باطل بل هو فعل اللہ تعالیٰ یشہرہ علی یدا لولی تکریمآله و تعظیماً بشانہ و لیس للولی ولا للنبی فی صدوره اختیار اذ لا اختیار لاحد فی افعال اللہ تعالیٰ و تقدس کما فی شرح العقائد العضدیہ للمحقق الدوانی ہی ای المعجزة امر یشہر بخلاف العادة عنی ید مدعی النبوة عند تحدی المنکرین علی وجه یدل علی صدقہم ولا یمکن معارضتہ ولها سبعة شروط الا ول ان یشہر فعل اللہ تعالیٰ او ما یقوم مقامہ من التروک الخ ۱۲۔ اور نیز مولوی حیدر علی صاحب ٹوکی نے بحوالہ شرح عقائد جلالی معجزہ کی سات شرطیں لکھی ہیں جن میں سے ایک یشہر فعل اللہ تعالیٰ اور ما یقوم مقامہ من التروک (۱) بھی ہے اور ایسے ہی شرح موافق میں بھی مذکور ہے المقصد الثانی فی

حقیقۃ المعجزۃ والبعث فیہا عن امور ثلثہ عن شرائط و کیفیۃ حصولہا و وجہ دلالتہا علی صدق مدعی رسالۃ البعث الاول فی شرائطہا و ہی سبع الشرط الاول ان یکون فعل اللہ تعالیٰ او ما یقوم مقامہ من التروک (۱)

نیز در شرح موافق در ہمیں بحث ذکر کردہ قال الامدی هل يتصور كون المعجزۃ مقدورة للرسول ام لا اختلفت الائمة فيه فذهب بعضهم الى ان المعجزۃ فيما ذکر من المقال ليس هو الحركة بالصعود او لمشي لكونها مقدورة له يخلق الله فيه القدرة عليها انما المعجزۃ هناك بنفس القدرة عليها وهذه القدرة ليست مقدورة له وذهب آخرون الى ان نفس هذا الحركة معجزۃ من جهته كونها خارقة العادة و مخلوقة الله تعالیٰ و انکانت مقدورة للنبي وهو الاصح و اذا عرفت هذا فلا يخفى عليك ما فی عبارة الكتاب من الاختلال ۱۲ اور شرح مقاصد میں بھی یہی اختلاف ائمہ دربارہ مقدوریت معجزہ مذکور ہے بلکہ این معنی است برآن کہ معجزہ فعل بنی نیست بلکہ فعل خدائے تعالیٰ است کہ بردست وے اظہار نموده بخلاف افعال دیگر کہ کسب این از بندہ است و خلق از خدائے تعالیٰ دور معجزہ کسب نیز از بندہ نیست پس معنی این آیه نیست کہ ہارمیت اذ میت صورۃ لکن اللہ رمی ہقیقۃ و آن نیز مراد نیست کہ میت خلقا اذ میت کسب از برای کہ این نیز در تمامی افعال جاری است ۱۲ مدارج النبوة تصنیف شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جلد دوم صفحہ ۱۱۶ مطبع ناصر دہلی۔ مولانا شاہ سخاوت علی صاحب جرنپوری کہ اکابر علماء ہند اور اجل خلفاء حضرت سید صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں اپنے رسالہ عقائد نامہ اردو میں لکھتے ہیں۔

(سوال) کرامت کیا ہے۔

(جواب) خلاف عادت کا کام ولیاء کے ہاتھ سے ہووے جیسے دور کے راہ تھوڑی مدت میں جاوے یا ہوا پر چلے یا کھانا پانی حاجت کے وقت مل جاوے۔

(سوال) کرامت اس کے اختیار میں ہے یا نہیں۔

(جواب) اختیار میں نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کی عزت بڑھانے کو ان کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتا ہے ۱۲۔ مولانا سید اولاد حسن صاحب قنوجی (شاگرد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب) کہ اجل خلفاء حضرت سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں تحت

(۱) یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو یا جو اس کے قائم مقام ہو تو رک سے ۱۲۔

شرح اس آیت شریف کے وان کان کبر علیک اعراضہم الخ ازین آیت کریمہ ہدایہ ضمیمہ چند فوائد معلوم باید کردیے کہ آن کہ حضرت ﷺ بایمان قوم خود نہایت حرص بودند اعراض ایشان از اسلام بر آن عالی مقام گردان می نمود۔ دوم آنکہ خواہش آنجناب بود آنکہ ہر گاہ قوم طلب معجزہ کنند آن معجزہ حسب خواہش ایشان ظہور باید تا باشد کہ ایمان آرند و آن ہمیشہ سوم آنکہ اصدا معجزہ و قبول ایمان بخواہش و اختیار رسول نمیشد تا او تعالیٰ نخواہد و ارادہ فرماید وقوع نیابد و نیز خواست سبحانہ تابع خواست غیر خود نمیشد ہر چند آن غیر مقبول و فرستادہ اش باشد ۱۲۔

(۱) ترجمہ: خرق عادت کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کے لئے ایسی باتوں کو ظاہر فرماتے ہیں کہ اس کا صادر ہونا ان کی نسبت سے ممنوع ہوتا ہے اگرچہ دوسرے شخص کی نسبت سے ممنوع نہیں ہوتا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض اشیاء کا وجود حسب عادت الہی موقوف ہوتا ہے اس چیز کے اسباب و سامان کے فراہم ہونے پر پس جو شخص کہ سامان و ذرائع رکھتا ہے اس سے مذکورہ چیز کا صادر ہونا خرق عادت نہیں ہے اور جس کو مذکورہ ذرائع حاصل نہ ہوں اس سے البتہ ان باتوں کا ظاہر ہونا مجملہ خرق عادت کے ہے مثلاً کسی کا تب کے لئے لکھنا خرق عادت نہیں ہے اور اس شخص کے لئے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں لکھنا خرق عادت ہے اور تلوار سے کسی کو مار ڈالنا خرق عادت نہیں ہے اور صرف ہمت و دعا سے مار دینا خرق عادت ہے پس اس بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہر خرق عادت مطلق طاقت بشر سے خارج ہو بلکہ اسی قدر لازم ہے کہ جس شخص سے خرق عادت کا ظہور ہو اس سے اس کا صدور اسباب و ذرائع کے فقدان کی وجہ سے خلاف عادت ہو۔ پس بہت سی چیزیں ہیں کہ اس کا مقبولان حق تعالیٰ سے خرق عادت کی قسم سے سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس قسم کے افعال بلکہ اس سے قوی اور اہل صاحبان سحر و طلسم سے ممکن الوقوع ہے تو اگر کسی وقت حاضرین واقعہ پر ثابت ہو جائے کہ جس شخص سے خرق عادت کا ظہور ہو رہا ہے وہ فن سحر و طلسم میں مہارت نہیں رکھتا ہے تو اس خرق عادت کا اس سے ظاہر ہونا اس کی سچائی کی نشانی ہو سکتی ہے اس بناء پر ماندہ کا آسمان سے نازل ہونا حضرت مسیح علیہ و علیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام کا معجزہ سمجھا جاتا ہے برخلاف اس کے اہل سحر بہت کچھ نفیس اشیاء از قسم میوہ و شربنی شیاطین کی مدد سے حاضر کر لیتے ہیں اور اپنے دوستوں اور ہم نشینوں میں اس پر فخر کرتے ہیں۔ جب خرق عادت کے معنی ظاہر ہو گئے تو اب اس جگہ پر غور کرنا چاہئے کہ خرق عادت کیوں ظاہر ہوتا ہے اور کس طرح ظاہر ہوتا ہے جس کے لئے

حسب ذیل امور قابل غور ہیں۔

(۱) اول تو یہ جاننا چاہئے کہ خارق عادت کا ظہور بالذات اسباب ہدایت سے نہیں ہے گو بعض نیک بختوں کے حق میں اتفاقاً ہدایت کا سبب بھی ہوتا ہے بلکہ اس کا ظاہر ہونا ہی بالذات اتمام حجت اور مخالفین کو ساکت کرنے اور جھگڑے والوں کو طرز مہمانانے کے لئے ہے الخ۔

(۲) رہا یہ کہ خرق عادت کس طرح ظاہر ہوتا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے عالم کون و مکان میں عجیب و غریب تصرف اپنے مقبولوں میں سے کسی مقبول کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے فرماتے ہیں نہ یہ کہ خرق عادت کے صادر کرنے کی قدرت اس مقبول بندہ میں ایجاد فرماتے ہیں اور اس کو ظاہر کرنے کا مامور فرماتے ہیں۔ حاشا وکلا بلکہ اس عالم کون میں تصرف کی قدرت صرف قدرت ربانی کے خواص سے ہے نہ کہ قوت انسانی کے آثار سے (رسالہ منصب امامت مصنفہ مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ از صفحہ ۳۱ تا ۳۲۔ ورسالہ ترجمہ منصب امامت صفحہ ۲۱ تا ۲۳) رہا برکت کا نازل ہونا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی حکمت بالغہ سے جرم آفتاب کو عالم کو منور بنانے کا اور تاریکی کو دفع کرنے کا واسطہ قرار دیا ہے تو چونکہ اطراف عالم میں نور کا پھیلنا اور روئے زمین سے اندھیرے کا کمزور پڑ جانا محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہے اس لئے جو شخص آفتاب کو خالق نور قرار دے گا وہ کافر ہو جائے گا العیاذ باللہ لیکن سنت الہیہ اسی طریقہ پر جاری ہے کہ جب آفتاب طلوع کرتا ہے تو تمام عالم منور ہو جاتا ہے اور روئے زمین ظلمت کے غبار سے پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چونکہ ان کے اکابر ملکی ہیں اور بشر فلکی ہے ان کا وجود ایک آفتاب ہے کہ آسمان ملکوت کی بلندی پر تاباں ہے اور ایک چاند ہے جبرأت کا کہ ناسوت کی اندھیری شب میں چمک رہا ہے تو ضرور ہے کہ ان کے نزول کے ساتھ ایک نور غیب الغیب سے ظہور فرماتا ہے کہ سبب عالم کی اصلاح اور بنی آدم کے انتظام کا اور باعث اس کے الٹ پلٹ کا اور تغیر اطوار کا ہوتا ہے لہذا جو کچھ کہ تغیرات و انقلاب مذکورہ خواہ اقطار عالم میں ہوں کہ اطوار بنی آدم کے ظاہر ہوتے ہیں تمام کے تمام قدرت کاملہ ربانی سے ہیں نہ کہ امکانی طاقت کے نتائج نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو عالم میں آثار تصرف کی قدرت عطا فرماتا ہے اور بنی آدم کے کاروبار ان کے حوالہ فرمادیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قدرت صرف کرتے ہوں اور یہ گونا گوں تصرفات اور بوقلموں تغیرات عالم کون و مکان میں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اعتقاد شرک محض ہے اور کفر خالص جو

شخص کہ ان بزرگوں کی نسبت ایسا برا عقیدہ رکھے بیشک وہ مشرک و مردود ہے اور راندہ ہوا کافر حاصل کلام تقدیر الہی کا نازل ہو جانا کسی کی وجاہت کی بناء پر یا کسی مقبول باگاہ الہی کی دعا سے اس میں تبدیلی کا ہونا ایک امر دیگر ہے اور اسی مقبول سے تصرفات کوئی کا صادر ہونا اگرچہ امر الہی سے ہو امر دیگر ہے کہ اول عین اسلام ہے اور دوسرا کفر محض۔ ع۔ بین تفاوت راہ از کجاست تا کجا (رسالہ منصب امامت مذکور مہضفہ مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۱۰۰۔ ترجمہ رسالہ منصب امامت از صفحہ ۶۳-۶۴)

فائدہ۔ اگرچہ چاہتے ہو کہ راز اصلی معلوم کرو تو عقل کو کام میں لاؤ اور میری طرف کان لگا کر سنو۔ وضاحت مقام اور تنقیح مقصد ایک نکتہ کے بیان پر موقوف ہے جس کو خوب غور سے سمجھنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا قدرت و اختیار فرمادینا اور اس کے قوت اقتدار کو تفویض کرنا ایک دوسرا مفہوم ہے اور اپنے خالص فعل کو کسی چیز میں ظاہر کرنا ایک دوسرا مضمون ہے مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید نے قلم سے لکھا اور اپنے فعل خاص کو جو کتابت ہے قلم میں ظاہر کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید نے حرکت کے اختیار و قدرت کو اور اقتدار کتابت کی قوت کو قلم کے سپرد کر دیا اس لئے کہ تا وقتیکہ قلم زید کے مثل انسان نہ ہوگا۔ حرکت کے اختیار و قدرت کو اور اقتدار کتابت کی قوت کو حاصل نہیں کر سکتا اور انسان کی خاصیت کو ہاتھ میں نہیں لاسکتا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زید نے قلم کو انسان بنا دیا اور اگر یہ کہے کہ زید نے قلم سے لکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کتابت زید کا خاصہ ہے اور قلم کو کسی طرح بھی اس فعل میں نہ کوئی قدرت و اختیار ہے نہ قوت و اقتدار ع۔

بین تفاوت راہ از کجاست تا کجا

جب یہ بات دلنشین اور خاطر پر جم گئی تو اب ہم اصل مطلب پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افعال کا اختیار و قدرت خاصہ جناب احدیت اور آثار پر اقتدار و قوت مخصوصہ جناب صمدیت کسی شخص کو یا کسی چیز کی سپرد کر دینا مرتبہ امکان سے مرتبہ وجوب کے باہر ہے اس لئے کہ مبداء قدرت و اختیار ان افعال کا اور مدار قوت و اقتدار ان آثار کا بجز وجوب وجود کے کچھ نہیں تو جو شخص اس قدرت و اختیار کو اور اس قدرت و اقتدار کو دوسرے کے لئے ثابت کرے گا اس کا حاصل کلام اور مقصود اصلی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب الوجود بنا دیا ہے اس بہترین تمہید اور نادر تحقیق سے جو تم نے سنا اور سمجھ لیا بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہو جس میں سے یہاں چھ بیان کئے جاتے ہیں۔



اول تو یہ کہ بعض افعال خاصہ البہیہ کہ کبھی ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کی ذات ہائے قدسیہ میں جلوہ کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ کو ان چیزوں کے واقع کرنے پر کسی قسم کی قدرت و قوت و اقتدار نہیں ہوتا ہے پس ان افعال کو مثل کھانے اور پینے کے افعال اختیاری اور اعمال مقدورہ کی جنس سے نہ سمجھنا چاہئے اور ان امور کے واقع ہونے اور ایجاد کرنے کا ان لوگوں سے مطالبہ ایسا ہی ہے کہ کاتب سے قطع نظر کر کے کوئی شخص قلم سے خطاب کرے کہ ہاں اے قلم ایسا اور ایسا لکھ بلکہ یہ یقین رکھیں کہ قلم اس قسم کا فعل واقع کرنے میں مجبور محض ہے اور اس کی قدرت و اختیار مجال اور باطل ہے اور ان کے آگے ان افعال کے واقع کرنے کے لئے عاجزی کرنا اور تعظیم بجالانا اور سجدہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ قلم کے آگے نہایت ہی عاجزی اور تعظیم بجالائیں اور یہ امید رکھیں کہ جو قدرت و اختیار کہ کاتب نے اس کے سپرد کر دیا ہے اس کے لحاظ سے وہ ایسا اور ایسا لکھ سکتا ہے جیسا کہ ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فعل خاص جو فرشتہ یا نبی میں ظاہر ہوا۔ ان کی قدرت اور ان کا اختیار سوائے عیبی کے کوئی نہ سمجھا۔ وہاں پر تو اختیار و قدرت نہ کم ہے نہ زیادہ۔ اس لئے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کاتب کے فعل کا قلم سے ظہور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپردگی و اختیار و تدبیر کی نسبت جو بعض فرشتوں سے بھی کرتے ہیں وہی قلم اور کاتب کی نسبت ہے اور وہی مطلب ہے کہ انشا پرداز لکھتے ہیں کہ اس کی اور اس کی تفصیل ہم حوالہ قلم کر چکے ہیں نہ یہ کہ خلق و تکوین کا اختیار و قدرت بجز دارادہ کن فیکون ان کے حوالے ہوگی ہو کہ اسکا حاصل ہونا و جوہ وجود کے حاصل ہونے پر موقوف ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس تقریر سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی رسالت پر معجزات سے دلالت کا راز بھی معلوم ہو سکتا ہے اس لئے کہ ان کا واقع ہونا قوت مودعہ اور قدرت مفوضہ پر مفرغ نہیں ہو سکتا اور ان کی قدرت و استقلال کو ان چیزوں کے ایجاد میں عقل ہرگز اور مطلقاً جائز نہیں رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ یہ فعل افعال خاصہ جناب الہی سے ہے اور قدرت و اختیار کو اس میں کسی وجہ سے بھی دخل نہیں ہے اور اس قسم کے افعال کی قدرت عطا کرنا محالات سے ہے اس لئے کہ ممکنات کا تنگ ظرف اس قسم کے عطیات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے تو گویا اس قسم کے افعال خاصہ واجب متعال سے ہیں اور بزبان حال کہتے ہیں کہ ہم افعال خاصہ حضرت الہی ہیں کہ اس نبی کی نبوت پر گواہیں۔

(۴) چوتھا کہ مقام فناء جو بعض اولیاء کو حاصل ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ جو لوگ

عین ذات واجب الوجود ہو گئے ہیں یا افعال خاصہ جناب احدیت اور آثار مخصوص جناب صمدیت

کی قدرت ان کے حوالے ہوگئی ہے بلکہ حدیہ ہے کہ قدرت و اختیار افعال اختیار یہ بشر اور قوت و اقتدار اعمال مقدورہ انسانی ان کی ذات سے بالکل یہ محو فرمادیتے ہیں اور ہر طریقہ سے سلب فرما لیتے ہیں اس کے بعد وہی افعال خاصۃً الہیہ ان کی ذات میں جلوہ کرتے ہیں اور چونکہ کاتب کے ہاتھ میں قلم شعور اختیار سے خالی اور قوت و اقتدار سے معرہ ہوتا ہے اور یہی معنی اس حدیث کے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بصارت جس سے وہ دیکھتا ہے۔“ الحدیث

(۵) پانچواں یہ کہ امور غیبیہ کا جاننا کہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اسی قسم سے ہے یعنی کسی قوت و قدرت و شان و صفت پر متفرغ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ذات قدسی صفات میں ودیعت رکھ دیئے ہوں بلکہ یہ محض خاصۃً الہی کے افعال سے ہے کہ اس جگہ جلوہ کرتا ہے جیسے قلم کی حرکت کاتب کے قلم سے۔

(۶) چھٹا یہ کہ گذشتہ موجودہ مشرکین ان دو معنی کو مخلوط کر دیتے ہیں کہ واجب تعالیٰ (یعنی اللہ تعالیٰ) نے ان افعال و قوت و اقتدار کا قدرت و اختیار ان آثار کے واقع کرنے کے لئے ان ہستیوں کو عطا فرمایا ہے اور اسی بے بنیاد عقیدہ کی بناء پر ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور نذریں اور تضرع اور زاری عمل میں لاتے ہیں اور اشراک کی داد دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب تک کہ یہ واجب الوجود نہ ہوں۔ یہ افعال خاصۃً الہیہ کی قدرت و اختیار حاصل نہیں کر سکتے۔

(۷) ساتواں یہ کہ الفاظ علم ذاتی اور تصرف استقلال وغیرہ کہ بعض علماء کے کلام میں جیسے کہ مولانا شاہ ولی اللہ و شاہ عبدالعزیز صاحب نے کفار کی نسبت استعمال کیا ہے اس سے مراد درگاہ پروردگار سے اسی قدرت و اختیار کا ثابت کرنا ہے جو کفار نابکار کے شرک کا موجب ہے ورنہ مشرکین عرب تو ذات و صفات اصنام کو مخلوق خدا اور ان کے قدرت و اختیار کو جناب کبریا کا عطا فرمایا ہوا جانتے تھے جیسا کہ اس کی تحقیق گزر چکی اور لفظ استقلال کو مطلق رکھنے کی وجہ ظاہر ہے اس لئے کہ مشرکین بے دین ان افعال خاصۃً جناب احدیت کو بہ سبب اعتقاد اور تفویض قدرت و اختیار کے افعال اختیار یہ و اعمال مقدورہ یہ میں داخل کرتے تھے اور بندوں کے افعال اختیار یہ پر تمام احکام استقلال جاری ہوتے ہیں اور مدح و ذم کا استحقاق طاری ہوتا ہے اگرچہ تمام افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت و قدرت پر مبنی ہیں۔

(۸) آٹھواں یہ کہ مشرکین بے تمکین چونکہ بتوں کو افعال خاصۃً الہیہ پر قادر اور اس کے

واقع کرنے میں مختار سمجھتے ہیں اور یہ مستلزم وجوب وجود کا ہے اور وجوب وجود جامع تمام صفات کمال کا ہے تو گویا وہ ایسا معبود ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے برابر اور تمام کمالات میں ہمسر جانتے ہیں اور بیضاوی بھی اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ”اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا اندام نام رکھنا اور انہوں نے جو یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس کی ذات و صفات میں برابر ہے اور یہ کہ وہ اس کے افعال میں مختلف نہیں ہیں اس لئے کہ انہوں نے اس کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی عبادت اختیار کر لی ہے اور ان کا نام ”آلہتہ“ رکھ دیا ہے تو ان کا حال اس شخص کے مشابہ ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ ذات واجب ہیں بالذات جو قادر ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ان سے رفع کریں اور ان کو وہ بھلائی عطا کر دیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دینا نہیں چاہتا۔“ (ختم)

یعنی مشرکین اصنام کو واجب الوجود نہیں کہتے ہیں اور اس کی صفات میں شریک نہیں کرتے ہیں لیکن جب منصب استحقاق عبادت پر بٹھاتے ہیں تو گویا کہ تمام چیز میں برابر جانتے ہیں۔

فائدہ :- جانتا چاہیے کہ رب العباد کے افعال خاصہ کے ساتھ بندوں کے افعال اختیار یہ میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ وہ بندوں سے جن چیزوں کی ایجاد آلات و ذرائع کے ساتھ کرتا ہے وہ چند شرائط و اسباب کے ساتھ مشروط ہے مثلاً لکھنے کے لئے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ قلم کا غلط لگانے والا چاقو اور آنکھوں کی روشنائی اور نور آفتاب اور عقل و خیال و ارادہ اور دیکھنے کا اشتیاق اور انگلیاں اور ان کی حرکت اور رب العباد کی ایجاد انسان سے مربوط نہ ان کے ساتھ مشروط بلکہ ارادہ کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وجود میں لاتا ہے اور اسباب و ذرائع کی کوئی حاجت نہیں رکھتا اور ایجاد کذائی کو جو صرف ارادہ پر مبنی ہے کن فیکون سے تعبیر کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یعنی جب اس کا کسی کام کو حکم ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پس قسم اول کا ثابت کرنا بندوں کے لئے افعال ایزد متعال کی طرف سے تو یہ صحیح ہے اور قسم ثانی کا ثابت کرنا تو کفر صریح ہے اور شرک قبیح حاصل کلام یہ ہوا کہ ان سے افعال اختیار یہ کا طلب کرنا تو صحیح ہے اور افعال الہیہ کا طلب کرنا بیجا ہے کیونکہ اول الذکر ان کا مقدر ہے۔ اور ثانی الذکر ذات بے نشان کی شان ہے ۱۲۔ رسالہ رد بوارق مصنف مولوی محمد حسین شاہ صاحب بخاری بت شکن صاحب خلعت الہنود۔ بوارق مصنف مولوی فضل رسول بدایونی کا۔

جان لو کہ انبیاء نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان کو معجزہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ مخلوق اس کا

مثل لانے سے عاجز ہے اور وہ دو قسم پر ہے ایک قسم تو وہ ہے جس پر جنس انسانی قدرت تو رکھتی ہے لیکن اس سے عاجز ہو گئے تو ان کے عاجز ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو گیا جو اس کے نبی کے صدق پر دلیل ہے جیسے موت کی تمنا سے ان کو پھیر دینا اور انکو عاجز کر دینا ہے قرآن کا مثل بنانا ان کے بعض کی رائے کے مطابق (۱) اور اسی کی مثل اور ایک قسم وہ ہے جو ان کی قدرت سے ہی باہر ہے کہ اس کا مثل لانے سے وہ عاجز رہ گئے جیسے مردہ کو زندہ کرنا اور عصا کا سانپ میں بدل جانا اور پتھر سے اونٹنی کا نکالنا اور درخت کا باتیں کرنا اور انگلیوں سے پانی کا بہنا اور چاند کا پھٹ جانا کہ جس کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا ظہور نبی کے ہاتھ پر ہوگا لیکن ہوگا اللہ تعالیٰ کا فعل اور نبی علیہ السلام کی طرف سے چلیج اس کو جو ان کی تکذیب کرے کہ اس کا مثل لا سکے جو اس کو عاجز کرنے کے لئے ہوگا ۱۲۔ شفاء قاضی عیاض صفحہ ۱۲۲ مشکلمین کہتے ہیں اور معجزہ کے تحت فعل الہی ہو نیکی بنا، پر اور یہ کہ وہ طاقت بشری کے تحت داخل نہیں ہے ۱۲ شرح شفاء اسمی بفتح الصفا کہ میں تو تمام لوگوں کے مثل آدمی ہوں اور تمام رسولوں کے مثل رسول ہوں تو اپنی قوم کے پاس بجز اس چیز کے نہیں لاتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر کر دے جو ان کی قوم کی حالت کے مناسب ہو اور آیات کا حکم ان کو یا ان کے لئے یہ نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حکم کریں۔ جس وقت وہ چاہیں بیضاوی شریف ۱۲۔ امام تورپشتی نے کتاب معتمدنی المعتقد کے دوسرے باب کی پہلی فصل میں نبوت اور اس کے اثبات کے معنی میں معجزات کے ذکر میں فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے انبیاء علیہم السلام کے معجزات بیان کئے بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا اور چھٹی فصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارہ میں فرمایا کہ دلیل اس پر یہ ہے کہ قرآن معجز ہے اور معجزہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اس پر قادر نہ ہو اور اگر جبرائیل کا قول ہوتا تو معجز نہ ہوتا اور اگر خود پیغمبر کا بھی قول ہوتا تو معجز نہ ہوتا مولانا حیدر علی ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بعض تصانیف پر تحریر فرماتے ہیں کہ اور کرامت اولیاء حق ہے اور نبی ﷺ کا معجزہ۔ اسی طرح کتب کلام میں ہے اور جو عوام کا خیال ہے کہ کرامت خود اولیاء کا فعل ہے تو یہ باطل ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس کو وہ ولی کے ہاتھ پر اس کی عزت افزائی کے لئے اور اس کے شان کی عظمت کے لئے ظاہر فرماتا ہے اور کسی ولی یا نبی کو اس کے صادر ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے افعال میں کسی کو

(۱) یعنی وہ بتا رہا ہے ان کے پھیرنے کی جیسے معجزہ میں نظام اور شیعوں میں مرتضیٰ اور حق تو یہ ہے کہ ان کا معجزہ قرآن کے مثل لانے سے اس وجہ سے تھا کہ قرآن مجید انتہائی فصاحت و بلاغت کے درجہ میں تھا۔

اختیار نہیں جیسا کہ شرح عقاید عضدیہ مصنفہ دوانی میں ہے۔ ”وہ یعنی معجزہ ایک ایسا معاملہ ہے جو خلاف عادت مدعی نبوت کے ہاتھ پر منکرین کو چیلنج دینے کے لئے ظاہر ہوتا ہے اس طریقہ پر جو ان کے صدق پر دلیل ہو اور منکرین سے اس نبی کا مقابلہ ممکن نہ ہو سکے اور اس کی سات بے شرطیں ہیں اول یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو یا جو اس کے قائم مقام ہو تو رک سے اٹخ۔

دوسرا مقصد معجزہ کی حقیقت کے بیان میں اور اس میں بحث تین امور سے ہوتی ہے شرائط سے اور اس کے حصول کی کیفیت سے اور مدعی کے صدق پر اس کی دلیل کے طریقہ سے رسالہ پہلی بحث شرائط میں اور وہ سات بے شرطیں ہیں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کے قائم مقام ہو تو رک سے و نیز شرح مواقف میں اسی بحث میں ذکر کیا ہے کہ آدمی نے فرمایا ہے کہ کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ معجزہ کی قدرت رسول کو ہے یا نہیں تو ائمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ معجزہ جیسا کہ مقال میں ذکر کیا گیا ہے حرکت کا نام نہیں ہے چڑھنے یا چلنے سے کیونکہ وہ اس کی قدرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس قدرت کو پیدا کر دیتا ہے جو اس پر ہوتی ہے بلکہ یہاں پر معجزہ سے مراد بنفسہ اس پر قدرت ہے اور یہ قدرت اس کی مقدورہ نہیں ہوتی اور دوسروں کا خیال ہے کہ یہ حرکت بنفسہ معجزہ ہے اس وجہ سے کہ وہ خارق عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اگرچہ نبی کی قدرت کے اندر ہے اور یہی صحیح ہے اور جب تم نے یہ سمجھ لیا تو تم پر پوشیدہ نہ رہے گا جو کچھ کتاب میں خلل ہے۔

بلکہ یہ اس بات پر مبنی ہے کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے بخلاف دوسرے افعال کے کہ یہ بندہ کا کسب ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلقت اور معجزہ میں کسب بھی بندہ کا نہیں ہے تو اس آیت کے معنی یہ ہونے کہ نہیں مارا تم نے جب کہ تم نے مارا صورتہ بلکہ اللہ نے مارا ہیقتہ اور وہ بھی مراد نہیں ہے کہ میں نے پیدا کر کے مارا جبکہ تم نے کسب کے ذریعہ مارا اس لئے کہ یہ تمام افعال میں جاری ہے۔

اور اگر آپ پر انکا منہ پھیر لینا بھاری ہے اٹخ اس آیت کریمہ ہدایت ضمیمہ سے چند فائدے معلوم کرنا چاہئے ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قوم کے ایمان پر بہت حریص تھے اسلام سے انکا منہ پھیر لینا ان عالی مقام پر بہت گراں تھا دوسرا یہ کہ آجناب کی خواہش تھی کہ جب قوم معجزہ طلب کرے تو وہ معجزہ ان کے حسب خواہش پورا ہو جائے تاکہ یہ ممکن ہو سکے کہ وہ ایمان لائیں اور یہ نہیں ہوتا تھا تیسرا یہ کہ معجزہ کو صادر کرنا رسول کی خواہش و اختیار سے نہ ہوتا تھا جب کہ

اللہ تعالیٰ خود نہ چاہے اور خود ارادہ نہ فرمائے واقع نہیں ہوتا تھا اور نیز حق سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے غیر کی خواہش کے تابع نہیں ہوتا تھا اگرچہ وہ غیر شخص اس کا مقبول اور بھیجا ہوا ہی ہو۔

(۱۲) مرزا حفیظ اللہ بیگ صاحب درخط مولوی محمد حسین صاحب مراد آبادی السلام علیکم مولوی محمد اسماعیل صاحب کا کہنا حق ہے اور سب ان کے موافق ہیں کوئی مخالف نہیں۔ عبارت موافق و مقاصد بھی ان کے موافق ہے۔ مولوی اسماعیل صاحب قدرت کلیہ کے منکر ہیں کہ قدرت دیگر متصرف کر دیوں جیسا دیگر افعال اختیار یہ کی قدرت ہے کہ عادت الہی ہے جب قصد کرے ویسا ہی ہو جاوے تصرفات میں یہ نہیں جیسا ملکہ نے کلکٹر کو اختیار روئے کر متصرف بنا دیا سو افعال اختیار یہ میں عادت تصرف ہوتا ہے ظاہر اور فعل حق تعالیٰ کا مخفی ہے اور معجزات و تصرفات میں ظاہر بھی معجز ہے مثل قلم کے مگر جزئیہ قدرت محدود اس فعل تک نبی دولی میں ہوتی ہے کہ وہ عالم اس امر عالم کا ہے کہ مجھ سے یہ امر صادر کرتے ہیں اور مجھ کو قصد اس فعل کے کرنے کا حکم ہے پس قلم جیسی حرکت ہوئی مگر قلم علم سے عاری ہے نبی کو علم و ارادہ و توجہ بھی ہوتا ہے اس علم و توجہ کو اختیار جزئی سے تعبیر کرتا ہوں سو اس کا اثبات شرح مواقف و مقاصد میں ہے اور کلام مولوی اسماعیل مرحوم و دیگر علماء اس کا انکار نہیں کرتے قدرت دے کر فارغ ہونا کہ مثل قدرت دیگر افعال کے عادت کہ وقت قصد کے جب چاہیں کر لیا کریں۔ کہ جس کو اختیار کلی و قدرت کلیہ کہتا ہوں اس کا انکار ہے پاس یہ تو اصل مراد ہے اگر ضرورت ہوگی تو پھر شرح عبارت مقاصد کی کر دوں گا۔ ورنہ غالباً آپ کو حاجت زیادہ لکھنے کی نہ ہووے گی والسلام۔

(۵) اگر طاق و الماری جس میں کتب شریعت و قرآن و حدیث رکھی ہوں سر کے برابر ہے تو کچھ حرج نہیں ہے اور اگر سر کے نیچے پشت کے برابر ہے تو خلاف ادب کے ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو ثواب پہنچانے کے لئے کھانا کھلانا

(سوال) شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامی میں جو اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب علیہ الرحمۃ سے نقل فرماتے ہیں۔ اخبر نبی سیدی والدی قال کنت اصنع فی ایام المولد طعاما صلۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یفتح فی سنۃ من السنین شئی اصنع بہ طعاما فلم اجد الا حمصا مقلیا فقسمتہ بین

الناس فرأيتہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیه هذه الحمص متبہجا بشا شا۔ (۱) فقط  
 عبارت مذکورہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ یوم ولادت ایصال ثواب یا سرور ولادت میں  
 اطعام الطعام وغیرہ جو کہ شاہ صاحب قدس سرہ کے معمولات میں سے تھا جائز و مستحب ہے اور  
 باعث خوشنودی آنحضرت ﷺ اور جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ بھی اجتماع صلحاء یوم ولادت میں  
 او اطعام الطعام کو مستحسن لکھتے ہیں حسن المقصد میں بایں وجہ مبتدعین استخوان مولود مردہ زمانہ پر  
 استدلال کرتے ہیں اور قاعدہ شرع سے ایسی تعینات و تخصیصات حد بدعات میں شامل ہوتی ہیں،  
 لہذا مع توضیح عبارت مذکورہ کے جواب سرفراز فرمادیں۔ فقط

(جواب) ایصال ثواب ہر روز درست اور موجب ثواب ہے کوئی تاریخ و وقت شرع سے موقت  
 نہیں روز ولادت اور روز وفات بھی درست ہے پس اگر کسی دن کو ضروری نہ جانے بلکہ مثل دیگر  
 ایام کے جانے ایصال ثواب میں اور عوام کو بھی اسی طرح کے ایصال میں ضرر نہ ہو تو کچھ حرج  
 نہیں سب کے نزدیک درست ہے پس شاہ عبدالرحیم صاحب کا یہ فعل ایسا ہی تھا تو اس سے کوئی  
 حجت نہیں لاسکتا اپنے بدعت زمانہ پر اور پھر وہ طعام ایصال ثواب کا تھا کہ صلۃ بالنبی کا لفظ موجود  
 ہے اس میں نہ کوئی سرور ولادت کا کلمہ ہے نہ اجتماعی ذکر ولادت کے واسطے پس اس میں کوئی  
 حجت جواز مولد کی نہیں اور سیوطی کے وقت میں بھی ہمارے زمانہ جیسی بدعت نہ ہوئی تھی براہین  
 قاطعہ کو دیکھو اس میں سیوطی کا مقصد مفصل لکھا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کوٹڈا کچھڑا صحت گیارہویں توشہ سے منی کا حکم

(سوال) یہ تعینات جیسے ربیع الاول میں کوٹڈا اور عشرہ محرم میں کچھڑا اور صحت حضرت فاطمہ رضی اللہ  
 عنہا کی اور گیارہویں اور توشہ اور سے منی بوعلی قلندر اور خضر علیہ السلام کے نام کا چاہ پر لے جانا مذکورہ  
 بالا میں طعام کی تخصیص او ایام کی تعین کہ اس کے خلاف ہرگز نہ ہوں بدعت اور حرام ہیں یا نہیں اور  
 اس قسم کے طعام کو کھانا مکروہ ہے یا حرام کیونکہ افعال جہال ان معاملات میں نہایت بدوحد کفر و شرک  
 کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نفع ضرر وقوع منافع اپنے اپنے مرادات کی طلب ان میں کی جاتی ہے تو  
 ایسے لوگوں اور ایسے عقائد کی نسبت حکم کفر و شرک کا کرنا درست ہے یا نہیں ارقام فرمادیں۔

(۱) مجھے میرے والد بزرگوار نے خبر دی کہ میں ایام مولود میں کھانا پکھانا تھا حضور اکرم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے تو ایسا  
 ہوا کہ ایک سال میرے پاس کچھ نہ تھا کہ میں کھانا پکھانا بجز بھونے جنوں کے اسی کو لوگوں میں شہیم کر دیا پھر میں نے  
 رسول اللہ کو خواب میں شش بشش دیکھا اور چنے آپ کے سامنے رکھے تھے۔

(جواب) یہ تعینات بدعت ضلالہ ہیں اور طعام میں اگر نیت ایصالِ ثواب کی ہے تو طعام مباح اور صدقہ ہے اور جو بنام ان اکابر کے ہے تو داخل مالِ بغیر اللہ میں ہے اور حرام ہے۔ اور ایسے عقائد فاسد موجب کفر کے ہیں ان افعال کو کفر ہی کہنا چاہئے مگر مسلم کے فعل کی تاویل لازم ہے۔ جیسا اوپر کے جواب میں لکھا گیا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### خواجہ خضر کے دلے کا حکم

(سوال) کوٹا کرنا حضرت کا اور صحتک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور کچھرا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اور توشہ شاہ عبدالحق رحمہ اللہ کا اور دلایا خواجہ خضر کا کرنا اور ان میں کھانوں کی خصوصیت کرنی کیسی ہے۔

(جواب) ایصالِ ثواب بلا قید طعام وایام کے مندوب ہے اور قید و تخصیص یوم اور تخصیص طعام کی بدعت ہے اگر تخصیص کے ساتھ ایصالِ ثواب ہو تو طعام حرام نہیں ہوتا گواس تخصیص کی وجہ سے معصیت ہوتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### دس محرم کی مجلس شہادت

(سوال) یوم عاشورہ کو یوم شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، گمان کرنا و احکام ماتم و نوحہ گریہ وزاری و بے قراری کی برپا کرنا اور گھر گھر مجالس شہادت منعقد کرنا اور واعظین کو بھی بالخصوص ان ایام میں شہادت نامہ یا وفات نامہ بیان کرنا خاص کر روایات خلاف و ضعیفہ سے اور سامعین کو بھی ان امور میں ہر سال کوشش ہونی کہ اس کے مثل وعظ میں نہیں ہوتی ہرگز اور خاص ایام مذکورہ ہی میں ایصالِ ثواب اور صدقات کرنا اور تعین آب و طعام بھی مثل شربت ہے یا کچھڑا ہے اور ہر غنی اور فقیر کو اس کا لینا اور تبرک جانا اور جو غنی یا سید اس کو نہ لے تو مطعون کریں اور برجانیں اور فی الجملہ ریا کو اس میں بہت دخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں امیدِ ثواب ہو سکتی ہے یا نہیں اور یہ کل امور بدعات و معصیت ہیں یا نہیں۔

(جواب) ذکر شہادت کا ایام عشرہ محرم میں کرنا بمشا بہت روافض کے منع ہے اور ماتم نوحہ کرنا حرام ہے۔ فی الحدیث نہی عن المرانی الحدیث (۱) اور خلاف روایات بیان کرنا سب

(۱) حدیث میں ہے کہ آپ نے مریوں سے منع فرمایا ہے۔



ابواب میں حرام ہیں۔ تقسیم صدقات بہ تخصیص ان ایام کرنا اگر یہ جانتا ہے کہ آج ہی زیادہ ثواب ہے تو بدعت منالہ ہے علیٰ ہذا تخصیص کی طعام کی کسی یوم کرنا لغو ہے اور صدقہ کا طعام غنی کو مکروہ اور سید کو حرام ہے اس پر طعن کرنا فسق ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## پیران پیر کی گیارہویں

(سوال) تبارک اور رحی اور گیارہویں پیران پیر کی کرنا درست ہے یا نہیں۔  
(جواب) تبارک و رحی بدعت ہیں ان کی کوئی اصل شرع میں نہیں اور ایصال ثواب بروح حضرت قدس سرہ درست ہے اور تعین تاریخ کو پس و پیش نہ کرے بدعت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ایام محرم میں کتب شہادت کا پڑھنا

(سوال) کتاب ترجمہ سر اشہاد تین یا دیگر کتب شہادت خاص شہادت کی رات کو پڑھنا کیسا ہے حسب خواہش نمازیان مسجد یا کسی کے مکان پر۔  
(جواب) ایام محرم میں سر اشہاد تین کا پڑھنا منع ہے حسب مشابہت مجالس رونق کے۔

## محرم میں سبیل لگانا دودھ کا شربت پلانا

(سوال) محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی و نیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں۔  
(جواب) محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو یا سبیل لگانا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور کتبہ رونق کی وجہ سے حرام ہیں۔ فقط

## توشہ شاہ عبدالحق کو توشہ حق کہنا

(سوال) بمقابلہ توشہ شاہ عبدالحق کو جو قدیم زمانہ سے مروج ہیں اور سب جانتے ہیں کہ منع ہے توشہ حق نام رکھنا اور خوردنوش یا آشتیایان کافر مانا نفسانیت ہوئی یا نہیں۔  
(جواب) جو امر شرعاً حرام ہے کسی کی خاطر داری سے کرنا حرام جان کر بھی فسق اور حرام ہے۔

ہرگز نہیں چاہئے معصیت میں کسی کی رضا درست نہیں۔ فقط

## نذر اللہ کا نام تو نہ حق رکھنا

(سوال) علماء متقدمین نے نام نذر اللہ کا توشہ حق نہیں رکھا جو ایک فرقہ نے حال میں توشہ حق نام رکھا ہے اگر جائز ہے تو نیا امر ایجاد کرنا مثل اس کے بدعت ہے یا نہیں۔

(جواب) توشہ حق نام نذر کارکھنا بدعت ہے ایسا لفظ موہم کہنا بیجا ہے توشہ سامان کو کہتے ہیں حق تعالیٰ کی ذات پاک سامان سے پاک ہے اولیاء کا توشہ تو یہ معنی رکھ سکتا ہے کہ ان کو ثواب پہنچے گا ان کے توشہ آخرت میں معین ہو جاوے گا اور جو کوئی معنی صحیح توشہ حق کے ہوویں بھی تاہم موہم لفظ بولنا نہیں چاہئے۔

## اہل قبور سے استعانت

(سوال) استعانت از اہل قبور خواہ قبور انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام ہوں سنت رسول اللہ ﷺ و قرون مشہود لہا بالخیر میں صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے یا نہیں و در صورت عدم ثبوت بدعت و ممنوع بموجب روایات ذیل ہوں گی یا نہیں اگر نہیں تو ثبوت کا جواز کیا ہے۔ اور در صورت اختلاف بدعت و جواز اولیٰ کیا ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اللھم انا کنا نعوذ بک و نحن الان نعوذ بک و نحن الان نعوذ بک و نحن الان نعوذ بک۔ (۱) اور امام ابن قیم اعاشہ میں روایت فرماتے ہیں۔ ثنا علی بن حسین راى رجلا یجئى الی فرجة کانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدخل فیها فیدعو فینها و قال الا احد نکم حدیثہ سمعته من ابی عن جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا قبری عیاداً ولا بیوتکم قبور افان تسلیمکم یلغنی اینما کنت و ایضاً و لقد جر السلف الصالح التوحید و حموا جانبہ حتی کان احدہم اذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراد الدعاء استقبال القبلة و جعل ظهرہ الی جدار القبر ثم دعا قال سلمة بن وردان رايت انس بن مالک لیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ثم یسند ظهرہ الی جدار القبر ثم یدعوا و نص علی ذلک الائمة

(۱) اے اللہ تم میرے ہی کو ذریعہ بناؤ تھے اب تیرے ہی کے بچا کو ذریعہ بناؤ تے ہیں۔

الاربعمائة يستقبل القبلة وقت الدعا حتى لا يدعوا عند قبره وايضا كيف يكون دعاء الموتى والدعاء عند قبورهم والا استشفاع بهم مشروعاً وعملاً صالحاً وتصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوذبه الخلوف الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون وايضا وكذلك التابعون كان عندهم من قبور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا مصارعدد كثير فماستغاثوا بقبر احد منها ولا دعوه ولا دعوا به ولا دعوا عنده ولا استشفعوا به ولو كان ذلك منهم لنقل فيكون ذلك فضلا حرمة خير القرون وجهلوه وظفر به الخلوف وعملوه. (۱) اور قاضی ثناء اللہ صاحب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں دعاء۔ آنها خواستن حرام است (۲)

(جواب) اس مسئلہ کی پہلے تحریرات ہو چکی ہیں کہ ماہ مسائل اور اربعین مسائل مولانا محمد اسحاق مرحوم دہلوی کو دیکھئے چونکہ اب بندہ سے سوال کیا گیا ہے تو جواب مختصر لکھنا ضرور ہوا استغانت کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ حق تعالیٰ سے دعا کرے کہ بجز مت فلاں میرا کام کر دے یہ باتفاق جائز ہے خواہ عند القبر ہو خواہ دوسری جگہ اس میں کسی کو کلام نہیں دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کہے خواہ قبر سے دور کہے اور بعض روایات میں جو آیا ہے یعنی نبی عباد اللہ تو وہ فی الواقع کسی میت سے استغانت نہیں بلکہ عباد اللہ جو صحرا میں موجود

(۱) ہم سے علی بن حسین نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی ﷺ کی قبر کے پاس جو شگاف تھا وہاں آ کر دعا مانگا کرتا تھا تو ہم نے اس کو منع کیا اور کہا کہ کیا میں تجھ کو وہ حدیث نہ بیان کروں جو میں نے اپنے باپ سے سنا اور وہ میرے دادا سے سنے اور وہ رسول اللہ ﷺ کی میری قبر کو عید نہ مانا اور نہ اپنے مکانوں کو قبر بنانا کیونکہ تمہارا اسلام مجھ کو جہاں کہیں میں ہوں پہنچ جاتا ہے و نیز سلف صالح نے توحید کا بہت خیال رکھا ہے اور جانب توحید کی بہت رعایت رکھی ہے حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی نبی ﷺ پر سلام پڑھنے کے بعد دعا کرنا چاہتا ہو وہ قبیلہ کی طرف رخ کر لیتا اور اپنی پیٹھ کو نبی ﷺ کی قبر کی دیواری طرف کر دیتا اور وہ دعا کرتا اور سلمہ بن وردان روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک نبی ﷺ پر سلام کرتے پھر وہ اپنی پیٹھ قبر کی دیواری طرف کر دیتے اور دعا کرتے اور انہما ربیعہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ دعا کے وقت قبلہ رخ ہو جائے حتیٰ کہ قبر کے پاس دعاء بھی نہ کرے اور کسی قدر مردوں کی دعاء اور ان کو شفیع بنانے شروع اور صل صالح نہ ہوتا اور مقرر وہ نیش کا خیال نہ کریں جن کی فضیلت کا حکم رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے اُو ان کے خلف اس پر کامیاب ہو جائیں تو ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا جاتا اور اسی طرح و نیز تابعین جن کے پاس اصحاب نبی ﷺ کی قبریں شہروں میں بہت زیادہ ہیں لیکن انہوں نے انہیں سے کسی کی قبر سے نہ فریاد کی نہ دعا کی اور نہ اس کے ذریعہ دعا کرائی اور نہ اس کے پاس دعا کی اُو نہ اس کے ذریعہ شفاعت کرائی اور اگر بیان سے ثابت ہوتا تو نقل کیا جاتا نہ کہ اس کو حرام کیا جاتا خیر القرون میں اور وہ اس سے ناواقف رہتے اور ان کے خلاف اس کو پا جاتے اور وہ جان لیتے۔

(۲) اور ان سے دعاء مانگنا حرام ہے۔

ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ ان کو اسی کام کے واسطے وہاں مقرر کیا ہے تو وہ اس باب سے نہیں ہے اس سے حجت جواز پر لانا جاہل ہے معنی حدیث سے تیسرے یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دیوے اس میں اختلاف علماء کا ہے مجوز سماع موتی اس کے جواز کے مقرر ہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فقہاء نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے اور جس کو قاضی صاحب نے منع لکھا ہے وہ دوسری نوع کی استعانت ہے حق یہ ہے کہ یہ مسئلہ مخلوط ہو رہا ہے اور سماع موتی کا مسئلہ بھی صحابہ کے وقت سے مختلف فیہ ہے معہذا سلام کرنے کو کوئی منع نہیں کرتا بہر حال یہ مسئلہ مختلفہ ہے اس میں بحث مناسب نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### قبروں کو پختہ بنوانا

(سوال) قبروں کو پختہ کرانا اور عمارت بنانا اور روشنی وغیرہ کرنا کہ ان کے معنی میں حدیثیں صحیح وارد ہیں اور لعنت فرمائی ہے حضرت ﷺ نے تو پھر کیا باعث ہے جو خود حضرت نبی کا حزار پختہ رفیع الشان بنا ہوا ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے اور بڑے بڑے سامان اور صحابہ اور اماموں کی بھی پختہ بنی ہیں کیا کچھ خصوصیت ہے یا مصلحت ہے دین و دنیا کی اگر کوئی منع کرے تو نہیں مانتے اور غلط بتاتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جواب ایسے طور پر دیجئے جو ان پر حجت ہو کیونکہ حدیثوں کا صاف انکار لازم آتا ہے اگر ان سے کہیں کہ حجت تو قرآن و حدیث سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی باتوں کو نہیں مانتے۔

(جواب) یہ سب امور ناجائز ہیں اور جہاں کہیں لوگوں نے کیا ہے وہ علمائے مقبولین نے نہیں کیا بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خلاف قرآن شریف و سنت رسول جو کوئی کرے وہ ناجائز ہے قابل حجت نہیں۔ فقط

### قبروں کو پختہ بنانا اور اس پر قبہ بنوانا

(سوال) قبور کا پختہ بنانا اور ان پر عمارت و قبہ و روشنی و فرش فروش وغیرہ جو کچھ کہ لوگ کرتے ہیں قابل بیان نہیں حالانکہ امور مذکورہ کے منع شدید میں احادیث صحیحہ وارد ہیں اور فاعلین پر رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی ہے مگر پھر لوگ تکذیب احادیث کر کے اپنے فعل کی حجت پر

قبور انبیاء علیہم السلام بالخصوص، رسول اللہ ﷺ واولیاء کرام صحابہ و ائمہ مجتہدین کو پیش کرتے ہیں اور حج احادیث و سنت کو منکر انبیاء و اولیاء کہتے ہیں اور درپے ایذا رسانی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حریم اور عرب میں جا کر خلاف شرع ان کو نہیں کہتے کیا قرآن احادیث وہاں پر نہیں ہے لہذا عرض ہے کہ عرب و حریم میں اگر علماء مذکورہ کا منع ہونا بیان نہ کریں تو یہ کیا حجت جواز ہو سکتا ہے۔ (جواب) ہر گاہ کہ احادیث میں ممانعت ان امور کی وارد ہے پھر کسی کے فعل سے وہ جائز نہیں ہو سکتے اور اعتبار قرآن و حدیث و اقوال مجتہدین کا ہے نہ افعال مخالف شرع کا اگر عرب اور حریم میں امور غیر مشروع خلاف کتاب و سنت رائج ہو گئے تو جواز ان کا نہیں ہو سکتا اور جو وہاں ان بدعات کو کوئی منع نہ کر سکے تو یہ حجت جواز کی نہیں ہو سکتی اس پر سکوت کی کوئی وجہ نہیں کتاب و سنت سے رد کرنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### قبر کا طواف کرنا

(سوال) طواف کرنا قبر کا کیا ہے۔

(جواب) طواف کرنا قبر کا حرام ہے اگر مستحب جان کر کرے کافر ہو گا فی شرح المناسک القاری (۱) ولا یطرف ای یدور حول البقعة الشریفة لان الطواف من مختصات الکعبة المنیفة فیحرم حول قبور الانبیاء والا ولیاء ولا عبارة بما یفعله العامة الجہلۃ ولو کانوا فی صورة المشائخ والا ولیاء والعلماء انتہی ہکذا فی البحر والنہر۔

الجواب صحیح بذل الجواب صحیح جوابات صحیح میں جوابات صحیح اور درست ہیں جوابات صحیح ہیں الجواب صحیح

عبد اللہ حنفی خادم شریعت

ابوالفیض محمد احمد الدین صد شکر کہ من رسول الادب محمد صدیقی

تشریحی باسفری احمد الدین پیر سمد دارم محمد ہاشم ابو محمد عبدالوہاب دیوبندی

جواب صحیح میں الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح  
ابوالبرکات صاف محمد المصطفیٰ بن محمد اللہ لاد محمد عبدالعزیز محمد یوسف سید محمد عبدالکلام محمد سلیمان عبدالغفور شہاب الدین

الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح

محمد عبدالغفار عبدالحمید محمد رحمت الدین احمد یار سعدانہ سکن بندہ رشید احمد رشید  
راشیان گنٹ گوی عفو عنہ احمد ۳۰

(۱) رد و رد رسول اللہ ﷺ کے اطراف طواف نہ کرے یعنی نہ پھرے اس لئے کہ طواف کرنا کعبہ شریف کی خصوصیات سے ہے اس لئے حرام ہے طواف کرنا انبیاء اور اولیاء کی قبور کا اور کچھ اعتبار نہیں عوام اور جہلاء کے کرنے کا اگرچہ وہ سونوں اور مالوں کی شکلوں میں ہوں آئیں۔

## قبر کا بوسہ دینا

(سوال) بوسہ لینا قبر کا جائز ہے یا حرام۔

(جواب) بوسہ لینا قبر کا حرام ہے فی المدارج و بوسہ دادن قبر را وسجدہ کردن آنرا دوسر نہادن حرام و ممنوع است و در بوسیدن قبر والدین روایت فقہی نقل میکند صحیح آنست کہ لا يجوز اتحي وادنی لا يجوز گناہ صغیرہ است و اصرار بر آن کبیرہ است ہذا فی شرح عین العلم۔ (۱)

## قبر پر دفن کے بعد اذان دینا

(سوال) اذان بعد دفن کے قبر پر بدعت ہے کہ کہیں قرونِ ثلاثہ میں اس کا ثبوت نہیں اور جو امر ایسا ہو وہ مکروہ ہے تحریماً قال فی الفتح القدیر والبحر یکرہ عند القبر مالم یعہد من السنۃ والمعہود منها لیس الا زیادۃ والدعاء عندہ قائما۔ (۲) انتھی۔ پس اذان کہنا اس جگہ منع ٹھہرا سونہ کرنا چاہئے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

چنانچہ علامہ شامی نے رد المحتار میں لکھا ہے۔ تنبیہ فی الاقتصار علی ما ذکرہ من الوارد اشارۃ الی ان لا یسن الا اذان عند ادخال المیت فی قبرہ کما ہو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر فی فتاواہ بانہ بدعتہ وقال من ظن انہ سنۃ قیا ساعن نداھا للمولود الحاقاً لختامۃ الامر با بتدائہ فلم یصب (۳) آہ انتھی اور علامہ خیر الدین رطبی نے حاشیہ بحر الرائق میں لکھا ہے۔ قیل وعند انزل المیت القبر قیا سا علی اول خروجہ من الدنیا لکن رواہ ابن حجر فی شرح العباب (۴) انتھی اور دارالبحار میں لکھا ہے۔ من

(۱) مدارج میں ہے اور بوسہ دینا قبر کا اور اس کو سجدہ کرنا اور سر رکھنا حرام اور ممنوع ہے اور والدین کی قبروں کو بوسہ دینے میں ایک فقہی روایت نقل کرتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ لا يجوز (جائز نہیں) اور لا يجوز کا اولیٰ گناہ صغیرہ ہے اور اس پر اصرار کرنا گناہ کبیرہ ہے (شرح عین العلم)۔

(۲) فتح القدر اور بحر میں ہے اور قبر کے پاس مکروہ ہیں وہ تمام باتیں جو سننہ سے ثابت نہ ہوں اور سنت سے ثابت بجز زیارت اور اس کے پاس سڑے رہ کر دعا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔

(۳) تنبیہ اقتصار میں اس پر جو وارد نے ذکر کیا ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قبر میں میت کو داخل کرتے وقت اذان مسنون نہیں ہے جیسا کہ آج کل عادت ہو گئی ہے اور ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں اس کی صراحت کی ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جس نے گمان کیا ہے کہ یہ سنت ہے یہ قیاس کرتے ہوئے کہ میاں پر مستحب ہے اور معاملہ کے خاتمہ کو ابتدا سے ملاتے ہوئے حالاً کتب صحیح نہیں ہے۔

(۴) کہا گیا ہے کہ اور میت کو قبر میں اتارنے کے وقت (اذان دینا) یہ قیاس کرتے ہوئے کہ جس طرح وہ اول دنیا میں آیا تھا (تو اس کے کانوں میں اذان دی گئی تھی) لیکن شرح عباب میں ابن حجر نے اس کو رد کر دیا تھا۔

البدع التي شاعت في بلاد الهند الاذان على القبر بعد الدفن (۱) اور تو شیخ شرح تنقیح محمود الخلیلی  
 میں مذکور ہے مافی الا ثور من الاذان على القبر وليس بشیئی (۲) انتھی کذا فی التفہم .  
 المسائل :- اور فتویٰ مولانا عبداللہ میر غنی مفتی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً چنانچہ ہدیۃ  
 المکیہ میں مرقوم ہے۔ سوال هل يجوز الاذان عند القبر بعد دفن الميت في  
 المذهب الحنفی ام لا بینوا توجروا و من اصر علیه و اعتقده من السنة و ذم تارکہ  
 فما حکمہ مصیب ام خاطی مبتدع بینوا بالصواب. (۳)

(جواب) الحمد لله رب العالمین رب زدنی علماً ذکر فی البحر الرائق مانصہ  
 ویکرہ عند القبر کل مالم یعهد من السنة والمعہود منها لیس الا زیار تہا والدعاء  
 عنہا قائماً کما کان یفعل صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج للبقیع انتھی ومنہ  
 یعلم الجواب واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم امر برقمہ المقصر عبداللہ بن محمد میر  
 غنی الحنفی مفتی مکہ المکرمہ کان اللہ لہما حامداً مصلیاً مسلماً. (۱)

### بدعت کی اقسام

(سوال) کوئی قسم بدعت کی حسن ہوتی ہے یا نہیں۔

(جواب) بدعت کوئی حسن نہیں اور جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ سنت ہی ہے مگر یہ اصطلاح کا  
 فرق ہے مطلب سب کا واحد ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### اقسام بدعت غیر مقبولہ

(سوال) احادیث میں جو وعیدیں مرکب بدعات کی وارد ہوئی ہیں کہ فرائض و نوافل و صوم و حج و  
 عمرہ و جہاد وغیرہ اس کا مقبول نہیں ہے وہ کون سی بدعات ہیں اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو  
 نکتہ رکھتا ہے اہل بدعت سے ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ عمل اس کے اور نکال لیتا ہے نور ایمان اس

(۱) اور ان بدعتوں سے جو بلاد ہند میں شائع ہو گئی ہیں دن کے بعد قہر پر اذان دینا ہے۔

(۲) احادیث میں قبر پر اذان دینا ثابت نہیں ہے اور یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔

(۳) سوال کیا میت کو دفن کرنے کے بعد... قبر کے پاس اذان جائز ہے مذہب حنفی میں یا نہیں ظاہر کیجئے اجر حاصل کیجئے  
 اور جو شخص کس اس پر اصرار کرے اور اعتقاد رکھے کہ یہ سنت ہے اور اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کرے تو اس کا کیا حکم  
 ہے وہ صواب پر ہے یا خطا پر اور بدعتی ہے حق بات لکھئے۔

(۴) جواب تمام تعریف رب العالمین کے لئے ہے اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما بحر الرائق میں جو کچھ لکھا ہے وہ اصل  
 حسب ذیل ہے اور قبر کے پاس مکروہ ہے ہر وہ چیز جو سنت سے ثابت نہیں اور سنت سے ثابت ہے جہاں کی زیارت اور اس  
 کے پاس کھڑے رہ کر دعا کرنے کے کچھ نہیں جیسا خود رسول اللہ ﷺ بھیج کر کجا کر کیا کرتے تھے اور اسی سے جواب معلوم  
 ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ زیادہ جاننے والا ہے۔

کے دل سے اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ اہل بدعت تمام خلقت سے بدتر ہیں اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ اہل بدعت جہنم کے کتے ہیں وہ کون سی اور کس درجہ کی بدعات ہیں۔ ادنیٰ درجہ کی کون سی بدعت ہے اور اعلیٰ درجہ کی کون سی اراقام فرمادیں۔

(جواب) جس بدعت میں ایسے شیدید و عمید ہیں وہ بدعت فی الحقائق ہے۔ جینا روافض خوارج کی بدعت ہے اور دیگر بدعات جو اعمال میں ہیں اس کو بھی بعض نے کتب مجالس الابرار میں کبیرہ لکھا ہے کہ کوئی بدعت صغیرہ نہیں مگر حق یہ ہے کہ بدعت علی قدر المفسدہ چھوٹی بڑی ہوتی ہے تشکیک اس میں بھی حاصل ہے پس بدعت سے پچاسب سے ضروری ہے۔

### شرکت مجالس بدعت

(سوال) آیت وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یكفر بها ویستهزأ بها

فلا تعلقوا معہم حتی یخو ضوا فی حلیث غیرہ انکم اذا ملہم الخ (۱)

میں شرکت جملہ مجالس ممنوعہ غیر مشرورہ و بدعات مظالمہ ثابت ہوتی ہے یا نہیں، زید کہتا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ مجالس کفر و استہزاء کو فرمایا ہے۔ دیگر امور کو اس کے تحت میں داخل کرنا تحریف کلام اللہ شریف ہے لہذا مقولہ زید صحیح ہے یا نہیں اور تفسیر معالم میں تحت آیت جو قول حضرت ضحاک سے منقول ہے۔ قال الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہ دخل فی هذه الایة کل

محدث فی الدین و کل مبتدع الی یوم القیامۃ (۲) یہ زید کے مقولہ کا منافی ہے یا نہیں فقط۔

(جواب) اس آیت سے عدم شرکت مجالس غیر مشرورہ ثابت ہوتی ہے اس طرح کہ استہزاء بکتاب اللہ حرام ہے علی ہذا بدعات خلاف حکم شرع حرام ہیں جیسا کہ ان کی شرکت کی حرمت ثابت ہوتی ہے ایسے ہی دیگر معاصی کی بھی معنی تفسیر ضحاک کے یہ ہیں کہ کل مبتدع کے ساتھ بیٹھنا اور ہر بدعت کا شریک ہونا حرام ہے آپ کا ہم درست ہے۔ والسلام

### مساجد و مدارس کی موجودہ صورت و طرز تعلیم

(سوال) اس صورت کی مساجد اور مدارس اور طرز تعلیم قرون ثلاثہ میں نہیں تھا بلکہ یہ محض نئی صورت ہے تو اس کا بدعت نہ ہونا کیا سبب ہے۔

(۱) اور تم پر کتاب میں یہ حکم دیا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس طرح سنو کہ اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کے ساتھ اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف نہ ہو جاؤ اور نہ تم انہیں کے محل ہو جاؤ گے۔

(۲) ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے اس آیت کے تحت ہر وہ شخص داخل ہو گیا جو دین میں نئی بات نکالے اور قیامت تک ہر بدعتی بھی اس میں شامل ہو گیا۔



(جواب) مسجد کی کوئی صورت شرع میں مقرر نہیں جیسی چاہے بنائے مگر ہاں مشابہت کئی سے دبیحہ وغیرہ سے نہ ہو علیٰ ہذا مدارس کی کوئی صورت معین نہیں۔ مکان ہو اس کا ثبوت حدیث سے ہے اور کسی صورت خاصہ کو ضروری جاننا بدعت ہوگا۔

عیدین میں خطبہ کے پہلے دعا مانگنا

(سوال) مسئلہ عیدین میں خطبہ کے اول دعا مانگنا چاہئے یا بعد خطبہ کے یا بالکل نہ چاہئے۔

(جواب) خطبہ سے اول و آخر دعا کرنا کہیں ثابت نہیں لہذا نہ کرنا چاہئے البتہ بعد سلام نماز عید کے دعا کریں پھر ممبر پر کھڑا ہو کر دعا ثابت نہیں۔

معانقہ خصوصاً عیدین میں

(سوال) عیدین میں معانقہ کرنا اور بغلیگر ہونا کیسا ہے۔

(جواب) عیدین میں معانقہ کرنا بدعت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔ الجواب صحیح میں محمد عبداللطیف عفی عنہ۔ محمد عبداللطیف۔

معانقہ کرنا خصوصاً عیدین میں

(سوال) معانقہ کرنا بالخصوص عیدین کے روز کس درجہ کا گناہ ہے مکروہ ہے یا حرام۔

(جواب) معانقہ و مصافحہ بیچہ تخصیص کے کہ اس روز میں اس کو موجب سرور اور باعث مودت اور ایام سے زیادہ مثل ضروری کے جانتے ہیں بدعت ہے اور مکروہ تحریمی اور علی الاطلاق ہر روز مصافحہ کرنا سنت ہے ایسا ہی بشرائط خود یوم العید کے ہے اور علیٰ ہذا معانقہ جیسا بشرائط خود دیگر ایام میں ہے ویسا ہی یوم عید کے ہے کوئی تخصیص اپنی رائے سے کرنا بدعت ضلالہ ہے فقط واللہ اعلم۔

الوداع کا خطبہ پڑھنا

(سوال) پڑھنا آخر میں ماہ رمضان المبارک میں الوداع الوداع یا شہر رمضان اور الوداع الوداع یا سنت التراتوج اور اشعار فارسی یا اردو عربی کا ہر جمعہ میں یا آخر جمعہ ماہ رمضان المبارک میں در صورتیکہ عوام الناس خطبہ الوداع آخر جمعہ رمضان المبارک کو سنت بلکہ قریب واجب جانتے ہوں کیسا ہے۔ آیا حسب زعم ان کے سنت یا مستحب یا بخلاف اس کے بدعت ہے بدلائل عقلیہ و نقلیہ از کتب معتبرہ جواب ارقام فرمایا جاوے مینواتو جروا۔

(جواب) یہ خطبہ بدعت ہے کہ مرثیہ اور اشعار قرون مشہود لہا بالخیر میں خطبہ میں منقول نہیں علی الخصوص جب اس فعل کو ضروری جانا جاوے کہ مؤکد جانا کسی امر مستحب کو بھی داخل تعدی حدود اللہ اور بدعت ضلالہ ہے چہ جائیکہ امر محدث اور پھر غیر زبان عربی میں خطبہ پڑھنا مکروہ ہے۔ بہر حال یہ فعل عوام جہلاء خطباء اور سنت جانا اس کا بدعت ضلالہ واجب ترک ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

## خطبہ الوداع

(سوال) الوداع کا خطبہ پڑھنا کیسا ہے زید کہتا ہے کہ مولانا عبدالحی صاحب نے اپنے مجموعہ فتاویٰ میں لکھا ہے اور مولانا موصوف کا قول مستند ہے اور زید یہ بھی کہتا ہے کہ الفاظ الوداع کے ائمہ کے وقت میں بھی پڑھے جاتے تھے پس قول زید کا صحیح ہے یا غلط ہے بعض کتابوں میں الوداع کا خطبہ منع لکھا ہے۔  
(جواب) زید کا قول غلط ہے اور خطبہ الوداع کا بدعت ہے۔ فقط

## رسالہ ہفت مسئلہ

(سوال) رسالہ ہفت مسئلہ مطبوعہ نظامی جو کہ حضرت حاجی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو کر شائع ہوا ہے یہ نسبت حاجی صاحب سلمہ کی غلط ہے یا نہیں کیونکہ اس میں تائید اہل بدعت اور اہل حق علماء محققین کی مخالفت ہے مفصل کیفیت سے جو ہر شاگرد فرماویں۔

(جواب) رسالہ ہفت مسئلہ میں مسئلہ امکان و امکان نظیر میں تو کوئی امر ایسا نہیں لکھا کہ کسی کے خلاف ہو بلکہ اس کے امکان کا اقرار اور اس کی بحث سے احتراز لکھا ہے تو اس میں کسی اہل حق کی مخالفت نہیں اور مسئلہ تکرار جماعت میں سبب اختلاف روایات فقہ کے فریقین کو نزاع سے منع کیا ہے کہ مسئلہ مختلفہ میں مخالفت کرنا مناسب نہیں اور مسئلہ نداء غیر میں صاف حق لکھا ہے کہ نداء غیر اگر حاضر و علم غیب جان کر کرے گا تو شرک ہوگا اور جو بے اس کے شوق میں کہا ہے تو معذور ہے گنہگار نہیں اور جو بدون عقیدہ شریک کے یہ سمجھ کر کہے کہ شاید ان کو حق تعالیٰ خبر کر دیوے تو خلاف محل نص میں خطا و گناہ ہے مگر شرک نہیں اور جو نص سے بیعت ہو جیسا صلوة و سلام۔ بخدمت فخر عالم علیہ السلام کے ملائکہ کا پہنچانا تو وہ خود ثابت ہے سو یہ سب حق ہے اس میں کوئی اہل حق مخالف اس کے نہیں کہتا۔ اب رہے تین مسئلے قیود مجلس مولود کے اور قیود ایصال ثواب کے اور عرس بزرگان دین کا کرنا سو اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ دراصل یہ مباح ہیں۔ اگر ان کو سنت یا ضروری جانے بدعت و تعدی حدود اللہ تعالیٰ اور گناہ ہے اور بدون اس کے کرنے میں وہ اباحت لکھتے ہیں ہم لوگ منع کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کو رسوم اہل زمانہ سے خبر نہیں کہ یہ لوگ ان قیود کو ضروری جانتے ہیں لہذا باعتبار اصل کے مباح لکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو عادت عوام سے محقق ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ضروری اور سنت جانتے ہیں۔ لہذا ہم بدعت کہتے ہیں۔ پس فی الحقیقت مخالف اصل مسائل میں نہیں ہوئی بلکہ سبب عدم علم حال اہل زمانہ کے یہ امر واقع ہوا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا امام صاحب نے صابی کو ایک حکم دیا اور صاحبین نے دوسرا حکم یہ سبب اختلاف صابی کے ہوا ہے کہ امام صاحب کے وقت میں ان کا حال اہل کتاب جیسا تھا اور صاحبین کے وقت مجوسی جیسا پس اختلاف اصل مسئلہ کا نہیں بلکہ بوجہ حال اہل زمانہ کے ہے ایسا ہی دیگر مسائل میں ہے پس ایسا ان تین مسائل ہفت مسئلہ میں سمجھ لو ورنہ حضرت سلمہ کے عقائد ہرگز بدعت کے نہیں ہیں کہ اہل فہم

ودانش خود عبارت رسالہ سے سمجھ سکتا ہے معہذا لکھتا ہوں کہ یہ رسالہ ان کا لکھا ہوا نہیں کسی نے لکھا ان کو سنا دیا نہ ہوں نے اصل مطلب کو دیکھ کر اباحت کی صحیح کردی اور حال اہل زمانہ سے خبر نہ ہوئی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

مرنے کے بعد اسقاط کا حکم

(سوال) بعد مرنے کے جو طریق اسقاط عوام کرتے ہیں کہ فرائض واجبات تجویز کر کے اس کے فدیہ میں جو گندم وغیرہ مقرر ہوئے ان کے عوض ایک کلام اللہ شریف دے کر سب سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں لہذا طریق مرجعہ ثابت اور جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) حیلہ اسقاط کا مفلس کے واسطے علماء نے وضع کیا تھا اب یہ حیلہ تحصیل چند فلوس ملاؤں کے واسطے مقرر ہو گیا ہے حق تعالیٰ نیت سے واقف ہے وہاں حیلہ کارگر نہیں مفلس کے واسطے بشرط صحت نیت ورشہ کے کیا عجب ہے کہ مفید ہو ورنہ لغو اور حیلہ تحصیل دنیا داری کا ہے۔ فقط

کتاب آذر جندی سے فاتحہ کا ثبوت

(سوال) در کتاب آذر جندی کہ از ملا علی قاری ست روایت ست قال کان یوم الثالث عن وفات ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء معہ تمرۃ یا بسۃ ولبن النافۃ وخبز الشعیرفو وضعها عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

فقراً النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام الفاتحۃ مرۃ وسورۃ الاخلاص ثلاث مرات وقرأ اللہم صل علی محمد انت لها اهل فرفع یدینہ ومسح وجہہ فامر بابی ذر ان یقسمہما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثواب هذه الاطعمۃ لا ینى ابراہیم۔

فقط صحت نام کتاب اور روایت کی اس میں ہے یا نہیں یا اور کسی کتاب میں ہے۔  
(جواب) نہ کتاب آذر جندی از تصانیف ملا علی قاری ست و نہ روایت مذکورہ صحیح و معتبر است بلکہ موضوع است و باطل بران اعتماد شاید در کتب حدیث نشانے از پھجور وایت یافتہ نمی شود حررہ (۱) الراجی مغفور یہ القوی ابوالحسنات محمد عبدالحی تجاوز اللہ عن ذنبہ الخلی والھی مقولہ از رسالہ شمشیر خنداں مولف مولانا دین محمد صاحب مرحوم مطبع صدیقی لاہور الجواب یہ حدیث وضعی ہے اور بنانے والا اس کا کاذب اور مفتری ہے اور آذر جندی کوئی کتاب ملا علی قاری کی تصنیف سے نہیں ہے آنتھی محمد صدر الدین صدر صدور علی۔

(۱) کتاب آذر جندی نہ ملا علی قاری کی تصنیف ہے اور نہ مذکورہ روایت صحیح و معتبر ہے بلکہ موضوع ہے اور بالکل اس پر مجرور نہ کیا جائے اور کتب حدیث میں ایسی روایت کا کوئی پتہ نہیں پایا جاتا۔

محمد قطب الدین ۱۲۷۳	محمد رشید دین ۱۲۶۷	سید محبوب علی جعفری دہلوی ۱۲۶۰	فیض الرحمن دہلوی ۱۲۶۱
شاگرد مولانا اسحاق	سید محمد زبیر ۱۲۸۱	نواز شمس علی ۱۲۶۰	عبد رحمت اللہ ۱۲۶۵
صاحب دہلوی مرقب	حسینا اللہ حفیظ اللہ دہلوی	محمد رشید دین ۱۲۶۷	فیض الرحمن دہلوی ۱۲۶۱

مظاہر الحق شرح مشکوٰۃ

محمدت دہلوی دہلوی دہلوی دہلوی

محمد تقی خان دہلوی	سید رحمت علی خاں نے عدالت عالیہ سلطانہ صفحہ صراج العلماء ضیاء الفقہاء ۱۲۵۳	محمد عبدالرب ۱۲۶۷	محمد رشید سید کوثرین ۱۲۹۳ ترتیب حسین
محمد تقی خان دہلوی	سید رحمت علی خاں نے عدالت عالیہ سلطانہ صفحہ صراج العلماء ضیاء الفقہاء ۱۲۵۳	محمد عبدالرب ۱۲۶۷	محمد رشید سید کوثرین ۱۲۹۳ ترتیب حسین

دہلوی

مفتی بادشاہی مسجد دہلی

نید احمد حسین ۱۲۸۹	ابوالحسن ۱۲۸۹	محمد منظور علی پرنسپی ۱۲۸۳ دہلوی	عبدہ محمد یوسف ۱۲۸۳	محمد عبدالکرم دہلوی
-----------------------	------------------	--	------------------------	------------------------

مصدر علی خان احمد حسن خان	محمد غلام اکبر خان محمدی ۱۲۸۶ سے	مواہر علماء مقیم ریاست دو جازہ	محمد امام الدین محمدی ۱۲۸۳
------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

محمد عالم علی ۱۲۸۳	محمد قاسم علی ۱۲۸۵	نقشبندی محمد رمضان ۱۲۹۱	رحمت علی	محمد نور علی عفی عنہ
-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------	----------------------

محمدت مراد آبادی صاحب زادہ مولانا عالم علی صاحب مشہور حافظ رحمت علی صاحب متصل سبھی دروازہ

مولانا عالم علی صاحب مشہور حافظ رحمت علی صاحب متصل سبھی دروازہ  
محمدت مراد آبادی صاحب زادہ مولانا عالم علی صاحب مشہور حافظ رحمت علی صاحب متصل سبھی دروازہ

محمدت مراد آبادی صاحب زادہ مولانا عالم علی صاحب مشہور حافظ رحمت علی صاحب متصل سبھی دروازہ  
محمدت مراد آبادی صاحب زادہ مولانا عالم علی صاحب مشہور حافظ رحمت علی صاحب متصل سبھی دروازہ

تمام شد

الجواب صحیح اور اس کا واضح ملعون ہے کہ فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تہمت کرتا ہے فقط رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

فاتحہ کا طریقہ

(سوال) فاتحہ مروجہ یعنی طعام رارو برو نہادہ دست برداشتنے چہ حکم وارد۔ (۱)

(۱) فاتحہ مروجہ یعنی کھانے کو رو برو رکھ کر ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے۔

(جواب) اس طور مخصوص نہ در زمان آنحضرت ﷺ بودند در زمان خلفاء بلکہ وجود آن در قرون ثلاثہ کہ مشہود لہا بالخیر اند منقول شدہ حالاً در حریم شریفین زادہما اللہ شرفا عادت خواص نیست و اگر کہے اس طور مخصوص بعمل آورد آں طعام حرام نمی شود بخوردنش مضائقہ نیست و اس را ضروری دانستن مذموم است و بہتر آنست کہ ہر چہ خواہند خواندہ ثواب آن بمیت رساند طعام را بہ نیت تصدق بفقر خوراند و ثواب مستمن نیز باموات رسانند۔ (۱)

### ہدیۃ الحرمین سے فاتحہ کا ثبوت

(سوال) ہم نے ہدیۃ الحرمین میں دیکھا ہے کہ حضرت نے اپنے بیٹے ابراہیم کے سوگم و دسواں و بیسواں و چہلم وغیرہ میں چھوارے پر فاتحہ دیا اور اصحابوں کو کھلایا پس فی زمانہ لوگ پھول۔ پان وغیرہ کرنے سے چہلم و سوگم و دسواں میں مانع ہوتے ہیں کیا ہے۔

(جواب) ہوا المصوب۔ یہ قصہ جو ہدیۃ الحرمین میں لکھا ہے محض غلط ہے۔ کتب معتبرہ میں اس کا نشان نہیں واللہ اعلم۔ حررہ الراجی عنور بہ القوی ابوالحسنات محمد عبدالحی تجاوز اللہ عن ذنبہ الجلی و العلی۔

### تیجہ میں قرآن شریف کا پڑھنا

(سوال) روز سوم یا پنجم مردم بطلب یا بلا طلب جمع می شونند و چند ختم کلام مجیدی خوانند بعضے آہستہ و بعض با آواز بلند و در پیالہ خوشبو گل می اندازند و دیگر خصوصیات و رسوم بعمل می آرنند چہ حکم دارد۔ (۲)

(جواب) مقرر کردن روز سوم وغیرہ بالتخصیص و ادرا ضروری انگاشتن در شریعت محمدیہ ثابت نیست صاحب نصاب الاحساب آن را مکروہ نوشتہ رسم و راہ تخصیص بگذارند ہر روز یکہ خواہند ثواب بروح میت۔ مانند میت قریب مرگ خود زیادہ تر محتاج مدد می شود۔ ہر قدر کہ ایصال ثواب بہر روز یکہ شود موجب خیر است کذانی فتح العزیز و شیخ عبدالحق محدث دہلوی در شرح سفر السعادت می فرمایند و عادت بخود کہ برائے میت در غیر وقت نماز جمع شونند و قرآن خوانند و ختمات خوانند نہ برسر گور و نہ غیر آن و اس مجموع بدعت است و مکروہ تم تعزیرت اہل میت و تسلیہ و صبر فرمودن سنت و مستحب است اما اس اجتماع مخصوص روز سوم و ارتکاب تکلفات دیگر و صرف اموال بے

(۱) یہ مخصوص طرز نہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تھی نہ خلفاء کے زمانہ میں بلکہ اس کا وجود تینوں قرون میں جن کے بھلائی کی شہادت دی گئی ہے منقول نہیں ہے اور اب بھی حریم شریفین میں اللہ تعالیٰ کی ان کی عزت زیادہ کرے۔ خاص لوگوں کی عادت نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس مخصوص طریقہ پر عمل کرے تو کھانا حرام نہیں ہوتا اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کو ضروری جانتا ہر ہے اور بہتر یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچادیں اور کھانے کو تصدق کی نیت سے فقرا کو کھلا دیں اور اس کا ثواب بھی مردوں کو پہنچادیں۔

(۲) سوال تیسرے دن یا پانچویں دن بلانے سے یا بغیر بلانے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور کلام مجید کے چند شعر پڑھتے ہیں بعض آہستہ اور بعض بلند آواز سے اور خوشبو کے پیالہ میں ڈالتے ہیں اور دوسری خصوصیات اور رسوم عمل میں لاتے ہیں کیا حکم رکھتا ہے۔

وصیت از حق یتامی بدعت است و حرام اتھی۔ (۱) حررہ الراجی عنور بہ القوی ابو الحسنات محمد عبدالحی  
تجاوز اللہ عن ذنبہ الجلی والشی۔

فاتحہ کا موجودہ طریقہ

(سوال) سامنے کھانا یا کچھ شیرینی رکھ کر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھنا درست ہے یا نہیں  
کہ جس کو عرف عام میں فاتحہ کہتے ہیں۔

(جواب) فاتحہ موجودہ شرعاً درست نہیں ہے بلکہ بدعت سیدہ ہے کذا فی اربعین و فتاویٰ سمرقندی  
فقط محمد قاسم علی عفی عنہ محمد قاسم علی الجواب صحیح والحبیب صحیح عبداللطیف عفی عنہ۔  
محمد عالم علی محدث مراد آباد شاگرد مولانا محمد الحق۔ محمد عبداللطیف سہنپور۔

کھانے یا شیرینی پر فاتحہ

(سوال) فاتحہ کا پڑھنا کھانے پر یا شیرینی پر بروز جمعرات درست ہے یا نہیں؟  
(جواب) فاتحہ کھانے یا شیرینی پر پڑھنا بدعت ضلالت ہے ہرگز نہ کرنا چاہئے۔

تیجہ کا حکم

(سوال) تیجہ، ساتواں، چالیسواں، امور مذکورہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب اور فقہ کی کسی معتبر کتب میں  
ہیں اور ان کا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) تیجہ، دسواں وغیرہ سب بدعت ضلالہ ہیں، کہیں اس کی اصل نہیں، نفس ایصال ثواب  
چاہئے، ان قیود کے ساتھ بدعت ہی ہے، جیسا کہ اوپر کے جواب میں مرقوم ہو چکا ہے، اور  
برادری کو ان ایام میں کھلانا یہ رسم ہے اور منع ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوم وغیرہ کرنا

(سوال) فی زمانہ رواج ہے کہ جب کوئی مرجاتا ہے تو اس کے عزیز واقارب اس روز یا دوسرے  
روز یا تیسرے روز یا کسی اور روز جمع ہو کر مسجد میں یا کسی اور مکان میں قرآن شریف اور کلمہ طیبہ اور  
درود شریف وغیرہ پڑھ کر بلا تعین شمار ثواب اس پڑھے ہوئے کا متونی کو بخشتے ہیں اور نئے وغیرہ  
تقسیم کرتے ہیں تو اس طرح پر جمع ہونا اور قرآن مجید وغیرہ پڑھنا اور پڑھوانا درست ہے یا نہیں؟

(۱) جواب تیسرا دن وغیرہ کو خصوصیت سے مقرر کر دینا اور اس کو ضروری سمجھنا شریعت محمدیہ میں ثابت نہیں ہے صاحب  
انساب الاحساب اس کو مذکورہ لکھتے ہیں خصوصیات کی رسم و راہ کو چھوڑ دیں جس دن چاہیں ثواب میت کی روح کو پہنچائیں  
اور میت اپنی موت کے وقت قریب میں مدد کا زیادہ محتاج ہوتا ہے جس قدر ایصال ثواب جس دن کہ ہو سکے باعث بھلائی  
ہے۔ فتح العزیز میں اسی طرح ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں فرماتے ہیں کہ یہ عادت نہیں تھی کہ  
میت کے لئے وقت نماز کے علاوہ جمع ہوں اور قرآن پڑھیں اور تم کریں نہ قبر پر نہ اور کسی جگہ اور یہ تمام بدعت ہے  
اور مذکورہ ہاں اہل میت کی تعزیت اور سلی دینا اور صبر کے لئے کہنا سنت ہے اور مستحب لیکن یہ مخصوص طور پر تیسرے دن کا  
جمع ہونا اور دوسرے تکلفات کا کرنا اور یتامی کے حق سے بغیر وصیت کے مال صرف کرنا بدعت اور حرام ہے۔

(جواب) مجتمع ہونا عزیز و اقارب وغیرہم کا واسطے پڑھنے قرآن مجید کے یا کلمہ طیبہ کے جمع ہو کر روز وفات میت کے یا دوسرے روز یا تیسرے روز بدعت و مکروہ ہے، شرع شریف میں اس کی کچھ اصل نہیں ہے کتاب نصاب الاحساب میں لکھا ہے ان ختم القرآن جہر بالجماعۃ و یسمی بالفارسیۃ سیارہ خواندن مکروہ۔ (۱) اور فتاویٰ بزازیہ میں مرقوم ہے یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعدا لاسبوع ونقل الطعام الی القبر فی المراسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والفقراء للختم وقراءة سورة الانعام والاخلاص۔ (۲) اور رد المحتار میں لکھا ہے ومن المنکرات الکثیرۃ کایقاد الشموع والقنادیل الی توجدها فی الافراح وکدق الطبول والغناء بالاصوات الحاناً واجتماع النساء والمردان واخذ الاجرة علی الذکر وقراءة القرآن وغیر ذلک مما هو مشاہد فی هذه الازمان وما کان كذلك فلا شک فی حرمتہ و بطلان الوصیۃ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ این است حکم صورت مسئلہ کہ (۳)

تحریریافت محمد قاسم علی عفی عنہ الجواب صحیح محمد عبداللطیف عفی عنہ الجواب صحیح محمد مقیم الدین عفی عنہ محمد قاسم علی خلیف مولانا عالم علی الجواب صحیح محمد عبدالغنی ہنسیوری محمد عبدالغنی امام مفتی شہر مراد آباد فتویٰ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی موصولہ از مولوی عبدالصمد صاحب راجپوری مجموعہ فتاویٰ قلمی مولوی احمد رضا خان صاحب منقولہ از جلد رابع کتاب النظر والا بابتہ صفحہ ۳۶۔

## بلا تعین یوم تصدق موتی کے لئے مساکین کو کھانا کھلانا

(سوال) کھانا تیار کرنا واسطے تصدق موتی کے بلا تعین یوم کے فقراء و مساکین کو جمع کر کے کھلا دینا جائز ہے یا نہیں؟ مدلل ارقام فرمادیں۔

(جواب) بلا تعین کھانا تقسیم کرنا یا دینا بطور صدقہ کے جائز ہے کیونکہ صدقہ کرنا طعام کا کسی کے

- (۱) اور قرآن کو پکار کر جماعت کے ساتھ ختم کرنا جس کو فارسی میں ہی پارہ پڑھنا کہتے ہیں مکروہ ہے۔  
 (۲) اور پہلے اور تیسرے دن اور ہفتے کے بعد کھانا پکانا اور رسومات کے وقت قبر کے پاس کھانے جانا اور قرأت قرآن کیلئے دعوت دینا اور ختم کیلئے صلحاء و فقراء کو جمع کرنا اور سورۃ انعام و اخلاص کا پڑھنا مکروہ ہے۔  
 (۳) اور بہت سی برائیاں جیسے موم بتیاں اور قندیلوں کو گھلانا جیسے خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے اور جیسے ذھول بجانا اور خوش آوازی سے گانا اور عورتوں اور مردوں کا جمع کرنا اور ذکر قرأت قرآن وغیرہ پر اجرت کا لینا جو آج کل اس زمانہ میں دیکھا جا رہا ہے اور جو اس طرح ہو تو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں اور اس کی وصیت کا باطل کرنا ضروری ہے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔  
 (۴) صورت مسئلہ کا یہ حکم ہے جو لکھا گیا۔

نزدیک ناجائز نہیں، ثواب اس کامیت کو پہنچتا ہے با اتفاق، البتہ عبادت بدنی میں خلاف امام شافعی اور امام مالک کا ہے، مالی میں کسی کا خلاف نہیں۔ قال فی الہدایۃ الاصل فی ہذا الباب ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة او صوما او صلقة او غیرہا۔ (۱) الخ فقط۔

### بلا تعین یوم و ذکرتیجہ

(سوال) سوم یعنی تیجہ جو موتی کے واسطے کیا جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اگر تعین تاریخ اور تاکد موجب فساد ہے تو یہ اگر دور ہو جاوے مثلاً پہلے روز ہو یا دوسرے یا چوتھے یا پانچویں یا چھٹے روز ہو شمار کے واسطے خود نہ ہوں خراب ہو یا اہلی کے بیچ ہوں یا بیچ ہو یا اور کوئی چیز ہو اور اس میں مال بھی تیبہوں کا صرف نہ ہو تو بھی جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر بلا تعین یوم کے جمع ہو کر ختم قرآن کریں یا کلمہ طیبہ اور ایصال ثواب اس کا کریں تو جائز ہے اکثر علماء کے نزدیک اگرچہ علامہ مجد الدین فیروز آبادی ایصال ثواب میت کے اجماع کو بھی بدعت لکھتے ہیں۔ سزا سعادت میں۔

### جواز تیجہ کی وجوہ بر بحث

(سوال) زید بدعات مثل تیجہ وغیرہ کا معتقد نہیں اکثر لوگ اس خیال سے ان بدعات کو اختیار کرتے ہیں کہ چند لوگ جمع ہو جاویں گے اور باعث اتفاق ہوگا اور کلام وغیرہ بھی زیادہ پڑھا جاوے گا اور اگر مقرر نہ کیا جاوے تو دشواری ہوتی ہے پس ان لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے اور اگر زید شریک مجلس مذکور ہو جاوے تو کیسا ہے۔ فقط۔

(جواب) جو بدعات مثل تیجہ وغیرہ کے ہیں ان کا کرنا کسی وجہ سے درست نہیں قاعدہ شریعت کا ہے جو چیز بھلائی اور برائی سے ملی ہوئی ہو اس کو حکم شریعت برائی کا دیتی ہے اس کی بھلائی پر نظر نہیں ہوتی ظاہر اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک منگلی دودھ میں ایک چلو پیشاب گر جاوے تو اس کو نجس کہیں گے اور اس کو حلال نہ کہیں گے لہذا افضل اور شرکت ان بدعات کی دونوں ناجائز باعتقاد ہوں یا بلا اعتقاد ہوں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ایصال ثواب کی قیود

(سوال) فاتحہ تیجہ دواں کرنا کیسا ہے مستحب ہے یا بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے بدعت حسنہ کی کیا تعریف ہے اور بدعت سیئہ کی کیا تعریف ہے بدعت حسنہ سے کیا ثواب ہوتا ہے اور بدعت سیئہ سے کیا تعزیر لازم آتی ہے اور مجمع کر کے جنوں پر کلمہ سرفی پڑوانا واسطے ثواب مردہ

(۱) ہدایہ میں ہے کہ اس باب میں اصل یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کیلئے قرار دے سکتا ہے خواہ وہ نماز ہو کہ روزہ یا عمدتہ وغیرہ۔



کے اور قرآن شریف پڑھوانا کیسا ہے آیا ثواب ان کلموں اور قرآن شریف کا جو اس مجمع میں شریک ہوتا ہے وہ شخص مسخ ثواب ہے یا عذاب ہے زید کہتا ہے کہ جنوں پر فاتحہ سوم میں اللہ کا کلام پڑھنا موجب ثواب ہے کہ اس سے ایصال ثواب منظور ہے اور یہ طریقہ بزرگان سلف سے چلا آتا ہے اس میں کچھ حرج نہیں ہے اور فتاویٰ عزیزی میں یہ طریقہ لکھا ہے۔ پس زید کا قول تمام ہوا ان جنوں کا کھانا کیسا ہے اور زید فاتحہ تیسے دسویں کو دل سے اچھا جانتا ہے اور اس کے اچھے ہونے پر اصرار کرتا ہے اس مسئلہ کو بہت تشریح کے ساتھ قرآن وحدیث قیاس اجماع امت سے ارقام فرما کر مزین بہر فرمادیں۔

(جواب) یہ مسائل بارہا لکھے جا چکے ہیں یہ جملہ امور بدعت ہیں صرف ایصال ثواب جائز ہے باقی قیودات بدعت ہیں اس کی تفصیل مسائل اربعین مؤلفہ شاہ محمد اسحاق صاحب میں دیکھ لو۔

کھانا سامنے رکھ کر بیچ آیت پڑھنا

(سوال) کھانا سامنے رکھ کر اس پر بیچ آیت پڑھنا کیسا ہے جس کو عرف عام میں فاتحہ کہتے ہیں زید کہتا ہے کہ کھانے پر فاتحہ پڑھنا درست ہے اس لئے کہ حاجی امداد اللہ صاحب سلمہ نے اپنے فتاویٰ میں جائز لکھا ہے بکر کہتا ہے حاجی صاحب موصوف اگرچہ میرے پیرو مرشد ہیں یعنی میرے پیر طریقت ہیں پیر شریعت نہیں ہیں کہ میں ان کے کہنے پر عمل کروں یہ کہنا بکر کا کیسا ہے اور طریقت اور شریعت ایک ہیں یا دو ہیں۔

(جواب) یہ سب امور بدعت ہیں مسائل اربعین دیکھ لو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مرنے کے بعد کھانا پکانا

(سوال) تقریر مولانا حیدر علی صاحب مرحوم ٹوکی تلیز مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ طعام مہمانی کہ از پس موٹی پزند اول این خود ناروا و مکروہ تحریمی است بچند وجہ کیے آنکہ در بحر الرائق و دیگر کتب تصریح کردہ اندکہ ضیافت و مہمانی در سرور شادی مشروع است نہ در شرور و مصائب و غمی فرستادن طعام روز اول بخانہ کسے کہ موت شدہ باشد مسنون است نہ آنکہ ازاں کس طعام طلب کنند صریحاً آیا آنکہ اگر او پھر وطن بروکنند کہ این ہم طلب است پس بخوف این طلب او طعام بچندہ میکند و آنکہ در حدیث جریر بن عبداللہ بچلی است کنا نعد الا اجتماع الی اهل المیت و صنعهم الطعام من النیاحۃ۔

یعنی باہمہ اصحاب جمع شدن مردم راز و اہل میت سوائے خدمت چھینہ و کفین و این را کہ تیار کنند اہل میت طعام راز و نوحی شمر دیم و نوحہ خود حرام است پس این اجتماع مردم و ساخت طعام ہم ناروا و احرام خواهد بود۔ سوم آنکہ در کتب شرح مصرح است کہ این صغ طعام از اہل میت از سوم و عادات جاہلیت عرب بود و چون اسلام آمد این رسم جاہلیت موقوف گردند لہذا در عہد صحابہ و تابعین این رسم منقول نیست پس آنچه در میان کلمہ گویان عوام رسم سوم و ہم و چہلم و ششماہی و سال رواج

یافتہ ہمدنا رواست واجتناب ازال ضروریست مادر سالہ صغیر و جزیر کبیرہ دوازده جزور عدم جواز  
 این بحث طعام نوشته ایم و بعد از انکہ این طعام خبیث پختہ شد بجز فقیر محتاج و دیگرے خودوزیرا کہ  
 حکم مال خبیث ہمیں تصدیق بر فقراء است باید دانست کہ صدقات برائے اموات بسیار مفیدست  
 در مذہب حق اہل سنت و جماعت لیکن مفید بشرطے است کہ این صدقات موافق حکم شرح باشند  
 چنانکہ ہنء چاہ و مسجد و نقد و لباس و غلات وغیرہا از مال حلال بنفقاء دادن کہ این امور بالا اتفاق جائز  
 است و مفید ہوتی و اگر طعام پختہ بنفقاء حوالہ سازند یا بمسجد و خانقاہ بنفقاء بفرستند نزدیک بعضے جائز و  
 نزدیک بعضے این ہم غیر جائز بالجملہ این صورت مختلف فیہا است اما در خانہ بطور مہمانی خورائیدن  
 خوردگان خواہ فقراء باشند خواہ اغنیاء نزدیک کس جائز نیست کہ این رسم جاہلیت عرب در رسم تمام ہنود  
 ہندوستان است و دریں تشبیہ یکفار است و سابق حدیث نوشته ایم کہ من تشبہ بقوم فهو منهم  
 الحدیث (۱) یہ فتویٰ صحیح ہے یا غیر صحیح اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔

(جواب) بندہ کے نزدیک صحیح ہے اور تشبہ اس میں حاصل ہے اگرچہ قلیل ہو۔

(۱) تقریر مولانا حیدر علی ٹولکی تلمیذ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مہمانی کا کھانا جو میت کے پیچھے  
 پکاتے ہیں اول تو یہ خود ناجائز و مکروہ تحریمی ہے چند وجوہ سے ایک تو یہ کہ بحر الرائق اور دوسری کتابوں میں تصریح ہے کہ  
 ضافت و مہمانی خوشی اور شادی کے موقع پر تو شروع ہے نہ کہ برائیوں اور مصیبتوں اور سی کے موقع پر اول دن کھانا بھیجنا  
 اس شخص کے گھر کہ جہاں موت واقع ہوئی ہے مسنون ہے نہ کہ اسی شخص سے کھانا مانگیں خواہ صراحتہ یا یہ کہ اگر وہ نہ پکائے  
 تو اس پر طعنے لگائیں کہ یہ بھی ایک قسم کی طلب ہے کہ اس طلب کے خوف سے وہ کھانا پکائے۔ دوسرا یہ کہ جریر بن عبداللہ  
 جنگی کی روایت میں ہے کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونا اور ان کا کھانا کھانا نہ گری سمجھتے تھے۔ یعنی تمام دوستوں  
 کے ساتھ لوگوں کا جمع ہونا میت کے گھر والوں کے پاس ہوائے تجمیع و تخمین کی خدمت کے اور میت کے گھر والے یہ جو کھانا  
 تیار کرتے تھے ہم اس کو کھانے سمجھتے تھے اور کھانا خود حرام ہے تو یہ لوگوں کا جمع ہونا اور کھانا پکانا بھی ناجائز و حرام ہوگا تیسرا یہ کہ  
 شریعت کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ یہ کھانا تیار کرنا اہل میت کا عرب کے زمانہ جہالت کی عادات و  
 رسوم سے تھا جب اسلام آیا جاہلیت کی رسموں کو موقوف کر دیا ہذا اصحابہ تابعین کے زمانہ میں یہ رسم منقول نہیں ہے چنانچہ  
 عام کلمہ گو کے درمیان جو سوم، دوم، ہستم، وجہ، شہائی و بری کا روان ہو گیا تمام ناجائز ہے اور اس سے چنانہ ضروری ہے  
 ہم دور سالے ایک تو چھوٹا دو جز کا دوسرا اداں بارہ جز کا اس کھانے کے ناجائز ہونے کی بحث میں لکھ چکے ہیں اور اس کے  
 بعد کہ یہ ناکارہ کھانا پک جائے تو سوائے فقیر محتاج کے کوئی نہ کھائے اس لئے کہ اس ناکارہ مال کا حکم یہی فقیروں پر  
 تصدق کرتا ہے۔ جانا چاہئے کہ صدقات مذہب حق اہل سنت و جماعت میں مردوں کے لئے مفید ہے لیکن اس شرط پر  
 مفید ہے کہ یہ صدقات شریعت کے حکم کے مطابق ہوں جیسے کوئیں اور مسجد کا بنانا اور نقد و لباس و غلہ وغیرہ حلال مال سے  
 فقیروں کو دینا کہ یہ امور بالا اتفاق جائز ہیں اور میت کے لئے مفید ہیں اور اگر پکا ہوا کھانا فقراء کے حوالہ کر دیں یا مسجد و  
 خانقاہ میں فقیروں کو بھیج دیں تو بعض کے نزدیک تو جائز ہے اور بعض کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے حاصل کلام اس صورت  
 میں تو اختلاف ہے لیکن گھر میں بطور مہمانی کے کھانا خواہ کھانے والے فقیر ہوں یا اغنیاء کسی کے نزدیک ناجائز نہیں ہے کہ یہ  
 رسم جاہلیت عرب اور ہندوستان کے تمام ہندوؤں کی رسم ہے اور اس میں لکھاری کے ساتھ مشابہت ہے اور ہم پہلے ایک  
 حدیث لکھ چکے ہیں کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ (حدیث)

## ایصالِ ثواب میں دن اور کھانے کی خصوصیت

(سوال) دوسرے روز مرنے کے پیچھے چند آدمی جمع ہو کر کلمہ طیبہ چنوں وغیرہ پڑھتے ہیں اس مجمع میں جانا کیسا ہے۔

(جواب) میت کے واسطے کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھنا بہت بہتر اور ثواب ہے مگر تخصیص تیسرے روز کی اور چنوں کی بدعت ہے وہاں شریک نہ ہونا چاہئے۔

## میت کے دفن کے بعد مکان پر فاتحہ

(سوال) بعض لوگوں میں دستور ہے کہ جس وقت موتی کو دفن کر کے آتے ہیں اس کے گھر والے اس وقت فاتحہ پڑھتے ہیں یہ فعل فاتحہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اس فاتحہ کا ثبوت کچھ نہیں۔

## برادری کا میت کے گھر جا کر رسوم ادا کرنا

(سوال) حسب مروجہ دستور برادری اہل میت کے یہاں جا کر فاتحہ پڑنا اور پگڑی جوڑا دینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ سب امور بدعت اور نادرست ہیں البتہ صرف تعزیت کے لئے جانا درست ہے اگر دفن کفن میں نہ شریک ہو او۔

## بلا قیود و رسوم ایصالِ ثواب کرنا

(سوال) میت کو ثواب پہنچانا بلا تعین تاریخ کے یعنی تیجا، دسواں، چالیسواں نہ ہو درست ہے یا نہیں۔

(جواب) ثواب میت کو پہنچانا بلا قید تاریخ کے اگر ہو تو عینِ ثواب ہے اور جب تخصیصات اور التزامات مروجہ ہوں تو نادرست اور باعثِ مواخذہ ہو جاتا ہے۔

## اہل میت کو کھانا کھلانا

(سوال) اس ملک میں بموجب رسم کے اگر کوئی مر جاوے تو اس گھر والے یا اس کی قوم کے

لوگ اس کے خویش و اقارب کی روٹی پکاتے ہیں یہاں تک کہ جب تک روٹی تیار نہ ہو تجھیز و تکفین نہیں کرتے اس روٹی کا کھانا حرام ہے یا مکروہ۔

(جواب) اگر کھانا اہل میت نے ایسے لوگوں کے واسطے جو نوچہ گرجع ہیں کہ ان کو کھلا دیں تو حدیث میں آیا ہے کہ یہ نوچہ میں داخل ہیں پس یہ حرام ہے اور اگر دوسرے لوگ میت والے کو کھانا کھلا دیں تاکہ کھانے کے بعد اس کا غم کم ہو تو درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مرنے کے بعد چالیس دن تک روٹی دینا

(سوال) مرنے کے بعد چالیس روز تک روٹی ملا کر دینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) چالیس روز تک روٹی کی رسم کر لینا بدعت ہے ایسے ہی گیا رہویں بھی بدعت ہے بلا پابندی رسم و قیود ایصال ثواب مستحسن ہے فقط۔

بلا چندہ کے حافظ کا خود مٹھائی تقسیم کرنا

(سوال) اگر بلا چندہ فراہم کئے حافظ خود اپنے پاس سے شیرینی تقسیم کرے تب کیسا ہے۔

(جواب) اگر حافظ بلا قیود مذکورہ بالا شیرینی تقسیم کرے تو درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

ختم قرآن کے لئے چندہ کر کے شیرینی منگوانا

(سوال) چندہ فراہم کر کے بروز ختم قرآن شریف جو نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے شیرینی خرید کر ختم کرنا کیسا ہے۔

(جواب) چندہ کر کے اس طرح شیرینی کرنا درست نہیں ہے علی الخصوص اس جگہ کہ اس شیرینی کا التزام کر لیں اور اس کے تارک کو ملامت کریں نا درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

رجبی کا حکم

(سوال) رجب کے مہینے میں تبارک الذی چالیس دفعہ پڑھ کر مردے کی روح کو ثواب پہنچاتے

ہیں یہ جائز ہے یا نہیں۔ سوال نمبر ۲ جو کہ مدینہ شریف میں رجبی ہوتی ہے سو وہاں کی طرح یہاں پر ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ ۲۶ رجب ۲۷ شب کو محفل مولود شریف یا ختم قرآن شریف یا فقط وعظ یا کچھ کھانا پکا کر یا کچھ شیرینی تقسیم کر کے حضرت ﷺ کی ارواح مبارک کو ثواب پہنچانا

جائز ہے یا نہیں اور ۷۲ تاریخ روزہ رکھنا کیسا ہے۔

(جواب) ان دونوں امر کا التزام نادرست اور بدعت ہے اور وجوہ ان کے ناجواز کے اصلاح الرسوم براہین قاطعہ اور اریحہ میں درج ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## درود تاج کا حکم

(سوال) چہ فرمایند علمائے دین رحمکم اللہ تعالیٰ در شیوت و فضیلت و ثواب درود تاج کہ در اکثر عوام بالخصوص جہلا شہرت دار و مندرجہ الفاظ ان نسبتہ رسول اللہ ﷺ کردہ داغ البلاء والو باء واقط و المرض والالم الخ آیا خواندن آن و معتقد فضیلت و ثواب آن از اولہ شرعیہ ثابت و درست است یا منع و شرک و بدعت (۱)

(جواب) انچہ فضائل درود تاج کہ بعض جہلہ بیان کنند غلط است و قدر آن بجز بیان شارع علیہ السلام معلوم شدن محال و تالیف این درود بعد مر و صد ہا سال واقع شد پس چگونہ درود این صیغہ را موجب ثواب قرار دادہ شود و انچہ در احادیث صحاح صیغہ ہائے درود وارد شدہ آن را ترک کردن و این را موعود و ثواب جزیل پنداشتن دور ساختن بدعتہ ضلالت ہست و چون آنکہ در آن کلمت شرکیہ مذکور اند اندیشہ خرابی عقیدہ عوام است لہذا در آن ممنوع ہست پس تعلیم درود تاج ہما تا سم قاتل بعوام سپردن است کہ صد ہا مردم ہفساد عقیدہ شرکیہ جتلا شوند و موجب ہلاکت ایشان گردد فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) علماء دین اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کیا جانتے ہیں درود تاج کی فضیلت اور ثواب اور اسکے شیوت کے بارہ میں اکثر عوام بالخصوص جہلاء میں شہرت رکھتا ہے اور اس کے مندرجہ ذیل الفاظ رسول اللہ ﷺ سے نسبت رکھتے ہیں داغ بلا و باء واقط و مرض و الم (دکھ) آیا اس کا پڑھنا اور اس کی فضیلت و ثواب کا اعتقاد رکھنا اولہ شرعیہ سے ثابت اور درست ہے یا نہیں یا یہ شرک و بدعت ہے۔ جواب: اس درود شریف کے جو کچھ فضائل بعض جاہل بیان کرتے ہیں بالکل غلط ہے اور اس کا مرتبہ بجز شارع علیہ السلام کے یہاں فرمانے کے معلوم ہونا محال ہے اور اس درود کی تالیف صد ہا سال گزرنے کے بعد ہوئی ہے پس کس طرح درود کے اس صیغہ کو باعث ثواب قرار دے سکتے ہیں از صحیح حدیثوں میں درود شریف کے جو صیغے آئے ہیں ان کو چھوڑنا اور اس میں بہت کچھ ثواب کی امید رکھنا اور اس کا ورد کرنا گمراہی کی بدعت ہے اور چونکہ اس میں کلمات شرکیہ بھی ہیں اندیشہ عوام کے عقیدہ کی خرابی کا ہے لہذا اس کا پڑھنا ممنوع ہے پس درود تاج کی تعلیم دینا ای طرح ہے کہ عوام کو ہر قاتل دے دیا جائے کیونکہ بہت سے آدمی عقیدہ شرکیہ کے فساد میں جتلا ہو جائے تے ہیں اور ان کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## شادی اور ختنہ کی روٹی

(سوال) شادی اور ختنہ کی روٹی جس میں بدعات موجود ہوں اس گھر میں تو کھانا منع ہے اگر وہ روٹی کسی کے گھر بھیج دی جائے تو اس کا کھانا کیسا ہے۔

(جواب) جس کے یہاں شادی و ختنہ میں رسوم بدعات موجود ہوں اس کے یہاں ہرگز شریک نہ ہونہ اس کے مکان میں نہ دوسرے مکان میں اگر مکان پر کھانا بھیج دیوں تو خوف فتنہ کا اگر نہ ہو تو نہ لیوے اور اگر نہ لینے کے اندر فساد ہو تو دفع فساد کے سبب سے لے لینا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## صفر کے آخری چار شنبہ کا حکم

(سوال) صفر کے آخری چار شنبہ کو اکثر عوام خوشی و سرور وغیرہ اطعام الطعام کرتے ہیں۔ شرعاً اس باب میں کیا ثابت ہے۔

(جواب) شرعاً اس باب میں کچھ بھی ثبوت نہیں جبلاء کی باتیں ہیں۔

## میت کے لئے کچھتر ہزار بار کلمہ پڑھنا

(سوال) جو حدیثوں میں وارد ہے کہ میت کے واسطے کچھتر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جاوے وہ جنتی ہے پس اگر دوسرے روز پڑھتے ہیں تو دو جا اور تیسرے دن تین علی ہذا چوتھا وغیرہ اور اسی کو علماء بدعت کہتے ہیں تو اب کس طور سے میت کو ثواب پہنچایا جاوے اور میت کے مکان پر یا میت کے قریب کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید یا کلمہ طیبہ کسی دن مقررہ پر پڑھیں یا نہیں۔

(جواب) جس وقت میت کے مکان پر جمع ہوتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین کے واسطے وہاں جو لوگ کاروبار میں مشغول ہیں وہ اپنے کام میں رہیں اور باقی کلمہ پڑھے جاویں جس قدر ہو جاوے اور باقی کو اپنے گھر پڑھ دیوں کوئی حاجت اجتماع کی بھی نہیں حدیث میں ایک جلسہ میں پڑھنا یا جمع ہو کر پڑھنا تو ذکر نہیں ہوا پڑھنا فرمایا ہے جس طرح ہو کر دیوں۔

## صلوٰۃ غوشیہ کا حکم

(سوال) صلوٰۃ غوشیہ اکثر مشائخوں میں مروج ہے اس کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) بندہ اس کو پسند نہیں کرتا اور نہ جائز جانے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## صلوٰۃ غوشیہ و ہول معکوس

(سوال) صلوٰۃ غوشیہ جو اکثر عوام پڑھتے ہیں جائز ہے یا نہیں اور صلوٰۃ ہول و صلوٰۃ معکوس بھی جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) صلوٰۃ غوشیہ کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں اور صلوٰۃ معکوس فی الحقیقت نماز نہیں بلکہ مجاہدہ ہے اور صلوٰۃ ہول کا ثبوت صحاح حدیث سے نہیں۔

## صلوٰۃ الرغائب وغیرہ کا حکم

(سوال) صلوٰۃ الرغائب زجب کے اول جمعہ کی شب کو اور صلوٰۃ نصف شعبان اور صلوٰۃ الضحیٰ بیعت مخصوصہ ثابت ہیں یا نہیں۔ در صورت عدم ثبوت ان کا فاعل کس درجہ کا گنہگار ہوگا کبیرہ کا یا صغیرہ کا فقط۔

(جواب) یہ نمازیں بایں قیود جو مروج ہیں بدعت ضلالہ ہیں جس کمال گناہ کبیرہ کا ہے اگرچہ نفس صلوٰۃ نفل مندوب ہے شرح اس کی براہین قاطعہ میں دیکھو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## اتاریخ کو نذر اللہ کر کے غرباء و امراء کو کھانا کھلانا

(سوال) ایک شخص ہر مہینہ کی گیارہ تاریخ کو گیارہ ہویں کرتا ہے نذر اللہ اور کھانا پکا کر غرباء اور امراء سب کو کھلاتا ہے اور اپنے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز لغیر اللہ ہو وہ حرام ہے اور میں جو گیارہ ہویں کرتا ہوں یا توشہ کرتا ہوں کہ جو منسوب ہے بفعل حضرت بڑے پیر صاحب اور حضرت شاہ عبدالحق صاحب کے ہر گز ان حضرات کی نذر نہیں کرتا بلکہ محض نذر اللہ کرتا ہوں صرف اس غرض سے کہ یہ حضرت کیا کرتے تھے۔ ان کے عمل کے موافق عمل کرنا موجب خیر و برکت ہے اور جو شخص ان حضرات کی یا اور کسی کی نذر کرے گا سوائے اللہ جل شانہ وہ حرام ہے کبھی حلال نہیں تو اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ ایسے عقیدے والے کو گیارہ ہویں یا توشہ کرنا جائز ہے یا نہیں اور موجب برکت بھی ہے یا نہیں اور اس کھانے کو مسلمان دین دار تناول فرمائیں یا نہیں۔

(جواب) ایصال ثواب کی نیت سے گیارہ ہویں کو توشہ کرنا درست ہے مگر تعین یوم و تعین طعام کی بدعت اس کے ساتھ ہوتی ہے اگرچہ فاعل اس تعین کو ضروری نہیں جانتا مگر دیگر عوام کو موجب

ضلالت کا ہوتا ہے لہذا تبدیل یوم و طعام کیا کرے تو پھر کوئی خدشہ نہیں۔

## تین برس کے بچہ کی فاتحہ

(سوال) تین برس کے بچے کی فاتحہ دو جب کی ہونا چاہئے یا سوم کی ہونا چاہئے بیوا تو جروا۔  
(جواب) شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہو خواہ تیسرے دن باقی یہ تعین عرفی ہیں جب چاہیں کریں انہیں دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت و بدعت ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔  
کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ محمد بن المصطفیٰ النبی الامامی صلی اللہ علیہ وسلم۔

## تیجہ کن کی رسم ہے

(سوال) میت کے بعد تیسرے دن قل پڑھنا چند ملایان اور اقرباء واحبات کو جمع کر کے سورہ ملک اور تین قل اور آیت مفلحون تک اور ما سکان محمد ابا احد الایۃ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر ارواح اموات کو ثواب پہنچانا اس سے فارغ ہو کر ملایان کو کسی قدر غلہ دینا اور چلا جانا ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب) تیسرے دن کا جمع میت کے واسطے اولاً مشابہت نہو کی کہ ان کے یہاں تیجہ رسم جاری ہے حرام ہوگا۔ بسبب مشابہت کے قال علیہ السلام من تشبه بقوم فهو منهم (۱) الحلیث ثانیاً تقرر کرنا تیسرے دن کا یہ خود بدعت ہے اس کی کچھ اصل شرع میں نہیں ٹالنا جو کچھ ملا کٹھن ل کر پڑھتے ہیں بطمع فلوس پڑھتے ہیں کہ ورثہ میت بھی مانتے ہیں کہ ملا کو اس قدر دینا ہوگا اور ضروری جانتے ہیں چنانچہ معین ہے اور ملا بھی جانتے ہیں کہ ہم کو یہ ملے گا کیونکہ معین و مقرر ہونا ہے اور شرع میں جو چیز کہ معروف و معین ہوتی ہے اس کو شکل زبانی شرط لگانے کے فرمایا ہے المعروف کالمشروط۔ قاعدہ فقہ کا مسلمہ ہے پس جو کچھ ملاؤں کو دیا جاتا ہے وہ اجرت ان کے پڑھانے کی ہے اور جو پڑھائی کی اجرت ہوتی ہے اس کا ثواب نہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے اور نہ مردے کو لہذا یہ فعل ان کا باطل اور لینا دینا دونوں حرام اور موجب ثواب کا نہیں بلکہ گناہ ہے مردہ کو اس کا ثواب نہیں ہوتا ہے اور دینے والے اور لینے والے دونوں گنہگار ہوتے ہیں لہذا اس کام کا ترک بھی واجب ہے اور اگر لوجب اللہ ثواب پہنچانا منظور ہے تو ہر شخص اپنے مکان پر پڑھ کر پہنچادے

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہو گیا۔



اور تیسرے دن کا کیوں انتظار کیا جاوے نفس ایصال ثواب کو کوئی منع نہیں کرتا ہے اگر بلا تعین ہو مگر ان قیود و خصوصیات کے ساتھ بدعت بھی ہے اور ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## بروز ختم مسجد میں روشنی

(سوال) بروز ختم قرآن شریف کے ضرورت سے زیادہ روشنی کرنا کیسا ہے۔

(جواب) ضرورت سے زائد روشنی کرنا اور پھر اس کے ساتھ اس کو ضروری سمجھنا اسراف و بدعت ہے اور وہ نادرست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## پیر یا استاد کی برسی کرنا

(سوال) ہر سال اپنے پیر یا استاد کی برسی کرے یعنی جب سال بھر مرے ہوئے ہو جاوے تو ایک دن مقرر کرے اور روز کا نام عرس شریف رکھے اور اس دن کھانا پکا کر تقسیم کرادے مساکین کو اور ختم کرے بیچ آیت قرآنی کا تو اس کا صوفیائے کرام کے یہاں اور ہماری شریعت میں جائز ہے یا ناجائز۔

(جواب) کھانا تاریخ معین پر کھلانا کہ پس و پیش نہ ہو بدعت ہے اگرچہ ثواب پہنچے گا اور طریقہ معینہ عرس کا طریقہ سنت کے خلاف ہے لہذا بدعت ہے اور بلا تعین کر دینا درست ہے۔ فقط

## مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم

(سوال) کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرنا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے یا نہیں اور بدعت ہے یا نہیں؟

(جواب) قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں تھی مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس کا اصل شرع سے ثابت ہے بدعت نہیں۔ فقط رشید احمد عثمانی عنہ

## مرنے کے بعد چالیس شب تہلیل کرنا

(سوال) تہلیل بعد مرنے کے امراء چالیس شب متواتر اور غرباء ہر جمعہ کی رات چالیس شب تک پڑھتے ہیں درست ہے یا نہیں۔

(جواب) مردہ کو ثواب کھانے کا اور کلمہ تہلیل اور قرآن کا پہنچانا ہر روز بغیر کسی تاریخ کے

درست ہے مگر یہ قیود تاریخ معین کے پس و پیش نہ کریں اور اس کو ضروری جانیں بدعت ہے اور ناجائز ہے جس امر کو شریعت نے مطلق فرمایا ہے اپنی عقل سے اس میں قید لگانا حرام ہے۔

## ملفوظات

مجلس مولود، اس میں قیام، حضور کو مجلس میں حاضر جاننا، بوقت ملاقات

علماء و صلحاء کے ہاتھ چومنا، قبور اولیاء اللہ سے دعا چاہنے کے مسائل

(۱) مجلس مولود مروج خود بدعت ہے اور اس میں قیام کو سنت موکدہ جاننا بھی بدعت ضلالہ ہے اور فخر عالم علیہ السلام کو مجلس مولود میں حاضر جاننا بھی غیر ثابت ہے اگر باعلام اللہ تعالیٰ جاننا ہے تو شرک نہیں ورنہ شرک ہے اور بوقت ملاقات علماء و صلحاء کا ہاتھ چومنا مباح ہے اور قبور اولیاء اللہ سے دعا چاہنا بھی مسئلہ مختلف فیہا ہے جس کے نزدیک سماع موافق ثابت ہے وہ جائز کہتے ہیں اور جو انکار سماع کا کرتے ہیں وہ لغو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ سنت سے اس طرح دعا کرانا ثابت نہیں لہذا بدعت ہے بندہ کے نزدیک مختلف فیہا مسائل میں فیصلہ نہیں ہو سکتا البتہ احوط کو پسند کرتا ہوں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

طاعون، وباء، وغیرہ امراض کے شیوع کے وقت دعایا اذان۔

(۲) طاعون و بواء وغیرہ امراض کے شیوع کے وقت کوئی خاص نماز احادیث سے ثابت نہیں ہے نہ اس وقت اذانیں کہنا کسی حدیث میں وارد ہوا ہے اس لئے اذان کو یا نماز جماعت کو ان موقعوں میں ثواب یا مسنون یا مستحب جاننا خلاف واقع ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

نقل مکتوب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سلمہ اللہ تعالیٰ

در بارہ مجلس میلاد

(۳) مجلس مولود مروج بدعت ہے بوجہ خلط امور مکروہہ کے مکروہ تحریمہ ہے اور قیام بھی بوجہ خصوصیت کے بدعت ہے اور امر دلوں کا پڑھنا راگ میں بسبب اندیشہ بیجان فتنہ کے مکروہ ہے اور فاتحہ مروجہ بھی بدعت ہے۔ معبذ امشا بہت بفعل ہنود ہے اور تشبیہ غیر قوم کے ساتھ منع ہے۔ ایصال ثواب بدون اس ہیئت کے درست ہے اور سوئم، دہم، وچہلم جملہ رسوم ہنود کی ہیں۔ اس

تخصیص ایام میں مشابہت ہوتی ہے اور تخصیص ایام کی بدعت بھی ہے اگرچہ اصل ایصال ثواب بدون کسی تخصیص و مشابہت کے درست ہے فقط اما بعد الحمد لله والصلوة والسلام علی رسول الله فاقول بالله المجیب محق وجمع الاجوبہ حقة وانا المفتاق الی الله الغنی محمد طیب المکی المدرس الاول فی المدرسة العالیة الرامپوریه الاجوبہ صحیح والله سبحانه اعلم بالصواب محمد لطیف الله عفی عنه .

خادم شریعت رسول الله  
تاسم علی محمد لطف الله

المجیب مصیب  
محمد تاسم علی عفی عنہ

المجیب مصیب  
عبدالوہاب خان

العبد ذک حق  
محمد گل مالک دہتم  
بے نظیر ۱۳۰  
تنگتہ محمد گل

در رسد امداد بر مراد آباد  
ہندہ الاجوبہ صحیح

عبدالوہاب خان دلہ  
حافظ عمر خان

محمد حفر علی خان دلہ  
محمد اکبر علی خان

محمد حفر علی عفی عنہ

امام مفتی  
شہر مراد آباد  
محمد تاسم علی خلیفہ  
مولانا عالم علی

منقولہ:- از ہدایات الہمتدین مطبوعہ ہاشمی میرٹھ۔

نقل خط حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہا، در مسئلہ مجلس میلاد فاتحہ برقع شبہات مولوی نذیر احمد صاحب رامپوری (۴) نقل خط:- حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہا در مسئلہ مجلس میلاد فاتحہ برقع شبہات مولوی نذیر احمد صاحب رامپوری شبہ براین قاطعہ میں مجلس میلاد کو بدعت ضلالہ کہا اور فاتحہ اور محفل میاں کرنے والوں کو ہنود اور وافر انقض کھانقہ از فقیر امداد اللہ چشتی فاروقی عفی عنہ بخدمت مولوی نذیر احمد خان صاحب بعد تحیہ السلام آنکھ خط آپ کا آیا مضمون سے مطلع ہوا ہر چند کہ بعض وجوہ سے عزم تحریر جواب نہ تھا مگر بغرض اصلاح اور توضیح عبارت براین قاطعہ بالا اختصار کچھ لکھا جاتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نفع پہنچائے۔ ان ارسد الا اصلاح ما استطعت وما تو فیقی الا باللہ .

(جواب) صاحب براہین قاطعہ نے نفس ذکر میلا دکو بدعت ضلالہ نہیں کہا تیودات زائدہ محرمہ مکروہہ کو کہا ہے اور نہ نفس ذکر و قیام کرنیوالوں کو ہنود اور روافض لکھا بلکہ عقیدہ باطلہ پر حکم حرمت و مشابہت روافض و ہنود کا لگایا ہے چنانچہ جو فتویٰ جناب مولوی احمد علی صاحب مرحوم اور مولوی رشید احمد صاحب سلمہ میں یہ امر مصرح موجود ہے کہ نفس ذکر میلا دکو وہ باعث حسنات و برکات لکھتے ہیں اور براہین قاطعہ میں مکرراں کو ظاہر کیا ہے انصاف شرط ہے فقط۔

### قبور اولیاء اللہ

(۵) مسئلہ:- طواف قبور اولیاء اللہ کا حرام ہے سوائے بیت اللہ کے کسی کا طواف درست نہیں۔ ملا علی قاری شرح مناسک میں فرماتے ہیں۔ ولا یطوف ای لاید ورحول البقعة الشریفة لان الطواف من مختصات الکعبة المنیفة فیحرم حول قبور الانبیاء و الاولیاء ولا عبرة بما یفعله الجہلۃ ولو کانوا فی صورة المشائخ والعلماء۔ (۱) انتھی و فی اطراح لوطاف حول مسجد سوی الکعبة یخشی علیہ الکفر انتھی۔ (۲) ہر گاہ کہ مسجد کے طواف میں خوف کفر کا ہو تو طواف قبور سے بطریق اولی کافر ہو جاوے پس اگرچہ کوئی بصورت دیگر عالم و درویش ہو کر طواف کرے وہ فاسق ہے ہرگز اس کے قول و فعل کا اعتبار نہ کریں اور اس فعل سے حرام جان کر اجتناب کریں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### توشہ مردہ کے ساتھ لے جانا

(۶) مسئلہ:- توشہ مردہ کے ساتھ لے جانا عادت یہود اور نود کفار کی ہے۔ من تشبه بقوم فهو منهم (۳) الحدیث سوا اگر جو کوئی رسم کسی کافر کی لیویگا۔ وہ کفار میں شمار ہوگا پس توشہ مردہ کے ساتھ ہرگز کہیں قرون ثلثہ میں ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ فعل کفار کا ہے سواں کا کرنا بدعت اور گناہ ہے۔ ہرگز درست نہیں رسول اللہ ﷺ نے جس میں ذرا سی مشابہت کفار سے ہوتی اس کو منع فرما دیا ہے چنانچہ احادیث اس امور سے پر ہیں پس اس فعل کو مردود گناہ جان کر ترک کرنا واجب ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) اس کا ترجمہ پہلے آچکا ہے۔

(۲) اور اطراح میں ہے کہ سوائے کعبہ کے اور کسی مسجد کا کر کوئی طواف کرے تو اس پر کفر کا خوف ہے۔

(۳) جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے وہ ایسی میں سے ہے۔

بزرگان اہل سنت کے قدم کو بوسہ دینا اور یا مرشد اللہ کہنا۔

(۷) بوسہ دینا بزرگوں اہل سنت کے قدم کو اگرچہ درست ہے مگر اس کا کرنا اولیٰ نہیں کہ عوام اس سے فتنہ میں پڑ جاتے ہیں لہذا اس کا ترک کرنا چاہئے اور لفظ یا مرشد اللہ وغیرہ جہلاء کے ایجاد کے ہوئے ہیں کہ سلام کی جگہ اس کو بولتے ہیں لہذا بدعت ہے معہذا اس کے بعض معنی موہم کفر کے ہیں مرشد اللہ کے معنی ایک یہ بھی ہیں کہ تم اللہ کے مرشد ہو معاذ اللہ اگرچہ دوسرے معنی درست بھی اس کے ہیں سو جو کلمہ ایسا ہو کہ اس کے معنی اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہوں اس کو بولنا منع ہے ایسے موہم لفظ کا استعمال درست نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لاتقولوا راعنا۔

راعنا کے معنی ایک اچھے تھے جس کو مسلمان مراد لیتے تھے دو رے معنی برے تھے جس کو یہود مراد لیتے تھے اس پر مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ایسا لفظ مت بولو خالص اچھے معنوں کے لفظ کہو پس یہ لفظ مرشد اللہ کہنا نہیں چاہئے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### آخری چار شنبہ کی اصل

(۸) آخری چار شنبہ کی کوئی اصل نہیں بلکہ اس دن میں جناب رسول اللہ ﷺ کو شدت مرض واقع ہوئی تھی تو یہودیوں نے خوشی کی تھی وہ اب جاہل ہندیوں میں رائج ہو گئی نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیات اعمالنا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کتاب الایمان ایمان اور کفر کے مسائل

اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی نذر ماننا

(سوال) جو کہ کتاب تقویۃ الایمان میں دربارہٴ افعال شرکیہ کے واقع ہوا ہے جیسے نذر غیر اللہ یعنی توشہ وغیرہ و بوسہ دینا قبر کو اور سجدہ اور طواف کرنا قبر کو اور غلاف ڈالنا اس کے اوپر اور جو اس کے مثل امور ہیں اور قسم کھانا بغیر اللہ اور شگون بد لینا اگر کسی شخص سے صادر ہوں تو اس کو کافر محض جاننا اور دیگر معاملہ کفار کا اس کے ساتھ کرنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) افعال شرکیہ بعض ایسے ہیں کہ شرک محض ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ شرک لوگ ان کو کرتے ہیں اور تاویل ان میں ہو سکتی ہے۔ پس پہلی قسم کا فعل جیسا سجدہ بت کو کرنا زنا رڈالنا۔ ان امور سے تو شرک ہو گیا اور سب معاملات مشرکین کے اس کے ساتھ کرنا ہے اور دوسری قسم کے افعال سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس سے خروج عن الاسلام نہیں ہوتا کیونکہ شرک بعض اصل شرک اور اعلیٰ درجہ کا ہے اور بعض کم اسی واسطے شرک دون شرک (۱) کہتے ہیں تو دوسرے درجے کے شرک حقیقتاً شرک نہیں جیسا قسم بغیر اللہ کو شرک فرمایا اور ریاء کو شرک فرمایا لہذا یہ سب افعال چونکہ صورت میں شرک کے ہیں ان کو شرک فرمایا ہے ان کے کرنے سے فاعل حقیقی شرک نہیں ہو جاتا فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلم کے فعل میں اگر نانوے ۱۹۹ احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو اس کو ایمان پر حمل کرنا اور مومن ہی کہنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم رشید احمد۔

جھوٹ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا

(سوال) جو لوگ شہادت کا ذبہ ان الفاظ کے ساتھ دیتے ہیں کہ میں خدائے تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقدمہ میں سچ کہوں گا جھوٹ نہ کہوں گا یا سچ کہا میں نے جھوٹ نہ کہا یا سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں کہتا ہوں میں پھر باوجود اپنے علم کے مرتکب کذب کا ہوا اور اس کے خلاف کہا تو

(۱) شرک سے کم شرک۔

اس صورت میں یہ شخص گنہگار ہو گیا کافر۔ اور ان الفاظ مذکورہ فی الشہادۃ الکاذبہ اور ان الفاظ میں جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب زواجر میں لکھے ہیں۔

او قال اللہ یعلم انی فعلت کذا وهو کاذب فیہ نسبة اللہ سبحان الی الجہل (۱) اور نیز اس کے قائل کو منسوب الی الکفر لکھا ہے اور ایسے ہی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ملخصات شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے۔ فی الفتاویٰ الصغریٰ من قال یعلم اللہ انی فعلت هذا وکان لم یفعل کفر ای لا نہ کذب علی اللہ وایضا لو قال اللہ یعلم انہ هكذا وهو یکذب کفر . (۲) ان دونوں صورتوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں اگر ایک ہی صورت ہے تو بر بنائے قول ابن حجر وملا علی قاری رحمہما اللہ تعالیٰ کے کاذب فی الشہادت کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں اور اگر کچھ فرق ہے تو ان کے کلام کی کیا تاویل ہے۔

(جواب) فعل گذشتہ پر حق تعالیٰ کو شاہد کر کے جھوٹ بولنا کفر ہے جیسا ملا علی قاری اور ابن حجر رحمہما اللہ نے کہا اور یہ کہنا کہ جھوٹ نہ کہوں گا۔ استقبال کا زمانہ ہے کہ سچ بولنے اور جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرتا ہے بقولہ اس مقدمہ میں سچ کہوں گا سچ کہتا ہوں کیونکہ اگرچہ یہاں زمانہ حال ہے مگر مرد از زمانہ استقبال ہے کہ بعد اس بیان کے بیان واقعہ کرتا ہے پس خلاف وعدہ کیا۔ لہذا روایات ملا علی قاری وابن حجر سے فرق ہے تیسری شکل کہ اس مقدمہ میں میں نے سچ کہا۔ اگر بعد اظہار کے یہ قول کہا تو البتہ یہ داخل روایت ملا علی قاری وابن حجر میں ہے۔ اور جو بعد اس قول کے اظہار کذب کیا ہے تو یہاں بھی مجازاً استقبال ہی مراد ہے۔ بہر حال در صورت مراد معنی استقبال کے کفر نہ ہوگا اور در صورت ماضی کفر ہے اور داخل روایت مذکورہ سوال پہلی صورت میں یہ فاسق ہے نہ کافر۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی نام کا وظیفہ

(سوال) اگر کسی نام کے سوا کسی نام کا وظیفہ اور دسازداز مسلمانانہ بیرون گردوں۔ (۳)

(۱) یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر میں نے ایسا کیا ہو اور وہ جھوٹ کہہ رہا ہو تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جہل کی طرف منسوب کرنا ہوا۔

(۲) جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے اور حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے تو وہ کافر ہو گیا اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہا اور نیز اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے اور وہ جھوٹ کہہ رہا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۳) اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نام کو بطور تقرب کے ورد بنالے تو کیا وہ دین سے باہر ہوگا۔ جواب: اگر کوئی شخص بطریق تقرب کے ورد کیا کرے تو مشرک ہو جائے گا۔

(جواب) اگر نام کے بطریق تقرب و در زبان می شرک گرد آتی ملخصاً۔ اور شہرت دینے والا بسبب اعتقاد و جواز کے مشرک ہے اور شہرت جواز کی دینی علاوہ شرک سے دوسرا وبال ہے۔ واللہ بھدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فقط

ہذا الجواب صحیح محمد قاسم علی عفی عنہ مراد آبادی  
 الجواب صحیح  
 لقد صح الجواب  
 محمد قاسم علی حلف  
 بے نظیر ۱۳۰۰ھ  
 احقر محمد حسن غفرلہ  
 مولانا عالم علی  
 شگفتہ محمد گل

اصاب من اجاب محمد احتشام الدین عفی عنہ الجواب صحیح بشیر احمد شاہ عفی عنہ۔  
 لقد اصاب المحیب احمد حسن دیوبندی عفی عنہ المجیب مصیب احقر الزمن محمود حسن  
 غفرلہ رشید احمد عفی عنہ۔

اس کی کل صورتیں گناہ سے خالی نہیں کسی میں شرک ہے کسی میں ایہام شرک لہذا اس کا  
 رواج دینا جائز نہیں۔ عبدالرحمن عفی عنہ۔

وظیفہ جملہ مروجہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہید اللہ کسی طرح جائز نہیں فقط واللہ اعلم۔ خلیل احمد عفی  
 عنہ ایٹھوی۔

واقعی اموات کو بذریعہ شہید اللہ ندا کرنا یا شرک ہے یا اندیشہ شرک ہے۔ اور مسلمان  
 کو دونوں امر سے اجتناب لازم ہے محمود عفی عنہ دیوبندی۔ خادم الطیاء احقر الزمن احمد حسن الحسینی  
 الرضوی نسباً واپشتی الصابری مشرباً و الحنفی مذہباً والا مروہوی۔

غیر اللہ کی ندا کب شرک ہوگی

(سوال) پڑھنا ان اشعار و قصائد کا خواہ عربی ہوں یا غیر عربی جن میں مضمون استعانت و  
 استغاثہ بغیر اللہ تعالیٰ ہوں کیسا ہے۔ اور وہ پڑھنا کبھی بطور ورد و وظیفہ بہ نیت انجام حاجت ہوتا ہے  
 اور کبھی بطور نعت اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کے ضمن میں اشعار استمدادیہ و التجائیہ بھی پڑھے  
 جاتے ہیں۔ مثلاً یہ شعر۔

یا رسول اللہ انظر حالنا

یا نبی اللہ اسمع قالنا



انسی فی بحرہم مفرق

خزیدی سہل لنا اشکانا۔ (۱)

یابہ شعر قصیدہ بردہ کا پڑھنا۔

یا اکرم الخلق مالى من ألوذ بہ

سواک عند حلول الحادث العمم (۲)

تو کبھی فقط یہی شعر بطور ورد عمل سو بار پڑھتے ہیں کبھی سارا قصیدہ بطور ورد پڑھتے ہیں اور اس کے ضمن میں وہ اشعار استغاثت کے بھی آجاتے ہیں اور مدامت و درود ادائے زکوٰۃ ان اشعار و قصائد کی کرتے ہیں اور اسی قسم کے اشعار نعتیہ و استمدادیہ منسوب بہ مولانا جامی و دیگر علماء ہیں اور شاید اشعار مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہما کے بھی قصیدہ نعتیہ متضمن اشعار استمدادیہ ہیں پس یہ استغاثت و استغاثہ بغیر اللہ تعالیٰ خواہ ضمن نعت میں تبعاً خواہ تہا مستقلاً بطور ورد و وظیفہ بمدامت یا گاہے گاہے خواہ بطور محبت و ذوق و شوق یا کسی اور نیت سے جائز ہیں یا مستحب ہیں یا ممنوع اور شرک ہیں اور اگر ناجائز ہیں اور شرک ہیں تو ان کے مصنفوں کے حق میں کیا کہا جاوے کہ وہ اکابرین دین تھے اور پیشوائے اہل یقین امید کہ جواب مسئلہ ہذا بہ تفصیل و تحقیق تمام بطور کلیات و تفصیل جزئیات تحریر فرمائیں کہ دوبارہ سوال کی ضرورت نہ رہے۔ اور ان اشعار کا پڑھنا اس ملک میں بہت رائج ہے اور ان مسائل کو نہ کوئی دریافت کرتا ہے نہ کوئی عالم بخوف ملامت و طعن خلق صاف صاف بتاتا ہے الا شاذ و ناداران مسائل کے سائل کو یا بحث کرنے والے کو منکر حضرت ﷺ بتاتے ہیں اور مساجد اور خانقاہوں میں روبرو علماء و مشائخ کے یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اور کوئی عالم یا شیخ کہ بعض حضرات ان میں خوش عقیدہ اور دیندار بھی ہوتے ہیں کچھ تعرض نہیں کرتا اور تقریبات شادی میں بھی اور مجالس اعراس و میلاد میں بھی اس کا رواج ہے اور پڑھنے والے از خود بدون طلب کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم لوگ جو بعض تقریبات شادی وغیرہ میں شریک محفل بضرورت ہوتے ہیں جو کچھ وہ پڑھنے والا جاہل پڑھتا ہے اگرچہ رواف کلمات شریک و کفریہ سے پڑھے مجبوری سے سننا پڑتا ہے کوئی عالم

(۱) اے رسول اللہ ہمارے حال کو دیکھئے۔ اے اللہ کے نبی ہمارا کہنا سن لیجئے۔ میں دریائے غم میں غرق ہوں میرا ہاتھ پکڑ لیجئے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دیجئے۔

(۲) اے مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم میرے لئے کوئی ایسا نہیں جس کے پاس فریاد کروں سوائے آپ کے عام حادثوں کے نازل ہونے کے وقت۔

ورنیں محلہ وغیرہ جو حاضر محفل ہوتے ہیں کچھ اس بارہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر اور لوگ کیا کہہ سکتے ہیں۔

(جواب) یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں۔ مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ اس کو مطلع فرما دے گا یا باذنہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جاوے گا یا باذنہ تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیوں گے جیسا درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیہ کہتا ہو محبت میں۔ یا عرض حال محل تحسر و حرماں میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطاب یہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسماع ہوتا ہے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک نہ معصیت مگر ہاں بوجہ موہم ہونے کے ان کلمات کا مجامع میں کہنا مکروہ ہے کہ عوام کو ضرر ہے اور فی حد ذاتہ ایہاں بھی ہے لہذا نہ ایسے اشعار کا پڑھنا منع ہے اور نہ اس کے مؤلف پر طعن ہو سکتا ہے اور کہاہت موہوم ہونے کی وجہ غلبہ حجت کے منجر ہو جاتی ہے مگر ایسی طرح پڑھا اور پڑھوانا کہ اندیشہ عوام کا ہو بندہ پسند نہیں کرتا گو اس کو معصیت بھی نہیں کہہ سکتا۔ مگر خلاف مصلحت وقت کے جانتا ہے۔ مگر ہاں جس کلام میں صاف کلمات کفر ہو اس کو نہ سننا حلال ہے اور نہ سکوت روا ہے اگر قادر نہ ہو تو الگ ہو جاوے اور جو عالم باوجود قدرت کے اس کو رد نہ کرے یہ بد اہنت ہوگی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## غیر اللہ سے پناہ مانگنا

(سوال) کتاب حیوۃ الجنان میں لکھا ہے کہ ابن سنی نے عمل الیوم واللیلۃ میں لکھا ہے۔ روی ابن السننی فی عمل الیوم واللیلۃ من حدیث داؤد بن الحصین عن عکرمۃ عن ابن عباس عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم انه قال اذا كنت بواد تخاف فیہ الا اسد فقل اعود..... بدانیال علیہ السلام و بالجب من شر الاسد حیوۃ الحيوان جلد اول ع ۶ در بیان اسد (۱) اور بعد چند سطور کے مرقوم ہے۔ فلما ابتلی دانیال علیہ السلام بالسباع اولا و اخرها جعل اللہ تعالیٰ الا استعاذۃ بہ فی

(۱) ابن سنی نے کتاب عمل الیوم واللیلۃ میں داؤد بن حصین کی روایت سے عکرمہ از ابن عباس کے ذریعہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی جنگل میں ہو اور اس میں جنگل کا خوف ہو تو یوں کہہ کر میں پناہ مانگنا ہوں دانیال کی اور کنوئیں کی شیر کی برائی سے (حیوۃ الجنان در بیان اسد)

ذالک تمنع شر السباع التي لا تستطاع (۱) یہ عمل پڑھنا جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس روایت کا کیا جواب ہے اور استعاذہ بغیر اللہ تعالیٰ جائز ہے یا منع اور منع ہے تو شرک ہے یا کیا۔ (جواب) اگر روایت حیوۃ الحیوان کی صحیح ہے تو وجہ یہ ہے کہ اس لفظ میں یہ اثر حق تعالیٰ نے رکھا ہے چنانچہ عبارت دوسری حیوۃ الحیوان کی اس پر شاہد ہے کہ حق تعالیٰ نے استعاذہ بدانیال کو مانع شربسباع بنا دیا ہے اس سے خود ظاہر ہے کہ اس طرح کے کلام میں تاثیر رکھ دی ہے پس نہ حضرت دانیال وہاں موجود ہوتے ہیں نہ ان کو کچھ علم و خبر ہے نہ وہ دفع کرتے ہیں اس کلمہ کے اثر سے باز نہ تعالیٰ منع شر ہو جاتا ہے پس بایں معنی یہ معنی سمجھ کر وقت ضرورت کے پڑھنا ان کا مباح ہوا۔ کیونکہ ایسی حالت میں استعاذہ بدریہ دانیال حق تعالیٰ سے ہے تو تقدیر کلام یہ ہے کہ اعوذ باللہ تعالیٰ بوجہ الدانیال الخ. (۲) اور اگر خود دانیال کو مفید عقیدہ کرے گا بدون تاویل تو یہاں بھی شرک ہوگا پس یہ عبارت اگرچہ موہم شرک ہے مگر بوجہ ضرورت اور ارتکاب مکروہ کے ابا حجب ہے جیسا تو یہ اضطرار میں کرنا درست ہو جاتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## موہم شرک اشعار

(سوال) یہ مضمون شعراء۔

محمد سر قدرت. ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے  
شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے  
محمد کو خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے  
کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جائے  
خدا و مصطفیٰ کہ کنہ میں ادراک عاجز ہے  
محمد کو خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے  
وہی ہے ایک دریا اس کی موجیں دونوں عالم ہیں  
غریق قلزم عرفاں ہو جب یہ ماجرا جانے

(۱) چونکہ دانیال علیہ السلام اول و آخر درندوں سے آزارش میں ڈالے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پناہ مانگنے کو اس بارے میں ایسا قرار دیا کہ ان درندوں کے شر کو منع کرے جن کو دفع کی طاقت نہ رکھے۔  
(۲) میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دانیال کے توسط سے۔

احد نے صورت احمد میں اپنا جلوہ دکھلایا  
بھلا پھر کس طرح سے کوئی اس کا مرتبہ جانے  
چاند بدلی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا  
شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا

اس میں الوہیت و رسالت میں فرق نہیں جانتے اور یہ بظاہر کفر ہے لہذا ان کا پڑھنا  
بالخصوص مجمع عوام میں اور نیز عقید کرنا کیسا ہے کفر ہے یا فسق یا جائز ہے اور در صورت  
جواز مطلب کیا ہے۔ فقط

(جواب) ان اشعار کے معنی اگرچہ بتاویل درست و صحیح ہو سکتے ہیں مگر چونکہ (بظاہر) موہم شرک  
ہیں اس لئے عوام کے رو برو تو ان کا پڑھنا موجب فتنہ کا ہے اس سے حذر کرنا چاہئے اور پڑھنے  
والے ان کے مجلس عوام میں گنہگار ہوتے ہیں لہذا پڑھنا ان کا حرام ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

تصدیق قلبی کے باوجود شرک کرنا بغیر مجبور کرنے کے

(سوال) کتب عقائد و کلام میں لکھا ہے کہ اگر ایمان و تصدیق قلبی میں خلل نہ ہووے تو کلمات کفریہ  
و افعال کفریہ سے عند اللہ کافر نہیں ہوتا تو اتنا اس یہ ہے کہ یہ امر کس صورت میں ہے کہ جو کلمات  
کفریہ اور افعال کفریہ سے کافر نہیں ہوتا عند اللہ تعالیٰ بشرط صحت تصدیق قلبی آیا حالات اکراہ مراد  
ہے یا حالت اختیار مراد ہے اور عند اللہ اور اگر مؤمن ہو تو عند الشریع کافر ہو یا فسق اور عند اللہ بھی  
فاسق ہو یا ایمان اور یا کوئی ضرورت و منفعت دنیوی مراد ہے کہ وہ حالت اکراہ نہیں ہے خیال میں  
نہیں آتا کہ کلمات کفریہ اور القاء مصحف فی القاذورات اور کلمات توہین و استخفاف بیشان حضرت حق  
تعالیٰ ذی شان و حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و حضرات ملائکہ علیہم السلام بدون اکراہ وقوع میں  
آویں اور پھر یہ شخص عند اللہ مؤمن رہے امید کہ جواب ان امور کا ارشاد فرمائیے۔ فقط  
(جواب) یہ حالت اکراہ میں ہے ورنہ باوجود تصدیق قلبی کے اگر کچھ شرک کرے گا کافر عند اللہ  
تعالیٰ بھی ہو جاوے گا۔ فقط

مشرکانہ حکایات پر اعتقاد

(سوال) ان کرامتوں مفصلہ ذیل میں کیا حکم ہے۔ حضرت غوث اعظم قدس سرہ کے ایک مرید  
نے انتقال کیا اس کا بیٹا روتا ہوا آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر آسمان

چہارم پر جا کر ملک الموت سے روح مرید کو مانگا ملک الموت نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے روح آپ کے مرید کی قبض کی ہے آپ نے فرمایا میرے حکم سے چھوڑ دے جب ملک الموت نے نہ دی تو آپ نے زبردستی زنبیل تمام روحوں کی جو اس دن قبض کی تھیں چھین لی۔ تمام روحمیں پرواز کر کے اپنے اپنے جسد میں داخل ہوئیں ملک الموت نے خدائے تعالیٰ کے پاس فریاد کیا کہ ایک شخص مجنون نے زنبیل روحوں کی چھین لی۔ فرمایا وہ ادھر کو تو نہیں آتا عرض کیا نہیں آتا کہا اچھا ہوا جو ابس گیا ورنہ وہ اگر ادھر آتا تو حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے مرے ہیں سب کے زندہ کرنے کو کہتا تو مجھے سب زندہ کرنے پڑتے۔

رسیدہ یو دو بلائے و لے بخیر گزشت۔ ایک عورت حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا حضرت مجھے بیٹا دو آپ نے فرمایا تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں نہیں ہے۔ اس نے عرض کی اگر لوح محفوظ میں ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا خدا تو اس عورت کو بیٹا دے حکم ہوا اس کی قسمت میں لوح میں بیٹا نہیں ہے کہا ایک نہیں تو دو دو دے! جواب آیا ایک نہیں تو دو کہاں سے دلا۔ کہا تو تین ۳ دے۔ کہا جب ایک بھی نہیں تو تین کہاں سے اس کی تقدیر میں بالکل نہیں۔ جب وہ عورت ناامید ہوئی۔ غوث اعظم نے غصہ میں آ کر اپنے دروازہ کی خاک تعویذ بنا کر دے دی اور کہا تیرے سات بیٹے ہوں گے وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی اور اس کے سات بیٹے ہوئے بعد وفات حضرت عبدالقادر جیلانی ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ کہا منکر نکیر کے جواب سے آپ نے کیونکر رہائی پائی۔ جناب شیخ نے فرمایا یوں پوچھو۔ منکر نکیر نے میرے سوالوں کے جواب میں کیونکہ رہائی پائی جس وقت میرے پاس قبر میں آئے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور کہا یہ بتلاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کریں گے تو تم نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا شاید تم نے اللہ تعالیٰ کو مشورت طلب ٹھہرایا۔ (جواب) ان الحكم الا لله (۱) یہ کرامات مندرجہ سوال بت پرستوں کے سے عقیدہ والوں کے ہیں۔ قد جاء فی الحدیث من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلمه وليس وراء ذلك حبة خردل من الايمان (۲) جو۔

(۱) حکم بجز اللہ کے کسی کا نہیں۔

(۲) اس کا ترجمہ گزر چکا ہے

لوگ ان کرامات شریکہ مذکورہ کو حق جانتے ہیں اور اس عقیدہ شریکہ کفریہ پر ہیں سراسر مخالف قرآن اور حدیث کے ہیں۔ اور مثل بت پرستوں کے عبد القادر پرست ہیں بندہ کو خدا اعتقاد کرتے ہیں العیاذ باللہ بلکہ اس واحد و قہار و قیوم و جبار کو بندہ کے آگے مجبور جانتے ہیں ایسے عقیدہ والے لفظی کافر اور مشرک ہیں اگر وہ کوئی ابتدائے تمیز سے اس عقیدہ پر ہے تو پرانا کافر ہے جب تک اس کفریہ عقیدے سے توبہ نہ کرے اور تجدید اسلام کلمہ شہادت سے نہ کرے مسلمان نہیں قال اللہ تعالیٰ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة وما وہ النار وما للظالمین من انصار۔ (۱) اگر کسی مسلمان کے گناہوں سے ساری زمین لبریز ہو اور شرک نہ ہو تو حق جل جلالہ اس کے بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے مگر مشرک کافر ہرگز نہ بخشا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالاً بعيداً (۲) اور جو لوگ اول عقیدہ توحید کا رکھتے تھے اور بعد میں اس شریکہ عقیدہ پر ہو گئے ہیں تو ان کے پہلے نیک عمل سب برباد ہو گئے اگر اسی کفر پر مجائیں تو دوزخی ہیں۔ بموجب فرمان واجب الاذعان الہی کے ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خللون۔ (۳) نعوذ باللہ من شر الکاذبین المبتدعین الباطلین الطاغین الفاسقین واللہ اعلم بالصواب فاعتبر وایا اولی الالباب حررہ (۴) الفقیر محمد حسین الدہلوی عفا اللہ عنہ۔

یقال لہ محمد ابراہیم۔ الجواب حق محمد اشرف علی عنہ سلہٹی

الجواب صحیح۔ عبد المجید عرف محمد قابل عنہ مدرس مدرسہ اسلامیہ۔

یہ باتیں عوام کا لالعام بل ہم اہل کی ہیں ان سے احتراز مسلمانوں پر واجب ہے فقط قادر

علی عنہ۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کی چاہے گا مغفرت فرمائے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ بے شک بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔

(۳) اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائے تو ان کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

(۴) ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جمہوں کے شر سے جو بدعتی اور باطل پر ہیں سرکش اور فاسق ہیں واللہ اعلم بالصواب عبرت حاصل کرو و عظمندو۔

صحیح الجواب بعون اللہ الملک الوہاب شہر اسلام آباد عرف چانگام۔  
 الجواب صحیح سید عبدالسلام غفرلہ الجواب صحیح سید محمد ابوالحسن۔  
 الجواب صحیح سید معصم باللہ حنفی۔

محمد عبدالحکیم عفی عنہ کرامات مذکورہ بے اصل ہیں ان کے اعتقاد سے احتراز چاہئے محمد حسن عفی عنہ۔

یہ حکایات لا اصل ہیں اعتقاد کے لئے یقینی باتیں درکار ہیں معتقدان باتوں کا یا نادان ہے یا کجبر و مسلمان کو بہر حال ایسی باتوں سے اعتقاد ہٹانا چاہئے اور سچے اور پکے مسلمانوں کے عقائد دل میں جمائے چاہئیں۔ فقط محمد ناظر حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ اسلامی میرٹھ شہر کرامت مذکورہ کا معتقد مخالف قرآن و احادیث کا ہے ایسے اعتقاد سے پرہیز کرنا لازم ہے فقط محمد مسعود نقشبندی۔

الجواب صحیح محمد عبد اللہ الجواب صحیح عبدالحق ایسے عقائد مشرکین و متبذعین کے ہیں۔ جواب مجیب کا اور مواہیر و دستخط صحیح ہیں۔ حسنا اللہ بس حفظ اللہ الجواب صحیح والرائے شیخ الغرض جناب شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ولی کامل فی زعمنا ہیں صاحب کرامات ہیں مگر عوام کا لانا نعم بہلانا لوگوں نے ہزار ہا حکایات اکاذیب گھڑ لی ہیں۔ منجملہ ان کے جو سوال میں درج ہیں اور انہیں کے لگ بھگ یہ کرامت بھی افترا کی ہوئی ہے کہ بارہ برس کے بعد کشتی مع برات ڈوبی ہوئی نکالی۔ سواں کی بھی کچھ اصل نہیں ہے غرض یہ کہ ایسے عقیدے شرکِ بدعیہ سے توبہ کرنی چاہئے۔ ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے۔ حررہ العاجز ابو محمد۔

عبدالوہاب الفنجانی الملتانی خادم شریعت رسول الآداب۔

الجواب صحیح سید محمد اسماعیل فرید آبادی ابو محمد عبدالوہاب، پیر محمد انصاری عفی عنہ، ولی محمد۔

بقلم خود۔ جواب بہت صحیح ہے جواب بہت صحیح ہے سید عطا الرحمن عفی عنہ

مولوی دبیر الرحمن صاحب بنگالی سید محمد عبدالحمید، سید غلام حسین

عبدالبارحیدر آبادی۔ جواب صحیح ہے روح چھیننا غلط ہے اور اعتقاد اس پر باطل ہے۔

بہر قلم امیر احمد عفی عنہ، قادر بخش عفی عنہ جواب صحیح ہے تلمظ حسین۔

مخفی نہ رہے کہ مفتی جزاہ اللہ خیر الجزاء نے جو جواب دیا ہے اللہ و وحدہ لا شریک لہ کے پوجنے والوں اور اس کے رسول برحق کے ماننے والوں کو کافی دوانی ہے البتہ ضال مضل مشرک

و متبدع کہ جس کے دل اور آنکھ اور کان پر شقاوت و بدعتی کی مہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے فی الواقع جو شخص ایسی کرامتوں والا اصل نہ کا پیر یا کسی دوسرے ولی و فقیر سے جو کہ مقدرات باری تعالیٰ و تصرفات قادر مطلق سے ہیں قائل و معتقد ہے اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں خدا بے چون و چرا کے حکم و قدرت کے مقابلہ میں کسی نبی و ولی کی کچھ پیش نہیں چلتی وہ حاکم سارا جہاں محکوم و محتاق اور سب مخلوق پھر کون اس شہنشاہ دو جہاں کے حکم کو رد کر سکتا ہے اپنے کلام معجز میں بیان فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیئ و هو یحیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون ، سیقولون لہ قل فانی تسحرون . یعنی فرمایا اللہ صاحب نے کہہ کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے قابو ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی نہیں حمایت کرتا اگر جانتے ہو وہ ہیں کہہ دیں گے کہ اللہ ہی ہے پھر کہاں سے خطب میں پڑ جاتے ہو۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں لیس الفاعل والقادر والمتصرف الا هو یعنی اللہ تعالیٰ و اولیاء ہم القانون الہالکون فی فعلہ تعالیٰ و قدرتہ و سطوتہ لافعل لہم و لا قدرت و لا تصرف لا الان و لا حین کانوا حیا فی دار الدنیا . یعنی قادر اور فاعل اور متصرف کوئی نہیں مگر اللہ اور اولیاء اللہ فانی اور ہم ہیں اللہ کے فعل میں اور اس کی قدرت اور غلبہ میں نہ ان کا کوئی فعل ہے نہ قدرت نہ تصرف نہ اب یعنی عالم بزرخ میں اور نہ جب کہ زندہ تھے دنیا میں پس۔ اس آیت اور عبارت شیخ موصوف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ پس ایسی کرامت پیران پیر کی طرف منسوب کرنا محض تہمت و افترا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب فقط حررہ حمایت اللہ عفا اللہ عنہ جلیسری۔ ایسی حکایات و کرامات جن میں خدا کے ساتھ مقابلہ یا اس کے کاموں میں کسی قسم کا دخل بے جا بخلاف مرضی حق تعالیٰ کے ہو محض افترا و بہتان ان بزرگوں پر ہے۔ انبیاء و صدیقین و شہداء و صلحاء اور ملائکہ سب اس حکم کے آگے دم بخود ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول و ہم بامرہ یعملون . یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی و ہم من خشیۃ مشفقون و من یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزہ جہنم کذلک نجزی الظالمین . یعنی وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اس کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے وہ راضی ہو اور وہ اس



کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی ان میں کہے کہ میں خدا ہوں سوائے اس کے سواں کو ہم بدلہ دیں دوزخ یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔

## بزرگان بزرگی تہادہ زسر (۱)

فقط حرہ العاجز ابو عبد الرحمن محمد عفی عنہ

الجواب صحیح محمد عبد الحکیم عفی عنہ۔ جواب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فسبحان الذی یدہ ملکوت کل شیئ والیہ ترجعون۔ (۲) فقط حرہ عطاء اللہ عفی عنہ یہ جواب صحیح ہے۔ ابو محمد سلیم الدین ہذا جواب صحیح۔ الجواب صحیح۔ ابو عبد اللہ محمد نعمت اللہ جواب صحیح ہے دستخط محمد فقیر اللہ الشیخیابی شاہ پوری۔ خادم شریعت متین محمد سلیم الدین عفی عنہ۔

الجواب واللہ سبحانہ الموافق للصواب۔ یہ کرامتیں جو سوال میں مرقوم ہیں اس کا رد و انکار نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع اور خلاف عقیدہ اہل اسلام نہیں ہے اور ایک کرامت اخیرہ اقتباس الانوار میں جو معتبر کتاب ہے احوال حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقول ہے اور دو کرامتیں جو پہلی ہیں وہ میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گذری لیکن کتابیں احوال حضرت ممدوح میں بہت کثیر ہیں۔ اور میں نے ان کو بالاستیعاب نہیں دیکھا۔ پس ممکن ہے کہ کسی صاحب نے نقل کی ہوں۔ بہر حال انکار کرنے کی کوئی وجہ و وجہ نہیں معلوم ہوتی اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے ایسی کرامتیں بیشتر صادر ہوئی ہیں اور یہ کرامتیں ان کے کمال اور شرف کے سامنے کچھ مقدار نہیں رکھتیں۔ ان کا کمال اس سے بہت زیادہ ہے اور یہ امر اہل معرفت پر مخفی نہیں ہے اقتباس الانوار میں ہے واز آنحضرت ہر جنس کرامات نقل کردہ اند تصرف در ظواہر خلق و بواطن ایشان و اجرائے حکم بر انس و جن و اطلاع ضمناً و اظہار سر ائرو تکلم بخاطر اطلاع بر بطائن ملک و ملکوت و کشف حقائق جبروت و اسرار لا ہوت و اعطاء مواہب علیہ و امداد عطا یاہ لا ربیبہ و قلب و تصرف حوادث و دو ائرو تصرف اکوان اثبات الہی و اتصاف بصفات احیاء و اماتت و ابراء اکمہ و ابرص و صحیح مرضی و طی زمان و مکان و نفاذ امر و زمین

(۱) بزرگوں نے بزرگی سے اتار کر رکھ دی۔

(۲) پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب چیزوں کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاوے۔

و آسمان و نیز بر آب و طیران در ہوا و تصرف ارادت مردم انتہی (۱) فقط واللہ سبحانہ، اعلم و علمہ اتم مہر مولوی ارشاد حسین صاحب رام پوری۔

احمدی محمد ارشاد حسین۔ مولوی ارشاد حسین صاحب سے تعجب ہے کہ ظاہر ان حکایات کو خصوصاً پہلی حکایت کو خلاف شرع نہیں جانتے حق تعالیٰ سے غالب رہنا اور امر حق تعالیٰ کو رد کر دینا اور خدا تعالیٰ کا شیخ قدس سرہ سے ڈرنا۔ تو صاف اس سے واضح ہے اور پھر بھی خلاف قاعدہ شرع کے یہ نہیں تو معلوم نہیں وہ کون سا امر ہے کہ خلاف ہوتا ہے اگر کوئی تاویل مولوی صاحب فرما کر یہ جواب لکھتے تو مضائقہ نہ تھا مگر صاف طور پر ان کو تسلیم کرنا تھا یہ مستبعد ہے علماء سے کہ عوام کی غوایت کو ایسا لکھنا کافی ہے۔ بہر حال یہ حکایات بظاہر خود کفر اور خلاف قاعدہ شرع کے ہیں خصوصاً پہلی حکایت کہ مسلمانوں کو ایسا عقیدہ نہ کرنا چاہئے اور کمالات شیخ کی عبودیت و بندگی اور عجز تام بدرگاہ حق تعالیٰ کے ہوتا ہے نہ ایسے حکایات واہیہ آپ کی شان رفیع تسلیم و رضا و فنا پیش حق تعالیٰ و اوامر حق تعالیٰ کے ہیں۔ چنانچہ ان کے کلمات فتوح الغیب سے واضح لائح ہے نہ کہ مقابلہ امر حق تعالیٰ کا اور مخاصمہ ذات پروردگار کے ساتھ معاذ اللہ الحاصل ان حکایات کی کوئی اصل نہیں یہ وضع کسی ٹھڈ کی ہیں اور شان بزرگان سے بعید ہے کہ ایسی حکایات لکھیں یا اس پر عقیدہ کریں اور جو عبارت مولوی صاحب نے نقل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت ہے نہ مقابلہ و برابری و مکارہ حق تعالیٰ کے ساتھ لا حول و لا قوۃ الا باللہ۔ مسلمان ایسے عقائد سے احتراز رکھے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی۔

فی الحقیقت حکایات مندرجہ سوال جس کو مسائل کرامات حضرت شیخ قدس سرہ اعتقاد کرتا ہے حکایات کا ذبہ مردودۃ الشرع ہیں نہ کرامات مقبولہ حاشا دکلاشان حضرت غوث اعظم قدس سرہ کے ہرگز ہرگز مقتضی اس کے نہیں ہے کہ ایسے امور مخالف شرح بطور کرامت ان سے صادر ہوویں کہ منافی ولایت ولی ہے اس لئے کہ ولی اس مومن کو کہتے ہیں کہ جو عارف بذات اللہ والصفات ہو کر حسب امکان عبادت پر مواظبت کرے اور گناہوں اور شہوات و لذات سے کنارہ کش ہو۔ پس

(۱) اور حضرت غوث پاک کے کرامات نقل کئے ہیں۔ مخلوق کے ظاہر و باطن میں تصرف اور انسان و جن پر ان کے حکم کا جاری ہونا اور دلوں پر اطلاع پانا اور چھپی ہوئی باتوں کا ظاہر کرنا اور دلوں سے بات کرنا اور ملک و ملکوت کی باطنی باتوں پر اطلاع پانا اور حوادث میں الٹ پلٹ کرنا اور اس میں تصرف کرنا اور اثبات الہی کے اکوان میں صرف کرنا اور مریضوں کو تندرست کرنا اور زمان و مکان کو طے کرنا اور زمین و آسمان میں آپ کے امر کا نفاذ ہونا بلکہ پانی پر بھی اور ہوا میں اڑنا اور لوگوں کے ارادے میں تصرف کرنا۔

اپنے کو عاجز و مغلوب اور ذات احدیت کو قادر و غالب اعتقاد کرنا اور مخالف اس کے عملاً بھی کاربند نہ ہونا لازم الولی ہے بنا علیہ جو کہ حکایات اولیٰ اور ثانیہ سے عجز و مغلوبیت خالق الارض والسموات اور غلبہ حضرت شیخ قدس سرہ کا و نیز بزور رد کرنا حکم حضرت رب العالمین کا صریح لازم ہے اور یہ منافی ولایت پر کرامات حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ سے ہونا ان احکامات کا بالبدلتہ باطل ہے جو شخص ایسا اعتقاد کرے وہ ملحد ہے نعوذ باللہ من ذلک نہایت تعجب ان علماء سے ہے کہ جو ان حکایات کا ذب کو کرامات حضرت شیخ قدس سرہ سے قرار دے کر عوام کا لالچ کر گمراہ کریں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیات اعمالنا فقط۔ حررہ محمد قاسم علی غنی عنہ مراد آبادی۔ محمد قاسم علی خلیف مولانا محمد عالم علی۔

### تعویذ میں موہم شرک الفاظ لکھنا

(سوال) ایک بزرگ نقشبندی کا معمول لکھا ہے کہ تعویذ میں یہ عبارت بھی شامل کرتے تھے یا حضرت مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اس حرز را در ضمن تو سپردیم ایسی عبارت تعویذ میں لکھنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ عبارت جو کسی بزرگ سے منقول ہے اس کا لکھنا تعویذ میں جائز نہیں کہ ظاہر اس کا موہم شرک کا ہے کیونکہ متبادر اس کلام سے یہ ہوتا ہے کہ حضرت مجدد قدس سرہ حاضر اور سنتے ہیں اور سب خلق کے وہ ضامن و حافظ ہیں اور یہ شان و صفت حق تعالیٰ کی ہے بالاستقلال پس ایسا کلام موہم لکھنا اور کہنا ناجائز ہے جیسا کہ حدیث میں ماشاء اللہ و شئت کہ بہ سبب ایہام شرک کے منع فرمایا ہے اگرچہ تاویل کلام بزرگ کی درست ہو سکتی ہے جیسا کہ کلام وارد حدیث کی تاویل درست ہو سکتی ہے اسی ہی واسطے ان بزرگ کی شان میں کوئی نسبت عصیان کی نہ کرنا چاہئے مگر بسبب ظاہر متبادر معنی کے خود اس سے اجتناب چاہئے چنانچہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ موہم کلمہ سے احتراز کرنا چاہئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### شرک فی التسمیہ کا گناہ

(سوال) اس آیت کے جواب میں کیا فرماتے ہیں جو سورہ اعراف کی اخیر میں حضرت آدم و حوا علیہما السلام کے بارے میں وارد ہے بحوالہ شرکاء (۱) تمام مفسرین کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتی

(۱) ان دونوں نے اللہ کا شریک بنایا۔

ہے کہ آدم اور حوا سے شرک ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا اور حارث شیطان کا نام ہے۔

(جواب) شرک جو آیت شریفہ میں آیا ہے وہ شرک نہیں گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ بلکہ صغائر و ترک اولیٰ پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے چنانچہ شرک دون شرک احادیث میں آیا ہے پس یہ شرک جو ان سے سرزد ہوا ہے یہ شرک فی التسمیہ ہے یعنی بوجہ عدم علم اس امر کے کہ حارث شیطان کا نام ہے انہوں نے عبدالحارث نام رکھ دیا پس یہ صورت شرک ہے نہ واقعی اور حقیقی ترک اولیٰ اور مکروہ تنزیہی کا صدور انبیاء سے بعد نبوت بھی اتفاقاً جائز رکھا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### یزید کو کافر کہنا

(سوال) یزید کو جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق۔

(جواب) کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ یزید مؤمن تھا بسبب قتل کے فاسق ہوا کفر کا حال دریافت نہیں کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔

### مولانا اسماعیل شہید کو کافر کہنا

(سوال) جو شخص کہ حضرت مولانا مولوی اسماعیل صاحب شہید کو کافر اور مردود کہتا ہے تو وہ شخص خود کافر ہے یا فاسق اگر وہ کافر ہے اس کے ساتھ معاملہ کافر کا سا کرنا جائز ہے یا نہیں موافق اس فتویٰ کے جو مولوی عبدالرب صاحب واعظ دہلوی کا ہے اور اس پر چند علماء کی مہریں ہیں وہ یہ کہ جو کوئی مولوی محمد اسماعیل کامل ولی کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے اور صدق ہے حدیث من عادی لسی ولیا فقد بارزلی بالمحاربة (۱) فقط محمد اکبر خان اسی طرح اور بہت علمائے دہلی کی مہریں ہیں تو موافق اس فتویٰ کے اس کے ساتھ معاملہ کفاروں کا سا کرنا جائز ہے یا نہیں فقط۔

(جواب) مولانا محمد اسماعیل صاحب کو جو لوگ کافر کہتے ہیں تاویل کہتے ہیں اگرچہ وہ تاویل ان کی غلط ہے لہذا ان لوگوں کو کافر کہنا اور معاملہ کفار کا سا نہ کرنا چاہئے جیسا کہ روافض اور خوارج کو بھی اکثر علماء کافر نہیں کہتے حالانکہ وہ شیخین و صحابہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو کافر کہتے ہیں۔ پس جب بسبب تاویل باطل کے ان کے کفر سے بھی آئمہ نے تخاصی کی تو مولوی محمد

(۱) جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔

اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو مردود کہنے والا کو بطریق اولیٰ کافر نہ کہنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## اشیاء کو مؤثر بالذات ماننا

(سوال) مجالس ابرار میں اقسام شرک کے بیان میں مرقوم ہے۔ والخامس من انواع الشرك شرك الاسباب وهو اسناد تائیر للاسباب العبادية كشرک الفلاسفة والطباعین ومن تبعهم علی ذالک من جهلة المؤمنین فانهم لما رؤوا ارتباط الشیع باکل الطعام وارتباط الروی بشرب الماء وارتباط ستر عورة بلبس الثیاب وارتباط الضوء بالشمس ونحو ذالک مما لا یحصر فهموا بجهلهم ان تلك الاشیاء هی الموثرة فیها ارتباط وجودها معها اما بطبعها او بقوة وضعها الله تعالیٰ فیها وهو غلط وسبب غلطهم قیاسهم ادراک الحس بادراک العقل فان الذی شاهدوه انما هو تائیر شیئی عند الشیخ وهذا هو حظ الحس لو اما تائیره فیہ فلا یدرک بالحس بل انما یدرک بالعقل والسادس من انواع الشرك شرك الاغراض وهو العمل لغير الله تعالیٰ كشرک المرائین الخ وحکم السادس الذی هو شرك الاغراض المعصية بالا جماع وحکم الخامس الذی هو شرك الاسباب التفصیل وهو ان اهل هذا الشرك فی اعتقادهم التائیر لتلك الاسباب مختلفون فمنهم من یعتقد ان تلك الاسباب توثر بطبعها وحققتها فی الاشیاء التی تقارنها ولا خلاف فی کفر من یعتقد هذا ومنهم من یعتقد ان تلك الاسباب لا توثر بطبعها وحققتها بل بقوة اودعها الله تعالیٰ فیہ ولو نزعها منها لا توثر وقد تبهم فی هذا الاعتقاد کثیر من امامة المومنین ولا خلاف فی بدعة من یعتقد هذا وانما الخلاف فی کفره فمن كان فیہ شیئی من هذه المذکورات ولم یسع فی ازاله عن نفسه واصلاحه شأنه یختم له بالسؤ وان كان مع کمال الزهد والصلاح لان زهده وصلاحه انما ینفعه اذا كان مع الاعتقاد الصحیح الموافق لکتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم واما اذا لم یکن مع الاعتقاد الصحیح الموافق لهما بل كان مع الاعتقاد الفاسد لمخالف لهما فلا ینفعه اس عبارت کا مطلب ارشاد ہواور یہ بھی فرمائیے کہ

اس قسم ثانی میں جس کے بدعت ہونے میں خلاف نہیں اور کفر میں خلاف ہے (اور اودعما اللہ تعالیٰ) سے کیا مراد ہے اس کی تقریر اس طور پر فرمادیجئے کہ خوب ذہن نشین ہو جائے اور علماء سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر اشیاء میں رکھ دی ہے اور بعض کا یہ ہے کہ نہیں رکھی۔ پھر رکھنے سے کیا مراد اس مسئلہ تاثیر اشیاء میں جو مذہب صحیح ہے وہ بیان کر دیجئے پایہ کہ یہ خلاف اور نزاغ لفظی ہے اور مطلب فریقین کا واحد ہے۔

(جواب) جو شخص عقیدہ کرتا ہے کہ اشیاء بطبعہا موثر ہیں تو یہ تو خود شرک ظاہر کرتا ہے کہ ان اشیاء کو مستقل مؤثر جانتا ہے کہ اپنی ذات سے تاثیر کرتی ہیں حق تعالیٰ کا تاثیر دینا نہیں جانتا اور دوسری قسم کہ ان اشیاء کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ تاثیر حق تعالیٰ نے ان اشیاء میں رکھی ہے یعنی پیدا کر دی ہے یہ معنی اودعھا کے ہوئے کہ تاثیر خود اپنے آپ ان میں نہیں ہوئی بلکہ حق تعالیٰ نے تاثیر ان میں پیدا کر دی ہے اس میں تاثیر خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے موثر ہیں پس اگر چہ عقیدہ خلق تاثیر کا تو درست ہے مگر بعد خلق تاثیر کے خود موثر ہو دیں یہ باطل ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جب حق تعالیٰ نے تاثیر ان کو دے دی تو پھر وقت تاثیر کے حق تعالیٰ کا تصرف اس میں نہیں ہوتا یہ خود تاثیر کرتی ہیں جیسا عامہ جہال کہتے ہیں کہ اولیاء کو حق تعالیٰ نے علم و قدرت و تصرف دے دیا ہے اس کے ذریعہ سے خود اولیاء تصرف کرتے ہیں چنانچہ تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ خواہ اولیاء کی نسبت یہ گمان کرے کہ خود تصرف کرتے ہیں یا یہ گمان وزعم کرے کہ خدا تعالیٰ نے انکو علم و تصرف دیا دونوں شرک ہیں ایسا ہی اشیاء کی تاثیر میں ہے لہذا یہ بھی شرک ہے بلکہ یہ عقیدہ چاہئے کہ یہ تاثیرات حق تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں اور پھر جس وقت چاہتا ہے حق تعالیٰ ان تاثیرات کو نافذ کرتا ہے اشیاء کو کوئی دخل و تصرف و تاثیر نہیں بلکہ اسباب عادیہ روپوش ظاہری ہیں عین وقت تاثیر کے بھی حق تعالیٰ ہی خالق اثر ہے یہ ایمان ہے اور اولیاء کی نسبت بھی یہ عقیدہ ایمان ہے کہ حق تعالیٰ جس وقت چاہے انکو علم و تصور دیوے اور عین حالت تصرف میں حق تعالیٰ ہی متصرف ہے اولیاء ظاہر میں متصرف ہوتے ہیں عین حالت کرامت و تصرف میں حق تعالیٰ ہی ان کے واسطے سے کچھ کرتا ہے اس نکتہ و فرق کو نہ سمجھ کر اکثر جہال تقویۃ الایمان پر طعن کرتے ہیں پس تاثیر رکھنا اس میں اثر پیدا کرتا ہے اور پھر اثر خود ہی کرتا ہے بذریعہ ظاہری ان اشیاء و اولیاء کے اور سب علماء کا یہی مذہب ہے اس کے خلاف شرک ہے بظاہر نزاغ لفظی ہے ورنہ مبتدع علماء جہل مرکب میں مبتلا ہیں وہ تاثیر رکھنا کہتے ہوں گے مثل عوام جہلا کے جیسا کہ تقویۃ الایمان پر

ظہن کرتے ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## عہد اکلمہ کفر بولنا

(سوال) عیسائی مذہب کے پادریوں نے سہارنپور میں آ کر نوجوان لڑکیوں کو تو اپنے مدرسوں میں داخل کر کے بہکانا اور بے دین کرنا اور مرتد بنانا شروع کیا ہی تھا اب ایک اور فریب و جہل کی راہ نکالی وہ یہ کہ مسلمانوں کی چھ ۶ چھ ۶ آٹھ ۸ آٹھ ۸ دس ۱۰ دس ۱۰ بیس ۲۰ بیس ۲۰ وغیرہ لڑکیوں اور عورتوں کو اپنے مذہب کی کتابیں پڑھانا شروع کیا ہے اور وہ لڑکیاں اور عورتیں مطلق اپنے مذہب سے واقف نہیں ان کو ہر اتوار کو پیسے اور تصویریں اور شیرینی کے لالچ دیئے جاتے ہیں اور مسیح کو غزلوں اور بھجوں میں خدا اور خدا کا بیٹا گویا جاتا ہے اور لڑکیاں اور عورتیں خصوصاً مسلمانوں کی تنخواہ کے لالچ میں کفر و الحاد کے جملے بولتے ہوئے بھی نہیں ڈرتیں ایسے مکر و فریب سے پادریوں نے ملک پنجاب میں گذشتہ سالوں میں سات سو لڑکیاں عیسائی کی ہیں سہانپور میں یہ بلائے جاگز اور ایمان ربا اسی سال آئی ہے نو ۹ مدرسے خاص سہارنپور میں مسلمانوں میں جاری ہیں اور مسلمانوں کی عورتیں اس وجہ سے کہ روپیہ کے لالچ میں آ کر خود انتظام کر لیں گی اور لڑکیوں کو جمع کر کے بیدین بے ایمان کرنے کا ڈھنگ ہم کو بتلا دیں گی۔ مقلد مقرر کی گئیں ان مدرسوں میں پڑھنا اور پڑھانا اور پڑھائی کے واسطے مکان دینا اور پڑھنے والیاں اور پڑھانے والیاں جو اس فعل بد سے راضی ہوں اور جو عورتیں شوہروں کے اس حکم خاص کو نہیں مانتیں اور جو شخص اپنے مکان اور اپنے اہل و عیال کو اس کام سے باز نہیں رکھتا اور اپنی لڑکیوں کو ایسے مدرسہ میں جانے سے مانع نہیں ہوتا عند الشرع کیا حکم رکھتے ہیں مفصل بحوالہ آیات و احادیث تحریر فرمائیے اجر عظیم اللہ سے پائیے۔ فقط۔

(جواب) کلمہ کفر بولنا عہد اگر چہ اعتقاد اس پر نہ ہو کفر ہے چنانچہ ردالمحتار میں لکھا ہے۔ قال فی البحر والحاصل ان من تکلم بکلمة الکفر ما زلا او لا عبا کفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صح به الخانية ومن تکلم مخاطبا او مکرها لا یکفر عند الكل ومن تکلم عامداً کفر عند الكل ومن تکلم بها اختیارا جاھلا بانها کفر ففیه اختلاف الخ وفي الفتح ومن هزل بلفظ کفر ارتدوان لم یعتقد به للاستخفاف فهو ککفر المعتاد قال فی رد المحتار ای تکلم باختیاره غیر قاصد

معناہ وهذا لا ینا فی ما مر من ان الایمان هو التصدیق فقط او الاقرار لان التصدیق وان کان موجودا حقیقۃ لکنہ زائل حکما لان الشارع جعل بعض المعاصی امارۃ علم وجودہ کالہزل المذکورو کما لوسجد لصنم او وضع مصحفا فی قاذورۃ فانہ یکفر وان کان مصدقا لان ذلک فی حکم التکذیب کما افادہ فی شرح العقائد انتہی رجل کفر بلسانہ طائعا وقلبہ مطمئن علی الایمان یکون کافر او لا یکون عند اللہ مؤمنا کذا فی قاضی خان (۱)

پس روایات سے صاف واضح ہے کہ جو کوئی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ راگ میں گادے یا کوئی کلمہ کفریہ پادریوں کے کہلانے سے جو صاحب مدارس کے لڑکے لڑکیاں کہتی ہیں کہے مرتد کافر ہو اور اس امر پر رضادینا بھی کفر ہے۔ قال فی شرح العقائد و شرح القاری علی الفقہ الا کبر الرضا بالکفر کفر انتہی (۲) اور ان تحت کلمات پر کچھ پرواہ نہ کرنا اور کہل جانتا بھی کفر ہے۔ الا ستہا نہ بالمعصیۃ بان یعدھا ہنیئۃ ویو تکبھا من غیر مبالاۃ بہا ویجر بہا مجری المباحات فی ارتکابہا کفر کذا فی شرح علی علی الفقہ اکبر (۳) الحاصل اس مدرسے کے لڑکے لڑکیاں جو ایسے کلمات بولتے ہیں سب مرتد ہیں اور جو ان کو بخوشی ایسے کام کے واسطے وہاں بھیجتے ہیں دیدہ و دانستہ وہ بھی مرتد کافر ہیں اور ان مدارس کی پڑھانے والیاں اور اس کے سامعین مکان و چندہ کے اگر اس فعل بد سے راضی ہیں سب کافر

(۱) بحر میں لکھا ہے اور حاصل یہ ہے کہ جس نے کلمہ کفر سے کلام کیا مذاق سے یا کھیل کود کے طور پر تو وہ سب کے پاس کافر ہو گیا اور اس کے اعتقاد کا کوئی اعتبار نہیں جیسا کہ خانہ میں اس کی صراحت کی اور جس نے خطا یا مجرا ہو تو وہ سب کے پاس کافر نہ ہوگا اور جس نے عمداً کیا وہ سب کے پاس کافر ہوگا اور جس نے اختیار سے کہا لیکن وہ جانتا نہ ہو کہ کلمہ کفر ہے تو اس میں اختلاف ہے اربع اور فتح میں ہے کہ جس نے کفر کے الفاظ سے مذاق کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا اگرچہ کہ اس کا اعتقاد نہ کرے بویہ خیف کرنے کے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عادی کفر۔ اور در مختار میں ہے کہ یعنی اپنے اختیار سے کہا اس کے معنی کا ارادہ کے بغیر اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے جو اوپر گزرا کہ ایمان فقط تصدیق کا نام ہے یا اقرار کا اس لئے کہ تصدیق اگرچہ کہ حقیقہ موجود ہے لیکن وہ حکماً زائل ہے اس لئے کہ شارع نے بعض گناہوں کو منافی بتایا ہے ایمان کے عدم وجود کی جیسے کہ گذشتہ مذاق اور جیسے کہ اگر صم کو سجدہ کیا یا مصحف کو کوزے میں ڈال دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ تصدیق کرنے والا نہ ہو اس لئے کہ یہ تکذیب کے حکم میں ہے جیسا کہ اس کو شرح عقائد میں بیان کیا ہے (ختم) اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کفر کرے خوشی کے ساتھ اور اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور اللہ کے پاس مؤمن نہ رہے گا۔ (قاضی خان)

(۲) شرح عقائد و فقہ اکبر کی شرح قاری میں ہے کہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔

(۳) گناہ کو آسان سمجھنا اس طرح کہ اس کے بعد خوشی ہو اور اس کی پردہ کے بغیر اس کا مرتکب ہونا اور اس کے ارتکاب میں مباحات کے قائم مقام اس کو کرنا کفر ہے فقہ اکبر کی شرح میں اسی طرح ہے



اور مرتد اور جو اس امر کو برا جان کر دنیا کی طمع سے یہ کام کرتے ہیں یہ سب فاسق فاجر ہیں سب اہل اسلام کو لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو اور اپنے بچوں کو روکیں اور منع کریں۔ لفظ علیہ السلام من رای منکر ا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فیلسانہ فان لم یستطع بقلبه ولیس وراء ذلک حبتہ خسر دل من ایمان۔ (۱) الی اصل جو شخص استطاعت کسی قسم کے منع کی رکھتا ہے اور پھر منع نہ کرے تو اگر اس فعل کو مستحسن جانتا ہے یا اہل جانتا ہے تو کافر مرتد ہو اور جو برا جان کر منع نہ کرے گا وہ مدابن و فاسق ہو حافظہ واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الراجی رحمۃ ربہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔

جواب صحیح محمد مظہر الجواب حق والحق متبع الجواب صحیح۔

مدرس مدرسہ سہانپور عنایت الہی سہارنپوری ابو الحسن  
جواب صحیح ہے جواب صحیح ہے الجواب صحیح  
عزیز حسن عفی عنہ مشتاق احمد عفی عنہ حبیب الرحمن عفی عنہ  
الجواب صحیح محمد حسن الجواب حق

مدرس مدرسہ دیوبند عبدالرحمن عفی عنہ  
اصاب الجیب الجواب صحیح والمکر فصح جواب صحیح ہے الجواب صحیح حق محمد محمود عفی عنہ  
ذوالفقار علی عفی عنہ احمد عفی عنہ محمد امیر بازاخان مدرس دارالعلوم دیوبند  
الجواب صحیح ہذا الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح  
عزیز الرحمن دیوبندی واللہ اعلم وعلمہ اتم عبدالمومن دیوبندی محمد منصب علی  
مدرس مدرسہ عربی میرٹھ عفی عنہ محمد ابراہیم عفی عنہ سنبھلی عفی عنہ دیوبندی عفر عنہ۔

جواب صحیح ہے محمد محمود حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ اسلامیہ دیوبند۔ الحق اجرائے کلمۃ الکفر کفر ہے اور آیات کریمہ سے بھی یہ مضمون صراحتہ ثابت ہوتا ہے وہی ہذا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالا ایمان ولكن من شوح بالکفر صدر افعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ (۲) اس واسطے کہ آیت کریمہ میں صرف حالت اکراہ کا

(۱) اس لئے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے برائی کو دیکھا اس کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر اپنی زبان سے اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے قلب سے اور اس کے بعد رانی برابر بھی ایمان نہیں۔  
(۲) جس نے اللہ کا کفر ایمان کے بعد کیا، جزا اس کے کہ وہ مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو لیکن جس کا سینہ کفر کے لئے مشروح ہو جائے تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو عذاب عظیم ہوگا۔

استثنا کیا ہے اور ناسوائے اس کے اجراء کلمۃ الکفر علی سبیل الاختیار کفر میں داخل تھا ہی اور ظاہر ہے کہ اشخاص مذکورہ کا راگ وغیرہ میں کلمات کفر کے زبان سے نکالنا قبیل اکراہ سے نہیں بلکہ باختیار خود ہے تو ضرور کفر میں داخل ہوگا اور اعانت کفر اور تعلیم اس کی اسی قبیل سے ہے واللہ اعلم بالصواب الائم خلیل احمد غنی عنہ مدرس مدرسہ عربیہ سہانپور۔

صح الجواب قال الله تعالى في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (۱) واتقوا الله ان الله شديد العقاب والله اعلم حرره الراجی عفو ربه القوی ابو الحسنات محمد عبد الحی تجاوز الله عن ذنبه الجلی الخفی. (ابو الحسنات محمد عبد الحی)

### روافض کا کفر

(سوال) روافض یا خوارج کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں اور ان کے ساتھ عقد نکاح وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی حرام ہے یا غیر حرام اور عند التقویٰ کیسا ہے۔  
(جواب) رافضی کے کفر میں اختلاف ہے جو علماء کافر کہتے ہیں بعض نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے بعض نے مرد کا پس در صورت اہل کتاب ہونے کے عورت رافضیہ سے مرد سنی کا نکاح درست ہے اور عکس اس کے ناجائز اور بصورت ارتداد ہر طرح ناجائز ہوگا اور جو ان کو قاسم کہتے ہیں ان کے نزدیک ہر طرح درست ہے مگر ترک بہر حال اولیٰ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### علماء حق کی اہانت کرنا

(سوال) نواب مولوی قطب الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل عالمگیری سے کیا ہے ایک شخص نے کہا کہ قیاس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا حق نہیں کافر ہوا اس کا کیا مطلب ہے اور یہ قول صحیح ہے یا غیر صحیح۔ اور اس کے معنی کیا ہیں یہ عبارت کلمات ردۃ میں جس جگہ کہ کلمات ردۃ معلق بعلم و علماء ہیں اس جگہ یہ عبارت ہے عالمگیری میں۔

(جواب) علماء کی توہین و تحقیر کو چونکہ علماء نے کفر لکھا ہے جو بوجہ امر علم کے اور دین کے ہولہذا جب قیاس مجتہد کو حق نہ کہا تو اہانت اس امر کی اور دین و علم میں لہذا کفر ہوا فقط۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی اور تقویٰ پر آپس میں مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کیا کرو۔

## قرآن شریف کو نظم کرنا

(سوال) ایک اور عبارت نواب صاحب نے اسی رسالہ میں عالمگیری سے نقل کی ہے یعنی ایک شخص نے نظم کیا قرآن کو فارسی میں قتل کیا جاوے اس لئے کہ وہ کافر ہے یہ عبارت ان کلمات ردة میں ہے جو متعلق بہ قرآن شریف ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔

(جواب) علی ہذا قرآن کو نظم کرنا اور فارسی کرنا تغیر کتاب اللہ تعالیٰ کی اور نظم منزل کو بدلنا اہانت و بے تعظیسی قرآن کی ہوئی سو کفر ہو گیا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## زندوں کا مردوں سے مانگنا

(سوال) ماقول العلماء فی استعانة الاحياء بالموتی فی طلب الجاه ووسعة الرزق و الاولاد مثلا یقال لهم عند القبور ان تدعو الله تعالیٰ لنا فی دفع فقرنا و بسط رزقنا و كثرة اولادنا و شفاء مرضنا و فلا حنا فی الدارين لا نکم سلفنا مستجاب الدعوات عند الله فهل يجوز الاستعانة بالا موات بهذا الطريق المذكور ام لا فبینوا جوازها و علم جوازها من الكتاب و السنة و اقوال المجتهدين توجروا من الله رب العلمین: (۱)

(جواب) الحمد لله رب العلمین رب زدنی علما:۔ الاستعانة . بالا نبیاء و الاولیاء مطلوبہ بالآل انہا لم تشرع فی المواضع المذكورة و الله سبحانه و تعالیٰ اعلم امر برقمة المقصر عبد الله بن محمد میر غنی الحنفی مفتی مکة المکرمہ کان الله تعالیٰ لهما حامدا مصليا مسلما . (۲)

(۱) یعنی کیا فرماتے ہیں علماء مدد مانگتے ہیں زندوں کے ساتھ مردوں کے طلب کرنے جاہ..... اور فراتی رزق اور اولاد میں مثلاً کہا جاوے ان کے لئے قبروں کے پاس یہ کہ دعا کرو تم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے..... دفع کرنے فقر..... اور فراتی رزق..... اور کثرت اولاد..... اور شفا پانے بیماروں..... اور کامیاب ہونے کے..... دارین میں یعنی دنیا و آخرت میں اس لئے کہ تم پیشرو ہمارے ہو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی پس آیا جائز ہے مدد مانگنی اور فریادری چاہنی ساتھ مردوں کے اس طریق سے یا نہیں پس بیان کرد جائز ہونا اس کا اور ناجائز ہونا اس کا کتاب دست سے اقوال مجتہدین سے ثواب دینے جاؤ گے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔

(۲) یعنی سب تعریف ہے اللہ کے لئے کہ جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اسے میرے زیادہ دے مجھ کو علم۔ فریاد ری ساتھ انبیاء اور اولیاء کے یعنی ان کی زندگی کی حالت میں طلب کی گئی ہے مگر تحقیق وہ ثابت نہیں شرع سے جگہ ذکر کی گئی ہیں یعنی قبر پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے حکم کیا اس کے لکھنے کا تقصیر دار عبد اللہ محمدی کے..... لقب اس کا میرے ہے مذہب میں حنفی مکہ مکرمہ کا ہوا اللہ کا سازان دونوں کا دعا کرتا ہوں حمد کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی اور درود بھیجتا ہوا اس کے رسول پر۔

عبد اللہ میر غنی      الجواب صحیح      الحق احق بالاتباع      الجواب صحیح      زندہ محمود عفی عنہ  
مفتی مکہ مکرمہ      محمد ہدایت علی      احقر الزمان محمود حسن      الہی عاقبت محمود گردان

مقیم مراد آباد      مدرس اول مدرسہ دیوبند

الجواب صحیح      الجواب صحیح      احمد محی الدین  
خادم الموحدین محمد احتشام الدین      محمد صدیق عفی عنہ      قاضی حال ریاست بھوپال

مراد آبادی - ۱۳۹۲      مدرس مدرسہ شائہی مراد آباد

احمد اسامہ ۱۳۹۷      رسول اللہ خادم شریعت مفتی محمد لطیف اللہ ہجری ۱۳۹۸

آیۃ کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تخصیص استعانت نسبت جناب باری تعالیٰ عزاسمہ کے خود مذکور ہے اسی کے مطابق علمائے محققین نے تحقیق فرمائی ہے وہی لائق عمل کے ہے العبد المذنب الا واه هذا احق بالقبول والیق بالا فتاء والعلم الحق عند اللہ سبحانہ وتعالیٰ واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم (۱) مولانا محمد احسن صاحب امر وہی الجواب صحیح محمد حسن عفی عنہ مدرسہ گلاوٹی

لیکن اتنی بات اور لکھنی مناسب ہے کہ جواب مذکور اپنے اجمال پر صحیح ہے اور تفصیل یہ ہے کہ استمداد تین قسم کا ہے ایک یہ کہ اہل قبور سے مدد چاہے اسی کو سب فقہانے ناجائز لکھا ہے دوسرے یہ کہ کہے فلاں خدائے تعالیٰ سے دعا کر کہ فلاں کام میرا پورا ہو جائے یعنی اوپر مسئلہ سماع کے ہے جو سماع موتی کے قائل ہیں ان کے نزدیک درست دوسروں کے نزدیک ناجائز اسی کو شیخ نے لکھا ہے کہ وان الاستمداد باهل القبور الی قوله فقد انکرہ کثیر من الفقہاء الخ (۲) انبیاء کو اسی وجہ سے مستثنیٰ کیا کہ ان کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں تیسرے یہ کہ دعا مانگے الہی بحرمتہ فلاں میرا کام پورا کر دے یہ بالاتفاق جائز ہے اور تمام شجروں میں موجود ہے اسی وجہ سے اقوال علماء میں اختلاف ہے کہ استمداد لفظ مشترک ہے کسی نے کسی کو لیا اور کسی نے کسی کو۔ قول ہر ایک کا اپنے معنی و مراد پر صحیح ہے۔ فقط

محمد حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ گلاوٹی مدرس اول محمد حسن ۱۳۰۵ مراد آبادی ابن مولوی عنایت

اللہ عبد الرحمن مرحوم ۱۳۱۲

(۱) یہ بات ماننے کے قابل ہے اور توہنی کے لائق ہے اور علم صحیح بخاندہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور اس کا علم تام ہے۔

(۲) اور قبور والوں سے مدد مانگنا (یہاں سے) تو اکثر فقہاء نے اس کا انکار کیا ہے۔ (نک)

الجواب بهذا التفصیل صحیح رشید احمد گنگوہی عفی عنہ عبدالرحمن کان اللہ ولوالدہ یہ مدرس مدرسہ امر وہ۔

## اہل قبور سے مدد مانگنا

(استفتاء) حضرت مولانا محمد الحق صاحب محدث و فقیہ دہلوی علیہ رحمۃ الغفر ان درباب عدم

جواز استغاثت اہل قبور از کتاب فتاویٰ اسمی بہ مسائل اربعین تصنیف مولانا موصوف مسئلہ نمبر (۱۴)

(سوال) حاجت خواستن از اہل قبور بطریق دعا جائز است یا نہ۔ (۲)

(جواب) استغاثت واستمداد اہل قبور بہر سبب کہ باشد جائز نیست چنانچہ شیخ عبدالحق در شرح

مشکوٰۃ شریف کہ بزبان عربی نوشتہ می آرد (۳) اما لا ستملاد باہل القبور فی غیر النبی و

الانبیاء علیہم السلام فقد انکر کثیر من الفقہاء وقالوا لیس الزیارة الا للدعاء للموتی و

الاستغفار لہم وایصال النفع الیہم بالدعاء وتلاوة القرآن انتہی (۴) ازین عبارت شیخ علیہ

الرحمۃ والغفر ان چنان مستفاد گردیدہ کہ قبور انبیاء علیہم السلام ازین حکم ممانعت استغاثت واستمداد

از اہل قبور مستثنی اند بلحاظ آنکہ ایشان را در برزخ حیات ابدی ثابت شدہ کہ دیگران را سوائے

شہداء فی سبیل اللہ ثابت نیست و حال آنکہ حیات انجا مائل حیات دنیا نیست بلکہ احکام حیات

دنیا دیگرست و احکام حیات آنجا دیگر بنا بر آں ایں استثناء درست نمی آید و حق آنست کہ انکار فقہاء

عامست از آنکہ استمداد از قبور انبیاء کنند یا از قبور غیر ایشان ہمہ جائز نیست چنانچہ از عبارت دیگر

فقہاء کہ دریں جواب ایراد کردہ میشوود واضح خواهد گردید و مجملہ آن صاحب مجمع البحار آورده۔ (۵)

(۱) استفتاء حضرت محمد الحق صاحب محدث و فقیہ دہلوی علیہ الرحمۃ والغفر ان اہل قبور سے استغاثت جائز نہ ہونے کے بارہ

میں کتاب فتاویٰ اسمی بہ اربعین سے جو مولانا موصوف کی تصنیف ہے۔ مسئلہ نمبر ۱۴۔

(۲) سوال اہل قبور سے بطریق دعا کے جا: ب مانگنا جائز ہے یا نہیں۔

(۳) جواب اہل قبور سے استغاثت و مدد طلب کرنا جس طرح بھی ہو جائز نہیں جیسا کہ شیخ عبدالحق نے مشکوٰۃ شریف کی

شرح میں جو زبان عربی میں ہے اس طرح لکھا ہے۔

(۴) شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے انبیاء کے اور کسی اہل قبور سے استغاثت چاہنے کو اکثر فقہاء انکار اور منع

فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنی اس واسطے مقرر ہوئی ہے کہ وہاں جا کر..... اور اہل قبور کے واسطے اللہ

تعالیٰ سے دعا اور استغفار کریں اور ان کو نفع پہنچائیں دعا اور قرآن شریف پڑھ کر اتنی ۱۴۔

(۵) شیخ علیہ الرحمۃ والغفر ان کی عبارت سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی خبریں اس حکم ممانعت امداد و

اعانت اہل قبور سے مستثنیٰ ہیں اس لئے کہ ان کے لئے برزخ میں حیات ابدی ثابت ہوگئی ہے کہ دوسروں کو سوائے

شہداء فی سبیل اللہ کے ثابت نہیں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس جگہ کی زندگی دنیوی زندگی کے مماثل نہیں ہے بلکہ دنیا کی

زندگی کے احکام اور ہیں اور اس جگہ کی زندگی کے احکام اور ہیں اس لئے یہ استثناء درست نہیں اور صحیح تو یہ ہے کہ فقہاء کا

انکار عام ہے اس بات سے کہ انبیاء کی قبروں سے مدد طلب کریں یا ان کے غیر کی قبروں سے سب جائز نہیں جیسا کہ فقہاء

کی دوسری کتابوں سے جو اس جواب میں وارد کئے جاتے ہیں ظاہر ہوگا اور مجملہ ان کے صاحب مجمع البحار نے بیان کیا ہے۔

من قصد لزيارة قبور الانبياء والصلحاء ان يصلى عند قبورهم ويدعو عندها  
ويستلهم الحوائج فهذا لا يجوز عند احد من علماء المسلمين فان العبادة  
وطلب الحوائج والا ستعانة حق الله وحده انتهى وقال البغوى فى المعالم يقال  
الاستعانة نوع تعبدو العبادة الطاعة مع التذلل والخضوع وسمى العبد عبدالذلته  
وانقياده يقال طريق معبد اى مذلل انتهى (۱) وفى الحديث عن ابن عباس قال  
كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال يا غلام احفظ الله  
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن  
بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفوك بشيئ لم ينفوك الا بشيئ  
قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيئ لم يضروك الا بشيئ قد  
كتبه الله عليك رفعت الا قلام وجفت الصحف رواه احمد والترمذى كذا فى  
المشكوة . (۲) از ہدیۃ الہک مؤلفہ مولانا نواب قطب الدین  
خاں صاحب مرحوم تلمیذ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب علیہ الرحمۃ والغفران۔

## انبیاء کے علم غیب کا قائل

(سوال) بعض لوگ انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے علم غیب ماسوائے اللہ اس آیت  
سے جو سورہ قتل اوتی میں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من ارتضیٰ من  
رسول . (۳) الایہ۔ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں اور دلیل اس آیت کو گردانتے ہیں

(۱) جو شخص زیارت کرنے قبور انبیاء و صلحاء کو اس نیت سے جاوے کہ وہاں جا کر ان کے پاس نماز پڑھوں گا اور دعا  
چاہوں گا اور اپنی حاجتیں مانگوں گا سو یہ تو کسی عالم اہل اسلام کے نزدیک جائز نہیں اس لئے کہ عبادت اور طلب حاجت  
اور استعانت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حق ہے اور امام بغوی نے معالم میں فرمایا ہے کہ استعانت ایک قسم کی عبادت  
ہے اور عبادت اطاعت سے ساتھ عجز و انکسار کے اور بندہ کا نام بندہ اس واسطے رکھا ہے کہ اس میں ذلت اور انقیاد ہے  
چنانچہ عرب بولا کرتے ہیں طریق معبد اى منزل اتھنی ۱۲۔

(۲) روایت سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تھا میں پیچھے رسول اللہ ﷺ کے ایک دن آپ نے فرمایا اے لڑکے  
یاد رکھو اللہ کو یاد رکھنے کا تو اللہ کو پائے گا تو اس کو اپنے رو برو اور جب کبھی مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد چاہنا اور جان رکھنا اس  
بات کو کہ بے شک اگر سب لوگ اکٹھے ہو جاویں اس بات پر کہ تجھ کو نفع پہنچائیں تو نفع نہ پہنچا سکیں گے تجھ کو کچھ مگر جتنا کہ  
لکھ دیا ہے اللہ نے تیرے واسطے اور اگر سب اکٹھے ہو جاویں اس بات پر کہ تجھ کو نقصان پہنچائیں تو نقصان نہ پہنچا سکیں  
گے تجھ کو مگر جتنا کہ لکھ دیا ہے اللہ نے تیرے واسطے اٹھائے گئے قلم اور سو کہ گئے کاغذ اتھنی ۱۲  
(۳) عالم غیب ہے کہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر اسی کو جس پر راضی ہو اور سولوں میں سے۔

مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں اور معتقد کافر ہوگا یا نہیں۔

(جواب) علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ و عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی کے پاس علم غیب کی کنجیاں ہیں کہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اس کے پس اثبات علم غیب غیر حق تعالیٰ کو شرک صحیح ہے مگر ہاں جو بات کہ حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف بتا دیوے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے اور پھر وہ مقبول کسی کو خبر دے تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے جیسا کہ علم جنت اور دوزخ اور رضا وغیرہا کا حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بتلادیا اور پھر انہوں نے امت کو خبر دی۔ چنانچہ اس آیت سورہ جن سے معلوم ہوا سو حاصل آیت کا یہ ہے جس غیب امر کی خبر حق تعالیٰ اپنے مقبول کو دیوے تو اس کی خبر اس کو ہو جاتی ہے نہ یہ کہ تمام مغیبات حق تعالیٰ کے نبی کو کشف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ معنی اس کے ہوویں کہ تمام علم غیب رسول کو معلوم ہو جاتا ہے تو دوسری آیت صاف اس کے خلاف کہہ رہی ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ماشاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر وما مسنی السوء (ترجمہ) کہہ دے کہ میں نہیں مالک اپنے نفس کے واسطے کسی نفع اور کسی ضرر کا مگر جو خدائے تعالیٰ چاہے اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور کسی برائی مجھ کو نہ لگتی۔ پس صاف روشن ہو گیا کہ مغیبات آپ کو معلوم نہیں اپنا نفع اور ضرر بھی آپ کے اختیار میں نہیں تو یہ عقیدہ البتہ خلاف نص قرآن کے شرک ہوا خود دوسری آیت میں موجود ہے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم (ترجمہ) میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جاوے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ پس جب صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول علیہ السلام کو ہرگز علم غیب نہیں مگر جس قدر اطلاع دی جاوے اور اس پر بہت آیات و احادیث شاہد ہیں تو خلاف اس کے عقیدہ کرنا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب غیب کو جانتے ہیں شرک قبیح جلی ہوگا معاذ اللہ حق تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسے عقیدہ فاسدہ سے بچائے دیوے آمین۔ پس ایسے عقیدہ والا شرک ہوا۔

## یا رسول اللہ پکارنا

(سوال) یا رسول اللہ دور سے یا نزدیک قبر شریف سے پکارنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا اگر یہ عقیدہ

کر کے کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے اور جو یہ عقیدہ نہیں تو کفر نہیں مگر کلمہ مشابہ بہ کفر ہے البتہ اگر اس کلمہ کو درود شریف کے ضمن میں کہے اور یہ عقیدہ کرے کہ ملائکہ اس درود شریف کو آپ کے پیش عرض کرتے ہیں تو درست ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ درود بندہ مؤمن کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اور ایک صنف ملائکہ اسی خدمت پر ہیں۔ فقط

## رسول اللہ کو صنم وغیرہ کہنا

(سوال) شاعر جو اپنے اشعار میں آنحضرت ﷺ کو صنم یا بت یا آشوب ترک فتنہ عرب باندھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔

(جواب) یہ الفاظ قبیحہ بولنے والا اگرچہ معنی ہتھیقہ بمعانی ظاہرہ خود مراد نہیں رکھتا بلکہ معنی مجازی مقصود لیتا ہے تاہم ایہام گستاخی و اہانت و اذیت ذات پاک حق تعالیٰ شانہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں یہ ہی سبب ہے کہ حق تعالیٰ نے لفظ راعنا بولنے سے صحابہ کو منع فرمایا نظرنا کا لفظ عرض کرنا ارشاد کیا حالانکہ مقصود صحابہ رضی اللہ عنہم جمعین ہرگز وہ معنی کہ جو یہود مراد لیتے تھے نہ تھی مگر ذریعہ شوخی یہود کا اور موہم اذیت و گستاخی جناب رسالت کا تھا لہذا حکم ہوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا الخ۔ (۱) اور علیٰ ہذا حضرات صحابہ کا پکار کر بولنا مجلس شریف آنحضرت ﷺ میں ہرگز بوجہ اذیت و گستاخی محاذ اللہ نہ تھا بلکہ حسب عادت و طبع تھا۔ مگر چونکہ اذیت و بے اعتنائی شان والا کا اس میں ایہام تھا یہ حکم ہوا یا ایہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ (۲) کیا صاف حکم ہے کہ اگرچہ تمہارا قصد گستاخی نہیں مگر اس فعل سے جبط اعمال تمہارے ہو جاویں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی اور ایسا ہی حدیث میں ہے تکنی بکنیہ ابی القاسم (۳) آپ کی حیات شریف میں منع ہو گیا تھا بوجہ اذیت ذات سرور عالم کے کہ کوئی کسی کو اگر پکارے گا تو آپ یہ سمجھ کر کہ مجھ کو ارادہ کرتا ہے التفات فرمائیں گے حالانکہ

(۱) راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو (نوٹ) راعنا کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ہماری طرف توجہ فرماؤ دوسرے اے ہمارے چرواہے چونکہ منافقین مدینہ اس طرح کا ذوق معنی لفظ کہہ کر مراد چرواہا لیتے تھے اس لئے اس لفظ کو منع فرما کر انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا جس کے ایک ہی معنی ہیں ہماری طرف دیکھئے۔

(۲) اے ایمان والو! اپنی آواز کو نبی کی گونج بلند مت کرو اور نہ آپ کے سامنے ایسے زور سے کہو جیسے تم آپس میں زور سے باتیں کرتے ہو یا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

(۳) ابی القاسم کنیت رکھنا۔



نادی ہرگز اذیت رسول اللہ ﷺ نہیں کرتا تھا اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ اشعث بن قیس کندی جب آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ہم میں سے نہیں ہیں اور یہ عرض والغیب عند اللہ تعالیٰ بایں وجہ تھی۔ کہ سب عرب از قریش تا کندہ بنو اسلمعیل ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمای ماؤں کو تہمت زنا مت لگا اور ہمارے نسب کی نفی ہمارے باپوں سے مت کر، ہم اولاد نضر ہیں دیکھو اس لفظ میں فقط ایہام بعید کو کس قدر آپ نے نفی کر کے نہیں فرمایا اور کلام کا ادب تلقین کیا وعلیٰ هذا خبثت نفسی (۱) کو منع فرمایا اور لغت نفسی (۲) کی اجازت دی کہ وہ بظاہر سخت لفظ ہے گو معنی ایک ہیں الحاصل ان الفاظ میں گستاخی اور اذیت ظاہرہ ہے پس ان الفاظ کا بکنا کفر ہوگا۔ ان الذین يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة واعدلهم عذاباً مهيناً قال في الشفاء الوجه الثاني او هو ان يكون القاتل لما قال في جهة صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والا زدرء لا معتقد له ولكنه تكلم في جهة صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه او سبه او تكذبه او اضافة مالا يجوز اليه او نفى ما يجب له مما نعو في حقه عليه الصلوة والسلام نقيصة الى ان قال او ياتي بسفه من القول او قبيح من الكلام ونوع من السب في جهة وان ظهر بدليل حاله انه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه اما لجهالة حملته على ما قاله اما لضجر او سكر او قلة مراقبة وضبط لسانه او عجزاً وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الوجه الا ول القتل دون تعلم انتهي ملخصاً (۳) پس کلمات کفر کے لکھنے والے کو منع کرنا شدید چاہئے اور مقدور ہو اگر باز نہ آئے تو قتل کرنا چاہئے کہ موذی و گستاخی

(۱) میر انس خبیث ہو گیا۔

(۲) میر اول پتھر بن گیا۔

(۳) بے شک کہ جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت فرماتا ہے اور ان کے لئے ایہانت امیر عذاب تیار رکھا ہے۔ شفا میں کہا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ قاتل نے جب حضور اکرم ﷺ کے متعلق فرمایا اور اس کا ارادہ گالی اور نقص نکالنے کا نہ ہو اور نہ اس کا مقصد ہو لیکن اس نے نبی کریم ﷺ کے متعلق کلمہ کفر کہا لعنت یا گالی یا آپکو جھٹلانے یا کسی ایسی چیز کی طرف آپ کو نسبت کرنے سے جو آپ پر جائز نہ ہو یا اس چیز کی نفی کر کے جو اس کے لئے واجب ہو جس سے نبی ﷺ کی شقیص ہو یہاں تک کہ کہا کہ یا کوئی سفاہت کا قول یا کوئی بیج کلام کرے اور آپ کے بارے میں ایک قسم کی گالی دے اور اگر اس کے حالت دلیل سے ظاہر ہو کہ اس نے آپ کی برائی کا قصد نہیں کیا اور نگالی کا قصد کیا تو جہالت نے اس کو اسایا اس بات پر جو اس نے کہا خواہ تک دلی سے یا نش میں یا آداب کا لحاظ کم رکھنے سے اور زبان کو قابو رکھنے میں یا بغیر سوچے سمجھے کہنے سے یا کلام میں بے باکی سے تو اس وجہ کا حکم اول وجہ کا حکم ہے قتل بلا

شان جب کبریا تعالیٰ اور اس کے رسول النبی ﷺ کا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

### یا رسول اللہ کا وظیفہ

(سوال) درود وظیفہ ان اشعار ذیل کا اگر کوئی کرے تو کیا تم ہوگا جائز یا منع اور صغیرہ یا کبیرہ اور شرک کیا ہوگا۔ جیسے ورد یا رسول اللہ انظر حالنا . یا رسول اللہ اسدع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق . خذیدی سهل لنا اشکالنا . یا یہ شعر قصیدہ بردہ کا رد کرنا۔ یا اکرم الخلق مالی من الودیہ . سواک عند حلول الحادث العمم یا اور دئی شعر یا نثر میں ورد اسما مخلوق بطور وظیفہ کرنا۔

(جواب) ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر ورد کرنا مکروہ تنزیہی ہے کفر و فسق نہیں کیونکہ وجہ کفر کی غیر کو حاضر و متصرف جاننا ہے اور وجہ فسق کی احتمال فساد عقیدہ ہے۔ اور اپنے اور بہت شرک رکھنا ہے اور کراہت تنزیہی یہ کہ و فی الجملہ مشابہت استعانت غیر سے ہونے کی تھی لکنیت نہیں جیسا قسم غیر اللہ تعالیٰ کی کو شرک حدیث میں فرمایا اور خود آپ نے ہی بعض اوقات غیر کی قسم کھائی تو اس کو عمداً صغیرہ پر حمل کیا ہے علماء نے اور ہوا معاف و مباح پس اس کو بھی ایسا ہی سمجھنا چاہئے یہ وہ جواب ہے جو بندہ نے شینا اللہ کے جواب میں لکھا تھا۔ اور آپ کو شبہ ہوا تھا۔ فقط والسلام۔ ان صاحب کو فرمادو کہ ہر دو اسم کو پڑھے جاویں بندہ بھی دعا کرتا ہے اور سورۃ فاتحہ کو درمیان سنت و فرض فجر کے اکتالیس بار پڑھ لیا کریں حق تعالیٰ رحم فرماوے آمین فقط والسلام۔

### علم غیب کا قائل ہونا

(سوال) حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا قائل ہو وہ کافر ہے حضرت جی آج کل تو بہت آدمی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں مگر رسول اللہ ﷺ کا میلاد میں حاضر رہنا حضرت علی کا ہر جگہ موجود ہونا دور کی آواز کا سننا مثل مولوی احمد رضا خان بریلوی کہ جنہوں نے رسالہ علم غیب لکھا ہے کہ نمازی اور عالم بھی ہیں کیا ایسے شخص کافر ہیں ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنی اور محبت دوستی رکھنی کیسی ہے۔

(جواب) جو شخص اللہ جل شانہ کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے وہ بے شک کافر ہے اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت سب حرام ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سجدہ قبور وغیرہ

(سوال) زید ایک عالم ہے اور اکثر احکام شرعیہ کو بجالاتا ہے اور کثر امور مستحب تک بھی ادا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرتا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا للہ (۱) کی تسبیح بھی پڑھتا ہے یا سجدہ قبور یا زندہ پیروں کو کرتا ہے یا مرغی بکری پیروں کی تعظیم کے واسطے ذبح کرتا ہے یا قبروں کا طواف کرتا ہے یا تعزیہ بناتا ہے اور اس پر عرضیاں چڑھاتا ہے یا وقت حاجت کے غیروں کی نذر مانتا ہے اور مدد چاہتا ہے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ میں ان افعال کو اچھا اور موجب تقرب خدائے تعالیٰ کا اور باعث سعادت دارین کا جانتا ہوں اور حضرت شیخ کو حاضر و ناظر جانتا ہوں اور متصرف فی الامور اور مدد کرنے والا اور حاجت روا کرنے والا جانتا ہوں اور ہر وقت یہ خیال کرتا ہوں کہ جس وقت ان کو پکاروں گا وہ سن لیں گے اور میری حاجت روائی کریں گے بلکہ جو کوئی ان کو پکارتا ہے اس کی سنتے ہیں اور اس کی حاجت روائی کر سکتے ہیں اور یہ بھی اعتقاد کرتا ہوں کہ یہ تصرف اور علم ان کا خدائے تعالیٰ کا دیا ہوا ہے آیا یہ شخص عند اللہ مومن ہے یا کافر اور اس کی کبھی رہائی ہو جاوے گی یا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور کبھی نجات نہ پاوے گا اور دنیا میں ایسے شخص کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا سا کرنا چاہئے یا کافروں کا سا (یعنی نماز جنازہ اور دعا وغیرہ) اور بعضے ایسے شخص بھی ہیں کہ افعال مذکورہ تو کرتے ہیں مگر اعتقاد کو ظاہر نہیں کرتے یا تاویل کرتے ہیں اب التماس یہ ہے کہ جواب اس کا بطور قاعدہ کلیہ کے ایسا ارشاد فرمائیں کہ سارے اقسام کا حال معلوم ہو جاوے۔

(جواب) فریق اول اگر کوئی تاویل قابل التفات نہیں رکھتے تو کافر ہیں اور دوسرے فریق کے حرکات کی تاویل ممکن ہے لہذا فاسق ہیں نہ کافر اور کتاب تقویۃ الایمان میں اس کو مفصل لکھا ہے اس کا مطالعہ کر لو اس سے زیادہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## تعزیہ پرستی

(سوال) تعزیوں کے ساتھ بہ نیت تماشہ غیر اعتقاد سے جانا کیسا ہے اور اعتقاد سے جانا کیسا ہے۔ زید کہتا ہے کہ زیارۃ کرنا تعزیوں کا اچھا ہے جیسے خانہ کعبہ کا نقشہ لاتے ہیں اور اس کی

(۱) یا شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے لئے کچھ بھیجئے۔

زیارت کرتے ہیں ایسے ہی یہ بھی ایک مکان کا نقشہ ہے اس کی زیارت میں کچھ نقصان نہیں۔ اس کا جواب کس طرح ہے۔

(جواب) تعزیر بت ہے اور کعبہ کا نقشہ مثل نقشہ مکان کے ہے اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا اگر اس کی پرستش کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔

## بزرگوں کے خلاف شرع کام

(سوال) بعض حضرات نقش بند یہ کے رسائل سلوک میں جو صدی سیزدہم (۱) میں گذرے ہیں یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ استمد اور استعانت یعنی مدد چاہنا پیروں سے جو غائب ہیں یا انتقال کر گئے ہیں کرنا چاہئے چنانچہ مولانا رؤف احمد صاحب اپنے دارالمعارف کے صفحہ ۱۲ میں لکھتے ہیں اور حضرت شاہ غلام علی صاحب مجددی دہلوی کا قول نقل کرتے ہیں کہ طریقہ توجہ حضرات عالیہ نقش بند یہ کہ بمارسیدہ است و بیاران خدع میکنم بریں نیج است کہ اول فاتحہ بر ارواح طیبہ حضرت ﷺ و حضرات پیران کبار خصوصاً حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند و حضرت امام مجدد الف ثانی و حضرت میرزا صاحب رضی اللہ عنہم خواندہ دعا و تضرع از جناب الہی نمودہ و استمد اد پیران خواستہ متوجہ بطرف قلب طالب می شوم (۲) اور اسی قسم کا مضمون اسی کتاب کے مواضع عدیدہ میں پایا جاتا ہے پس اس استمد اور استعانت سے کیا مراد ہے اور یہ جائز ہے یا ناجائز اور بعض یہاں کے خوش عقیدہ یہ فرماتے ہیں کہ استعانت اہل باطن اور اصحاب توجہ کو جائز ہے کیونکہ ان کی ملاقات ارواح طیبہ پیران سے ہو جاتی ہے۔

(جواب) السلام علیکم مراد استمد اد سے بطفیل و برکت بزرگان مراد انہ حق تعالیٰ خواستن (۳) ہے نہ بزرگوں سے مراد مانگنا چنانچہ خود تصریح کرتے ہیں اور یا شیخ عبدالقادر (۴) کی جگہ یا رحم

(۱) تیرہویں صدی۔  
(۲) حضرات نقش بند یہ عالیہ کے توجہ کا طریقہ جو ہم تک پہنچا ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس طرح ہے کہ اول فاتحہ ارواح طیبہ حضور اور بڑے بڑے پیروں خصوصاً حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند اور حضرت امام مجدد الف ثانی اور حضرت میرزا صاحب علیہ الرحمۃ کی پڑھ کر دعا و تضرع جناب الہی سے کر کے پیروں سے مدد طلب کر کے طالب کے دل کی طرف توجہ کرتا ہوں۔

(۳) بزرگوں کے طفیل و برکت سے حق تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔  
(۴) چنانچہ دارالمعارف یعنی ملفوظات حضرت شاہ غلام علی صاحب علیہ الرحمۃ میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک روز کہہ رہا تھا یا شیخ عبدالقادر جیلانی حیفا اللہ تو غیب سے آواز میرے کان میں بلا کسی شک و شبہ کے یہ پڑی کہ اس طرح کہہ رحم الراحمین حیفا اللہ (اے رحم الراحمین کچھ اللہ کے واسطے)

الراحمین کہنا صریح لکھتے ہیں بہر حال یہ تاویل یا مثل اس کے کلام بزرگوں میں ضروری ہے اور جو کسی کی فہم میں معنی مراد نہ آویں تو سکوت کرنا چاہئے حجۃ ان کے کلام سے نہیں ہے حجۃ کلام اللہ وسنت مجتہدین کے اقوال سے ہے فقط۔

## یا شیخ عبدالقادر جیلانی کا وظیفہ

(سوال) پڑھنا یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا بطور ورد یا برائے قضائے حاجات یا اس میں اثر جان کر یا شیخ کو متصرف عالم تصور کر کے ان سے اپنی حاجت طلب کرے تو یہ دونوں صورتیں کفر و شرک کی ہیں یا نہیں کیونکہ منادی مستقل الاستعانت و مدد شیخ مذکور ٹھہریں گے اور حق سبحانہ و تعالیٰ واسطہ پڑھے گا اور اس کو اکثر علما کفر و شرک فرماتے ہیں۔ چنانچہ مولانا عائشہ صاحبہ مرحومہ مجموعہ فتاویٰ میں فرماتے ہیں از میں چنینی وظیفہ احتراز لازم و واجب اولاً از میں جہت ایں وظیفہ متضمن شیعہ اللہ ہست و بعض فقہاء از ہجو لفظ کفر کردہ اند چنانچہ در رد مختاری نو رسد کند اقوال شیعہ اللہ قبل یکفر (۱) عبارت مذکورہ میں لفظ عام ہے عقیدہ حضور کی قید نہیں لہذا ان دونوں صورتوں میں کفر و شرک ہے یا ایک صورت میں اور دوسری صورت میں کسی قسم کا گناہ ہے اور لفظ یا حاضر کے واسطے بولا جاتا ہے یا حاضر و غیب دونوں کے واسطے۔

(جواب) اس کا ورد کرنا بندہ جائز نہیں جانتا اگرچہ شرک نہیں لیکن مشابہ شرک ہے اور بعض فعل مشابہ بشرک ہوتے ہیں اور صغیرہ ہوتے ہیں کہ شرک کلی مشکلک ہے کہ اس کے افرات و قلت و کثرت معصیت میں متفاوت ہیں مثلاً قسم بغیر اللہ تعالیٰ کو حدیث میں شرک فرمایا ہے معہذا وہ گناہ صغیرہ ہے پس ورد اس کا مشابہ بشرک ہے کہ غیر اللہ تعالیٰ سے طلب حاجت ہے مگر جو محض ان کلمات میں اثر جان کر پڑھتا ہے وہ کافر و شرک نہ ہوگا اگرچہ معصیت سے خالی بھی نہ ہوگا اور جو شیخ قدس سرہ کو متصرف بالذات اور عالم غیب بذات خود جان کر پڑھے گا وہ شرک ہے اور اس عقیدہ سے پڑھنا کہ شیخ کو حق تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے اور باذنہ تعالیٰ شیخ حاجت براری کر دیتے ہیں یہ بھی مشرک نہ ہوگا باقی مومن کی نسبت بدن ہونا بھی معصیت ہے (اور جلدی سے کسی کو کافر مشرک بتا دینا بھی غیر مناسب ہے اور ایسے موہوم الفاظ کا پڑھنا بھی بے جا و معصیت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) ایسے وظیفہ سے پرہیز لازم و واجب ہے اولاً کہ یہ وظیفہ شیعہ اللہ کو شامل ہے بعض فقہاء ایسے لفظ کو کفر کہتے ہیں جیسا کہ رد مختاری میں لکھا ہے کہ اسی طرح شیعہ اللہ کا کہنا کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے کافر ہو جاتا ہے۔

## وظیفہ یا خواجہ سلیمان

(سوال) ورد کرنا یا شیخ عبدالقادر و خواجہ سلیمان وغیرہ جائز ہے یا شرک۔

(جواب) ورد کرنا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیاء اللہ وغیرہ حرام ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ترجمہ ارشاد الطالبین میں لکھا ہے کہ آنکہ جہاں میگویند کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیاء اللہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی شیاء اللہ جائز نیست و اگر روح حضرت شیخ را متصرف الامور اعتقاد می کند کفرے دیگرست فی البحر الرائق۔ (۱) من ظن ان السمیت يتصرف فی الامور دون الله واعتقد بذلك يكفر انتهى (۲)

## طواف قبر

(سوال) جو افعال قبیحہ مثل نذر غیر اللہ یعنی گیارہویں و توشہ وغیرہ و ندائے غیر اللہ یعنی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیاء اللہ وغیرہ و سجدہ و طواف قبر و استعانت غیر اللہ و تسمیہ غیر اللہ یعنی عبدالنبی و حلف غیر اللہ و شگون بد وغیرہ اگر فاعل کا عقیدہ شرک و کفر کا ہے کہ بالاستقلال حاضر و ناظر عالم الغیب جان کر کرتا ہے تو مشرک اور اگر عقیدہ شرکیہ نہیں تو اس کے حق میں یہ افعال حرام و گناہ کبیرہ کے ہوں گے یا نہیں چنانچہ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب علیہ الرحمۃ ما تہ مسائل میں در تحت امور ذیل فرماتے ہیں بعض افعال اگر شرک حقیقی کہ کفرست نیست لیکن مشابہ افعال مشرکان و بت پرستان اندازان افعال ہم اجتناب و احتراز لازم چنانچہ مرد ماں و بروئے علماء و عظماء تقبیل زمین می کنندہ این افعال و آن کس کے راضی بایں فعل باشد ہر دو گنہ گاری شوند کہ این فعل حرام و گناہ است الخ۔ (۳)

(جواب) ان سب امور میں جیسا کہ ما تہ المسائل میں لکھا ہے وہی بندہ کی طرف سے جواب ہے۔ اس میں بندہ موافقت رکھتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) جاہل جو یہ کہتے ہیں کہ یا عبدالقادر جیلانی شیاء اللہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی جائز نہیں ہے اور اگر حضرت شیخ کی رو کو امور میں متصرف اعتقاد رکھے تو یہ دوسرا کفر ہے۔

(۲) بحر الرائق میں ہے کہ جس نے گمان کیا یہ کہ تجھ میں مردے اختیار رکھتے ہیں کاموں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس پر اعتقاد کیا تو ہو جاوے گا۔ کافر (انتہی)

(۳) اور بعض افعال اگرچہ شرک حقیقی کہ کفر ہے نہیں ہیں لیکن مشرکوں اور بت پرستوں کے افعال کے مشابہ ہیں ان افعال سے بھی اجتناب و پرہیز لازم ہے جیسا کہ لوگ علماء اور بڑوں کے سامنے زمین کی تقبیل کرتے ہیں ان افعال کا کرنے والا اور وہ شخص جو اس فعل سے راضی ہوگا ہر دو گنہ گار ہوتے ہیں کہ یہ فعل حرام اور گناہ ہے۔

قبر پر جانا اور اس کو بوسہ دینا

(سوال) قبر پر جانا اور اس کو بوسہ دینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) قبر کو بوسہ دینا حرام ہے کہ یہ عادت اہل کتاب کی ہے یعنی یہود و نصاریٰ کی۔

نبی بخش و غیرہ نام رکھنا

(سوال) نبی بخش۔ پیر بخش۔ سالار بخش۔ مدار بخش ایسے ناموں کا رکھنا کیسا ہے۔

(جواب) ایسے نام موہم شرک ہے منع ہیں ان کو بدلنا چاہیے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتب فقہ و حدیث کا انکار کرنا

(سوال) زید کہتا ہے کہ کتب فقہ یا دوسری کتب احادیث جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں فرقہ معتزلہ اور

خارجیہ اور گرہان فرقوں کی ہیں اور ان کے بنانے والے اہل سنت و جماعت سے نہیں اور عمرو

کہتا ہے کہ یہ کتب چاروں مذہب اہل سنت و جماعت کی ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث میں

ہیں اور ان کے بنانے والے اہل سنت و جماعت سے ہیں انہیں پر دار و مدار ہے ان کو برا جاننے

والا اور گالیاں دینے والا بدعتی اور چاروں مذہب سے خارج اور فاسق ہے آیا زید حق پر ہے یا عمرو۔

(جواب) صحاح کتب میں احادیث رسول اللہ ﷺ ہیں اور ان کے جمع کرنے والے صحابہ اور

بعد کو علماء عالمین و مقبولین رہے اور باتفاق جمیع اہل اسلام مقبول اللہ تعالیٰ کے ہیں جو شخص ان

کتابوں کو برا کہتا ہے اور توہین کرتا ہے گویا وہ رسول اللہ ﷺ کو گالیاں دیتا ہے وہ شخص فاسق و مرتد

بلکہ کافر و ملعون حق تعالیٰ کا ہے جو مسائل فقہ کے ہیں وہ احادیث ہی سے مستنبط ہیں۔

ہندو یا انگریزوں کا لباس پہننا

(سوال) جیسے زنا ر ہندو کی اگر کوئی مسلمان پہنے تو کافر ہو جاتا ہے ایسے ہی انگریزوں کی صلیب

اور ٹوپی بھی حکم رکھتی ہے یا صلیب پہننا کفر ہے اور انگریزی ٹوپی حرام۔

(جواب) صلیب کا ڈالنا گلے میں کفر ہے کہ صلیب شعار نصرانیہ کا ہے قال علیہ السلام من

تشبه بقوم فهو منهم الحدیث (۱) پس دونوں چونکہ شعار کفر ہیں لہذا دونوں کفر ہیں اور ٹوپی

(۱) رسول اللہ ﷺ فرمایا ہے جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے تو وہ انہیں میں سے ہے۔ (حدیث)

نصرانیوں کے پہننا یا کوٹ یا پتلون شعار کفر کا نہیں ہے بلکہ لباس اس قوم کا ہے پس ان کا پہننا ہندوستان میں تو شبہ لباس میں ہے اور گناہ ہے اور جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کا بھی یہی لباس ہے وہاں گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں یہ لباس شعار نصاریٰ کا نہیں ہے بلکہ عام ہے مسلمانوں اور کفار میں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بیوہ کا نکاح ثانی عیب سمجھنا

(سوال) جو شخص نکاح ثانی کو باوجود علم اس امر کے کہ یہ قرآن شریف سے ثابت ہے اور حضرت کی سنت ہے عیب اور بے عزتی سمجھتا ہو اور اس کے کرنے والے کو بے عزت اور کمینہ کہتا ہو یا یوں کہتا ہو کہ ہم اس کو حق جانتے ہیں اور حضرت کی سنت سمجھتے ہیں مگر چونکہ ہماری قوم میں اس کا رواج نہیں اس واسطے ہم اس کو عار و ننگ جانتے ہیں اب ان دونوں صورتوں میں شرع شریف سے ایسے شخص کا کیا حکم ہے اس شخص کے ساتھ معاملہ رشتہ ناتے کا کرنا یا شادی غمی میں اس کی شامل ہونا یا اس کے جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے۔

(جواب) حکم اللہ تعالیٰ یا کسی طریقہ سنت رسول اللہ ﷺ کو عیب یا موجب بے عزتی کا جانے یا اس کے کرنے والے کو بے عزت کہے لا ریب وہ ملعون کافر ہے اور مخالف حق تعالیٰ کا اور جہنمی ہے اور مرتد ہے اور باوجود اعتراف اس امر کے کہ یہ حکم خدا تعالیٰ کا اور سنت ہے اور پھر بھی اس کو اپنے رواج کے سبب ننگ و عار کا باعث جانتا ہے یہ زیادہ تر موجب اس کے کفر اور مخالفت حق تعالیٰ کا ہے کہ وہ شقی ملعون اپنے رواج کفر کو حق تعالیٰ کے حکم سے اچھا جانتا ہے پس ایسے شخص سے ترک ملاقات و معاملات کرنا عین دین ہے اور اس سے رشتہ و قرابت رکھنا ہرگز جائز نہیں بلکہ اس سے علیحدہ ہو جاوے اور اس کو مغضوب ترین خلق اللہ تعالیٰ کا جان کر اس کا دشمن ہو جاوے اور اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھے کہ وہ کافر ہے کذافی کتب الحدیث والفقہ والعقائد واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

جواب صحیح ہے بموجب حدیث ترمذی کے عن صہیب رضی اللہ عنہ قال قال

صلی اللہ علیہ وسلم ما امن بالقران من استحل محارمہ مکر و مستحب سنت نبوی ﷺ کا خصوصاً ایسی عبادت کا کافر ہے اور بمقتضائے حسن ظن تو بہ و وسعت رحمت الہی کے معاملہ جائز ہو تو بعید نہیں ہے والا مثل معاملات روافض و خوارج و ہنود کے ضرورتاً جائز ہوگا والا لا واللہ اعلم



بالصواب کتبہ العبد المذنب عبد الرحمن (۱) پانی پتی ۲۵ شعبان یوم شنبہ۔

لاریب فیہ بلکہ جو اس مسئلہ کو چھپا دے یا اظہار سے سکوت برتے وہ بھی بموجب حدیث من سکت الخ (۲) گونگا شیطان ہے اور جو ایسے کام کے مخالف کا اشارہ بھی معین ہوگا دوزخ میں اوندھے منہ ڈالا جاوے گا کافی الحدیث فقط۔ العبد محمد مسعود نقش بندی دہلوی۔

حررہ الفقیر العاصی محمد جمال الدین دہلوی عفی عنہ۔ جواب درست ہے قادر علی عفی عنہ مقیم دہلی۔  
الجواب صحیح و معتبر حق فقیر محمد حسن الجواب صحیح محمد اسماعیل مدرس مدرسہ فتحپوری دہلی۔  
صحیح الجواب محمد ابراہیم دہلوی۔ الجواب صحیح محمد محمدی الدین عفی عنہ اعظم پوری۔ الجواب صحیح  
نمقہ محمد یسین الرحیم آبادی۔ الجواب صحیح خلیل اللہ خادم العلماء۔

سید محمد عبدالسلام سید محمد ابوالحسن محمد حسن سید محمد نذیر حسین  
دہلوی دہلوی دہلوی دہلوی

الجواب صحیح ثابت علی عفی عنہ۔ الحبیب مصیب بشیر احمد عفا اللہ عنہ۔ الجواب صحیح میاں محمد بقلم  
خود الجواب حق صریح الحق ان بیچ عبداللہ شاہ جلال آبادی کرنا لی۔ محمد ابراہیم سنبھلی عفی عنہ۔  
جواب صحیح ہے فقیر مغیث الدین حنفی کرنا لی بقلم۔ الجواب صحیح ابوالحسن عفی عنہ سہارنپوری

الجواب صحیح صد شکر کہ الجواب صحیح الحبیب مصیب  
پیر محمد سہانپوری من پیر محمد دارم خلیل احمد عفی عنہ محمد حسن دیوبندی  
الجواب صحیح اصاب من اجاب قمر الدین عفی عنہ

محمد منفعت علی دیوبندی کرامت علی سہانپوری قمر الدین سہانپوری امام

جامع مسجد سہانپور

محمد ابراہیم عفی عنہ جو شخص کہ سنت رسول اللہ ﷺ کو مثل نکاح وغیرہ کے عیب ذلت یا باپ  
داد کی بے عزتی سمجھے بے شک وہ کافر دوزخی واجب القتل ہے! جب امداد کے۔

عبداللہ خان عفی عنہ الجواب صحیح احمد عفی عنہ بن مولانا محمد ناسم صاحب

مرحوم مدرس عربی مدرسہ عالیہ دیوبند احمد دیوبند

محمد عثمان عفی عنہ ہذا الجواب حق لاشک فیہ الحبیب المصیب

(۱) مصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے وہ قرآن

پر ایمان نہیں لایا۔

(۲) جو خاموش رہا

محمد عبدالحق عفی عنہ	سراج احمد عفی عنہ	
	الجواب صحیح	ان ہذا ہوا الحق
رحیم بخش	جلال الدین عفی عنہ	محمد شفیع
لاشک فیہ	محمد اسماعیل	عبدالوہاب
محمد عبدالرحمن	عفی عنہ	عفی عنہ
محمد صدیق عفی عنہ مدرس	سخاوت علی عفی عنہ مدرس مدرسہ عربی	
مدرسہ عربیہ انیسٹھ	قصبہ انیسٹھ ضلع سہانپور	
شیخ محمد غفر اللہ الصمد تھانوی	الجواب صحیح والجبیب نصح احقر العباد محمد عمر بن مولوی	
محمد عمر بن مولانا شیخ محمد	فاروقی چشتی صابری اسماعیلی نوری عبدالحق انواری	
	الجواب صحیح	من اجاب اصاب
	حسیب احمد عفی عنہ	غلام احمد عفی عنہ
الجواب صحیح	اللذ جمیل	الجواب صحیح
دین محمد عفی عنہ	دسکب الجمال	رسول احمد عفی عنہ

### پردہ کی تشبیہ نہ کرنے والا مرد

(سوال) جس شخص کی زوجہ ماموں زاد بھائی یا بہنوئی وغیرہ سے حسب رواج زمانہ پردہ نہ کرتی ہو تو یہ زوج حکم فاسق معلن میں ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر عورت پردہ شرعی سے سامنے آتی ہے یا پردہ شرعی نہیں کرتی مگر خاوند اس پر تشبیہ کرتا ہے اور اس کے اس فعل سے ناخوش ہے تب تو اس کے ذمہ کوئی معصیب نہیں اور اگر وہ پردہ شرعی نہیں کرتی اور خاوند اس سے ناخوش نہیں تو بے شک سخت گنہگار ہے۔

### رنڈی کا ناچ ولہو لعب

(سوال) زید نے اپنے پسر کی تقریب نکاح میں پندرہ بیس روز قبل سے ڈھول اپنے گھر میں بکھرا کر عورتوں سے بجوایا اور گویا اور نوبت نقارے بجوائے اور آرائش باغ باڑی آرائش بازی کثرت سے جھاڑوں کی روشنی معاشے باجے نوشہ کو سہرہ فقری طلائی سے معہ دیگر رسومات ممنوعہ کے بازار میں گشت کرائے مثل برات ہنود کے اور تمام شب دہن کے گھر پر ناچ رنڈی کا

کرایا لوگوں کو ناچ کی دعوت کر کے بلایا پھر عقد نکاح کرایا گیا اور بروقت رخصت مع تاشے باجے) بکھیر کر تاہواروپہ پیسہ کی اپنے گھریا ہر چند کہ زید کو لوگوں نے ایسی حرکات نالائقہ سے منع کیا مگر باز نہ آیا اور پھر یہ اصرار کر کے جواب دیتا تھا کہ یہ جملہ امور جائز ہیں کسی میں کچھ حرج نہیں خود رسول اللہ نے ناچ راگ باجے عورتوں کا سنا دیکھا ہے اور رنڈی بھی عورت ہی ہے میں ان افعال کو جائز اور ثابت بالمحدیث جانتا ہوں۔ باوجودیکہ زید اپنے کو مقتدائے قوم اور بزرگ بننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور لوگوں کی امامت بھی کراتا ہے لہذا زید کس جرم شرعی کا مرتکب ہے فسق کا یا کفر..... کا در صورت کفر اس کی زوجہ نکاح سے خارج ہوئی یا نہیں اور امامت اس کی جائز ہے یا نہیں اور لوگوں کو اس سے ترک ملاقات و اختلاط و سلام ضروری ہے یا نہیں اور اس کی قوم والے اتفاق کر کے اس کو برادری سے نکال دیں یا نہیں اور جو لوگ اس کے ان افعال و حرکات میں شریک ہوں اور اس سے اتحاد رکھیں میل جول ناشرشتہ پیدا کریں ان کا کیا حکم ہے اور انعقاد نکاح میں ایسی مجالس ممنوعہ سے نقصان واقع ہوتا ہے یا نہیں۔

(جواب) لہو و لب کے تاشے باجے ڈھول آتش بازی طلائی نقرائی سہارنڈی کا ناچ اس کے لئے لوگوں کی دعوت روپیہ پیسہ بکھیر کر مال کی اضاعت تقاضو ریا کی حالت یہ سب افعال گناہ و ناجائز و حرام تھے کفر نہ تھے مگر رنڈیوں کے ناچ کو جائز جاننا کفر ہوا کہ زناں فاحشہ کے اس ناچ کی حرمت ضروریات دین سے ہے قرآن عزیز کی متعدد آیات اس کی حرمت پر ناطق ہیں۔

تلونا ہا فی الحظر من فئا وینا منظومة و ہبا نیہ (۱) در مختار وغیرہما میں ہے ومن يستحل الرقص قالوا بکفرہ ولا سیما بالدف یلہو ویزمو (۲) وجیزا کردی کتاب السیر فصل فی المسرفات میں ہے وقد نقل القرطبی ان هذا الغناء و ضرب القضیب والرقص حرام بالا جماع عندما لک و ابی حنیفہ والشافعی و احمد و رأیت فتویٰ شیخ الاسلام السید جلال الملة والدين الکیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان مستحل هذا الرقص کافر و لما علم ان حرمتہ بالا جماع لزم ان یکفر مستحلہ اہبالا اختصار (۳) پھر اس کے دیکھنے کو عیاذاً باللہ حضور سید المرسلین ﷺ کی طرف

(۱) جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ کے باب الخمر میں لکھا ہے۔ نوٹ باب الخمر والا باحتہ اس کتاب کی دیکھو۔  
(۲) اور جو شخص کفر کو حلال جانے فقہاء اس کو کافر قرار دیتے ہیں خصوصاً جو دف کے ساتھ ہو کہ ٹھیلتا ہوا اور بجاتا ہو۔  
(۳) اور نقل کیا ہے قرطبی نے کہ یہ گانا اور لکڑی کا مارنا اور ناچنا بالا جماع حرام ہے مانک اور حنفی اور شافعی و احمد و جمہم اللہ کے پاس میں نے شیخ الاسلام جلال الملة والدين گیلانی رضی اللہ عنہم کا فتویٰ دیکھا ہے کہ اس ناچ کو جائز سمجھنے والا کافر ہے اور جب اس کی حرمت بالا جماع جان لی گئی تو لازماً اس کو حلال جانے والا کافر ہے۔

نسبت کرنا اس سے بدتر کفر اجنبش و اکبر ہے کہ اس میں حضور اقدس ﷺ پر افتراء کے سوا  
 صراحتاً حضور پر نور ﷺ کی توہین ہے اور حضور والا تو حضور والا کسی نبی کی توہین مطلقاً اجماعاً کفر  
 مبین ہے صلی اللہ تعالیٰ علی الحبيب وسلم قال اللہ تعالیٰ ان الذین یوذون اللہ  
 ورسوله لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ واعد لہم عذابا مہینا (۱) پس صورت مستفسرہ  
 میں زید بلاشبہ کافر مرتد ہو گیا اس کی جو رو اس کے نکاح سے نکل گئی اگر زید توبہ کرے اور اسلام  
 لائے جب بھی عورت کو اختیار ہے کہ اس سے نکاح نہ کرے جس سے چاہے نکاح کر لے نماز اس  
 حالت میں اس کے پیچھے نہ فقط حرام بلکہ باطل محض ہوگی جیسے گنگا دین یا رام چرن کے پیچھے بلکہ  
 بدتر کہ وہ کافر اصلی ہے اور یہ مرتد اور مرتد کا حکم کافر اصلی سے اشد ہے جب تک اسلام نہ لائے  
 اپنے ان اقوال ملعونہ سے صراحتاً توبہ نہ کرے اس سے میل جول سلام و کلام سب حرام برادری  
 والوں پر فرض ہے کہ اسے برادری سے نکال دیں جو لوگ ان افعال ممنوعہ میں شرکت کریں گے  
 گنہگار ہیں اور جو اس سے میل جول ناتہ ورشتہ کریں سب مستحق تارقال اللہ تعالیٰ ولا ترکوا  
 الی الذین ظلموا فتمسککم النار (۲) اور اگر ان دو قول ملعون میں اس کے شریک ہوں تو وہ  
 بھی اس کی طرح صریح کفار اور انہیں سب احکام کفر و ارتداد کے سزاوار۔ افعال ممنوعہ سے انعقاد  
 نکاح میں خلل نہیں ہوتا اگر ہاں دو لہا دو لہن میں کوئی ایک یا جمیع حاضرین جلسہ ایجاب و قبول  
 و عقیدہ کفریہ رکھتے ہوں تو نکاح نہ ہوگا یوں ہی اگر حاضرین میں صرف ایک مرد یا عورت یا ایک  
 مرد ایک عورت یا دو عورتیں مسلمان باقی عقائد کفریہ والے تو وہ بھی اس حکم میں ہیں۔ اما علی  
 الاول فلان المرتد لا نکاح له ولا مع مرتد تھا والمرتد لا نکاح لها ولا مع  
 مرتد واما علی الاخر فلا شترط شاہدین مسلمین فی نکاح مسلمین فلا انعقاد  
 بمحضر مرتدین کما لا یخفی (۳) واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کتبہ عبدہ المذنب  
 احمد رضا عفی عنہ بمحمدن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

محمدی حنفی قادری عبدالصطفیٰ احمد رضا خان۔

- (۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت نازل فرمادی ہے اور ان کے لئے ایمانت کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے۔  
 (۲) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالموں کی طرف توجہ نہ کرو کہ تم کو بھی آگے پکڑے گی۔  
 (۳) پہلا اس لئے کہ مرتد کا نکاح نہیں اور نہ اس کے مرتد کے ساتھ اور مرتد دونوں کا نکاح نہیں ہوا اور نہ مرتد کے ساتھ  
 نیکن دوسرا اس لئے کہ مسلمانوں کا نکاح میں دو مسلمانوں کا گواہ ہونا ضروری ہے تو دو مرتد کے حاضر ہونے سے نہ ہوگا  
 جیسا کہ یہ حنفی نہیں ہے۔

بلاشک ناچ رنگ رنڈیوں کا اور اسراف بے جا اور بکھیر مال کی اور اس کا ضائع کرنا اور نقرہ دسونے کا سہرہ مردوں کے لئے یہ سب ناجائز ہیں تو اس کو ہرگز جائز نہ جانا چاہئے۔ شگفتہ محمد گل بے نظیر ۱۳۰۰ھ

فی الواقع غیر مشروع کاموں سے مسلمانوں کو احتراز لازم ہے محمد نعیم الدین عفی عنہ بلاشک جواب مجیب کا صورت مسئولہ میں صحیح ہے اس لئے کہ ناچ اور مرتکب بجاہ وغیرہ کا فاعل وسامعین وجائشیں ہر دو فساق فجار میں سے ہیں مگر اہلسنت کے نزدیک حکم تکفیر ان پر جائز نہیں فقط۔ شد محمد نور عالم ۱۳۰۲۔

المعروف گڑ بڑ شاہ پنجابی مقیم مراد آباد۔ الجواب صحیح والرائے نصح محمد قاسم عفی عنہ۔

مولانا محمد عالم علی محمد قاسم علی خلیفہ ۱۳۶۶

جواب مجیب صحیح ہے مگر حکم تکفیر اس وقت عائد ہوگا کہ کوئی تاویل نہ ہو سکے بہر حال مرتکب ان امور کا بے شک اسلام اور مسلمین میں فتنہ و فساد ڈالنے والا ہے واللہ اعلم محمد حسن عفی عنہ مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد محمد حسن ۱۳۰۵ الجواب صحیح محمد عبداللہ محمد عبداللہ الجواب صحیح بندہ رشید احمد عفی عنہ گنگوہی رشید احمد ۱۳۰۱۔

## یزید پر لعنت کرنا

(سوال) یزید کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر یا وہ قابل لعن ہے۔ یا نہیں گو کہ لعن کرنے میں احتیاط کرے۔ بہت اکابر دین درباب لعن یزید تحریر فرما چکے ہیں چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شب شہادت کو میں نے ایک آواز غیب سی کہ کوئی کہتا تھا شعر۔

ایہا القاتلون جہلا حسینا

بشرو بالعذاب والتذلیل

قد لعنتم علی لسان ابن دانود

وموسیٰ وحامل الانجیل

کذا فی تحریر الشہادتین (۱) (وصو اعق محرقة) اور امام جلال الدین سیوطی

(۱) اے وہ لوگو جنہوں نے حسین کو جہالت سے قتل کیا عذاب اور ذلت کی خوشخبری حاصل کرو تم ابن داؤد کی زبان پر لعنت کئے گئے ہو اور موسیٰ اور صاحب انجیل کی زبان پر تحریر الشہادتین میں اسی طرح لکھا ہے۔

رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اہل الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من اخاف اهل المدينة اخافہ اللہ وعلیہ لعنة اللہ والملئكة والناس اجمعین (رواہ مسلم) وکان سبب خلع اهل المدينة ان یزید اسرف فی المعاصی (۱) اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وقتل وجینی برأسه فی طست حتی وضع یدی ابن زیاد لعن اللہ قاتله وابن زیاد ومعہ یزید (۲) اور بعض محققین مثل امام ابن جوزی اور ملا سعد الدین تفتازانی وغیرہما رحمہم اللہ بھی لعن کے قاتل ہیں چنانچہ مولانا قاصی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں وجہ قول جواز لعن آنست کہ ابن جوزی روایت کردہ کہ قاضی ابویعلیٰ در کتاب خود معتمد الاصول بسند خود صالح بن احمد بن حنبل روایت کردہ کہ گفتم پدر خود را کہ اے پدر مردم گمان می برند کہ ما مردم یزید را دوست می داریم احمد گفت کہ اے پسر کے کہ ایمان بخدا اور رسول داشته باشد اور ادوستی یزید چگونہ روا باشد وچہ لعنت نہ کردہ شود بر کسیکہ خدا بروئے در کتاب خود لعنت کردہ گفتم در قرآن کجا بر یزید لعنت کردہ است احمد گفت فهل عسیتم ان تو لیتم الخ (۳) اور نیز مکتوبات صفحہ ۲۰۳ میں ہے غرض کہ کفر یزید از روایت معتبرہ ثابت می شود پس او مستحق لعن است اگرچہ در لعن گفتن فائدہ نیست لیکن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ مقتضی آنست واللہ اعلم . (۴) ان عبارات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حضرات کفر کے بھی قاتل تھے اور بعض حضرات اکابر دین لعن کو جائز نہیں فرماتے ہیں اس واسطے کہ یزید کے کفر کا حال محقق نہیں۔ پس وہ قابل لعن نہیں لہذا یزید کو کافر کہنا اور لعن کرنا جائز ہے یا نہیں مدلل ارقام فرمائیں۔

(۱) نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو ذرا یا اللہ تعالیٰ ان کو ذرائے گا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی (اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اہل مدینہ نے اس لئے بیعت کو توڑ دیا کہ یزید نے گناہوں میں بے حد زیادتی کر دی تھی۔  
(۲) پس حسین قتل کئے گئے اور ان کا سر طشت میں لایا گیا حتیٰ کہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ اس پر اور قاتل حسین پر اور اس کے ساتھ یزید پر لعنت کرے۔

(۳) لعنت کے جواز کا قول اس بناء پر ہے کہ ابن جوزی نے روایت کی ہے کہ قاضی ابویعلیٰ اپنی کتاب معتمد الاصول میں اپنی سند کے ساتھ صالح بن احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم یزید کے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں احمد نے فرمایا ہے بیٹے جو شخص خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کی یزید کی دوستی کس طرح جائز ہو سکتی ہے اور کس لئے لعنت نہ کی جائے اس شخص پر جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہو میں نے کہا قرآن میں یزید پر لعنت کہاں ہے تو احمد نے فرمایا اس آیت میں فهل عسیتم ان تو لیتم الخ میں (سوا کرتے کنارہ کش ہوتو آیام کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔  
(۴) غرض یہ کہ یزید پر کفر معتبر روایت سے ثابت ہوتا ہے پس وہ مستحق لعنت ہے اگرچہ لعنت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے دشمنی کا متحصصا یہ ہے واللہ اعلم۔

(جواب) حدیث صحیح ہے کہ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے اگر وہ شخص قابل لعن کا ہے تو لعن اس پر پڑتی ہے ورنہ لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے پس جب تک کسی کا کفر پر مرنا محقق نہ ہو جائے اس پر لعنت نہیں کرنا چاہئے کہ اپنے اوپر عود لعنت کا اندیشہ ہے لہذا ایزید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چند موجب لعن کے ہیں۔ مگر جس کو محقق اخبار سے اور قرآن سے معلوم ہو گیا کہ وہ ان مفاسد سے راضی و خوش تھا اور ان کو مستحسن اور جائز جانتا تھا اور بدون توبہ کے مر گیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہیں اور مسئلہ یوں ہی ہے اور جو علماء اس میں تردد رکھتے ہیں کہ اول میں وہ مؤمن تھا اس کے بعد ان افعال کا وہ مستحل تھا یا نہ تھا اور ثابت ہو یا نہ ہوا۔ تحقیق نہیں ہوا۔ پس بدون تحقیق اس امر کے لعن جائز نہیں لہذا وہ فریق علماء کا بوجہ حدیث منع لعن مسلم کے لعن سے منع کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی حق ہے پس جواز لعن و عدم جواز کا مدار تاریخ پر ہے اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے کیونکہ اگر جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لعن نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ مستحب محض مباح ہے اور جو وہ محل نہیں تو خود مبتلا ہونا معصیت کا اچھا نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### شاہ اسماعیل شہید کے متعلق رائے

(سوال) جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب مرحوم جو ہمراہ سید احمد صاحب علیہ الرحمۃ کے شہید ہوئے تھے ان کو مردود کہنا اور بے ایمان کا فرکہنا درست ہے یا نہیں اور اگر نادرست ہے تو مردود اور بے ایمان کہنے والے کا کیا حکم ہے اور تقویۃ الایمان جو تصنیف مولانا مرحوم کی ہے اس کا مطالعہ کرنا اور پڑھنا اور پڑھانا اچھا ہے یا برا۔

(جواب) مولوی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم متقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے اور تمام عمر اسی حالت میں رہے آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے پس جس کا ظاہر حال ایسا ہو وہ ولی اللہ اور شہید ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیائہ الا المتقون۔ (۱) اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور دشمن و بدعت میں لا جواب استدال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے اس کے رکھنے کو جو برا کہتا ہے وہ فاسق اور بدعتی ہے اگر

(۱) اللہ کے ولی متقیوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔

اپنے جہل سے کوئی اس کتاب کی خوبی نہ سمجھے تو اس کا قصور فہم ہے کتاب اور مؤلف کتاب کی کیا تقصیر بڑے بڑے عالم اہل حق اس کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی گمراہ نے اس کو برا کہا تو وہ خود ضال و مضل ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## شاہ اسماعیل شہید کے مختصر حالات

(سوال) مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید دہلوی جو مستند الوقت شیخ الکل مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کے پوتے تھے ان کو مردود اور کافر کہنا اور لعن طعن کرنا صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح نہیں ہے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے اور کتاب تقویۃ الایمان مصنفہ مولانا مرحوم کسی ہے اس کا پڑھنا اچھا ہے یا برا۔

(جواب) مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم متقی بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن وحدیث پر پورا پورا عمل کرنے والے اور خلق کو ہدایت کرنے والے تھے اور تمام عمر اسی حال میں رہے آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے جس کا ظاہر حال ایسا ہوا وہ ولی اللہ اور شہید ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون کوئی نہیں اولیاء حق تعالیٰ کا سوائے متقیوں کے بموجب اس آیت کے مولوی اسماعیل ولی ہوئے اور حسب فحوائض حدیث من قتل فی سبیل اللہ فواق ناقہ فقد وجبت له الجنة الحدیث (۱) کے وہ جنتی ہیں سو جو ایسا شخص ہو کہ ظاہر میں ہر روز تقویٰ کے ساتھ رہا اور پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا وہ قطعاً جنتی ہے اور مخلص ولی ہے ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے من عادلسی ولیا فقد آذنتہ بالحراب جس نے عداوت کی میرے ولی سے سو میری طرف سے اس کو اعلام لڑائی کا ہے تو گویا خدائے تعالیٰ سے وہ مقابل ہوا پس دیکھو جس کو خدائے تعالیٰ اپنے سے لڑائی کرنے والا فرمائے وہ کون ہوتا ہے۔ بہر حال ایسے عالم مقبول کو مردود کہنے والا بالضرور سخت فاسق ہے تمام ائمہ اور ابو حنیفہ کے نزدیک اور قریب کفر کے حق تعالیٰ ایسے بد زبانوں فاسقوں بدعتیوں کو ہدایت کرے اور حق یہ ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب سے اہل بدعت کو اس واسطے عداوت ہے کہ انہوں نے بدعات کو خوب ظاہر کر کے قلع قمع کیا ہے اہل بدعت کے بازار کو بے رونق کر دیا اس واسطے اس

(۱) جس نے اللہ کی راہ میں اونٹنی کا دودھ دوہے جانے کے وقت کے برابر بھی جنگ کی وہ جنت میں داخل ہوا۔



صاحب سنت سے یہ لوگ بدعتی ناخوش ہو گئے اور سب و شتم کرنے لگے جیسا روافض صاحب سنت اور شیخین رضی اللہ عنہما سے عداوت کر کے طعن کرتے ہیں بہر حال یہ لوگ مولوی اسماعیل کے طعن کرنے والے ملعون ہیں۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ جو کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت کر نیوالے پر عود کرتی ہے اگر لعنت کیا گیا قابل لعنت کے نہ ہو اور معلوم ہو چکا کہ مولوی اسماعیل شہید ولی مہبط رحمۃ حق تعالیٰ کے ہیں تو بالضرور ان کی لعنت کرنے والے پر عود کرتی ہے۔ وہ خود ملعون مطرود الرحمۃ ہوئے واللہ تعالیٰ اعلم اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور وہ رد شرک و بدعت میں لا جواب ہے استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے اس کے رکھنے کو جو کفر کہتا ہے خود یا کافر ہے یا فاسق بدعتی ہے اگر اپنے جہل سے کوئی اس کتاب کی خوبی نہ سمجھے تو اس کا قصور فہم ہے کتاب اور مولف کتاب کی کیا تقصیر۔

گر نہ بیند بروز شپرہ چشم  
چشمہ آفتاب راچہ گناہ (۱)

بڑے بڑے اہل حق اس کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی گمراہ نے اس کو برا کہا تو وہ خود ضال و مضل ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### شاہ اسماعیل شہید کے فتویٰ پر رائے

(سوال) در صورتیکہ بعض افعال شرکیہ کہ در رسالہ تقویۃ الایمان محرر شدہ مثل نذر بغیر اللہ یعنی توشہ وغیرہ و بوسہ دادن قبر و غلاف انداختن بدان دو گوند بنام غیر اللہ و مثل انہا از زید صادر شد پس زید را کافر گفتن و خود و مال اور امباح دانستن و دیگر معاملہ کفار با او نمودن جائز است یا نہ (۲)

(جواب) زید را کافر محض دانستن و با او معاملہ کفار بجز دصدور آنچه در سوال محرر است جائز نیست و ہر کہ با او معاملہ کفار بجز دصدور افعال مذکورہ نماید گنہگار میشود و آنچه در رسالہ تقویۃ الایمان محرر شدہ بیان شد کہ چنانکہ در حدیث شریف وارد دست کہ ایمان را چند ہفتا و شعبہ دہ دست افضل

(۱) اگر دن کو کوئی شپرہ چشم نہ دیکھے تو اس میں آفتاب کا کیا تصور۔

(۲) ایسی صورت میں کہ بعض افعال شرکیہ کہ رسالہ تقویۃ الایمان میں لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے نذر بغیر اللہ یعنی توشہ وغیرہ اور قبر کو بوسہ دینا اور اس پر غلاف ڈالنا اور غیر اللہ کے نام سے قسم کھانا اور اسی کے مثل امور زید کے صادر ہوں تو زید کو کافر کہنا اور اس کے خون و مال کو جائز سمجھنا اور کفار کے مثل دوسرے معاملات اس کے ساتھ کرنا جائز ہے یا نہیں۔

جمع شعبہ لا الہ الا اللہ وادنیٰ آئینہا دور کردن چیزے موذی از راه ست و چینیں در روایت دیگر وارد شدہ کہ حیا شعبہ ایست از ایمان و ہم چنین در روایات متعدده وارد شدہ کہ صبر و ساحت یعنی علوے ہمت و حسن خلق شعبہائے ایمان ہستند و حالانکہ بسیار دیدہ می شد کہ بعض از یہ امور در بعضے از کفار یافتہ میشود۔ مثلاً بسیارے از کفار صاحب حیا ہم شند و بسیارے از ایشان خوش خلق ہم میشود پس بجز دریافتن حیا مثلاً آن کافر را مومن نتوان گفت و با او معاملہ مسلمانان نمی توان کرد۔ آری این قدر البتہ ضرور باید دانست کہ حیاء شعبہ ایست از ایمان و چیز یست کہ نہایت پسندیدہ است نزد حق جل و علیٰ اگرچہ این شخص پسندیدہ نیست زیرا کہ کافرست اما این خلق او پسندیدہ ہم چنین وقتیکہ شرک مقابل ایمان ست پس لا بد اورا ہم این قدر شعبہا باشد پس چنانکہ زید را بجز حیا مومن نتوان گفت اگرچہ خلق و حیا را تحسین باید کرد۔ ہم چنین اورا بجز سوگند خوردن بنا م غیر خدا مشرک نتوان گفت اگرچہ این فعل اورا از فعل شرکیہ باید شرد و انکار بریں فعل پیش از پیش باید نمود و ہانت این فعل باید کرد و ہانت فاعلان بالخصوص بہاید کرد و زیرا کہ ممکن ست کہ در راں شخص چنانکہ این شعبہ شرکیہ یافتہ شدہ بسیارے از شعبہ ہائے ایمان ہم موجود باشد پس بسبب شعبہائے ایمان مقبول عند اللہ گردد و گواہین فعل او مردود باشد و این تفصیل ملحوظ باید داشت ما دلیکہ فاعل آں مقابلہ شرع شریف بے پردہ نمودہ باشد اما وقتیکہ در شریعت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰت و اکمل التیات و التسلیمات الزاکیات نماید مثلاً بگوید کہ اورا با شریعت بیچ کار نیست یا بگوید کہ فلاں کار البتہ خواہد کرد خواہ محمد رسول اللہ ﷺ راضی شوند یا ناخوش یا بگوید ممنوعیت این فعل در شرع است اما شرع برائے او نیست بلکہ برائے دیگران ست مذہب او طریقت ست نہ شریعت پس آں وقت کافر مطلق می شود ہمہ شعبہائے ایمان کہ در او موجود باشد بر باد گردد و در غضب الہی گرفتاری شود۔ (۱) اعاذنا اللہ

(۱) زید کو کافر جاننا اور اس کے ساتھ بجز دان باتوں کے صادر ہونے کے جو سوال میں درج ہیں کفار کے جیسا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے اور جو شخص اس کے ساتھ بجز دان افعال مذکورہ کے صادر ہونے کے کفار کے جیسا معاملہ کرے وہ گنہگار ہوگا اور جو کچھ رسالہ تقویۃ الایمان میں لکھا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایمان کے ۷ ستروا پر کچھ شاخیں ہیں اور تمام شاخوں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور ادنیٰ اس کا کسی موذی چیز کا راستہ سے دور کر دینا ہے اور اسی طرح دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے اور اسی طرح متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ عبر اور جوان مردی یعنی بلند ہمتی اور حسن اخلاق ایمان کے شعبے ہیں اور حالانکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان امور میں سے بعض کفار میں بھی پائے جاتے ہیں مثلاً بہت سے کفار صاحب حیاء بھی ہوتے ہیں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

وسائر المسلمین من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .  
کتبہ محمد اسماعیل مصنف تقویۃ الایمان عفی عنہ محمد اسماعیل دہلوی۔

درشا جہاں آباد حررہ دوازدهم جمادی الاولیٰ ۱۲۴۰ھ تمام شد۔ (۱)

(جواب) جواب مولانا محمد اسماعیل صاحب کا نہایت صحیح ہے کہ افعال شرکیہ بعض ایسے ہیں کہ شرک محض ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ لوگ ان کو کرتے ہیں اور تاویل ہو سکتی ہے پس پہلی قسم جیسا سجدہ بت کو کرنا زنا زنا ان امور سے مشرک ہو جاتا ہے اور دوسری قسم کے افعال سے کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ خروج عن الاسلام نہیں ہوتا کیونکہ بعض شرک اصل شرک ہے اور بعض کم کہ شرک دون شرک کہتے ہیں تو دوسرے درجہ کے شرک ھقیقہ شرک نہیں مثلاً قسم بغیر اللہ کو شرک فرمایا اور ریا کو شرک فرمایا اور تسمیہ بغیر اللہ کو شرک فرمایا چونکہ یہ افعال صورتہ شرک ہیں ان کو شرک فرمایا ہے ان کے کرنے سے مشرک حقیقی نہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔

(بقیہ حاشیہ) ان میں سے بہت سے غلطی بھی ہوتے ہیں پس ہجر داس کا فر میں حیا کو پانے کے مومن نہیں کہہ سکتے ہیں نہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کر سکتے ہیں البتہ اتنا ضرور جانا چاہئے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور نہایت پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ یہ فیصل پسندیدہ نہیں ہے اس لئے کہ کافر ہے لیکن اس کی یہ عادت پسندیدہ ہے اسی طرح جس وقت کہ شرک ایمان کے بمقابلہ میں تو ضرور ہے کہ اس کے بھی اسی قدر شاخیں ہوں گی اسی طرح اس کو ہجر وغیر خدا کی قسم کھانے کے مشرک نہیں کہہ سکتے اگرچہ اس کے اس فعل کو افعال شرک سے سمجھنا چاہئے اور اس پر اعتراض زیادہ سے زیادہ کرنا چاہئے اور اس فعل کی اہانت کرنا چاہئے اور اس کے کرنے والے کی اہانت خصوصیت سے کرنی چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ جس طرح اس شخص میں یہ شعبہ شرکیہ پایا جاتا ہو بہت سے شعبہ ہائے ایمان بھی موجود ہوں پس وہ بسبب ایمان کے شعبوں کے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا اگرچہ اس کا یہ فعل مردود ہوگا اور اس تفصیل کا یہ خیال رکھنا چاہئے کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کا کرنے والا شرع شریف کا مقابلہ علانیہ نہ کیا ہو لیکن اگر وہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات والتسلیمات الاکیات کی روک کرنے لگے مثلاً یہ کہے کہ اس کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں یا یہ کہے کہ وہ فلاں کام ضرور کرے گا خواہ محمد ﷺ رضی ہوں یا ناراض یا یہ کہے کہ اس فعل کی ممانعت تو شرع میں ہے لیکن شرع اس کے لئے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لئے ہے۔ اس کا مذہب طریقت ہے نہ کہ شریعت تو اس وقت وہ کافر مطلق ہوگا۔ ایمان کے تمام شعبے جو اس میں موجود ہوں گے برباد ہو جائیں گے۔ اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔ فتاویٰ عزیزی جلد دوم ص ۱۰۴۔ سوال :- قبر کے طواف کرنے والے کو کافر کہا جائے گا یا نہیں جواب :- صلحاء اور اولیاء کی قبروں کا طواف کرنا بلاشبہ بدعت ہے اس لئے کہ زمانہ سابق میں نہ تھا لیکن اب اختلاف ہے کہ یہ بدعت حرام ہے یا مباح بعض کتب فقہ میں مباح لکھتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ مباح نہیں ہے اس لئے کہ بت پرستوں سے مشابہت لازم آتی ہے اس لئے کہ وہ بھی بتوں کے اطراف یہی عمل کرتے ہیں و نیز طواف شرع میں محض کعبہ کے لئے وارد ہوا ہے اور بزرگ کی قبر کو کعبہ کے مشابہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن جو شخص یہ عمل کرے اس کو کافر کہا اور دائرہ اسلام سے خارج کرنا بہت ہی برا اور غیر پسندیدہ کام ہے اور اسی طرح کافر بنانے والے کو کافر بنانا بہت ہی برا ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے رسول اللہ کے غضب سے پناہ میں رکھے۔

## کتاب تقویۃ الایمان کے متعلق رائے

(سوال) کتاب تقویۃ الایمان کیسی کتاب ہے اس کو اچھا سمجھنا اور اس کا درس کرنا اور اس پر عمل کرنا کیسا ہے اور مولانا محمد اسحاق صاحب کو برا سمجھنا اور ان کو کافر و مردود بتانا اور حقیر سمجھنا کیسا ہے اگر کسی کے ماں باپ نماز جماعت و وعظ سننے کو منع کریں تو اس کو چھوڑ دے یا ان کے کہنے کو رد کرے مجھ عاجز کے واسطے دعا کیجئے مجھ کو کوئی دعا تعلیم فرمائیے جس کے ورد سے وسوسا ہونا دور ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو اور عشق حضرت رسول اللہ ﷺ کا نصیب ہو۔ آپ سے اللہ واسطے عرض کرتا ہوں۔ فقط والسلام۔

(جواب) کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے اور قرآن و حدیث کا مطلب پورا اس میں ہے اس کا مولف ایک مقبول بندہ تھا۔ اور مولانا محمد اسحاق دہلوی ولی کامل محدث و فقیہ عمدہ مقبولین حق تعالیٰ کے تھے جو کوئی ان دونوں کو کافر یا بد جانتا ہے وہ خود شیطان ملعون حق تعالیٰ کا ہے اور اگر کسی کا باپ یا والد نماز جماعت سے منع کرے یا وعظ سننے سے کسی عالم مقبول متدین کے منع کرے تو قول والدین کا ہرگز نہ مانے بلکہ ان کاموں کو کرتا رہے اور دفع وسوسہ شیطانی کے واسطے لا حول اور استغفار پڑھا کرو۔ فقط والسلام۔

## تقویۃ الایمان کے بعض جملوں کی تشریح

(سوال) تقویۃ الایمان کے صفحہ ۱۴ میں ہے (یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ خدا کی شان کے آگے چھارے بھی زیادہ ذلیل ہے) اس عبارت کے مضمون کا کیا مطلب ہے مولانا علیہ الرحمۃ نے کیا مراد لیا ہے۔

(جواب) اس عبارت سے مراد حق تعالیٰ کی بے نہایت بڑائی ظاہر کرنا ہے کہ اس کی سب مخلوقات اگرچہ کسی درجہ کی ہو اس سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی، کمہار لوٹا مٹی کا بناوے اگرچہ خوبصورت پسندیدہ ہو اس کو احتیاط سے رکھے مگر توڑنے کا بھی مختار ہے اور کوئی مساوات کسی وجہ سے لوٹے کو کمہار سے نہیں ہوتی۔ پس حق تعالیٰ کی ذات پاک جو خالص محض قدرت سے اس کے ساتھ کیا نسبت و درجہ کسی خلق کا ہو سکتا ہے چھار کو شہنشاہ دنیا سے اولاد آدم ہونے میں مناسبت و مساوات ہے اور شہنشاہ نہ خالق و رازق چھار کا ہے تو چھار کو تو شہنشاہ سے مساوات بعض وجوہ سے ہے بھی مگر حق تعالیٰ کے ساتھ اس قدر بھی مناسبت کسی کو نہیں کہ کوئی عزت برابری کی نہیں ہو سکتی۔ فخر عالم علیہ السلام باوجودیکہ تمام مخلوق سے برتر و معزز و بے نہایت عزیز ہیں۔ کہ کوئی مثل ان کے نہ ہو نہ ہوگا مگر حق تعالیٰ کی ذات پاک کے مقابلہ میں وہ بھی بندہ مخلوق ہیں تو یہ سب حق ہے مگر کم فہم اپنی کچی فہم سے اعتراض بیہودہ کر کے شان حق تعالیٰ کو گھٹاتے ہیں اور اس کا نام حب رسول اللہ ﷺ رکھتے ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## تقویۃ الایمان کے مسائل

(سوال) تقویۃ الایمان میں کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جو قابل عمل نہیں یا کل اس کے مسائل صحیح اور علماء دین کو مقبول ہیں اور ایک بات یہ مشہور ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب شہید نے اپنے انتقال کے وقت بہت سے آدمیوں کے رو برو بعض مسائل تقویۃ الایمان سے توبہ کی ہے آپ نے بھی کہیں یہ بات سنی ہے یا محض افتراء ہے اور جو مولانا مرحوم کا معتقد نہ ہو اور ان کو خوش عقیدہ اور بزرگ نہ جانے وہ بدعتی اور فاسق ہے یا نہیں اور مولوی صاحب شہید مقلد تھے یا عامل بالحدیث اور اگر مقلد تھے تو کون سے امام کے حنفی تو شاید نہ ہوں چونکہ سنا ہے کہ رفع یدین اور آمین بالجہر کرتے تھے اور اکثر غیر مقلد مولانا موصوف کو عامل بالحدیث بتاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو زیادہ مانتے ہیں اور انہیں کے قول کو زیادہ سند میں لاتے ہیں بہ نسبت اور علماء کے اور انہیں کو اپنے زمانے کا

مجہد بتاتے ہیں حالانکہ اس زمانہ میں اور بہت سے علماء عظام موجود تھے اور انہیں کو اکثر موقع پر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ترجیح دیتے ہیں اور اکثر مسائل حضرت شاہ صاحب کے نہیں مانتے اور ان کے کل مسائل مقبول جانتے ہیں۔ ان باتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب مقلد نہیں تھے۔ عامل بالحدیث تھے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں مقلد تھے غیر مقلد ہرگز نہیں تھے بعض کہتے ہیں کہ ان کو مرتبہ اجتہاد کا تھا اس وجہ سے انہوں نے تقلید نہیں کی اس کا خلاصہ حال جو ہوتو حیران فرمادیتے اور مولوی صاحب کے عقیدے میں اور محمد بن عبدالوہاب کے عقیدہ میں کچھ فرق تھا یا یہ دونوں صاحب ایک ہی مسلک کے ہیں اور حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ان کے مرشد ہیں یہ بھی عالم اور مقلد تھے یا نہیں اور حضرت سید صاحب کے خلفاء میں اور بھی کوئی ان سے زیادہ لائق خلیفہ ہوا یا سب سے زیادہ سربرآوردہ یہی حضرت تھے اور جو مسائل تقویۃ الایمان میں مختلف ہیں ان پر عمل کرے یا نہ کرے اور مولوی صاحب موصوف سے سلسلہ صوفیت کے نہ چلنے کی کیا وجہ ہے حالانکہ مولوی صاحب خود سید صاحب سے بیعت ہوئے ہیں اور ان سے بھی آدمی غالباً مرید ہوئے ہوں گے اور مولوی صاحب ممدوح علماء میں شمار کئے گئے ہیں یا صوفیہ ہیں۔

(جواب) بندہ کے نزدیک سب مسائل اس کے صحیح ہیں اگرچہ بعض مسائل میں بظاہر تشدد ہے اور توبہ کرنا ان کا بعض مسائل سے محض انفراتل بدعت کا ہے اور اگر ان کو بزرگ نہ جانے چھوٹے حالات ان کے سن کر تو معذور ہے اور اگر کتاب کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مبتدع فاسق ہے اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جب تک حدیث صحیحہ غیر منسوخ ملے اس پر عامل ہوں ورنہ ابوحنیفہ کی رائے کا مقلد ہوں اور سید صاحب کا بھی یہی مشرب تھا اور محمد بن عبدالوہاب کے عقائد کا مجھ کو مفصل حال معلوم نہیں اور نہ خلفاء سید صاحب کا اور مولوی اسماعیل صاحب و عنقریب بدعت میں مصروف رہے پھر جہاد میں جا کر شہید ہو گئے سلسلہ بیعت کا کہاں جاری کرتے اور تمام تقویۃ الایمان پر عمل کرے فقط۔

## تذکیر الاخوان کے عبارت کی تشریح

(سوال) ”تذکیر الاخوان کے صفحہ ۵ میں ہے کہ فرمایا اللہ صاحب نے سورہ آل عمران (۱) میں اور

مت ہوان کی طرح جو علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد ان کے کہ پہنچ چکے ان کو صاف حکم اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہے جس دن سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ سو وہ سیاہ ہوئے منہ ان کے کیا تم کافر ہو گئے ایمان میں آ کر اب چکھو عذاب بدلا اس کفر کرنے کا۔“ اس کے فائدے میں ہے کہ ”بہت گروہ فرقہ فرقہ ہو گئے چنانچہ یہود و نصاریٰ بہتر بہتر فرقہ ہو گئے اور پھر آگے تحریر فرماتے ہیں۔“ پھر ان میں کوئی قادری کوئی نقشبندی کوئی چشتی ہے الخ“ اور صفحہ ۷ میں فرماتے ہیں۔ ”پھر کسی نے خود کو چشتی مقرر کیا کسی نے قادری کسی نے نقشبندی کسی نے سہروردی کسی نے رفاعی ٹھہرایا الخ۔“ تو اس جگہ پر یہ شبہ واقع ہوتا ہے کہ ان خاندانوں کو ان فرقوں میں شامل جو فرمایا تو اس کی کیا وجہ ہے اور یہ مضمون صحیح ہے یا غلط۔

(جواب) مراد یہ ہے کہ فرقہ فرقہ جدا ہونا باعتبار عقائد و اعمال کے بدعت ہے جیسا روافض و خوارج عقائد میں اپنے ابواء سے مختلف ہو گئے ہیں تو اسی طرح اس زمانے کے قادری چشتی مثلاً اپنے اپنے عقائد مبتدعہ میں اور اعمال ناجائز میں مختلف ہو کر ہر ایک نے خلاف شرع کو اپنا طریقہ مقرر کر لیا ہے کہ اگر عالم ان کو کسی عقیدہ باطلہ مبتدعہ سے یا کسی عمل غیر مشروع سے منع کرے تو کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں ہم کو جس طرح اپنے بزرگوں سے پہنچا اس کو ہی حق جانتے ہیں اور یہ بالکل غلط ہے کیونکہ عقائد و اعمال سب بزرگان دین کے موافق سنت کے تھے ان لوگوں نے احداث بدعات کیا ہے پس ایسے اہل طریقہ کو وہ مثل بہتر فرقے کے فرماتے ہیں۔ نہ اہل اللہ لوگوں کو جو ان خاندان کے مقبول تبع سنت ہیں کیونکہ ان کا کوئی فرقہ سوائے اہل سنت کے نہیں اور کوئی امر طریقہ کا خلاف شرع کے نہیں ہے خود ایک ہی فرقہ ہے فقط نام ہر ایک کا جدا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مراقبہ کا حکم

(سوال) تصور کرنا اولیاء اللہ کا مراقبہ کیسا ہے اور یہ جاننا کہ جب ہم ان کا تصور باندھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس موجود ہو جاتے ہیں اور ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں ایسا اعتقاد کرنا کیسا ہے۔

(جواب) ایسا تصور درست نہیں۔ اس میں اندیشہ شرک کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## رسول ﷺ کے علم غیب کا معتقد

(سوال) زید کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کل علم غیب آنحضرت ﷺ کو عطا فرمایا تھا اور اب بھی آپ مخلوق کے ہر ایک حال ظاہر و باطن خیر و شر سے بخوبی واقف ہیں۔ یہاں تک کہ چھھر کے پر ہلانے کا بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے اور ہر ایک کی آواز خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں بذات خود سن لیتے ہیں پس یہ عقیدہ کیسا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مذہب احناف اور کتب معتبرہ حنفیہ کی رو سے مسلمان رہایا کا فر مشرک ہو گیا۔

(جواب) جو شخص رسول اللہ ﷺ کے علم غیب ہونے کا معتقد ہے سادات حنفی کے نزدیک قطعاً مشرک و کافر ہے۔ (۱) صاحب بحر الرائق کتاب النکاح میں صاف تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نکاح کا شاہدین اللہ اور رسول اللہ مقرر کرے اور اعتقاد یہ کرے کہ رسول اللہ ﷺ عالم غیب ہیں وہ یقیناً کافر ہے اور مشرک تو اسی کو کہتے ہیں کہ کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی وصف ذاتی مثل علم کے اور قدرت کے یا عبادت کے شریک کرے کہ اس واسطے کہ اشراک فی الذات یعنی تعدد الہ کا قائل تو بہت ہی کم ہوا ہو گا شامی نے رد المحتار کی کتاب الارثداد میں صاف طور پر ایسے عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر کی ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ علم الغیب مجموع اشیاء آنحضرت ﷺ کو ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے سو محض باطل اور خرافات میں سے ہے رسول اللہ ﷺ کو محشر میں بھی بعض لوگوں میں قابل ستمی ماہ کوثر ہونے کا احتمال ہو گا اور باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو گا۔ انک لا تدری ما احد ثواب بعدک اخرج البخاری الحدیث (۲) فقط

الجواب صحیح۔ اصاب الحبيب عزيز الرحمن عفی عنہ و توکل علی العزیز الرحمن مفتی مدرسہ عالیہ دیوبند۔ مدرس مدرسہ اسلامیہ میرٹھ۔

اصاب من اجاب محمد ریاض الدین عفی عنہ

ناظر حسن دیوبندی بندہ محمود عفی عنہ الجواب صحیح خلیل احمد عفی عنہ

محمد ناظر حسن الہی عاقبت محمود گردان مدرس اول مدرسہ عالیہ دیوبند

خلیل احمد مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔

(۱) ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات کبیر میں تحریر فرمایا ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا علم یکساں ہونے کا اعتقاد کیا اس کے کفر پر سب کا اجماع ہے۔

(۲) آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں نکالیں۔ (بخاری)



الجواب صواب بذہن الحق وما ذابعد الحق الا اطلاق۔ الجواب صحیح محمد اسحاق  
 عبدالمومن مدرس مدرسہ میرٹھ۔ اسمہ۔ عفی عنہ مدرس مدرسہ میرٹھ۔  
 الجواب صحیح خاکسار۔ احمد حسن الحسینی  
 سراج احمد عفی عنہ میرٹھ۔ الامر وہوی غفرلہ۔ اسمہ احمد۔  
 علم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا ایہام شرک  
 سے خالی نہیں۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

## ملفوظات

وظیفہ یا شیخ عبدالقادر اور طلباء کو وظائف کا پڑھنا۔ پانی کا بہت پینا  
 اور ماش کی دال اور غلیظ اشیاء کا کھانا ذہن کی تیزی کا وظیفہ  
 (۱) علم دین کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اگر کسی کو نصیب ہو جاوے جہاں تک ہو کوشش کر کے  
 پڑھو سب وظائف درست ہیں مگر وظیفہ یا شیخ عبدالقادر کا بندہ اچھا نہیں جانتا۔ اس کو ترک کر دو اور  
 طالب علمی میں اگر وظائف پڑھو گے تو سبق کس طرح یاد ہوگا اگر پڑھنے کے واسطے اوراد کو  
 موقوف کرو تو بہتر ہے بعد فراغت قدر ضروری علم کے شروع کر دینا اور ذہن و حافظہ جیسا خدائے  
 تعالیٰ نے کسی کا بنا دیا بن گیا اب اس کی کشائش اس کے ہی اختیار میں ہے پانی کا بہت پینا اور  
 ماش کی دال اور غلیظ اشیاء کا کھانا مضر ہے بندہ بھی آپ کو دعا میں شریک کرتا ہے اور ذہن کے  
 واسطے سورۃ فاتحہ کو اکیس بار پانی پر دم کر کے پی لیا کرو فقط والسلام۔

## شیخینا اللہ کا پڑھنا

(۲) شیخینا اللہ کا پڑھنا کسی وجہ سے جائز نہیں۔ اگر شیخ قدر سرہ کو عالم الغیب و متصرف  
 مستقل جان کر کہتا ہے تو خود شرک محض ہے بقولہ تعالیٰ وعند، مفاتح الغیب لا یعلمہا  
 الا هو (۱) الایۃ و دیگر نصوص قال فی البزازیہ وغیرہا من الفتاویٰ من قال ان ارواح  
 المشائخ حاضرة تعلم کفرو من ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ

(۱) اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بناء پر کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

واعتقد به کفر کذا فی البحر الرائق انتھی من مائة المسائل (۱) اور جو یہ عقیدہ موہم نہیں تو بھی جائز ہے کیونکہ اس صورت میں گو نداشتک نہ ہو مگر مشابہ شرک ہے اور جو لفظ معنی شرک ہو اس کا بولنا بھی ناروا ہے لقولہ تعالیٰ لا تقولوا راعنا وقلو انظرنا (۲) اور بقولہ علیہ السلام لا تقولوا اما شاء اللہ وما شاء فلان ولكن قولو اما شاء اللہ ثم شاء فلان الحدیث (۳) حالانکہ صحابہ کی نیت میں کوئی معنی قبیح نہ تھے مگر بسبب مشابہت اور موہم معنی قبیح کے یہ الفاظ ممنوع ہو گئے پھر عوام اس سے ورطہ شرک و گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تفسیر عزیزی میں بیان وجوہ شرک میں لکھا ہے از انجملہ اندکسائیکہ در ذکر دیگر انرا با خدا تعالیٰ ہمسری کنند۔ واز انجملہ اندکسائیکہ در دفع بلا دیگران رومی خوانند وہم چنین در تحصیل منافع بد دیگران رجوع می نمایند بالاستقلال وآنکہ توسل بآں دیگران نمایند۔ (۴) پس ظاہر ہے کہ دعوت اس کلام کی داخل ہر دو قسم میں ہے کیونکہ غرض اس سے دفع بلاء و جلب منافع ہے یا شکر یا ذکر اللہ تعالیٰ اس سے تحصیل برکات و تقرب مقصود ہے یا بوجہ تبرک کے اس کو تکرار کرتے ہیں ہاں کسی کے توسل سے دعا کرنا درست ہے مگر یہ صورت توسل کی ہرگز نہیں بلکہ دعا و استعانت ہے۔ مجیب صاحب کو شبہ واقع ہوا کہ دعا کو توسل سمجھ گئے توسل کی صورت یہ ہے یا اللہ بجاہ شیخ عبدالقادر شینا اللہ۔ نہ یہ کہ خود شیخ سے طلب کرے بصیغہ دعا یا شیخ اعطنی شینا اللہ توسل کس طرح ہو سکتا ہے معہذا لفظ شینا اللہ کا موہم معنی شرک کو ہے کیونکہ لفظ کے معنی یہ بھی ہو سکتے کہ کچھ حق تعالیٰ کو دو۔ اس واسطے کہ لفظ لام کا معنی لہ پر آتا ہے یہ معنی تو اشد شرک ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ شیخ مجھ کو بوجہ اللہ تعالیٰ کے کچھ دو سو اس معنی میں اگر مستقل معطی شیخ کو جانتا ہے تو بھی شرک ہو اور جو باذن اللہ معطی سمجھا تو اس کی توجیہ وہ ہے جو تفسیر عزیزی سے مجیب نے نقل کیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء کو حق تعالیٰ آلہ تکمیل و ارشاد خلق بناتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے باذن اللہ مطالب برآمد ہوتے ہیں نہ کہ اولیاء خود

(۱) بزاز یہ وغیرہ فتاویٰ کی کتابوں میں ہے کہ جس نے کہا کہ مشائخ کی ارواح حاضر ہیں اور وہ سب کچھ جانتی ہیں تو کافر ہو جائے گا اور جس نے یہ گمان کیا کہ میت اللہ کے سوا خود بھی امور میں متصرف ہے اور اس کا اعتقاد رکھے تو وہ کافر ہو جائے گا بحر الرائق میں اسی طرح ہے (ماہنامہ مسائل)۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ کہ ”راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔“

(۳) نبی ﷺ کے اس ارشاد کی بناء پر کہ اس طرح نہ کہو کہ ”اگر اللہ چاہے کہ فلاں چاہے“ بلکہ اس طرح کہو کہ ”اللہ چاہے پھر وہ چاہے۔“ (حدیث)

(۴) ”انجملہ ان کے وہ لوگ ہیں جو ذکر میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بناتے ہیں اور ”انجملہ ان کے وہ لوگ ہیں جو بلا کے دفع کرنے کے لئے لوگوں کو پکارتے ہیں اور اسی طرح نفع کے حاصل کرتے ہیں دوسروں کی طرف مستقل رجوع کرتے ہیں نہ کہ وہ ان دوسروں کو ذریعہ قرار دیتے ہیں۔“

متصرف و مستقل بنتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب وہ آلہ ٹھہرے تو اگرچہ بظاہر حاجت روائی تو بذریعہ آلہ ہوتی ہے مگر خود آلہ سے بھی دعا و استعانت طلب کرنا شرک ہے پس ایسی صورت میں متصرف حقیقی کو چھوڑ کر آلہ سے طلب کرنا بھی خالی از مشابہت شرک نہیں۔ ندوۂ عاکرنا دوسری شے ہے کہ منادی کے علم و تصرف کو چاہتا ہے اور ذریعہ ہونا اور امر ہے کہ ذریعہ کا واسطہ اور مقبول ہونا بدرگاہ فیاض اس سے مستفاد ہوتا ہے شان بیہما مثلاً نور بواسطہ شمس کے آتا ہے، مگر طلب نور شمس سے شرک ہے نہ کسی کو کرنا یعنی بر علم و تصرف منادی کے ہے پس اس عبارت عزیزی سے جواز ندادا کیونکر مفہوم ہوا، غایت تعجب ہے کہ اگر گاہے او لیاہ کو بطور کشف باذن اللہ تعالیٰ کچھ معلوم ہو جاوے تو اس سے ہر وقت باستقلال علم و تصرف کا ہونا کہاں سے لازم آتا ہے پس ایسی دعوت بہر حال یا شرک جلی یا خفی یا لغو مشابہت بشرک ہو کر حرام و ناجائز ہووے گی۔ کسی وجہ جواز کا شائبہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ اب استدلال توجیب کا حال سنو کہ پڑھنا اس کلام کا بطور توسل جائز فرماتے ہیں حالانکہ توسل کی کوئی صورت نہیں۔ کما مر اور شاہ ولی اللہ صاحب نے طریقہ بعض جیلانیہ کا بیان کیا ہے اس سے اجازت و مشروعیت کا فہم محض غفلت ہے اور تحکم ہے اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت کا مطلب خود واضح ہو گیا کہ ندادا ہرگز جائز نہیں فرماتے بلکہ شرک لکھتے ہیں اور جو وہ فرماتے ہیں اس سے جواز ندادا طلب ہرگز مستفاد نہیں ہو سکتا۔ علی ہذا تفسیر مظہری کا مطلب بھی یہی ہے کہ ندادا استعانت اولیاء سے نہ حیات میں روا ہے نہ بعد موت اور جو صاحب خزینہ کی عبارت توجیب نے نقل کی ہے کہ یا شیخ عبدالقادر فہو نداء و اذا اضیف الیہ شینا اللہ فہو طلب شیئی اکر اما اللہ تعالیٰ فما الموجب بحرمتہ۔ (۱) جب تک اس کے سابق لاحق کا حال معلوم نہ ہو اس پر حکم نہیں ہو سکتا۔ سلما اگر اس کی مراد یہی ہے جو توجیب نقل کرتے ہیں تو فتویٰ اس کا مردود ہے نصوص قطعہ و روایات فقہاء معتبرین سے جیسا کہ سابق لکھا گیا کہ ندادا غیر اللہ بہر حال ناجائز ہے اور شینا اللہ کے معنی موبہم شرک ہیں اگرچہ نیت داعی کی قبیح معافی کی نہ ہوتا، ہم درست نہیں یہ وجہ حرمت اس کلام کی ہے اگرچہ موجب حرمت توجیب صاحب کو معلوم نہ ہو مگر نصوص و روایات سے ہم ثابت کر چکے۔ پس جو فتویٰ خلاف نصوص و روایات صحیحہ کے ہو وہ قطعاً مردود ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) یا شیخ عبدالقادر تو وہ نداء ہے اور جب اس کی طرف شینا اللہ کی اضافت کی جائے تو وہ کسی چیز کا طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اکر ام ظاہر کرنے کے لئے تو حرمت کا موجب کیا ہے۔

پڑھنے والا اس جملہ کا تقریباً اور شہرت دینے والا اس کے جواز کا اعتقاد آثم بلکہ مشرک ہے سنا اس کی حجۃ اللہ البالغہ مولفہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی صفحہ ۲۱ میں موجود ہے۔ قال ومنہا ای من مظان الشریک ہم كانوا یستعینون بغير الله فی حوائجهم من شفاء المریض وغناء الفقیر وینذرون لهم یتوفعون انجاح مقاصد ہم بتلك النذور ویتلون اسماء ہم رجاء ببر کتھا فواجب الله علیہم ان یقولوا فی صلواتہم ایاک نعبدو ایاک نستعین وقال الله تعالیٰ فلا تدعوا مع الله احداً وليس المراد من الدعاء العبادة كما قاله بعض المفسرین بل مراده الاستعانة بقوله تعالیٰ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون (۱) اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی اس مضمون کو صراحتاً ارشاد الطالین میں ذکر کیا ہے۔

مسئلہ: انچہ جہال میگویند یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی شینا اللہ جائز نیست شرک و کفر است حق تعالیٰ فرماید والذین تدعون من دون الله عباد امثالکم انتھی۔ (۲) اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب کی تقریر بھی بعض حواشی میں صراحتاً اسی مضمون پر دال ہے۔ میگویند۔

حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا پڑھنا وہ استعانت جو کفر ہے اس کی تصریح

(۳) تم اپنے مقصد کے واسطے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پانچ سو بار پڑھا کرو خواہ ایک جلسہ میں خواہ متفرق جلسات میں کوئی قید اور کوئی پرہیز اس میں نہیں نہ وقت مقرر ہے فقط۔ مرزا حفظ اللہ بیگ صاحب سلمہ بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائندہ استعانت جو کفر ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا کام کر دو اور یہ کہ دعا کرو کہ میرا کام حق تعالیٰ کر دیوے کفر نہیں مگر جو منکر سماع ہیں وہ منع کرتے ہیں بسبب لغو ہونے کے اور عدم ثبوت کے سنت سے اور مجوزین جائز کہتے ہیں بسبب سماع کے ثبوت

(۱) اور فرمایا اور اسی سے یعنی شرک کے مواقع گمان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ غیر اللہ سے اپنی حاجتوں میں جیسے مریض کی شفاء اور فقیر کے غناء کے لئے مدد مانگتے تھے اور ان کے لئے نذر مانتے تھے اور ان نذروں سے اپنے مقصد کے پورا ہونے کی امید رکھتے۔ اور ان کے ناموں کی تلاوت کرتے تھے اس کی برکت کی امید سے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب کر دیا کہ اپنی نمازوں میں اس طرح کہیں کہ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو“ اور دعا سے مراد عبادت نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا بلکہ اس سے مراد مدد مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی بناء پر کہ ”بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو تو پھر وہ تم کو کھول دیتا ہے وہ چیز جو تم مانگتے ہو“ (۲) یہ جو نادان کہتا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی شینا اللہ جائز نہیں ہے شرک و کفر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔“

کے ان کے نزدیک اور ثبوت اس کی اصل کے پس یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ فقط

### استحلال معصیت کی صراحت، عورت کا زینت کے ساتھ نکلنا۔

(۴) استحلال معصیت یہ ہے کہ اس کو مباح جانے لہذا خوف اس پر عذاب کا مطلقاً جائز ہے بلکہ جائز جانے نہ یہ کہ دل میں غیر جائز جان کر کچھ اندیشہ غالب نہ ہو یا اس قدر علم ہو کہ یہ فعل اچھا نہیں یہ بھی استحلال نہیں اور استحلال بھی اس معصیت کا کفر ہے کہ ثبوت معصیت کا نص قطعی الثبوت قطعی الدلالة سے ہو اور حرمت بھی اس کی بعینہ ہو نہ بغیرہ اور اگر ان تینوں سے کوئی مرفوع ہو جاوے گی تو کفر نہ ہو گا لہذا کم ایسے لوگ ہو ویں گے جو کفر کے درجہ کو پہنچیں گے فقط اور زینت سے خروج جو ممنوع ہو ہے تو رفع فتنہ کے واسطے ہے اگر فتنہ کا محل ہے تو ہر حال خروج ممنوع ہے خواہ باذن زوج ہو خواہ بالا اذن اور جو فتنہ کا محل و اندیشہ نہیں تو ہر حال درست ہے اگر باذن ہے اور بدون اذن خروج درست نہیں بس اس پر ہی مدار جواز و عدم جواز کا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم والسلام۔

### عمیدین کے درمیان نکاح

(۵) درمیان عمیدین کے نکاح کرنا سنت اور موجب برکت کا ہے رسول اللہ ﷺ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شوال میں ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے عزیزوں کا نکاح شوال میں کراتی تھیں پس اس نکاح کو منحوس جاننا جہل و فسق ہے اور سنت رسول اللہ ﷺ سے مخالفت اور عداوت ہے ایسے اقوال سے توبہ کرنی چاہئے ورنہ فعل سنت کے برا جاننے سے کافر ہو جاوے گا اور ایسا قول سخت احمق جاہل بکتاب ہے۔ عالم ایسی بات نہیں کہتا واللہ تعالیٰ اعلم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کتاب العقائد

### اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت

(سوال) ذات باری تعالیٰ عز اسمہ موصوف بھفت کذب ہے یا نہیں اور خدائے تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں اور جو شخص خدائے تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے۔

(جواب) ذات پاک حق تعالیٰ جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بھفت کذب کیا جاوے معاذ اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں ہرگز ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ومن اصدق من اللہ قیلاً (۱) جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعاً کافر ہے اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے وہ ہرگز مومن نہیں تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علواً کبیراً (۲) البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا سب کا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے مثل فرعون و ہامان و ابی لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے وہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کرے گا۔ مگر وہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت دے دیوے عاجز نہیں ہو گیا قادر ہے اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہ کرے گا۔ قال اللہ تعالیٰ ولو شئنا لا تینا کل نفس ہلہا ولكن حق القول منی لا ملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین (۳) اس آیت سے واضح ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا سب کو مومن کر دیتا مگر جو فرما چکا ہے اس کے خلاف نہ کرے گا اور یہ سب اختیار سے ہے اضطرار سے نہیں وہ قائل مختار فعال لما یرید ہے، (۴) یہ عقیدہ تمام علماء امت کا ہے۔ چنانچہ بیضاوی میں تحت تفسیر قولہ تعالیٰ۔

لکھا ہے کہ عدم غفران شرک کا مقتضی وعید کا ہے ورنہ کوئی امتناع ذاتی نہیں اور یہ ہے عبارت اس کی و عدم غفران الشرک مقتضی الوعد فلا امتناع فیہ لذاتہ (۵) واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ سے بڑھ کر سچ کہنے والا کون ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ اس کلام سے جو ظالم کہتے ہیں پاک ہے اور بہت پاک۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر ہم چاہیں تو ہر نفس کو ہدایت دے دیں لیکن میری طرف سے قول ثابت ہو گیا کہ میں جہنم کو تمام جن و انس سے بھر دوں گا۔ (۴) جو چاہے کرنے والا۔ (۵) اور شرک کا معاف نہ ہونا وعید کا مقتضی ہے لہذا اس میں اس کی ذات کے لئے امتناع نہیں۔

## اللہ کی طرف بالفعل جھوٹ کی نسبت

(سوال) بسم الله الرحمن الرحيم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ما قولکم دام فضلکم فی ان الله تعالیٰ هل يتصف بصفة الکذب ام لا ومن يعتقد انه یکذب كيف حکمه افتونا ما جورین۔ (۱)

(جواب) ان الله تعالیٰ منزہ من ان يتصف بصفة الکذب وليست فی کلامه شائبة الکذب ابداً كما قال الله تعالیٰ ومن اصدق من الله قیلا ومن يعتقدو يتفوه بانه تعالیٰ یکذب فهو کافر ملعون قطعاً ومخالف الكتاب والسنة واجماع الامة تعالیٰ الله عما یقول الظالمون علواً کبیراً۔ نعم اعتقاد اهل الايمان ان ما قال الله تعالیٰ فی القرآن فی فرعون و هامان و ابی لهب انهم جهنمیون فهو حکم قطعی لا یفعل خلافه ابداً لکنه تعالیٰ قادر علی ان یدخل الجنة وليس بها جزعن ذلك ولا یفعل هذا مع اختیاره قال الله تعالیٰ ولو شئنا لا تینا کل نفس هذ بها ولكن حق القول منی لا ملتن جهنم من الجنة والناس اجمعین فیتبین من هذه الاية انه تعالیٰ لو شاء لجعلهم کلهم مومنین ولكنه لا یخالف ما قال وقد ذلك بالاختیار لا بالا اضطرار وهو فاعل مختار فعال لما یرید هذه عقيدة جمیع علماء الامة كما قال البیضاوی تحت تفسیر قوله تعالیٰ ان تغفر لهم الخ وعدم غفران الشرک مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته والله تعالیٰ اعلم بالصواب (۲)

کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ

(۱) آپ کا کیا قول ہے آپ کی فضیلت ہمیشہ باقی رہے اس بات میں کہ کیا اللہ تعالیٰ صفت کذب سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں اور جو یہ اعتقاد رکھے کہ وہ جھوٹ کہہ سکتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے توئی دیجئے اجر حاصل کیجئے۔  
(۲) ترجمہ: بے شک کہ اللہ تعالیٰ صفت کذب سے متصف ہونے سے منزہ ہے اور اس کے کلام میں جھوٹ کا شائبہ کبھی نہیں جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ”اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہے“ اور جو شخص کہ یہ اعتقاد رکھے اور زبان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کہتا ہے تو وہ قطعی کافر و ملعون ہے اور کتاب اوسنت اور اجماع امت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے جو ظالم کہتے ہیں انتہائی پاکی ہے ہاں اور اہل ایمان کا اعتقاد اس بارے میں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرعون و ہامان و ابی لهب کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جہنمی ہے وہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف وہ کبھی نہ فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ذات پاک اس پر قادر ہے ان کو جنت میں داخل کر دے اور وہ اس سے عاجز نہیں ہے لیکن باوجود اختیار کے وہ ایسا نہ کرے گا۔ ارشاد الہی ہے اور اگر ہم چاہیں تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیں لیکن میرا قول صحیح ہے کہ میں جنم کو جن و انس سب سے مہر دوں گا۔ تو اس آیت سے ظاہر ہوا کہ وہ ذات پاک اگر چاہے تو سب کو مومن بنا دے لیکن وہ خلاف اپنے قول کے نہ کرے گا اور یہ اعتبار سے ہے نہ کہ مجبوری سے اور وہ قائل مختار ہے جو چاہتا ہے کہ اسے یہ عقیدہ تمام علماء امت کا ہے جیسا کہ بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر کے تحت کہا ہے ان تغفر لهم (الروحان کو بخش دے) اور شرک کا نہ بخشا جائے عید کا مقتضی ہے تو اس میں اس کے ذات کے لئے کوئی منع نہیں ہے۔

## خلاصہ تصحیح علماء مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ

الحمد لمن هو به حقیق ومنه استمدد العون والتوفیق ما اجاب به العلامة رشید احمد المذکور هو الحق الذی لا محیص عنه وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم امر برقمه خادم الشریعة راجی اللطف الخفی محمد صالح بن المرحوم صديق کمال الحنفی مفتی المکرمة حالا کان الله لهما راقمه المرتجی من ربه کمال النیل محمد سعید بن محمد یابصیل مفتی الشافعیة بمکة المحمیه غفر الله له ولو الیدیه ومشاخه وجميع المسلمين الراجی العفو من واهب طیه محمد عابدين المرحوم الشیخ حسین الما لکیه ببلدة الله المحمیه مصلیاً مسلماً هذا وما اجاب به العلامة رشید احمد فیہ الکفایة و علمه المعول بل الحق الذی لا محیص عنه رقمه الخیر خلف بن ابراهیم خادم افتاء الحنابلة بمکة المشرفة حالا حامداً مصلیاً ومسلماً.

نقل خط حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفہ در مسئلہ امکان کذب برفع شبہات مولوی نذیر احمد خان صاحب رامپوری (شبہ) براہین قاطعہ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے اس مسئلہ کی وجہ سے کتب الہیہ میں احتمال جھوٹ کا پیدا ہو سکتا ہے یعنی مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ قرآن ہی جھوٹا ہے اور اس کے احکام ہی غلط ہیں اور براہین قاطعہ کی اس تحریر کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہو گئے۔ از فقیر امداد اللہ چشتی فاروقی عفی اللہ عنہ بخدمت مولوی نذیر احمد خان صاحب بعد سلام تحیہ اسلام آنکہ آپ کا خط آیا مضمون سے مطلع ہوا۔ ہر چند کہ بعض وجوہ سے عزم تحریر جواب نہ تھا مگر بغرض اصلاح اور توضیح مطلب براہین قاطعہ بالا اختصار کچھ لکھا جاتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نفع پہنچا دے ان ارید الا الا صلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ .

(جواب) واضح ہو کہ امکان کذب کے جو معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ تو بالاتفاق مردود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وقوع کذب کا قائل ہونا باطل ہے اور خلاف ہے نص صریح ومن اصدق



من الله حديثاً وان الله لا يخلف الميعاد. (۱) وغیر ہما آیات کے وہ ذات پاک مقدس ہے شائبہ نقص کذب وغیرہ سے۔ رہا خلاف علماء کا جو دربارہ وقوع وعدم وقوع خلاف وعید ہے جس کو صاحب براہین قاطعہ نے تحریر کیا ہے۔ وہ دراصل کذب نہیں صورت کذب ہے اس کی تحقیق میں طول ہے الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے اگرچہ وقوع اس کا نہ ہو امکان کو وقوع لازم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بالذات ہو اور کسی وجہ خارجی سے اس کو استحالة لاحق ہو۔ چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں پس مذہب جمیع محققین اہل اسلام و صوفیائے کرام و علماء عظام کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ ہے پس جو شبہات آپ نے وقوع کذب پر متفرع کئے تھے وہ مندرج ہو گئے کیونکہ وقوع کا کوئی قائل نہیں یہ مسئلہ دقیق ہے عوام کے سامنے بیان کرنے کا نہیں اس کی حقیقت کے ادراک سے اکثر انباء زماں قاصر ہیں۔ آیات و احادیث کثیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے ایک ایک مثال قرآن و حدیث کی لکھی جاتی ہے ایک جگہ ارشاد جناب باری ہے۔ القادر علی ان یبعث علیکم عذابا الایة دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما کان الله لیعذبہم وانت فیہم الایة (۳) آیت ثانیہ میں نفی عذاب کا وعدہ فرمایا اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے خلاف ہو تو کذب لازم آئے مگر آیت اولیٰ سے اس کا تحت قدرت باری تعالیٰ داخل ہونا معلوم ہوا پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل و اعلیٰ ہے کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیور (۴) احادیث کو دیکھئے کہ عشرہ مبشرہ مثلاً بالیقین جنتی بارشاد نبوی جو ہفتینہ وحی الہی جل و علی ہے ہو چکے پر چونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ خدائے پاک مجبور نہیں اس لئے نظر بتدرت و جلال کبریائی ڈرتے ہی رہے بلکہ خود سرور کائنات علیہ و علی آلہ الصلوٰت و التسلیمات جن کی شان میں لیغفر لک الله ماتقدم من ذنبک وما تاخر (۱) فرماتے رہے والله ما ادری وانا رسول الله ما یفعل بی ولا بکم (۲) اور کما قال الله تعالیٰ

(۱) اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جہ کہنے والا کون ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔

(۲) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے۔

(۳) اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا جب کہ آپ ان میں موجود ہیں۔

(۴) اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(۱) تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔

(۲) خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

یحق الحق وهو یهدی السبیل (۱)

## علم غیب الہی

(سوال) علم غیب وصفات رحمان وقدوس جل شانہ مختصہ بجناب باری تعالیٰ کے ہے یا نہ۔  
 (جواب) علم غیب خاصہ حضرت حق است جل شانہ خاصہ (۲) الہی مایوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ  
 عقیدہ فقیر ہمین است (۳) فقیر غلام فرید بقلم خود سکنہ کوٹ مٹھن وچاچڑان ریاست بہاولپور از  
 بندہ رشید احمد عفی عنہ۔ بندہ کو آپ کے کارڈ کا مضمون معلوم ہوا جو کچھ آپ نے لکھا ہے۔ وہ  
 درست ہے۔

علم غیب خاصہ حق تعالیٰ ہے اس لفظ کو کسی تاویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا ایہام شرک  
 سے خالی نہیں۔

## علم غیب الہی

(سوال) ایک شخص مثلاً زید کہتا ہے کہ حضرت رسول کریم ﷺ کو بہت اقوال گذشتہ و آئندہ اللہ  
 تعالیٰ کے بتلانے سے معلوم ہوئے بطور کشف اور خواب اور وحی اور الہام کے اور بعضے وقت میں  
 احوال اس چیز کا کہ زمین و آسمان میں ہے معلوم ہوا اور اب بھی سلام اور درود امت کی طرف سے  
 دور دور سے فرشتے حضرت کی خدمت میں لے جاتے ہیں لیکن علم محیط کل شے کا حضرت کو حاصل  
 نہیں ہے بلکہ علم جس چیز کا جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا بخشا اور ایک شخص مثلاً عمرو کہتا ہے کہ علم  
 دائمی کل شی کا حضرت کو حاصل ہے اللہ کا بخشا ہوا اور حضرت ہمیشہ ہر جگہ ناظر اور حاضر اور ہر چیز کا  
 احوال ہر وقت حضرت جانتے ہیں آیا ان دونوں قولوں میں کس کا قول حق اور صحیح ہے اور کس کا  
 قول باطل اور کفر ہے۔

(جواب) علم اللہ تعالیٰ کا ازلی اور ابدی اور محیط کل شے کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے  
 اور اس طرح علم اور قدرت خاصہ حق تعالیٰ کا ہے کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا خواہ نبی ہو خواہ  
 ولی ہو اور اس بات پر اعتقاد رکھنا شرک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور عبادت میں اور کو شریک

(۱) اللہ تعالیٰ حق کو حج کرے گا اور وہی راستہ کی ہدایت کرتا ہے۔

(۲) شئی کی خصوصیت کا یہی مطلب ہے کہ اس میں موجود ہوا اور اس کے غیر میں نہ ہو۔

(۳) فقیر کا عقیدہ یہی ہے۔

کرنا ہاں بعض واقعات گذشتہ اور حوادث آئندہ کا احوال اس کے بندگان خاص کو اللہ کے بتلانے سے حاصل ہوتا ہے سو اس طرح کا علم حضرت ذات مقدس میں سب سے کامل تر ہے نہ یہ کہ مانند علم خدا تعالیٰ کے ہووے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل لا اقول لكم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب. الا یہ. (۱) پس جو زید کہتا ہے وہ حق ہے اور عمرو جو کہتا ہے باطل ہے فقط محمد صدر الدین حررہ اُسکین محمد صدر الدین دہلوی۔ ۱۳۳۰ صدر صدور۔

(الجواب) صحیح۔ بعض شخص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ﷺ کو آخر عمر میں کل غیب عنایت فرمائے ہیں سو یہ بات محض غلط ہے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت ﷺ قیامت کے دن اپنی امت کو تین نشانیوں سے پہچانیں گے ایک تو نورانیت اعضاء و ضو سے دوسرے داہنے ہاتھ ہونا نامہ اعمال کا اور تیسرے آگے دوڑنا اولاد کا اور قیامت کے دن بعضہ شخصوں کو حضرت پہنچا نہیں گے اور فرشتے ان کو دور کریں گے حضرت فرمائیں گے یہ لوگ میرے ہیں فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں چنانچہ پھر حضرت بھی ان سے بیزار ہوں گے مفصل یہ مضمون دریافت کرنا چاہئے تو مشکوٰۃ شریف میں کتاب الطہارت اور باب الحوض و الشفاعت کی حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہے کہ جناب حضرت ﷺ کو قیامت تک بھی علم محیط کل شیء کا حاصل نہیں اور ایسا علم خاصہ جناب باری تعالیٰ کا ہے والسلام علی من اتبع الهدی۔

محمد قطب الدین عفی عنہ	محمد قطب الدین عبدہ	دہلوی
یہ مسئلہ صحیح ہے	الجواب حق	سید محمد زید حسین
محمد کریم اللہ	۱۳۳۱	۱۳۸۱
محمد عبدالکریم	۱۳۳۱	محمد عبدالملق
۱۳۳۱	تقریر محمد رمضان	۱۳۸۲
سندھی	پلوڑیوی	۱۳۸۲
	۱۳۸۲	۱۳۸۲

دیدار الہی

(سوال) حضرت محمدؐ نے اللہ پاک کو دیکھا ہے یا نہیں؟

(جواب)۔ رسول اللہ ﷺ نے اللہ پاک کو دیکھا ہے۔ فقط

(۱) کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اس کے خزانے ہیں اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔

## لوجہ اللہ صدقہ کا اظہار

(سوال) اگر صدقہ محض اللہ کے واسطے ہو مگر بدنامی بخل سے محفوظ رہنے کے لئے اظہار منظور ہو تو ثواب میں کمی تو نہ ہوگی۔

(جواب) جو صدقہ وہیہ لوجہ اللہ ہو اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے اور جو اور وجہ کا شائبہ ہوگا اسی قدر اجر میں بھی کمی ہوگی۔ فقط

## دعا کرتے وقت بخت فلاں کہنا

(سوال) دعا میں بخت رسول اللہ و ولی اللہ کہنا ثابت ہے یا نہیں۔ بعض فقہاء محدثین منع کرتے ہیں اس کا کیا سبب ہے۔

(جواب) بخت فلاں کہنا درست ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرمایا ہے اس کے ذریعے سے مانگتا ہوں مگر معتزلہ اور شیعہ کے نزدیک حق تعالیٰ پر حق لازم ہے اور وہ بخت فلاں کے یہی معنی مراد رکھتے ہیں سو ان واسطے معنی موہم اور مشابہ معتزلہ ہو گئے تھے لہذا فقہاء نے اس لفظ کا بولنا منع کر دیا ہے تو بہتر ہے کہ ایسا لفظ نہ کہے جو رافضیوں کے ساتھ شائبہ ہو جائے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## کفار کے حقوق

(سوال) حقوق العباد جو مسلمانوں کے گناہ ہوتے ہیں اس کے بدلہ تو یوں ہو جائے گا کہ اس کی نیکیاں صاحب حق کو دلائی جائیں گی اور در صورت نیکیاں نہ ہونے کے اس صاحب حق کے گناہ اس کو دیئے جائیں گے اگر کافر کا حق ہے تو اس صورت میں کیا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاوے گا۔

(جواب) حقوق کفار کے عوض عذاب کیا جاوے گا کہ خلاف حکم حق تعالیٰ کے کیا اور کفار کو کچھ نہ ملے گا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا ہے میں خاصہ ذمی کافر کی تکلیف دہی میں کروں گا واللہ اعلم۔

## بشریت رسول کا مطلب

(سوال) سرور عالم ﷺ ہمارے کس بات میں مثل ہیں کیا یہ بات ہے کہ جملہ بشریت

میں حضور ﷺ ہمارے مثل ہیں صرف نبوت کا فرق ہے یا یہ کہ حضور کی بشریت ہماری بشریت سے کچھ افضل ہے اور اگر بالفرض افضل ہے تو کس قدر جیسے بڑے بھائی کا مرتبہ یا اس سے بھی کچھ کم و بیش اور جو شخص یہ کہے کہ سرور عالم ﷺ کی بشریت ہماری بشریت سے اس قدر افضل ہے کہ جیسے بڑے بھائی کا مرتبہ تو یہ قول اس کا قابل تسلیم ہے یا نہیں۔

(جواب) نفس بشر ہونے میں مساوات ہے اگرچہ آپ کی بشریت از کئی واطیب ہے، اور بڑا بھائی کہنا بھی اس نفس بشریت کی وجہ سے ہے نہ یہ کہ بشریت کی افضلیت ایسی ہے چونکہ حدیث میں آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو بایں رعایت تقویۃ الایمان میں اس لفظ کو لکھا ہے نہ بایں وجہ کہ آپ کی بشریت کا فضل بڑے بھائی کے فضل کی قدر ہے اس کلمہ پر نا فہموں نے غل مچا دیا اور نہ بعد حق تعالیٰ کے فخر عالم کو فضل واکمل وہ خود لکھتے ہیں۔

### انبیاء کا علم غیب

(سوال) زید کہتا ہے کہ حضرت ﷺ کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی سے پہلے معلوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تہمت منافقین سے بری ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام فلاں مقام پر ہیں اور عمر و کہتا ہے کہ حضرت ﷺ کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے پہلے یہ علم نہ تھا۔ فرمائیے کہ زید کا کہنا اور عقیدہ ٹھیک ہے یا عمر و کا اگر زید کا کہنا اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عمر و کو زید کے پیچھے نماز پڑھنی کیسی ہے جائز ہے یا مکروہ اور مکروہ ہے تو کس قسم کی کراہت ہے جواب اس کا بحوالہ کتب احادیث و روایت فقہ حنفیہ کے صاف تحریر فرمائیے۔

(جواب) قبل نزول وحی کے جناب رسول اللہ ﷺ کو اور علی ہذا حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کچھ معلوم نہ تھا۔ بعد وحی کے معلوم ہوا اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو یہ اضطراب و حیرانی کیوں ہوتی پس عقیدہ عمر و کا درست ہے اور زید کا غلط ہے پس اگر عقیدہ زید کا اس سبب سے ہے کہ آپ کو حق تعالیٰ نے علم دیا تھا تو ایسا سمجھنا خطا صریح ہے اور کفر نہیں اور جو یہ عقیدہ ہے کہ خود بخود آپ کو علم تھا بدون اطلاع حق تعالیٰ کے تو اندیشہ کفر کا ہے لہذا پہلی شق میں امامت درست ہے دوسری شق میں امام نہ بنانا چاہئے اگرچہ کافر کہنے سے بھی زبان کو روکے اور تاویل کرے فقط واللہ اعلم۔

الجواب صحیح محمود حسن غفرلہ العجیب مصیب محمد اسماعیل بیگ عفی عنہ الجواب صحیح۔  
 حد الجواب حق والحق بالاتباع حقیق سید محمد عبدالرشید محمد اسماعیل۔

شکفتہ محمد گل بینظیر مدرس مدرسہ امدادیہ مراد آباد الجواب صحیح محمد جان علی

حضرت ﷺ کا کمال خاطر ہونا بوجہ اتہام منافقین کے اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا کہ مجھ پر اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ خداوند تعالیٰ نے میری بریت اور عصمت نازل فرمائی اور بعد اس کے رسول اللہ ﷺ کا منافقین متہمین کو سزا کا فرمانا چنانچہ ماہر علم حدیث پر روشن و ہویا ہے یہ دلیل بین ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کو قبل نزول وحی کے علم نہ تھا۔ پس قول زید کا صحیح نہیں ہے قول عمرو کا درست ہے واللہ اعلم و علمہ اتم محمد ابو الفضل عفی عنہ۔

اصاب من اجاب۔ اصاب من اجاب۔ مشہور فضل محمد امام مسجد چونکہ حسن خاں مراد آباد محمد احتشام الدین عفی عنہ، محمد دایم علی عفی عنہ، محمد احتشام مہر الدین خادم الموحدین ۱۲۹۲ھ۔ فی الحقیقت اعتقاد عمرو صحیح و درست ہے اور عقیدہ زید مخالف نصوص ہے اور ایک قسم کا بہتان و افتراء نسبت جناب رسالت مآب محمد ﷺ اور حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت فرمائے۔ فقط محمد قاسم علی عفی عنہ۔ محمد قاسم علی خلیف مولانا عالم علی ۱۲۹۲ھ امام و مفتی شہر مراد آباد۔

چونکہ عرف میں علم یقینی ہی کو علم کہتے ہیں پس ثبوت نزول وحی سے پیشتر نفی علم کے لئے کافی ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کو قبل وحی کے علم براءت نہ تھا چنانچہ حدیث افک سے علم کا نہ ہونا عمدہ طور سے ثابت ہے۔ حررہ عبد الرحمن کان اللہ لہ ولوالدہ یہ۔

فی الواقع عقیدہ عمر و نہایت صحیح و درست موافق کتاب اللہ و کتاب الرسول کے ہے اس لئے کہ جو کچھ رسول کو معلوم ہوتا ہے وہ بغیر وحی کے معلوم ہی نہیں ہو سکتا پھر زید کا کہنا کہ قبل وحی کے دونوں پیغمبر علیہا السلام کو یہ قصہ معلوم تھا بالکل خلاف عقل و نقل ہے محمد ہدایت العلی عفی عنہ، لکھنوی۔

نبی کو پکارنا

(سوال) سرور عالم ﷺ کو جو شخص بغیر حاضر و ناظر جانے پکارے اور مثلاً اس قسم کے اشعار پڑھے۔

ترحم یا نبی اللہ رحم۔ ز مجبوری برآمد جان عالم (۱) جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) ایسے اشعار میں شرکت تو نہیں ہے مگر عوام کو موجب اضلال کا ہو جاتا ہے لہذا کسی کے

(۱) رحم اللہ کے نبی رحم جدائی کے صدمہ دنیا کی جان نگیل جا رہی ہے۔

رو برو نہ پڑھے اور بایں خیال پڑھے کہ حق تعالیٰ اس میری عرض کو فخرِ عالم علیہ السلام کے پیش کر دیوے فقط۔

## تشہد میں صیغہ خطاب کی تبدیلی

(سوال) بعد وفات رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے تشہد میں صیغہ خطاب السلام علیک ایہا النبی کی بجائے السلام علی النبی صیغہ غائب سے بدل لیا تھا چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے اور فتح الباری وغینہ وغیرہ شراح حدیث اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے صیغہ تعلیمیہ خطاب کو بدل دیا اور پسند نہ کیا تو معلوم ہوا کہ خطاب غائب کو دینا جائز ہے یا اولیٰ نہیں بہر حال صلوٰۃ و سلام میں یا تشہد میں خطاب کا نہ کہنا افضل ہے۔ جیسا کہ صحابہ کا معمول تھا یا نہیں جیسا کہ معمول زمانہ ہے اگر نہیں ہے تو وجہ کیا ہے۔

(جواب) اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام خود خطاب سلام کا سنتے ہیں وہ کفر ہے۔ خواہ السلام علیک کہے یا السلام علی النبی کہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ سلام و صلوٰۃ آپ کو پہنچایا جاتا ہے ایک جماعت ملائکہ کی اس کام کے واسطے مقرر ہے جیسا احادیث میں آیا ہے تو دونوں طرح پڑھنا مباح ہے پس بعد اس کے سنو کہ اگر ابن مسعود نے بعد وفات شریف کے صیغہ بدل دیا تو کوئی حرج نہیں کسی مصلحت کو یہ کیا ہوگا اور جو اصل تعلیم کے موافق پڑھا جائے جب بھی حرج نہیں کہ مقصود حکایت ہے دیکھو کہ حیات فخر عالم علیہ السلام میں بھی لوگ دور دور اپنے بیوت میں اور مکہ اور بلاد بعیدہ میں خطاب کے لفظ سے پڑھتے تھے جیسا وہاں خطاب درست تھا اب بھی کیا وجہ ہے جو حرام ہو علم غیب نہ وہاں تھا نہ یہاں بلکہ آپ کو جب بھی ملائکہ پہنچاتے تھے اور اب بھی لہذا صیغہ کو خطاب سے بدلنا کوئی ضرورت نہیں اور اس میں تقلید بعض صحابہ کی ضرورت نہیں ورنہ خود آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد میرے انتقال کے خطاب مت کرنا بہر حال صیغہ خطاب رکھنا اولیٰ ہے کہ اصل تعلیم اس طرح ہے اور مراد بعض صحابہ کی کسی مصلحت کی وجہ سے تھی یا اجتہاد تھا یا استحباباً تھا نہ جو باسی واسطے جملہ فقہاء ائمہ اربعہ کے متمدہب اس صیغہ کو نقل فرماتے ہیں اور تبدیل صیغہ کی ضرورت نہیں لکھتے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

بلا عقیدہ غیب نبی کو پکارنا

(سوال) اشعار اس مضمون کے پڑھنے۔

یار سول کبریا فریاد ہے  
یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے  
مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ  
میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے

کیسے ہیں۔

(جواب) ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بایں خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرمادے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہیں۔ اور عقیدہ عالم الغیب اور فریاد رس ہونے کے شرک ہیں اور مجامع میں منع ہیں کہ عوام کے عقیدہ کو فاسد کرتے ہیں لہذا مکروہ ہوویں گے واللہ تعالیٰ اعلم۔

رسول اللہ ﷺ کا علم غیب

(سوال) قصبہ ہذا میں ایک میاں صاحب وارد ہوتے ہیں۔ پیری مریدی کرتے ہیں مولانا افضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی قدس سرہ کے مرید خلیفہ حاجی عالم صوفی حافظ اپنے کو بتلاتے ہیں رفتہ رفتہ ان کی بزرگی کا شہرہ ہوا۔ عوام کے سامنے وعظ نصیحت فرماتے ہیں رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کو عالم الغیب بتلاتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو غیب تھا۔

(جواب) حضرت ﷺ کو علم غیب نہ تھا نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا اور کلام اللہ شریف اور بہت سی احادیث میں موجود ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے فقط والسلام۔

رحمۃ للعالمین

(سوال) لفظ رحمۃ للعالمین مخصوص آنحضرت ﷺ سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں۔

(جواب) لفظ رحمۃ للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علماء ربانین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ ﷺ سب میں اعلیٰ ہیں لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے۔ فقط

شفاعت کبریٰ

(سوال) شفاعت کبریٰ کا وعدہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا باقی اذن من جانب اللہ دوتا ہے یا



نہیں یا بدون اجازت و حکم خداوند ذوالجلال رسول اللہ ﷺ شفاعت کریں گے۔  
 (جواب) کوئی شفاعت بغیر اذن کے نہیں ہو سکتی من ذالذی یشفع عنده الا باذنه۔  
 ترجمہ:- کون ہے ایسا جو شفاعت کر سکے اس کے پس بدون اذن کے پاس اس ذات  
 ذوالجحد والکبریا کی بارگاہ میں کسی کی جرأت زبان ہلانے کی بدون اجازت کے نہیں ہوئے گی۔ فقط

حضور کے والدین کا اسلام

(سوال) ہمارے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے والدین مسلمان تھے یا نہیں۔  
 (جواب) حضرت ﷺ کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے حضرت امام صاحب کا مذہب یہ  
 ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے۔ فقط

مزارات اولیاء سے فیض

(سوال) مزارات اولیاء رحمہم اللہ سے فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کس صورت  
 سے۔

(جواب) مزارات اولیاء سے کاملین کو فیض حاصل ہوتا ہے مگر عوام کو اس کی اجازت دینی ہرگز جائز  
 نہیں ہے اور تحصیل فیض کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے جب جانے والا اہل ہوتا ہے تو اس طرف  
 سے۔ سب استعداد فیضان ہوتا ہے مگر عوام میں ان امور کا بیان کرنا کفر و شرک کا دروازہ کھولنا ہے

فتیٰ۔  
 اولیاء علی کرامات

(سوال) مولانا روم فرماتے ہیں۔

ہست قدرت اولیاء لازالہ  
 تیر جتہ باز گرداند زراہ

(جواب) کرامت اولیاء حق ہے اور کرامت خرق عادت کو کہتے ہیں جب حق تعالیٰ چاہے اولیاء  
 سے ایسا کر دیوے۔ یہی مطلب شعر کا ہے۔

اولیاء کی کرامات

(سوال) اولیاء اللہ کو عالم کی سیر کرانا مثلاً مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ بلا اسباب ظاہر کے یہ ممکن  
 اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت حاصل ہے کہ نکلے ہوئے تیر کو راستہ سے پھیر دیتے ہیں۔

اور کرامات ہے یا نہیں ایسی بات کا اگر کوئی انکار کرے تو گنہگار ہوگا یا نہیں۔

(جواب) یہ کرامات اولیاء اللہ سے ہوتی ہے اور حق ہے کہ کرامت خرق عادت کا نام ہے اس میں کوئی تردد کی بات نہیں اس کا انکار گناہ ہے کہ انکار کرامت کرتا ہے اور کرامت کا حق ہونا عقیدہ اجماع اہل سنت کا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

اولیاء و شہداء کے عذاب قبر کا مسئلہ

(سوال) عدم سوال قبر مخصوص شہدائے مقتولین سے ہی ہے یا ہر قسم شہداء سے اور اولیاء اللہ بھی بمرتبہ شہداء اور داخل تحت آیت بل احياء عند ربهم ہیں یا نہیں کیونکہ وہ مجاہد فی انفس ہیں کہ یہ جہاد اکبر ہے فقط۔

(جواب) اولیاء کرام بھی بحکم شہداء ہیں اور مشمول آیت بل احياء عند ربهم (۲) کی ہیں اور سوال قبر نہ ہونا شہداء سے بندہ کو معلوم نہیں مگر ہاں حدیث میں آیا ہے کہ شہید کو عذاب قبر سے امن دی جاتی ہے اور یہ فضیلت اولیاء عظام کے واسطے بھی ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

بڑے پیر کی کرامات

(سوال) یہ قصے مشہور ہیں کہ جس وقت حضرت بڑے پیر صاحب کو قبر میں دفن کیا اور نکیرین آئے تو بڑے پیر صاحب نے نکیرین کا ہاتھ پکڑ لیا اور بجائے جواب دینے کے سوال کرنا شروع کئے اور نکیرین کو اس کا جواب دینا غیر ممکن تھا۔ بکجوری نکیرین نے جناب باری میں جا کر عرض کیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ جناب باری نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم اس کا جواب نہ دے سؤ گے اور تمہارے واسطے خوب ہوا جو اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اور دوسرا قصہ یہ مشہور ہے کہ ایک عورت بڑے پیر صاحب کی خدمت میں گئی اور عرض کیا کہ میرے لڑکا نہیں ہوتا۔ بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ جاتیرے ساتھ بیٹے ہوں گے چنانچہ اس کے سات بیٹے ہوئے حالانکہ اس کی تقدیر میں ایک لڑکا بھی نہیں تھا اور تیسرا قصہ یہ مشہور ہے کہ ہر ماہ نو قیل رویت کے بڑے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور یہ کہتا کہ مجھ میں اب کے اس قدر خدا صاحب نے نقصان رکھے ہیں اور اس قدر نفع رکھے ہیں اور چوتھا قصہ یہ مشہور ہے کہ ایک روز آپ ممبر پر بیٹھ کر وعظ

فرماتے تھے یکا یک کھڑے ہو گئے اور فرمایا سب اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے اور اس وقت جس قدر اولیاء جمع تھے سب نے پائے مبارک بڑے پیر صاحب کے اپنی گردن پر رکھ لئے اور حلقہ اطاعت درگوش کیا۔ اور ایک ولی نے اس بات کا یقین نہیں کیا اور اس پر کچھ اعتراض کیا۔ ان کا حال تباہ و برباد ہو گیا اب استفسار طلب یہ امر ہے کہ آپ کے نزدیک یہ قصے صحیح ہیں یا غلط اور جو علماء ایسے قصوں کو صحیح بتاتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے اور جو علماء ان کو خلاف بتاتے ہیں ان کی کیا حجت ہے اور حضرت مخدومناہادینا حاجی محمد امداد اللہ صاحب مہاجر سلمہ اللہ تعالیٰ جو ضیاء القلوب صفحہ ۱۹ قرب نوافل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اما قرب نوافل انیست کہ صفات بشریہ سالک ازوئے زائل گرد و صفات حق تعالیٰ بروئے ظاہر آئند چنانچہ زندہ گردانہ مردہ رادیمیر اند زندہ را باذن اللہ تعالیٰ (۱) اور قرب فرائض ایسی ہی زیادہ نعمت ہے۔ اللہ صاحب جسے نصیب فرماویں اور حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہے ہو جاوے اب سائل یہ عرض کرتا ہے کہ ممکن نہیں بندہ خدا صاحب کے کسی کام میں دخل دے سکے بندہ چاہے کسی مرتبہ میں ہو بندہ ہے ہر وقت عاجز ہے مگر یہ مرتبہ قرب نوافل کا اور عارف کا حضرت بڑے پیر صاحب کو حاصل ہو گیا تھا یا نہیں اور جس شخص کو یہ مراتب حاصل ہو گئے ہوں اس سے ایسے قصوں کا وقوع ہو جانا کیوں غیر ممکن ہے اور خدا صاحب تقدیر کے خلاف کرنے پر بھی قادر ہے یا نہیں اور کبھی کبھی بندہ پر خدا صاحب بباغث کسی عتاب یا انعام اپنے کے اس کی تقدیر کے خلاف کر دیتے ہیں یا نہیں یا خدا صاحب کسی بندہ کے حق میں کسی بندہ خاص کی سفارش مان کر یا اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی تقدیر کے خلاف کر دیتے ہیں یا نہیں مثلاً نیک آدمی کی عمر دراز ہو نایا ظالم کی عمر کم ہونا یا باعث سینات مفسلی آجانا یا باعث خیرات بلاؤں کا رد ہو جانا وغیرہ وغیرہ اور حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر قصے مشہور ہیں کہ جس کو انہوں نے فرمایا کہ تو اندھا ہے تو وہ فوراً اندھا ہو جاتا اور جس کو فرمادیا کہ کیا تو مر گیا تو وہ فوراً مر رہا ہی ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ جو کچھ وہ فرماتے تھے فضل الہی۔۔۔ اس کا ہی طرح فوراً ظہور ہو جاتا تھا تو یہ قصے بھی صحیح ہیں یا خلاف اور وہ فرشتے کہ جن کو تکبیرین کہتے ہیں ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا اولیائے عظام امت محمد بہ ﷺ

(۱) لیکن نوافل کا قرب یہ ہے کہ صفات بشریہ سالک کے اس سے زائل ہو جائیں اور حق تعالیٰ کی صفات اس میں ظاہر ہوں چنانچہ مردہ کو زندہ کر دے اور زندہ کو مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔

(جواب) بزرگوں کی حکایات اکثر جبلاء نے غلط بنادی ہیں اور اگر کوئی واقعہ صحیح ایسا ہو کہ مفہوم نہ ہو وہ تو شطیحات کہلاتے ہیں جس کے معنی فہم میں کسی کے نہیں آتے اس کو نہ قبول کرے نہ رد کرے۔ سکوت کرے اور جو امور خلاف قاعدہ شرع کے ہیں ان کو رد کرنا چاہئے یا سکوت کرے اگر مصلحت ہو اور قرب فرائض قرب نوافل کا فہم اس کے اہل کا رتبہ ہے بندہ اس سے عاری ہے باقی یہ کہ حق تعالیٰ اولیاء کی قبولیت کے واسطے اکثر دعائیں قبول کرتا ہے یہ ان کی کرامت ہے مردہ زندہ کرنا خود خرق عادت و کرامت ہے حق تعالیٰ ہی کرتا ہے مگر بظاہر کسی ولی نبی کا ذریعہ ہو جاتا ہے لہذا کرامت و معجزہ کہلاتا ہے۔ فقط

بڑے پیر صاحب کا حضور کو کندھا دینا

(سوال) بعض صوفی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب رسول مقبول ﷺ معراج کو تشریف لے گئے ہیں اس وقت بڑے پیر صاحب نے کندھا دیا اور جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا کہ جاے محی الدین تیرے قدم سب اولیاء کی گردن پر تو اب یہ فرمائیے کہ اس کی کہیں اصل بھی ہے کہ نہیں۔

(جواب) یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے اور اس کا واضح ملعون ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

منصور حلاجؒ

(سوال) منصور کہ جن کو زمانہ امام ابو یوسف صاحبؒ میں سولی دی گئی تھی۔ ان کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں وہ کیسے تھے۔

(جواب) منصور معذور تھے بیہوش ہو گئے تھے ان پر فتویٰ کفر کا دینا بیجا ہے ان کے باب میں سکوت چاہئے اس وقت دفعِ قتل کے واسطے قتل کرنا ضرور تھا۔

منصور کون تھے

(سوال) منصور کہ جن کو دار چڑھایا گیا تھا یہ آپ کے نزدیک ولی ہیں یا نہیں اور اگر ولی ہیں تو یہ کون سی منزل میں تھے۔ قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں اور اگر ولی نہیں ہیں تو کس دین میں ہیں۔

(جواب) بندہ کے نزدیک وہ ولی تھے اور منازل ولایت سے بندہ ناواقف ہے اور بزرگوں کے

درجات کو جاننا کام میرا اور آپ کا نہیں اور کلام اپنے مرتبہ سے کرنا لازم ہے نہ اعلیٰ اپنے حال سے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ہر صدی کا مجدد

(سوال) مسئلہ ہر صدی میں مجدد کا مبعوث ہونا ثابت ہے تو اس کی معرفت اور اطاعت واجب ہوگی اس صدی میں کون مجدد ہے۔

(جواب) مجدد ایک شخص ہوتا ہے اکثر بلکہ وہ عالم غیب میں مجموعہ علماء کا ایک شخص ہوتا ہے لہذا ہر وقت میں جو علماء قاطع بدعت ہوں اور نئی سنت ان کا مجموعہ مراد ہے جو شخص بایں طرح ہو اس مجموعہ کا ایک جزو خیال کرنا چاہئے اور جن لوگوں نے ایک کو قرار دیا ہے ان کو سخت مصیبت پیش آئی ہر چند تاویلات کی گئیں تاہم درست نہیں ہو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مردوں کا سننا

(سوال) سماعت موتی ثابت ہے یا نہیں در صورت جواز یا عدم جواز قول راجح کیا ہے اور تلقین بعد دفن ثابت ہے یا نہیں۔ فقط

(جواب) یہ مسئلہ عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مختلف فیہا ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تلقین کرنا بعد دفن کے اس پر ہی مبنی ہے جس پر عمل کرے درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مردوں کا سننا

(سوال) میت قبر میں سنتی ہے یا نہیں۔

(جواب) اموات کے سننے میں علماء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک سنتی ہیں بعض کے نزدیک نہیں سنتیں۔

### صحابہ رسول کی بے ادبی

(سوال) ایک صوفی صاحب اپنی تقریر میں حضرت عمرؓ بن ابی جہل اور حضرت ابوسفیانؓ کو جو حضور کے وقت میں موجود تھے مردود و ملعون اور دوزخی بتلاتے ہیں اور سمجھانے پر اصرار کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو تمام عمر رسول اللہ ﷺ سے جنگ و جدال کرتے رہے اور ہمیشہ سخت دشمن رہے حتیٰ کہ اسی حال میں مر گئے ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہوا۔

(جواب) ابوسفیان اور عکرمہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور عکرمہ نے اسلام کے بعد بہت سے غزوات اور جہاد کئے اور شہید ہوئے ہیں اسد الغابہ میں مفصل مذکور ہے جو شخص حضرات صحابہؓ کی بے ادبی کرے وہ فاسق ہے فقط۔

### ازواج مطہرات اور عام عورتوں میں فرق

(سوال) ازواج مطہرات پر حجاب فرض تھا یا واجب اور ان دونوں میں شرعاً کیا فرق ہوتا ہے اور عام مومنات کو اور ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم برابر ہے یا فرق ہے اگر ہے تو کس وجہ سے ہے۔  
(جواب) سب کو حکم برابر ہے فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا اور فرض قطعی نص سے ثابت ہوتا ہے اور واجب ظنی سے فقط۔

### کرم اللہ وجہہ کہنے کی وجہ

(سوال) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر اکثر اہل سنت کرم اللہ وجہہ کا استعمال کرتے ہیں اور دیگر صحابہ کے لئے نہیں تخصیص کی کیا وجہ ہے۔  
(جواب) چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوارج بلفظ سود اللہ وجہہ اپنی خباثت سے یاد کرتے ہیں اس واسطے اہل سنت نے کرم اللہ وجہہ مقرر کیا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### روحانی زندگی

(سوال) اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا مردہ اگر زندہ ہیں تو ہماری آواز سنتے ہیں یا نہیں۔  
(جواب) روح کو حیات ہوتی ہے قبر میں سب کی روح زندہ ہے ولی ہو یا عامی اور سماع میں اختلاف ہے بعض مقرر ہیں بعض منکر فقط واللہ اعلم۔

### وہابیوں کے عقائد

(سوال) وہابی مذہب یہ کون فرقہ ہے مردود ہے یا مقبول اور عقائد ان کے مذہب والوں کے مطابق اہل سنت والجماعت ہیں یا مخالف کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یا نہیں۔  
(جواب) اس وقت اور ان اطراف میں وہابی تہج سنت اور دیندار کو کہتے ہیں باقی بندہ آپ کو دعا گو ہے سب امور کے لئے دست بدعا ہے فقط والسلام۔

## فرعون کا جھوٹ

(سوال) بعض شخص کہتے ہیں کہ فرعون جھوٹ نہ بولتا تھا۔ اس کی کیا اصل ہے۔

(جواب) فرعون کا سب مذہب جھوٹا اور باطل انا ربکم الاعلیٰ خود کذب صریح ہے یہ عوام کی ہفتوات ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا تھا شرک و دعویٰ ربوبیت سے زیادہ کونسا جھوٹ ہوتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### خلوص دل سے توبہ کرنا

(سوال) ہزار بار گناہ صغیرہ و کبیرہ کئے اور ہزاروں بار توبہ کی ہے اور پھر قصد تھا کہ اب گناہ نہ کروں گا۔ مگر پھر شیطان نے کرا دیا۔ اب پھر دل سے توبہ کرتا ہے تو قبول ہوگی یا نہیں۔

(جواب) توبہ جب خالص دل سے کرے گا قبول ہوگی خواہ کتنی ہی بار ٹوٹی ہو۔

### بیوہ عورت کا نکاح نہ کر کے عبادت کرنا

(سوال) مسئلہ عورت جو بیوہ ہو دوسرا نکاح نہ کرے اور عبادت اور پرہیزگاری میں رہے عند اللہ اس کو اجر ہے یا نہیں۔

(جواب) عورت بیوہ اگر نکاح نہ کرے اور عبادت میں مصروف رہے تو عبادت اور ثواب اس کو ملے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### اہل قبور سے دعا کرنا

(سوال) دعا کرنا اہل قبور سے ممنوع ہے جیسا کہ ایضاً الحق میں مولانا شہید مرحوم شاہ

عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں و نیز بحکم رئیس العلماء حضرت شاہ

عبدالعزیز صاحب قدس سرہ کہ استمد اور بمعنی طلب دعاء از اموات از جنس بدعات شمرہ باوجود

آنچه صاحب استیعاب روایت کردہ کہ در زمان حضرت عمرؓ اعرابی طلب دعاء استسقاء از مزار مبارک

جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام شمرہ پس باوجود تحقیق این امر مذکور در آن قرن بنا بر آن کہ

مروج در آن قرن نگریدہ از بدعات شمرہ اند (۱) الخ اور مولانا محمد اسحاق صاحب مرحوم بھی از بعین

(۱) دینیز رئیس العلماء حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ کے فتوے کے بموجب کہ استمد ادکو اموات سے دعا طلب کرنا

قرار دے کہ بدعات میں گئے ہیں باوجودیکہ صاحب استیعاب نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک

اعرابی نے پانی برسانے کے دعا کی طلب مزار مبارک جناب رسالت مآب سے کی یعنی باوجود اس امر مذکور کی تحقیق کے اس امر قرن میں محض اس بناء پر کہ اس قرن میں مروج نہیں ہوا بدعات سے سمجھے ہیں۔

میں فرماتے ہیں وحق آنست کہ انکار فقہاء عام است از آنکہ استمداد از قبور انبیاء کند یا از قبور غیر ایشان ہمہ جائز نیست۔ (۱) یا جائز ہے اگر جائز ہے تو جواز مع دلائل مفصل کے ارقام فرمادیں۔  
 (جواب) قبور سے اس طور دعا کرنا کہ اے صاحب قبر اس طرح میرا کام کر دے تو یہ تو حرام اور شرک بالاتفاق ہے اور یہ بات کہ تم میرے واسطے دعا کرو تو اس باب میں اختلاف ہے منکرین سماع اس کو لغو ناجائز کہتے ہیں اور مجوزین سماع جائز جانتے ہیں اور یہی بندہ نے پہلے بعض سائلین کے جواب میں لکھا ہے۔ بندہ مختلف فیہا مسائل میں فیصلہ نہیں کرتا لیکن احوط کو اختیار کرتا ہوں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### شرافت نسبی

(سوال) شرافت نسبی کو زیادتی ثواب عمل میں کچھ دخل ہے یا نہیں مثلاً سید اور جاہل دونوں تقویٰ اور طہارت میں مساوی ہوں تو سید کو بوجہ سیادت کے عند اللہ کچھ زیادہ قربت مل سکتی ہے یا نہیں اور یہ آیہ ومن یقنت منکن لله ورسوله الخ (۲) سے اس کا ثبوت ہوتا ہے یا نہیں۔  
 (جواب) عمل میں سب برابر ہیں نسب کو دخل نہیں زیادات ثواب اخلاص سے ہے فقط۔

### حضور ﷺ کا جسم مبارک مٹی میں ملنے کا مطلب

(سوال) تقویۃ الایمان کے صفحہ ۶۱ مطبوعہ فاروقی میں حدیث نقل فرماتے ہیں ابو داؤد نے ذکر کیا کہ قیس بن سعد نے نقل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام حیرہ ہے سو دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو سجدہ کرتے تھے اپنے راجہ کو سو کہا میں نے البتہ پیغمبر خدا زیادہ لائق ہیں کہ سجدہ کیا جائے ان کو پھیر آیا میں پیغمبر خدا کے پاس پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں حیرہ میں تو دیکھا میں نے ان لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں وہ اپنے راجہ کو سو تم بہت زیادہ لائق ہو کہ سجدہ کریں ہم تم کو سو فرمایا مجھ کو بھلا خیال تو کر جو تو گزرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے گا تو اس کو کہا میں نے نہیں فرمایا تو مت کر۔ ف یعنی میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو کیا سجدہ کے لائق ہوں الخ تو یہاں پر یہ شبہ واقع ہوتا ہے کہ مٹی میں ملنے سے کیا مراد ہے اور مخالفین یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے نزدیک انبیاء کا جسد زمین میں مل جانا ثابت ہوتا ہے اس کا کیا جواب ہے مفصل ارقام فرمائیے۔

(۱) اور حق یہ ہے کہ انکار فقہاء کا عام ہے اس بات سے کہ انبیاء کی قبروں سے مدد طلب کریں یا ان کے غیر کی قبروں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے۔

(۲) اور اے نبی کی بیویوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔



(جواب) مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ مٹی ہو کر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہو جاوے جیسا سب اشیاء زمین میں پڑ کر خاک زمین ہی بن جاتی ہیں۔ دوسرے مٹی سے ملاقی و متصل ہو جانا یعنی مٹی سے مل جانا تو یہاں مراد دوسرے معنی ہیں اور جسد انبیاء علیہم السلام کا خاک نہ ہونے کے مولانا مرحوم بھی قائل ہیں۔ چونکہ مردہ کو چاروں طرف سے مٹی احاطہ کر لیتی ہے اور نیچے مردہ کی مٹی سے جسد۔ مع کفن ملحق ہوتا ہے یہ مٹی میں ملنا۔ اور مٹی سے ملنا کہلاتا ہے کچھ اعتراض نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### جنات کا تکلیف دینا

(سوال) جناب کا سر پر آنا اور ستانا کہیں شیخ سدو اللہ بخش وغیرہ مشہور ہیں اور تکالیف پہنچاتے ہیں اور خبیث بھوت وغیرہ بھی ان کو کہتے ہیں ان امور کی شرعاً کچھ اصل معتمد بھی ہے یا واپسی ہی باتیں ہیں مفصل ارقام فرمادیں۔

(جواب) شیخ سدو اور اللہ بخش دونوں جن ہیں لوگوں کو ستاتے ہیں خبیث بوت۔ پری دیو۔ جن۔ آسب ایک چیز کا نام ہے سرچڑھنا اور تکلیف دینا جنات کا حق ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ملفوظ

(۱) امکان کذب بایں معنی کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پروہ قادر ہے مگر باختیار خود اس کو نہ کرے گا یہ عقیدہ بندہ کا ہے اور اس عقیدہ پر قرآن شریف اور احادیث صحاح شاہد ہیں اور علمائے امت کا بھی یہی عقیدہ ہے مثلاً فرعون پر ادخال نار کی وعید ہے مگر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے اگرچہ ہرگز جنت اس کو نہ دیوے گا۔ اور یہی مسئلہ معجوت اس وقت میں ہے بندہ کے جملہ احباب یہی کہتے ہیں اس کو اعدانے دوسری طرح پر بیان کیا ہوگا اس وقت اور عدم ایقاع کو امکان ذاتی و متمنع بالغیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ فقط والسلام۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کتاب البدعات

### مجلس میلاد کی ابتداء

(سوال) محفل میلاد شریف و قیام میلاد و عود و لوبان سلگانے فرش و چوکی بچھانے و تاریخ معین کرنے وغیرہ بہ بہیت مشہورہ و مروجہ اس زمانہ میں آیا اس طریقہ سے محفل میلاد جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو کس دلیل سے دلیل اولہ اربعہ سے ہو بیٹا تو جروا۔

(جواب) یہ محفل چونکہ زمانہ فخر عالم علیہ السلام میں اور زمانہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور زمانہ تابعین اور تبع تابعین اور زمانہ مجتہدین علیہ الرحمۃ میں نہیں ہوئی اس کا ایجاد بعد چھ سو سال کے ایک بادشاہ نے کیا اس کو اکثر اہل تاریخ فاسق لکھتے ہیں لہذا یہ مجلس بدعت ضلالہ ہے اس کے عدم جواز میں صاحب مدخل وغیرہ علماء پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور اب بھی بہت رسائل فتاویٰ طبع ہو چکے ہیں زیادہ دلیل کی حاجت نہیں عدم جواز کے واسطے یہ دلیل بس ہے کہ کسی نے قرون اخیر میں اس کو نہیں کیا زیادہ مفاہد اس کے دیکھنے ہوں تو مطولات فتاویٰ کو دیکھ لیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

رشید احمد گنگوہی غنی عنہ رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔ الجواب صحیح خلیل احمد غنی عنہ خلیل احمد

مجلس مولود مجلس خیر و برکت ہے در صورتیکہ قیودات مذکورہ سے خالی ہو فقط بلا قید وقت معین و بلا قیام و بغیر روایت موضوع مجلس خیر و برکت ہے صورت موجودہ جو مروج ہے بالکل خلاف شرع ہے اور بدعت ضلالہ ہے ہکذا سمعت من ابی مولینا الحاج المحدث السہار نفوری المولوی احمد علی بر دالله مضجعه وبهذا فتی مولانا المرحوم محمد خلیل الرحمن مدرس مدرسہ اسلامیہ سہا پور محمد خلیل الرحمن مجلس میلاد شریف بہیت معلومہ مروجہ لاریب بدعت ممنوع ہے فقط۔

بندہ عزیز الرحمن	دعوت کل علی	الجواب صحیح بندہ احمد غنی عنہ	اصحاب مجیب
دیوبندی غنی عنہ	الغزیز الرحمن	خلف ولانا محمد قاسم صاحب حرم	محمد حسن غنی عنہ
لاشک ان العقائد ہذا المجلس المخرع ضلالۃ دینہم فاعلموا بدم البدعات			
فقیر محمد حسین	محمد اسماعیل	سید محمد الرحمن	یقیناً ابراہیم
			سید محمد
			عقبر

لاشک ان العقاد ہذا المجلس المختار ضلالہ ویزم فاعلمہا بدم البدعات۔ (۱)  
الجواب صحیح نبیرہ مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب محدث دہلوی۔

جواب صحیح ہے اور یہ مولود مروجہ بدعت ہے چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات میں ارقام فرماتے ہیں عبارتہً لہذا اگر فرضاً حضرت ایشان درین آوان درد دنیا زندہ بودے واین مجلس واجتماع کہ منعقد میشد آبا این امر راضی میشدند واین اجتماع را سے پسندیدنا یا نہ یقین فقیر آن ست کہ ہرگز ایں معنی را تجویز نمی فرمودند بلکہ انکار می نمودند مقصود فقیر اعلام بود قبول کید یا نہ کید فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مروجہ مجلس میلاد

(سوال) مروجہ مجلس میلاد بدعت ہے یا نہیں۔

(جواب) مجلس مولود مروجہ بدعت ہے اولیٰ سبب خلط امور مکروہہ کے مکروہ تحریمہ ہے اور قیام بھی بوجہ خصوصیت کے بدعت ہے اور امر ولزکوں کا پڑھنا راگ میں بہ سبب اندیشہ یحجان فتنہ کے مکروہ ہے اور فاتحہ مروجہ بھی بدعت ہے معبد امشایہ بلفعل ہنود ہے اور شبہ غیر قوم کے ساتھ منع ہے ایصال ثواب بدون اس ہیئت کے درست ہے اور جس ضیافت میں امور غیر مشروع ہوں وہاں جانا بھی ناجائز ہے اور جس کا مال حرام ہے خواہ فاحشہ ہو یا مرد مسلم اس کے ہاتھ بیع کرنا اس مال حرام کے عوض حرام ہے کہ کل کو حرام کر دیتا ہے اگر اچھے مال سے خرید کر لے درست ہے فقط۔

### مجلس مولود و عرس جس میں خلاف شرع امور نہ ہوں

(سوال) مولود شریف اور عرس کہ جس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو جیسے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے آپ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں اور شاہ صاحب واقعی مولود اور عرس کرتے تھے یا نہیں۔

(جواب) عقد مجلس مولود اگرچہ اس میں کوئی امر غیر مشروع نہ ہو مگر اہتمام و تداعی اس میں بھی موجود ہے لہذا اس زمانہ میں درست نہیں و علیٰ ہذا عرس کا جواب ہے بہت اشیاء ہیں کہ اول مباح تھیں پھر کسی وقت میں منع ہو گئیں مجلس عرس و مولود بھی ایسا ہی ہے۔

(۱) اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی مختصر مجلس کا منعقد کرنا اگر اسی ہے اور اس کے کرنے والے کو بدعات کی مذمت کے ساتھ اس کی بھی مذمت کی جائے گی۔

## بدون تجدید نعمت حقیقی کے سرور و فرحت کا اعادہ

(سوال) اعادہ کرنا سرور و فرحت کا بدون تجدید نعمت حقیقی کے آیا جائز ہے یا نہیں اور یہ دلائل جو مجوزین مولود زمانہ پیش کرتے ہیں مثل صوم عاشورہ کہ شکر یہ و موافقت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رکھا گیا تھا اور اب تک جاری ہے صوم دو شنبہ کو بوجہ یوم ولادت و یوم نزول قرآن شریف میں رکھا گیا تھا اور اب تک جاری ہے اور مثل اعادہ عقیقہ کے کہ رسول اللہ ﷺ نے بعد نبوت کے کیا تھا حالانکہ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کا عقیقہ کر چکے تھے لہذا روایات مذکورہ سے اثبات اعادہ سرور ہوتا ہے یا نہیں اور نیز روایت عقیقہ صحیح ہے یا ضعیف ارقام فرمائیں۔

(جواب) اس کا جواب مفصل جدید مستقل رسالہ بنتا ہے اس کی تحقیق اور جواب براہین قاطعہ میں دیکھو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مکہ معظمہ میں مجلس میلاد

(سوال) فیوض الحرمین میں شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں۔ و کنت قبل ذلک بمکہ المعظمۃ فی مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی یوم ولا دتہ والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدکرون ارہا صاتہ النبی ظہر فی ولا دتہ و مشاہدہ قبل بعثتہ فرأیت انواراً سطعت رفعة واحدة لا اقول انی ادرکتھا ببصر الجسدو لا اقول ادرکتھا ببصر الروح فقط واللہ اعلم کیف کان الامر بین هذا و ذاک فنامت تلک الانوار فوجدتھا من قبل الملائکة الموکلین بامثال هذه المشاهد و با مثال هذه المجالس رأیت یخاطب انوار الملائکة انوار الرحمة (۱)

عبارت مذکورہ میں جواز و استحسان شرکت مجلس یوم ولادت و ذکر وقائع ولادت و مشاہدہ انوار ملائکہ ثابت ہوتا ہے اور اس سے جواز مولود زمانہ پر حجت لائی جاتی ہے لہذا یہ حجت لانا ان کا

(۱) اور میں اس کے پہلے کہ معظمہ میں مولد نبی ﷺ میں آپ کی ولادت کے دن میں تھا اور لوگ نبی ﷺ پر درود پڑھ رہے تھے اور آپ کے ان نشانات ہا ز ر ر رہے تھے جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے اور آپ کی بعثت کے پہلے کے مشاہدہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ یکا یک میں نے ایک نور کو دیکھا جو ایک دم چمکا میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس کو میں نے جسمانی آنکھوں سے دیکھا یا یہ کہ روحانی بصیرت سے دیکھا واللہ اعلم کہ معاملہ کیسے تھا اس کے درمیان پھر میں نے ان انوار پر غور کیا تو ان کو فرشتوں کی طرف سے دیکھا جو اس قسم کی مجالس اور مواقع کے لئے مقرر ہیں اور میں نے دیکھا کہ ملائکہ کے انوار رحمت مل رہے ہیں۔

درست ہے یا نہیں مع مطلب عبارت مذکورہ کے ارقام فرمادیں۔

(جواب) فیوض الحرمین میں حاضری مولد النبی میں کہ مکان ولادت آپ علیہ السلام کا ہے لکھا ہے وہاں ہر روز زیارت کے واسطے لوگ جاتے ہیں یوم ولادت میں بھی لوگ جمع تھے اور صلوة و ذکر کرتے تھے نہ وہاں مداعی سے اہتمام طلب کے تھے نہ کوئی مجلس تھی بلکہ وہاں لوگ خود بخود جمع ہو کر کوئی درود پڑھتا تھا کوئی ذکر معجزات کرتا تھا نہ کوئی شیرینی نہ چراغ نہ کچھ اور نفس ذکر کو کوئی منع نہیں کرتا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مجلس میلاد

(سوال) بلا مقرر کئے دن کے میلاد مبارک پڑھنا اور بلاراگ یاراگنی کے نظم پڑھنا جس میں مزامیر نہ ہووے اور اس نظم میں سوائے تعریف سچی کے اور کوئی کلمہ یا صنم یا کنھیا وغیر کا نہ ہووے اور تعلیم وقت ولادت کے کھڑا ہونا اس خیال سے کہ وقت پیدا ہونے نبی ﷺ کے ملائکہ مقررین کھڑا ہوئے تھے اور ستارے جھک گئے تھے اولیام شیر خوارگی میں چاند آپ سے باتیں کرتا تھا اور پیدا ہوتے وقت بعض دریا خشک اور بعض جاری ہو گئے تھے اور دیوان خانہ نوشیرواں بادشاہ کا جس کے کندھوں پر گر گئے تھے دہشت سے اور شیاطین خوف سے پہاڑوں میں جا چپے تھے اور طرح طرح کی کرامتیں ظاہر ہوئی تھیں جس کی روایتیں معتبر موجود ہیں۔ اگر کھڑا ہو جاوے تو کیسا ہے اور بایں خیال کہ ذرا سے حاکم کو دیکھ کر سب آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہفتہ میں دومرتبہ حضرت کو خیر پہنچتی ہے کہ فلاں امتی نے ایسا کیا۔ آپ کو حیات النبی جان کر تعظیم کرنا پیدائش کے ذکر پر جائز ہے یا نہیں اور سنا ہے کہ آپ کے پیر صاحب حاجی امداد اللہ صاحب بھی مولود سنتے ہیں جواب تفصیل سے فرمائیے۔

(جواب) مجلس مولود کا مفصل ذکر براہین قاطعہ میں دیکھو اور حجت قول و فعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلکہ قول و فعل شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اور اقوال مجتہدین رحمہم اللہ سے ہوتی ہے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی قدس سرہ فرماتے ہیں جب ان کے سلطان پیر نظام الدین قدس سرہ کے فعل کی حجت کوئی لاتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے تو فرماتے کہ فعل مشائخ حجیہ نباشد (۱) اور اس جواب کو حضرت سلطان الاولیاء بھی پسند فرماتے تھے لہذا جناب حاجی صاحب سلمہ اللہ

(۱) مشائخ کا فعل حجت نہیں ہے۔

کا ذکر کرنا سوالات شرعیہ میں بیجا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مجلس میلا دو کو جائز جانانا

(سوال) جو شخص مجالس غیر مشروعہ میں شریک ہووے اور مال خرچ کرے اور اس کو مستحسن اور حلال جانے کہ جن کی حرمت نص صریحہ سے ثابت ہے مثل ناچ و مزامیر و مجالس عرس و روشنی وغیرہ منکرات کثیرہ تو ایسا شخص فاسق ہوگا یا کافر کیونکہ افعال ممنوعہ حرام کو حلال جانتا ہے۔  
(جواب) ایسا شخص فاسق ہے کافر کہنے سے زبان بند رکھنا چاہئے اور فعل مسلم کی تاویل کر کے اسلام سے خارج نہ کرے جہاں تک ہو سکے۔ ولا نکفر احدنا من اهل القبلة (۱) ائمہ مجتہدین فرمائے ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### رسالہ مائتہ مسائل سے میلا و شریف کی اباحت

(سوال) اس عبارت مائتہ مسائل سے انعقاد مجلس مولود کا اثبات کرنا صحیح ہے یا نہیں و قیاس عرس بر مولود غیر صحیح ست۔ زیرا کہ در مولود ذکر و ولادت خیر البشر است و آن موجب فرحت و سرور است و در شرع اجتماع برائے فرحت و سرور کہ خالی از منکرات و بدعات باشد آمدہ از (۲)  
(جواب) اس عبارت سے نفس ذکر و ولادت کی اباحت و سرور کا جواز معلوم ہوتا ہے نفس ذکر و ولادت مندوب ہے اس میں کراہت قیود کے سبب آئی ہے۔ خلاف عرس مروج کے کہ وہ خود قیود کا ہی نام ہے اگر اس وقت میں مجلس مولود ایسے حال پر ہوتی جیسے اب ہوتی ہے تو آپ مثل عرس کے اس کو بھی حرام لکھتے ہیں۔ اس وقت میں یہ مجلس نہیں ہوتی تھی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ معہذا وہ خود بدعت لکھتے ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مجلس میلا دو میں حضور کا تشریف لانا

(سوال) زید دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ﷺ مجلس مولود شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے اجازت دی۔ اور آپ کے زمانہ میں یہ مجلس ہوئی۔ اور حضرت رسول اللہ ﷺ نے دودھ اور چھوہارے پر فاتحہ اپنے فرزند ابراہیم کی دی اور عمر و کہتا ہے کہ یہ بات محض جھوٹ ہے۔ کسی کتاب

(۱) ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔

(۲) اور عرس کا قیاس مولود پر صحیح نہیں ہے اس لئے کہ مولود خیر البشر کی ولادت کا ذکر ہے اور وہ خوشی و سرور کا باعث ہے اور شرع میں خوشی و سرور کے لئے صحیح ہونا جو منکرات و بدعات سے خالی ہو جائز ہے۔

حدیث اور فقہ معتبر سے ثابت نہیں۔ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر اگر یہ بات ثابت ہو جاوے تو میں اپنے کہنے اور اعتقاد سے توبہ کروں گا۔ اور زید بھی یہی کہتا ہے کہ اگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی تو میں اپنے عقیدہ اور قول سے توبہ کروں گا اس واسطے علمائے دین سے سوال ہے کہ جو کچھ حق ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کتب معتبرہ سے اس کا جواب لکھیں۔

(جواب) زید جھوٹا ہے اور یہ بات کسی معتبر کتاب میں نہیں لکھی زید کو چاہئے کہ ایسی بات سے توبہ کرے اور اگر کسی عالم بے دین سے ایسی بات سنی ہو تو اس کی صحبت میں نہ بیٹھے اور دوسری بات جو زید نے کہی وہ بھی جھوٹ ہے اور آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام پر انفرماء مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے بے دین کو سمجھادیں اور اگر پھر بھی توبہ نہ کرے تو اس کی ملاقات سے پرہیز کریں اور کسی کتاب سے کہ قابل اعتبار ہو یہ بات ثابت نہیں اور عمر و دونوں مسئلوں میں سچا ہے اور اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حفظنا اللہ بس حبنا اللہ

سید محمد زید رحیمین

سید امیر احمد نقوی

سید امیر حسین

فقیر غرضین

قولی الجیبین

منصور شاہی

ضیاء مالین

جواب صحیح ست و مہر اس وقت دیگر جاوہر لہذا بردستخط اکتفا نمودہ شد الراقم محمد اسد علی الجواب صحیح الراقم عنایت علی الجواب صحیح احمد علی عفی عنہ محدث سہانپوری شاگرد مولانا محمد اسحاق صاحب۔

مسود محمد دکن گندک الجواب الجواب اصاب من اجابہ اللہ اعلم بالصواب

ملا سیف اللہ دلائی

من غلبہ امراہ  
عقد افضح

محمد تراب علی

عبدالباری عفی عنہ

امام مسجد فقہوری

من احاب اجاد الجواب صحیح

محمد کبر

محمد یوسف حیدری

حافظ عبداللہ

سید بسطاہد

محمد عبداللہ

محمد اسحق

الجواب صحیح بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ رشید احمد ۱۳۰۱۔

مجلس میلاد کا حکم

(سوال) مجلس مولود خوانی سرور کائنات ﷺ بایں بیعت کہ روشنی ہائے کثیرہ زائدا از حاجت و امر دان خوش الحان و راگ خوانند اشعار وغیرہ وغیرہ قیودات بالخصوص قیام امی ذکر مولود اور اسی محفل میں ثابت اور جائز ہے یا نہیں اور شریک ہونا مفتیان کا ایسی مجالس میں جائز ہے یا نہیں و نیز

عیدین و بیخ شنبہ وغیرہ میں آب و طعام سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر ایصالِ ثواب موقی کرنا ثابت و جائز ہے یا نہیں و نیز خاص بروز سویم میت کے جمع ہو کر بالخصوص کلمہ طیبہ و ختم قرآن مجید مع بیخ آیت پنے وغیرہ تقسیم کرنا ثابت و جائز ہے یا نہیں و نیز وہم بہتم وہم و جہلم وغیرہ کا کرنا ثابت و جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) مجلس مرد و بیہ مولود کہ جس کو سائل نے لکھا ہے بدعت و مکروہ ہے اگرچہ نفس ذکر و ولادت فخر عالم علیہ الصلوٰۃ کا مندوب ہے مگر بسبب انضمام ان قیود کے یہ مجلس ممنوع ہوگئی کہ قاعدہ فقہ کا ہے کہ مرکب حلال و حرام سے حرام ہو جاتا ہے پس اس ہیئت مجموعہ مجلس مولود میں بکثرت و زائد حد ضرورت چراغ جلانا اسراف ہے اور اسراف حرام ہے کہ ان المبلورین کا نوا اخوان الشیاطین الآیۃ (۱) حکم ناطق قرآن شریف کا ہے علی بذامردان خوش الحان کاظم۔ اشعار پڑھنا موجب ہیجانِ فتنہ کا ہے اور کراہت سے خالی نہیں اور قیام بالخصوص اس ہی ذکر اور اسی محل میں ہونا بدعت ہے پس حضور ایسی محفل کا بسبب ان امور بدعت و مکروہ تحریمہ کے مکروہ تحریمہ اور بدعت ہوگا۔ خواہ عالم لوگ جاویں یا مفتی جاوے بلکہ مفتی کو زیادہ موجب فساد کا ہے کہ وہ عالم ہے اور ایسے فعل سے گمراہ کنندہ خلق کثیر کا ہوتا ہے اور فاتحہ میں ہاتھ اٹھا کر پڑھنا طعام و شراب رو برو رکھ کر مشابہتِ فعلِ ہنود سے ہے اور یہ امر شرع میں ایصالِ ثواب کے واسطے کہیں ثابت نہیں اور من تشبہ بقوم فهو منهم الحدیث (۲) حکم ناطق حرمتِ مشابہت کا ہے لہذا یہ ضعیف بھی حرام ہوگا اور سوئم وہم وہم و جہلم جملہ رسوم ہندو کی ہیں اس تخصیصِ ایام میں مشابہت بھی ہوئی اور تخصیصِ ایام کی بدعت بھی ہے یہ سب بسبب ان تخصیصات کے بدعت و مکروہ تحریمہ ہیں۔ اگرچہ اصل ایصالِ ثواب بدوں کسی تخصیص و مشابہت کے درست ہے اور تفصیل ان جملہ مسائل کی بسط کے ساتھ براہین قاطعہ میں ہے اس میں ملاحظہ کر لیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب حق و ما ذا بعد الحق الا الضلال۔ (۳) احقر محمد حسن غفرلہ مدرس مدرسۃ

الغریاء بادشاہی مسجد مراد آباد۔

ذلک حق حقیق بالا قبا ع (۴) احقر الامین محمود حسن غفرلہ مدرس مدرسۃ الغریاء مراد آباد۔

(۱) یہ شک کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں۔

(۲) جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔

(۳) حق کے بعد بجز گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔

(۴) سچ ہے اور سچوئی کا حق۔



الجواب صحیح۔ خلیل احمد عفی عنہ مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند۔  
 قدح الجواب۔ محمد حسن عفی عنہ مراد آبادی۔ الجواب صحیح۔ عبدالصمد عفی عنہ  
 الحبيب المصیب۔ محمد عبداللہ عفی عنہ۔ الجواب حق عبدالحق عفی عنہ۔

الحمد للہ کہ حضرت مجیب لیب دامت فیوضہم نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے بلاشک صحیح ہے کسی کو  
 جائے مقال نہیں کیونکہ وہ مخدوم العلماء اور راسخ فی العلم ہیں۔ البتہ بوجہ مزید اطمینان عوام چند  
 عبارات کتب محققین سے تائیداً نقل کرتا ہوں۔ فی الواقع نفس ذکر ولادت رسول ﷺ کا کوئی  
 منکر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مندوب اور مستحسن ہے مگر بوجہ الحاق امورنا مشروعہ جیسا کہ مروجہ زمانہ حال  
 ہے۔ بدعت و حرام ہے سرور عالم ﷺ کا ذکر کیجئے۔ مگر جیسا کہ قرون ثلاثہ میں تھا کہ نہ مجلس مولود  
 منعقد ہوتی تھی نہ ذکر ولادت پر قیام ہوتا تھا۔ ہم سب ماسور کئے گئے ہیں اتباع سلف صالحین پر نہ  
 کہ اتباع خلف پر امام علامہ ابن الحاج رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اکابرین و مستندین سے ہیں مدخل  
 میں فرماتے ہیں۔ ومن جملة ما احدثه من البدع من اعتقادهم ان ذلك من  
 اكبر العبادات و اظهار الشعائر ما يفعلون في شهر الربيع الاول من المولد وقد  
 احتوى ذلك على بدع و محررات الى ان قال وهذه المفاصد مترتبة على فعل  
 المولد اذا عمل بالسماح فان خلاصته و عمل طعام فقط و نوى به المولد و دعوى  
 عليه الاخوان و سلم من كل تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نية فقط لان ذلك  
 زيادة في الدين و ليس من عمل السلف الماضين اتباع السلف اولي و لم ينقل من  
 احد منهم انه نوى المولد و نحن نتبع السلف فيعتنا ما وسعهم انتهى (۱) اور مولانا  
 عبدالرحمن المغربي حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔ ان عمل المولد بدعة لم  
 يقل به و لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء (۲) والائمة انتهى اور

(۱) اور ان بدعات میں سے جو انہوں نے ایجاد کر لیں ان کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ سب سے بڑی عبادت اور شعائر اللہ کا  
 اظہار یہ ہے جو وہ کرتے ہیں ماہ ربیع الاول میں میلاد کرتے ہیں جس میں کئی بدعتیں اور حرام باتیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ  
 اور یہ تمام مفاسد مرتب ہیں میلاد کے کرنے پر اگر اس میں سماع بھی ہو اور اگر سماع نہ ہو اور صرف کھانا پکایا جائے اور اس  
 سے مولود کی نیت کی جائے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور جو کچھ باتیں اوپر لکھی گئی ہیں ان سے سلامت رہے تو  
 بھی فقط نفس نیت کی وجہ سے یہ بدعت ہے اس لئے کہ یہ دین میں زیادتی ہے اور گزرے ہوئے سلف صالح کا یہ عمل نہیں  
 ہے اور سلف کی پیروی بہتر ہے اور سلف میں کسی سے بھی یہ مقول نہیں ہے کہ انہوں نے مولود کی نیت کی ہو اور ہم سلف کا  
 اتباع کرتے ہیں تو ہمارے لئے اتنی وسعت ہو سکتی ہے جو ان کے لئے ہو سکتی تھی۔  
 (۲) اور میلاد کا کرنا بدعت ہے جس کو نہ کہا نہ کیا رسول اللہ ﷺ نے اور نہ خلفاء و ائمہ نے۔

کذا فی الشرعة الالہیة (۱) اور مولانا نصیر الدین الادیوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔  
 بجواب سائل لا یفعل لا نہ لم ینقل عن السلف الصالح وانما حدث بعد القرون  
 الثلثة فی الزمان الطالح ونحن لا تتبع الخلف فی ما اھمل السلف لا نہ یکفی بہم  
 الاتباع فای حاجة الابداع انتھی۔ (۲) اور شیخ اکنا بلہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں  
 - ان ما یعمل بعض الامراء فی کل سنة احتفالاً لمولده صلی اللہ علیہ وسلم  
 فمع اشتمالہ علی التکلفات الشنیعة بنفسہ بدعة احدثہ من یتبع ہواہ ولا یعلم ما  
 امرہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الشریعۃ تعونہا انتھی کذا فی القول  
 المعتمد۔ (۳) اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ تحفۃ القضاة میں  
 فرماتے ہیں۔ (سئل القاضی عن مجلس المولد الشریف) قال لا ینعقد لا نہ  
 محدث وکل محدث ضلالة وکل ضلالة فی النار وما یفعلون عن الجھال علی  
 راس کل حول فی شھر ربیع الاول لیس بشیء ویقومون عند ذکر مولدہ صلی  
 اللہ علیہ وسلم ویزعمون ان روحہ صلی اللہ علیہ وسلم یجئ وحاضر فرعمہم  
 باطل بل هذا الاعتقاد شرک وقد منع الائمة عن مثل هذا انتھی (۴) اور صاحب  
 سیرت شامی فرماتے ہیں۔ جرت عادة کثیر من المحبین اذا سمعوا بذكر وضع  
 صلی اللہ علیہ وسلم ان یقوموا تعظیمالہ صلی اللہ علیہ وسلم وهذا القیام بدعة  
 لا اصل له۔ (۵) اور مولانا فضل اللہ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بختہ العشاق میں فرماتے ہیں۔

(۱) شریعہ الہیہ میں ایسا ہی ہے۔

(۲) سائل کے جواب میں فرمایا کہ نہ کرے اس لئے کہ یہ سلف صالح سے محقول نہیں بلکہ قرونِ ثلاثہ کے بعد بدعت  
 زمانے میں لوگوں نے اس کی ایجاد کی ہے اور سلف نے جس کو چھوڑ دیا ہے اس کی پیروی ہم خلف نہیں کر سکتے اس لئے ان  
 کی پیروی ہی کافی ہے تو توئی چیز نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔

(۳) یہ جو بعض امراء ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن مناتے ہیں تو اس میں علاوہ اس کے کہ تکلفات شنیعہ ہیں ہنرہ بدعت  
 ہے جس کو اس نے ایجاد کیا جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کو کیا حکم کیا جو صاحب  
 شریعت تھے اور آپ نے اس کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تولدِ محمد میں ای طرح ہے

(۴) قاضی سے مجلس مولود شریف کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا نہ کی جائے اس لئے کہ یہ بدعت ہے اور کل بدعت  
 گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں جانے والی ہے اور یہ جو جاہل لوگ ریح الاول کے مہینہ میں ہر سال کی ابتداء پر کرتے ہیں یہ  
 کوئی چیز نہیں اور وہ ذکر ولادت کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ آپ کی روح ﷺ تشریف لائی ہے  
 اور حاضر ہوتی ہے تو یہ انکار خیال باطل ہے بلکہ یہ اعتقاد شرک ہے اور انہ نے اس کو کوش اور باتوں سے بھی منع فرمایا ہے۔

(۵) اور بہت سے مجتہدین کی یہ عادت ہوئی ہے کہ جب نبی ﷺ کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی تعظیم کے لئے  
 کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ قیام بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔

ما يفعل العوام في القيام عند ذكر وضع خير الا نام عليه التحية والسلام ليس بشئ بل هو مكروه اور قاضی نصیر الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ طریقتہ السلف میں فرماتے ہیں وقد احدث بعض جهال المشائخ امورا كثيرة لا نجد لها اثر اولا رسما في كتاب ولا في سنة منها القيام عند ذكر ولادة سيد الا نام عليه التحية والسلام (۱).

اور حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سید احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں بنظر انصاف یہ بنیید اگر حضرت ایشان فرضاً درین زبان موجودہ بودند و در نیازندہ می بودند و این مجالس و اجتماع کہ منعقدی شد آیا باین راضی می شدند و این اجتماع را می پسندیدن یا نہ یقین فقیر آنست کہ ہرگز این معنی را تجویز نمی فرمودند بلکہ انکاری نمودند مقصود فقیر اعلام بود بقول کنند یا کنند بیچ مضائقہ نیست و گنجائش مشاجرہ نہ اگر مخدوم زادہ دیا ران انجا برہمان وضع مستقیم باشندنا فقیران از صحبت ایشان غیر از حرمان چارہ نیست اتنی زیادہ چہ تصدیقہ دہدو السلام (۲) اور شرکت جملہ مجالس غیر مشروع کی نہ عام لوگوں کو درست ہے نہ مفتیوں کو قال اللہ تعالیٰ وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم الخ (۳) امام مکی السنہ بغری رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل میں آیت مذکورہ کے تحت فرماتے ہیں وقال الضاحک عن ابن عباس رضی اللہ عنہ دخل فی هذه الایة محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم

(۱) عوام جو ذکر ولادت خیر الانام ﷺ کے ذکر کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ مکروہ ہے۔ اور بعض جاہل مشائخ نے بہت سی باتوں کو ایجاد کر لیا ہے جس کا کوئی اثر یا رسم ہم نہ کتاب میں پاتے ہیں نہ سنت میں انہی میں سے ایک ولادت سید انام علیہ التحیۃ والسلام کے ولادت کے ذکر کے وقت کھڑا ہونا ہے۔

(۲) بنظر انصاف دیکھو کہ اگر بالفرض حضور اس زمانہ میں موجود ہوتے اور دن میں زعم ہوتے اور یہ مجالس و اجتماع منعقد ہوتے تو کیا اس سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے یا نہ فقیر کا یقین یہ ہے کہ آپ ہرگز اس بات کو منظور نہ فرماتے بلکہ انکاری فرماتے فقیر کا مقصد تو صرف اطلاع دہی ہے بقول کریں یا نہ کریں کوئی حرج نہیں اور جنگ کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہاں کے مخدوم زوے اور احباب اسی وضع پر ثابت قدم رہنا چاہیں تو ہم فقیروں کو ان کی صحبت سے بجز محرومی کے کوئی چارہ نہیں فقط زیادہ کیا تکلیف دی جائے۔

(۳) ارشاد الہی ہے کہ اللہ نے تم پر یہ حکم اتار دیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایسے سنو کہ اس کا کفر کیا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ ٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ مصروف ہو جائیں ورنہ اس وقت تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔

القيمة. (۱) اور اسی تفسیر کو قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں ارقام فرماتے ہیں ایسا ہی ایصال ثواب بہتر مگر رسوم غیر جائز و بدعت کو ان کے ساتھ شریک کر لینا اور ثواب کو کھودینا اور گناہ کا مرتب ہونا ہے۔ قرون ثلاثہ میں ایصال ثواب بھی کیا جاتا تھا مگر نہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھی جاتی تھی نہ رسوم سوئم و وہم بستم چہلم کی کچھ تعین تھی۔ ایصال ثواب الی الاموات کبھی مگر بلا قید۔ جیسا کہ بزرگان سلف کا طریقہ تھا۔ بطریق اختراع وابتداع خلف فتاویٰ سمرقندیہ میں مرقوم ہے۔ قراءۃ الفاتحة والاخلاص والکافرون علی الطعام بعدۃ (۲) اور کبیری شرح منیۃ المصلیٰ میں ہے واتخاذ الطعام عند قراءۃ القرآن یکرہ (۳) اور نصاب اللقب میں ہے ان معرنا یقوم فیصف النعال و یقرأ بعد الختم ایه من الاخلاص ثلاثا ومن الفاتحة مرة وهو قائم والناس قعودانہ بدعة ولم ینقل هذا الصنع من السلف (۴) اور سنن ابن ماجہ میں حضرت جریر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ فرمایا، کننا نعد الاجتماع الی اهل المیت وصنعهم الطعام من النیاحۃ انتھی (۵) چنانچہ فتح القدر میں ہے۔ واتخاذ الضیافۃ من اهل المیت وہی بدعة مستقبحة لما روی ابن ماجہ والا امام احمد باسناد صحیح. (۶) اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں قال الطیبی من اصر علی امر مندوب وجعل عزا ولم یعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف من اصر علی بدعہ و منکر هذا محل تذکر الذین یصرون علی الاجتماع فی الیوم الثالث للمیت ویرونہ ارجح من الحضور للجماعۃ ونحوہ. (۷) اور فتاویٰ بزازیہ

(۱) اور ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں ہر وہ شخص داخل ہو گیا جو قیامت تک دین میں بدعتیں نکالے اور دین میں ہرزادتی بھی اس میں داخل ہوگی۔  
 (۲) اور فاتحہ اور سورۃ اخلاص و کافروں کو کھانے پر پڑھنا بدعت ہے  
 (۳) اور قرآن پڑھنے کے وقت کھانا کھانا مکروہ ہے۔  
 (۴) ایک معرف جو توں کی صفت کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور ختم کے بعد سورۃ اخلاص تین بار اور سورہ فاتحہ ایک بار کھڑے ہوئے پڑھتا ہے اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ در یہ بدعت ہے اور اس قسم کا کام سلف سے منقول نہیں ہے۔  
 (۵) ہم درے کے گھر والوں کے پاس حج ہونے اور ان کا کھانا پکوانا نوحہ گری میں سمجھتے تھے۔  
 (۶) اور اہل میت کی طرف سے ضیافت کا ہونا بہت بڑی بدعت ہے جیسا کہ ابن ماجہ اور امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(۷) طیبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص امر مستحب کے کرنے پر اصرار کرے اور اس کو لازم قرار دے اور اجازت پر عمل نہ کرے تو اس نے شیطان کی گمراہی کا حصہ پالیا تو پھر کیا حال ہوگا اس شخص کا جو بدعت یا امر منکر پر اصرار کرے یہ جگہ ہے ان لوگوں کی نصیحت کے لئے جو میت کے لئے تیسرے دن حج ہونے پر اصرار کرتے ہیں اور اسکو جماعت میں حاضر ہونے پر ترجیح دیتے ہیں۔

میں مرقوم ہے بکھرہ اتخاذ اطعام الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الا سبوع ونقل الطعام الی القبر فی المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والفقراء للختم او لقراءة سورة الانعام والاخلاص انتهى (۱) اور شرح منہاج امام نووی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے الاجتماع علی المقبرة فی الیوم الثالث وتقسیم الوردو العودو اطعام فی الیام المخصوصة كالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرون والاربعین والشهر السادس والسنة بدعة. (۲) اور حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ شرح سفر السعادت ومدارج میں فرماتے ہیں ایں اجتماع مخصوص بروز سوم وارکاب تکلفات دیگر مصرف اموال بے وصیت از حق یتامی بدعت است وحرام اتھی۔ (۳) اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وصیت نامہ میں فرماتے ہیں دیگر از عادات شنیعہ ما مردم اسراف است در ماتہا وچہ، جہلم و فاتحہ سالیانہ این ہمہ را در عرب اول وجود نبود مصلحت آنست کہ غیر تزیینت وارثان میت ناسہ روز و طعام ایشان یک شبانہ روز رے نباشد اتھی (۴) اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی وصیت نامہ میں فرماتے ہیں وبعد مردن من رسوم دنیوی مثل رہم دستم وچہ، جہلم و ششماہی و فاتحہ سالیانہ بیچ نکتہ اتھی اللهم ارننا الحق حقاً الباطل باطلا (۵) فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وعندہ علم الحق والکتاب۔ الجواب صحیح ابو سعید محمد حسین۔

(۱) اور پہلے دن اور تیسرے دن اور ساتویں دن کھانا تیار کرنا اور موسم میں قبر پر کھانے کالے جانا یعنی عرس وغیرہ کے موقع پر اور قرآن مجید کے پڑھنے کے لئے دعوت دینا اور صلحاء فقراء کو ختم کے لئے یا سورۃ انعام یا سورۃ اخلاص پڑھنے کے لئے دعوت دینا سب مکروہ ہے۔

(۲) تیسرے دن قبر پر جمع ہونا اور گلاب وعود کا تقسیم کرنا اور مخصوص ایام میں کھانا کھانا جیسے تیسرے پانچویں نویں دسویں بیسویں اور چالیسواں اور چھٹے مہینے اور سال بھر کے بعد یہ سب بدعت ہے۔

(۳) یہ مخصوص اجتماع تیسرے دن کا اور دوسرے تکلفات اور بے وصیت کے یتامی کے حق میں سے مال کا صرف کرنا بدعت ہے اور حرام۔

(۴) ہماری بری عادات میں سے دوسری عادات تفصلاً خرچی ہے جو ماتوں میں اور چالیسویں اور سالانہ کی فاتحہ میں ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کا عرب اول میں وجود نہ تھا مصلحت تو یہی ہے کہ میت کے وارثوں کی تزیینت میں دن اور ان کو ایک دن ایک رات کھانا دینے کے سوا اور کوئی رسم نہ ہو۔

(۵) میرے مرنے کے بعد دنیوی رسوم جیسے دسواں، بیسواں، چالیسواں، ششماہی اور سالانہ بری کچھ نہ کریں اے اللہ ہم کو حق اس طرح دکھا کہ حق معلوم ہو اور باطل اس طرح دکھا کہ باطل معلوم ہو۔

صواب صحیح  
لقد اصاب الحبيب المليب جواب نہایت صحیح اور درست ہے ابو سعید محمد حسین۔  
بندہ حبیب، مولوی احمد شاہ، حررہ دین محمد، محدث بنا لوی۔  
عفی عنہ حسن پوری عفا اللہ عنہ  
اصاب من اجاب، الجواب صحیح عبدہ المسکین و ہاج الدین غفرلہ ہذا الجواب صحیح عبدہ البجیل  
ابوالخیر سعد الدین غفرلہ۔ محمد عبد البجیل۔  
صح الجواب واقعی مولود کسی اور فاتحہ سوم دم، چہلم مروجہ بدعت ہے اور ناجائز ہے حررہ ظیل احمد عفا  
اللہ عنہ۔

کلیا صحیح بندہ محمود عفی عنہ۔ الجواب صحیح خاکسار محمد صدیق مراد آبادی۔ ظلیل احمد انیسٹھوی۔

محمود حسن ۱۳۰۳ دیوبندی محی الدین خان احمد ۱۲۶۰۔ محی الدین عفی عنہ مراد آبادی۔

الجواب صحیح عبدالرحمن کان اللہ عبدالرحمن بن عنایت اللہ

لقد سنی الحبيب المليب سعياً موفوراً وکان سعياً مشكوراً محمد حسین مراد آبادی ۱۳۰۵۔

فی الحقیقت محفل میلاد شریف جو خالی منہیات و بدعات شرح سے ہووے تو ادب و مستحب

ہے ورنہ حرام و ممنوع ہے اور طریقہ ایصال ثواب مندرجہ سوال بدعت ہے۔ مولانا محمد عالم علی۔

کما حررہ الحبيب المصیب فقط محمد قاسم علی عفی عنہ مفتی شہر مراد آباد محمد قاسم علی خلف۔

الحبيب مصیب احمد حسن دیوبندی۔ الجواب صحیح بندہ محمد ان محمد حشمت علی عفی عنہ۔

محمد حشمت علی خان مراد آبادی۔

احمد حسن صاحب امر دینی ما انکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنہ فانتھوا۔

الحبيب مصیب محمد حسن عفی عنہ۔ محمد حسن مراد آبادی ۱۲۸۰ھ صحیح عبدالحق مولانا مولوی اسمہ

احمد ۱۲۹۷۔

اصاب من اجاب الجواب حق الحق الحق بالا تبارع۔

سید محمد عبدالرشید عفی عنہ عبدالکیم عفی عنہ۔

الجواب صحیح الحبيب شاب و الجواب صواب لقد صح الجواب اصاب من اجاب۔

حسینی شریف عفی عنہ بنگلوری عاصی محمد عبدالحق مراد آبادی احقر بشیر احمد عفی عنہ محمد جان علی

محدث مقیم مراد آباد درباری قاضی صاحب۔

اگر ذکر میلاد جناب سرور کائنات بطور وعظ متضمن روایت صحیحہ خالی بدعات سے ہو تو

مستحسن ہے اور بالفعل رسمی مولد میں کہ بیشتر امور خلاف سنت و اشعار خلاف ادب بلکہ کفر و الحاد تک مذکور ہوتے ہیں قابل حذر و زجر ہیں اور فاتحہ غیر مسنون التزماً اجتماع مردم طعام میت جو رسمی طور پر تقسیم ہوا کرتا ہے خالی کراہت و بدعت سے نہیں واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب رقمہ المذنب الاواہ محمد لطف اللہ عفی عنہ مفتی ریاست رامپور بے شک مجیب نے نہایت درست تحریر کیا ہے نماذ ابعد الحق الاصلال۔

فقط براہ محمد رضائے خدا

محمد رضا خان ۱۲۸۵ھ ولد محمد عمر خان الحق یوخذ بالنواجذ کتبہ العبد المتمسک باللہ محمد سلیم محمد سلیم اللہ ۱۱۲۹۲ھ جواب صحیح عبدالقادر خادم شریعت رسول اللہ مفتی محمد لطف اللہ ۱۲۵۸ھ۔

مدرس مدرسہ اسلامیہ رامپور مدرس مدرسہ اسلامیہ رامپور

الحق الحق بالا اتباع حررہ عبدہ الخیف محمد علی رضا مدرس مدرسہ اسلامیہ رامپور۔ ابوالخیر محمد رضا علی۔

جواب الجواب اصح اور حق یہی ہے اور ماعد اس کا باطل ہے عبدالوہاب خاں عفی عنہ۔

بلا ریب محفل میلاد کہ جوئی زمانہ نازد معمول بہ ہے وہ محض خلاف شرع اور منجی عنہ ہے اور ایصال ثواب بلا تقید و تعیین اوقات کے موتی کی نسبت ثابت ہے اور بہیث کذائی فاتحہ مذکورہ اور سوئم و دوہم و بستم و چہلم و برسی وغیرہ سارے کے سارے افعال کو جو مسلمانوں نے نہو دو دیگر مذہب والوں سے اخذ کئے ہیں۔ شرعاً ناروا و ناجائز ہیں۔ چنانچہ فقیر نے اپنے بعض رسائل مطبوعہ سابق میں بھی بطور نبط اس کو لکھا ہے۔ فقط اور سب جواب مجیب کے صحیح ہیں واللہ اعلم و علمہ، احکم و اتم مسکین محمد اسماعیل بیگ غفرلہ مدرس عربی مدرسہ امدادیہ المرقوم ۱۸ شہر ذی قعدہ ۱۳۰۹ھ قد صح الجواب واللہ اعلم بالصواب۔ محمد دائم علی عفی عنہ۔ صانہ محمد اسماعیل الخلیل مراد آبادی ۱۲۹۶ھ۔

واقعی نفس میلاد بطریق و عظ کچھ مضائقہ نہیں بلکہ مندوب مگر بہیث مروجہ خالی از حرمت و بدعت نہیں اور ایصال ثواب اس طریقہ پر بدعت فقط حررہ محمد عبدالغنی عفی عنہ سہنپوری بلا ریب طریقہ ایصال ثواب مندوبہ سوال زمانہ خیر القرون میں نہ پایا جاتا ہے اور ایسے ہی محفل میلاد بھی۔

الجواب صحیح محمد ہدایت العلی عفی عنہ محمد ہدایت العلی لکھنوی مقیم مراد آباد۔

بلا شک یہ طریقہ ایصال ثواب اور یہ محفل میلاد بہیث کذائی عند اہل الشریعہ بدلائل مذکورہ بالاد نیز بدلتہ کثیرہ مما سواہا نامشروع و بدعت ہے کذانی الکتاب الشرعی فقط۔ محمد زکریا عفی عنہ ۱۳۰۹ھ۔

مظفر پوری۔

الجواب صحیح سید محمد حسن بغدادی۔

ہر دو جواب مرقوم بالا شک صحیح ہستند محفل میلاد بہیت کذائی بدعت است و فاتحہ رسمی و سویم و وہم و چہ جہلم جملہ از رسوم ہنود ہستند (۱) واللہ اعلم کتبہ عبد ربہ القوی محمد نعمت اللہ البردوانی انگلوسوی  
الجواب صحیح ابوالفضل محمد نصیر الدین عفی عنہ۔ ابوالفضل محمد نصیر الدین ۱۳۰۶۔

جوابات صحیح اور حق ہیں۔ عنایت الہی عفا اللہ عنہ بہار پوری عبدالمنان محمد عبدالرحمن ۱۳۰۱  
سراج گنجی ثم شاہ باز پوری۔

جوابات صحیح ہیں اس لئے امور مذکورہ سوال حق متعلق عن الرسول کے خلاف ہیں جو امور اس  
کے خلاف ہیں وہ بدعت ہیں۔ سخاوت علی عفی عنہ مدرسہ اسلامیہ ایٹھ سخاوت علی۔  
صح الجواب من غیر شک ولا ارتیاب فاعتبر واما اولی الالباب فقیر محمد حسین الدہلوی۔  
الجواب صحیح ہر چیزے کہ از عبادات باشد و شوش من خیر القرون نباشد آن بلا ریب بدعت  
است و تجاوز از حد و شرعیہ ہست۔

المسکین خادم العلماء ظلیل ڈھوڈی یالوی ثم انبالوی۔ مولوی ظلیل اللہ واعظ۔  
امور مندرجہ سوال محض محظور اور ممنوع ہیں۔ حاضر ہونا ایسے مواضع میں کام مبتدع اور ناخدا  
ترسون کا ہے نفس محفل کو مندوب اور مستحب سمجھنا کام ناواقف کا ہے۔ قواعد اصول اور تصریحات  
علمائے فحول سے ذکر جناب ﷺ کا البتہ مندوبات شرعیہ سے ہے محفل اور جملہ تقیدات بلاشبہ  
بدعت و مکروہ ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ العبد المقتسم سراج احمد عفا اللہ عنہ۔ صفحہ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔  
من اجاب نقد اصاب الجواب صحیح الجواب صحیح عزیز الرحمن عفی عنہ۔  
جیل احمد اسراہیلی سنہلی العبد محمد حسین محمد حسین تمنا جان ۱۲۸۲۔ دو کل علی العزیز الرحمن دیو بندی۔  
الجواب صحیح محمد امان اللہ کشمیری مراد آبادی

الجبیب مصیب انعقاد جلسہ محافل مولود مروجہ جلسہ فاسقانہ ہے۔ فاعل عامل کل بدعتہ ضلالہ  
مرتبک حدیث بدعت ہیں۔ خادم العلماء بل من تراب اقدام محمد اللہ یار عفی عنہ واعظ بریلوی۔  
الجواب صحیح العبد فتح محمد تھانوی الجواب حق بلا ارتیاب محمد سعد الدین کشمیری عفا اللہ عنہ

(۱) اور کے دونوں جواب بلا شک صحیح ہیں محفل میلاد اس موجودہ صورت کی بدعت ہے اور رسمی فاتحہ اور سویم و وہم و چہ جہلم  
جملہ ہنودی رسمیں ہیں۔



الجواب صحیح بندہ محمد امین الدین عفی عنہ اورنگ آبادی لاشک فی محمد امین ست ۱۳۰۳

الجواب صحیح محمد منفع علی عفی عنہ مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند محمد منفع علی ۱۳۰۲۔

الجواب صحیح غلام رسول عفی عنہ مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند۔

الجواب صحیح بندہ امیر رضا عفی عنہ امیر رضا ۱۳۱۰ الجواب صحیح محمد اسحاق امرتسری۔

التزام مالا یلزم ان سب امور میں موجود ہے اور یہ التزام عبادات ہوں یا عادات ہوں اس امر میں یہ حصہ شیطانی ہے۔ حسب حدیث انصراف کے نماز سے جو کہ یہ سب امر خیر القرون میں نہیں تھے تو ان کا عدم خیر القرون میں واسطے ممانعت کے کافی ہے مجوز کو چاہئے کہ کوئی حدیث یا آیت دلیل جواز کی پیش کرے عدم قدیم ہمارے واسطے دلیل کافی ہے اور ذکر خیر آنحضرت ﷺ ہر طرح موجب خیر و برکت کا ہے امور ممنوعہ اس کے ساتھ مل کر اس کو بھی اپنے جیسا کر لیتے ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب العبد محمد عبدالرحمن عفی عنہ بقلم عبدالسلام بن انصاری ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۱۰ھ از پانی پت۔ محمد عبدالرحمن شاگرد مولانا اسحاق صاحب۔

یہ سب امور بدعت سیدہ سے ہیں ان امور کا التزام نہ حضرت ﷺ سے اور نہ خلفائے راشدین سے ہے۔ قرآن کی مجلسوں میں تو کوئی حاضر ہوتا نہیں ہے جیسے مولود خوش الحانوں کے پڑھنے پڑھانے میں عوام کا لانا عام جمع ہوتے ہیں اور سوم و دہم وغیرہ کل بدعات ہیں فقط واللہ اعلم بالصواب صحیح الجواب سید مصطفیٰ ابن محمد مفتی مدینہ خاص الجواب صحیح الحق الحق ان بیچ العبد المسکین راجی رحمۃ رب العالمین۔ بخشدہ ست عاصیان رحمہ۔

قول صحیح من غیر شک وشبهة ومن شک فیہ فقد کفر محمد عبدالجبار عفی عنہ محمد یسین راجی رحمۃ الرحمن شیر کوٹی۔

محمد یسین عفی عنہ

الجواب صحیح والحبیب بحق مدرس مدرسہ رڈکی

الجواب صحیح کتبہ عبدالواحد بن عبداللہ عن نوری الحق لا تجاوز عمانی ہذا الجواب۔

وانا ابو عبید احمد اللہ عفی عنہ محدث امرتسری کتبہ عبدالجبار بن عبداللہ الغزنوی۔

ہذا الجواب صحیح عبدالرحمن ابن مولوی غلام اعلیٰ المرحوم اشلہ القرآن۔

الجواب صحیح ابو الحق محمد الدین عفی عنہ احمد بن عبداللہ الغزنوی۔

ولکم فی رسول اللہ اسوة حسنة جواب صحیح اور بالکل صحیح ہے محمد عبدالرحمن امباری

ابو اسحق محمد الدین۔

ابو الوفا ثناء اللہ کفاحہ اللہ خادم مدرسہ تائید الاسلام امر تسری ثناء اللہ محمود ہے۔

مولود خوانی مطلقاً وغیرہ رسم و عادات جبلاء موت فوت میں جو اوپر مذکور ہوئے سب بدعت و ضلالت اور صریح گمراہی ہیں کل بدعة ضلالة و کل ضلالة فی النار وماذا بعد الحق الا الضلال و من لم یقبل فلیبأهلنی۔

اللہم انا الحق حقا و الباطل باطلا۔ (۱) عبدالحق الغزنوی مباہل اہل باطل۔

الجواب حق و ماذا بعد الحق الا للضلال۔ ابو یعلیٰ عبدالاعلیٰ غزنوی۔

لہ من اجاب احقر المهور بندہ عبدالغفور۔ عبدالغفور سنوہاری

الجواب صحیح محمد عبدالعزیز۔

ذکر ولادت اور ایصال ثواب میت کو جائز اور مستحب ہے لیکن جس طرح جبلاء زمانہ نے قیام وغیرہ متفرق قیدیں نکالی ہیں۔ وہ بدعت سیئہ ہیں اور اصرار کرنا بدعت کبیرہ ہے اور بعض وقت نوبت کفر تک پہنچتی ہے حکیم محمد ضیاء الدین عفی عنہ بقلم بندہ احمد۔ حکیم محمد ضیاء الدین خلیفہ حضرت حافظ ضامن صاحب شہید۔

بدون قیام کے مجلس میلاد کا انعقاد

(سوال) انعقاد مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیح ہے یا نہیں۔

(جواب) انعقاد مجلس مولود ہر حال ناجائز ہے و تداعی امر مندوب کے واسطے منع ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مجالس میلاد و عرس و سوم و چہلم

(سوال) سوم چہلم وغیرہ کی مجلس تخصیص دن کے منع ہے یا بالکل ہی ترک کرنا چاہئے اور اس مجلس میں جانا چاہئے یا نہیں۔

(جواب) مجالس مروجہ زمانہ ہذا میلاد و عرس و سوم و چہلم بالکل ہی ترک کرنا چاہئے کہ اکثر معاصی اور بدعات سے خالی نہیں ہوتی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے اور حق کے بعد بجز گمراہی کے اور کیا ہے اور جو قبول نہ کرے وہ مجھ سے مباہلہ کرے اللہ ہم کو حق دکھائے اور باطل دکھائے۔

## مجلس میلاد کا کرنا

(سوال) زید نے بکر سے دریافت کیا کہ مجلس میلاد مردوجہ حال جائز ہے یا نہیں ہے اور اس میں شریک ہونا کیسا ہے بکر خود بھی مجلس میلاد کرتا تھا اور آئندہ سال کو ارادہ بکر کا بھی ترک مجلس کا تھا بخیاں اس کے کہ خرچ زائد ہوتا تھا اور اپنے اعتقاد میں ناجائز جانتا تھا مگر منع کرنا مجلس کا بوجہ اس کے تھا کہ اس وجہ سے کوئی مجھ کو طعن نہ دیوے گا جبکہ میں اس مجلس کو نہ کروں گا بہانہ شرع کا ہو جاوے گا اور خود نہ شریک ہونا مجلس کا اس وجہ سے ترک کیا کہ لوگ معترض ہوں گے اول تو ان خیالات سے مانع ہوا بعدہ یہ نیت خالصاً اللہ مانع ہوا لہذا اس سبب سے بکر کو ترک بدعت سابقہ و حال و انکار بدعت سے ثواب ہوگا یا نہیں اور باعث ریا تو نہیں ہے۔

(جواب) بہر حال گناہ سے محفوظ رہا جب سے قصد ترک کیا بہتر ہوا کہ بجز ترک گناہ کا ہوا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## محفل میلاد جس میں صحیح روایات پڑھی جائیں

(سوال) محفل میلاد جس میں روایات صحیحہ پڑھی جاویں اور لاف و گزاف اور روایات موضوعہ اور کاذبہ نہ ہوں شریک ہونا کیسا ہے۔

(جواب) ناجائز ہے بسبب اور وجہ کے۔

## فتویٰ مولوی احمد رضا خان صاحب در باب میلاد شریف

فتویٰ:- در باب عدم جواز مجلس مولود مردوجہ از مجموعہ فتاویٰ قلمی احمد رضا خان صاحب منقولہ از باب النظر صفحہ ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳۔ موصولہ از مولوی عبدالصمد صاحب رامپوری۔

(استفتاء) اس مسئلہ میں کہ مجلس میلاد حضور خیر العباد علیہ الوف تحیۃ الی الیوم التناذ میں جو شخص کہ مخالف شرع مطہر مثلاً تارک صلوة شارب خمر ہوا ڈھی کتر و اتا ہوا یا منڈ و اتا ہوا مومچیں بڑھاتا ہو بے وضو بے ادبی گستاخی سے بروایات موضوعہ تنہا یاد و چار آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر مولود پڑھتایا پڑھاتا ہو اگر کوئی مسئلہ بتائے تبصیر کرے تو استہزاء مزاح کرے بلکہ اپنے مقتدیوں کو حکم کرے داڑھی منڈانے والے رکھانے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ جیسے ان کے رخسار صاف صاف ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے دل مثل آئینہ کے صاف و شفاف ہیں ایسے شخص سے مولود شریف

پڑھوانا یا اس کو پڑھنا یا ممبر و مسند پر تعظیماً بیٹھنا ہٹھانا بانی مجلس و حاضرین و سامعین کا ایسے اشخاص کو بوجہ خوش آوازی کے چونکہ پر مولود پڑھنے ہٹھانا جائز ہے یا نہیں اور ایسے آدمی سے رب العزت جل مجدہ اور روح حضور نضر عالم ﷺ کی خوش ہوتی ہے یا ناخوش اور پروردگار عالم ایسی مجالس سے خوش ہو کر رحمت نازل فرماتا ہے یا غضب اور حضور اقدس ﷺ کی دلخوش ہوتی ہے یا ناخوش اور پروردگار عالم ایسی مجالس سے خوش ہو کر رحمت نازل فرماتا ہے یا غضب اور حضور اقدس ﷺ ان محافل میں تشریف لاتے ہیں یا نہیں بانیین اور حاضرین محافل کے مستحق رحمت ہیں یا غضب بینوا من الکتاب تو جروا عند رب الارباب۔

(جواب) افعال مذکورہ سخت کبائر ہیں اور ان کا مرتکب اشفاق فاجر مستحق عذاب نیران و غضب رحمن اور دنیا میں مستوجب ہزاران ذلت و ہوان خوش آوازی خواہ کسی علت نفسانی کے باعث اسے مجرمند پر کہ ھقیقہ مسند حضور پر نور سید عالم ﷺ ہے تعظیماً ہٹھانا اس سے مجلس مبارک پڑھوانا حرام ہے۔ تبیین الحقائق و فتح اللہ المعین و طحطاوی علی مراتب الفلاح وغیرہ میں ہے فی تقدیم الفاسق تعظیمہ و قلدو جب علیہم اھانتہ شرعاً (۱)

روایت موضوعہ پڑھنا بھی حرام سننا بھی حرام ایسی مجالس سے اللہ عزوجل اور حضور پر نور سید عالم ﷺ کمال ناراض ہیں ایسی مجالس اور ان کا پڑھنے والا اور اس حال سے آگاہی پاکر بھی حاضر ہونے والے سب مستحق غضب الہی ہیں یہ جتنے حاضرین ہیں سب وبال میں جدا جدا گرفتار ہیں اور ان سب کے وبال کے برابر اس پڑھنے والے پر وبال ہے اور اپنا گناہ خود اس پر علاوہ اور ان حاضرین وقاری سب کے برابر گناہ ایسی مجلس کے بانی پر ہے اور اپنا گناہ خود اس پر طرہ مثلاً ہزار شخص حاضرین مذکور ہوں تو ان پر ہزار گناہ اور اس کذاب قاری پر ایک ہزار ایک گناہ اور بانی پر دو ہزار دو ایک ہزار حاضرین کے اور ایک ہزار ایک اس قاری کے اور ایک خود اپنا پھر یہ شمار ایک ہی بار نہ ہوگا بلکہ جس قدر روایات موضوعہ جس قدر کلمات نامشروعہ قاری جاہل جری پڑھے گا ہر روایت ہر کلمہ پر یہ حساب وبال و عذاب تازہ ہوگا مثلاً فرض کیجئے کہ ایسے سو کلمات مردودہ اس مجلس میں اس نے پڑھے تو ان حاضرین میں ہر ایک پر سو سو ۱۰۰۰ گناہ اس قاری و علم دین سے عاری پر ایک لاکھ ایک سو گناہ اور بانی پر دو لاکھ دو سو قس علی ہذا رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص

(۱) فاسق کو بڑھانا دراصل اس کی تعظیم کرنا ہے حالانکہ ان پر شرعاً اس کی اہانت واجب ہے۔

ذکر من اجورهم شیئا ومن دعی الی ضلالة کان علیہ من الاثم مثل اثم من تبعہ لا ینقص ذلك من اثمہم شیئا رواہ الائمة احمد و مسلم والا ربعة عن ابی ہریرة (۱) رسول اللہ ﷺ پاک و منزہ ہیں اس سے کہ ایسی ناپاک جگہ تشریف فرما ہوں البتہ وہاں ابلیس شیاطین کا ہجوم ہوگا و العیاذ باللہ رب العالمین ذکر تشریف حضور پر نور سید عالم ﷺ با وضو ہونا مستحب ہے اور بے وضو بھی جائز ہے اگر نیت معاذ اللہ استخفاف کی نہ ہو حدیث صحیح میں ہے۔

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالیٰ علی کل احوالہ رواہ الائمة احمد و مسلم والا ربعة الا النسائی عن ام المؤمنین الصدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہا و رواہ البخاری تعلیقا (۲) اگر عیاذ باللہ استخفاف و تحقیر کی نیت ہو تو صریح کفر ہے یونہی مسائل شرعیہ کے ساتھ استہزاء صراحتہ کفر ہے۔ قال اللہ تعالیٰ قل ابا اللہ و ایتاہ و رسولہ کتتم تستہزؤن لا تعتذر و اقد کفر تم بعد ایمانکم (۳) یوں ہی وہ کلمہ ملعونہ کہ واڑھی منڈانے والے رکھانے والوں سے بہتر ہیں الخ صاف سنت متواترہ کی توجین و رکلمہ کفر ہے۔

والعیاذ باللہ رب العلمین واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجدہ اتم و احکم کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ بمحمد المصطفیٰ . النبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

محمدی سنی ۱۳۰۰ھ

عبدالمصطفیٰ احمد رضا خان

## عرس میں شرکت

(سوال) جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جاوے اور تقسیم شیرینی ہو شریک ہونا جائز ہے یا نہیں۔

- (۱) جس نے ہدایت کی طرف بلا یا تو اس کے لئے اس قدر اجر ملے گا جس قدر اجر کہ پیروی کرنے والوں کو ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جو شخص کہ گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس کو اس قدر گناہ ملے گا جتنا کہ اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی اس کو امام احمد و مسلم اور چاروں ائمہ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔
- (۲) نبی ﷺ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اس کو امام احمد و مسلم اور چاروں ائمہ نے بجز نسائی کے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے اور اس کو بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے۔
- (۳) کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کرتے تھے اور آج تم خبردار کوئی عذر کرنا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا۔

(جواب) کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی ساعس اور مولود درست نہیں ہے۔

### ہر سال عرس کرنا

(سوال) جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کا عرس گنج مراد آباد میں ہر سال تاریخ معینہ پر ہوتا ہے بذریعہ اشتہار تاریخ عرس تشہیر بھی کی جاتی ہے خاص مریدان سلسلہ کو بذریعہ خطوط اطلاع دی جاتی ہے تاریخ معینہ پر لوگوں کا اجتماع ہو کر قرآن خوانی ہوتی ہے اور ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے قوالی راگ سماع مزامیر و دیگر خرافات وغیرہ روشنی بھی نہیں ہوتی ہے امیدوار ہوں کہ جواب باصواب مرحمت فرمادیں کہ میاں صاحب موصوف کے یہ عقائد بموجب شرع شریف جائز درست ہیں یا باطل لغویات سے ہیں اگر ناجائز و نادرست نزد شارع علیہ السلام ہیں تو ایسے شخص اور ایسے عقیدہ رکھنے والے کی امامت درست ہے یا نہیں اور صحابہ پر طعن و مردود و ملعون کہنے والے اور رسول مقبول ﷺ کو علم الغیب جاننے والے باوجودیکہ قرآن و حدیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت کو علم غیب نہ تھا اور پھر واقف کار لوگوں کا سمجھنا اور میاں صاحب کا اصرار اپنے عقائد پر ان کو کس درجہ کا گنہگار بناتا ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سے سنت جماعت سے خارج ہووے گا یا نہیں ایسا عرس جس میں سب التزام ہو تاریخ تعیین بھی ہو اجتماع بھی ہو پھر قوالی راگ مزامیر سماع و نا جائز مجمع عورتوں کا نہ ہو جائز و درست ہے یا نہیں۔

(جواب) عرس کا التزام کرے یا نہ کرے بدعت اور نادرست ہے تعیین تاریخ سے قبروں پر اجتماع کرنا گناہ ہے خواہ اور لغویات ہوں یا نہ ہوں اور جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سے سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ از بندہ محمد یحییٰ السلام علیکم علم غیب کے متعلق دو تین رسالے میرے پاس موجود ہیں اور حضرت کی کتاب براہین قاطعہ میں یہ بحث اور بحث عرس وغیرہ خوب مدلل مذکور ہے۔ والسلام

### عرس کا حکم

(سوال) اول زید پیری مریدی کا پیشہ کرتا تھا قضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ مرید لوگوں نے زید کو ایک جلیل القدر بزرگ سمجھ کر وقت دفن کرنے کے قبر میں ہر چہا طرف پتھر لگا کر دفن کیا اور پھر حسب دستور زمانہ حال زید کی قبر کی چہا ر دیواری پختہ بنائی۔ دوم مرید لوگ زید کی سالانہ برسی کرتے ہیں یعنی ایک تاریخ مقرر کر کے کسی دوسرے بزرگ کی خانقاہ میں سب مرید جمع ہوتے

ہیں وہاں پر خلیفہ زید کا مریدان حاضرین کو توجہ دیتا ہے اور نیز ظاہر کرتا ہے کہ زید اس وقت جلسہ ہذا میں تشریف لائے بلکہ شریک جلسہ ہذا ہیں اور فلاں فلاں ارشاد فرماتے ہیں شرعاً امور مذکور الصدر درست ہیں یا خلاف اور جو شخص امور مذکورہ کا مرتکب ہو اس کا امام بنانا درست ہے یا نہیں اور وہ شخص کس درجہ میں ہے فتویٰ مفصل و شرح ارقام فرمایا جاوے۔

(جواب) قبر میں پتھر لگانا مکروہ ہے اور فقہاء نے صراحتاً اس کو منع لکھا ہے اور مولانا محمد اسحاق دہلوی مہاجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہ تمام ہندوستان کے علماء محدثین کے استاد و استاذ زادہ نواسہ و شاگرد و خلیفہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کے ہیں اپنے مسائل اربعین اور مانہ مسائل میں اس کو منع لکھتے ہیں۔ الفاظ اربعین کے یہ ہیں پختہ ساختن قبر و تعمیر نمودن گنبد و چہار دیواری و چوہرہ نزد قبر جائز نیست (۱) اور عرس کے باب میں بھی جواب یہ ہے کہ منع ہے اربعین میں مولانا ممدوح لکھتے ہیں مقرر ساختن روز عرس جائز نیست و در تفسیر مظہری مینویسد لا يجوز لمصلحة الجہال بقبور الاولیاء و شہداء من الحجو و الطواف و جہلہا و اتحاخا و السرج و المساجد الیہا من الاجتماع بعد الحول کالاعیاد و یسومہ عرساً (۲) اتھی اور یہ ہنوات کہ شیخ جلسہ میں حاضر ہے اور یہ امر فرماتا ہے۔ اگرچہ بتاویل صحیح شرک نہیں مگر منجر بشرک اور باعث فساد عقیدہ عوام ہے تو یہ امر بھی بدعت و ضلال و گناہ سے خالی نہیں بسبب انجام شرک کے لہذا یہ سب امور ممنوع و خلاف سنت ہیں اگر مرتکب و مصوب ان امور کا اصرار کرے اور ترک نہ کرے تو امام بنانا اس کو منع ہے گو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے جب تک فساد عقیدہ اس کا محقق نہ ہو اور بندہ مولانا محمد اسحاق مرحوم کے فتاویٰ سے یہ نقل کرتا ہے اگر کسی کو شبہ ہو دونوں رسالہ مذکورہ بالا کو مطالعہ کر لے اور نصوص حدیث و فقہ کو نقل نہیں کرتا کہ ان کے مطالعہ سے عوام بلکہ خواص ہمارے زمانہ کے بھی قاصر ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

رشید احمد گنگوہی عفی عنہ رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔

الجواب صحیح والجیب مصیب الجواب صحیح والجیب مصیب

فخر الدین عفی عنہ گنگوہی گل محمد سرور علی شاہ عفی عنہ

مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔

(۱) قبر کو پکانا اور گنبد کی تعمیر کرنا اور قبر کے پاس چار دیواری اور چوہرہ ہٹانا جائز نہیں۔  
(۲) عرس کے لئے دن مقرر کرنا جائز نہیں ہے اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جو کچھ جہال اولیاء و شہداء کی قبروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے جیسا کہ بعدہ اور اس کے اطراف طواف کرنا اور جنون کا جلانا اور مسجدوں کو اس کی اطراف میں بنانا اور ہر سال کے بعد اجتماع محل عید کے اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں۔

الجواب صحیح حبیب الرحمن مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔

ہذا الجواب صحیح محمد اسماعیل مدرس مدرسہ عربی دیوبند۔ جوابات و سوالات صحیح ہیں عنایت الہی عنہ۔  
جواب صحیح ہے اللہ تعالیٰ ان فضائح کے مرتکب کو اجتناب کی توفیق دے کے اتباع سنت پر قائم  
رکھے مشتاق احمد عنہ۔ جواب صحیح ہے اور اس عبارت سے گریز بھی کمال درجہ گمراہی ہے۔

احمد علی عنہ غوانپوری وارد حال سہارنپور۔ الجواب صحیح فضل الرحمن عنہ دیوبندی ہذا  
الجواب صحیح و منکرہ فصیح۔

الجواب صحیح خلیل احمد عنہ مدرس مدرسہ عربی دیوبند۔ محمد مراد ثناء اللہ عنہ از مظفر نگر۔

صحیح الجواب الجیب مصیب محمد اسحاق نہٹوری عفا اللہ عنہ الجواب صحیح۔

صدیق احمد مدرس مدرسہ حسین بخش دہلی۔ مدرس مدرسہ حسین بخش دہلی۔ محمد علی عنہ مدرس مدرسہ  
حسین بخش دہلی۔

الجواب صحیح۔ الجواب صحیح۔ جواب صحیح ہے۔ الجواب صحیح۔

عبدالرزاق بندہ محمود عفا اللہ عنہ دیوبندی محمد عبدالرشید انصاری سہارنپوری۔ بندہ عزیز الرحمن  
عنہ دیوبندی۔

الجواب صحیح۔ الجواب صحیح۔ اصاب من اجاب الجواب صحیح من اجاب اصاب

محمد یعقوب علی عنہ غلام رسول عنہ محمد یسین عنہ حبیب الرحمن محمد بشیر احمد

مدرس مدرسہ عربی دیوبند۔ مدرس مدرسہ عربی دیوبند۔ دیوبندی عنہ دیوبندی۔ عنہ

تمام شد



## کتاب الجنائز

جنازے اور میت اور قبروں کے مسائل کا بیان

مردوں کو ثواب کس طرح پہنچتا ہے

(سوال) ایصالِ ثواب میں نیت سب اموات کی کرے تو سب کو برابر پہنچے گا یا تقسیم ہو کر پہنچے گا۔

(جواب) یہ ثواب سب پر حصہ رسد تقسیم ہوگا۔ جیسا کہ ظاہر ہے اور سب کو ہر ہر واحد کو پورا ثواب جیسا مشہور ہے کوئی روایت صحیح اس کی بندہ کو معلوم نہیں واللہ اعلم۔

ثواب میت کو کس طرح پہنچے گا

(سوال) ایک شخص کے جس وقت دل میں آتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ الہی جس قدر مجھ سے نیکیاں تمام عمر میں ہوئی ہوں میں نے ان کا ثواب اپنے والدین کو بخشا۔ ایک شخص نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ یوں اموات کو ہرگز ثواب نہیں پہنچتا تا وقتیکہ کوئی چیز خاص ایصالِ ثواب کے واسطے نہ پڑھی جاوے تو یہ کہنا اس شخص کا صحیح ہے یا نہیں اور اس طرح سے ثواب بھی پہنچتا ہے یا نہیں۔

(جواب) ثواب ہر طرح پہنچ جاتا ہے۔ قول مانع کا صحیح نہیں۔

ثواب پہنچنے کا طریقہ

(سوال) ایک شخص تین مرتبہ قل شریف پڑھ کر اپنے والدین کو بخش دیتا ہے زید نے یہ بات سن کر اس شخص سے کہا کہ تم تین مرتبہ قل شریف پڑھ کر تمام زمانہ کے مسلمانوں کی روح کو بخش دیا کرو ہر ہر فرد بشر کو ایک ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا اور تمہارے والدین کے ثواب میں کچھ کمی نہ آئے گی اب وہ شخص یہ پوچھتا ہے کہ سب دنیا کے مسلمانوں کی نیت کر لیا کروں گا ورنہ مجھ کو کچھ ضرورت نہیں کہ میں اپنے والدین کا ثواب کاٹ کر اوروں کو دوں اس میں صحیح مسئلہ کیا ہے۔

(جواب) میرے استادوں کا یہ قول ہے کہ صحیح یہ ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر پہنچتا ہے۔ نہ سب کو پورا

پورا اور اس باب میں کوئی روایت حدیث کی صحیح نہیں فقط واللہ اعلم

## ایک قرآن مجید کا ثواب کئی کو کس طرح پہنچے گا

(سوال) ایک قرآن مجید کا ثواب چند مردوں کو پہنچایا تو تمام کو ایک قرآن کا ثواب تقسیم ہوگا یا ہر ہر واحد کو پورے ایک ایک قرآن کا ثواب حاصل ہوگا علیٰ ہذا القیاس طعام وغیرہ۔  
(جواب) جواب تقسیم ہو کر پہنچتا ہے۔

## طعام المیت یمیت القلب کا صحیح مطلب و منشاء

(سوال) ایک شخص نے حسب معمول مروجہ دینار دسویں کو بیسویں کو یا برسی ششماہی کو کھانا پکایا نیت اس کی یہ ہے کہ فقراء کو کھلاؤں گا اور برادری وغیرہ کو بھی تاکہ رسم برادری بھی ادا ہو جائے اور ثواب بھی ہو یا برادری دوست و احباب و اہل و عیال نے کھایا اور فقراء و مساکین نے بھی کھایا تو برادری دوست احباب نے جو کچھ کھایا تو وہ طعام میت کے حکم میں ہے یا نہیں اس پر طعام المیت یمیت القلب جاری ہوگا یا نہیں۔

(جواب) جس قدر فقراء کو کھلایا بہ شرط نیت خالصہ کے ثواب پہنچے گا اور رسم کا گناہ بھی ہووے گا اور جو طعام برادری کو کھلایا اس کا کھانا مکروہ ہے اور امانت قلب بھی اس میں حاصل ہے نہ کھانا چاہئے خواہ غنی ہو یا فقیر ایسا طعام مکروہ ہے۔ فقط

## غنی کو کھلانے کا ثواب مردہ کو

(سوال) اپنے بزرگوں کی ارواح کو ایصال ثواب منظور ہے کوئی شے اپنے یار و احباب اغنیاء کو کھلا کر ایصال ثواب کر سکتا ہے یا نہیں اور اغنیاء اسی شے کے کھانے سے خطا دار تو نہیں ہوں گے۔  
(جواب) غنی کو ایسا طعام صدقہ نفل کا مکروہ تزیہہ ہے اور ثواب پہنچتا ہے۔ مگر فقیر کے کھانے سے کم۔

## قبرستان میں قرآن شریف کیسے پڑھے

(سوال) قبرستان میں قرآن شریف آواز سے ناظرہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) قبرستان میں قرآن شریف پکار کے اور آہستہ دیکھ کر اور حفظ سب طرح پڑھنا درست

ہے۔ (۱) فقط

قبر پر مردے کو ثواب پہنچانے کے لئے ہاتھ اٹھانا

(سوال) قبر پر مردے کو ثواب پہنچانا ہاتھ اٹھا کر درست ہے یا نہیں؟

(جواب) ثواب پہنچانے کے لئے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو تو قبر کی طرف پشت کر لینی چاہئے۔

قبر پر قرآن شریف پڑھنا

(سوال) میت کو دفن کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سر ہانے اور پانچٹیں رکھ کر دو شخص اول و آخر سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اول و آخر سورۃ بقرہ پڑھنا تو حدیث شریف (۱) میں وارد ہوا ہے مگر خصوصیت انگلی کی نہیں ہے۔ (۲) فقط

مٹی ہوئی قبروں پر قرآن مجید پڑھنا

(سوال) ایک مکان میں چند قبریں پختہ و خام ہیں۔ اگر صاحب مکان اس جگہ قرآن شریف پڑھا کر بہ نیت قرآۃ علی القبر کی جس کو فقہاء منع کرتے ہیں تو جائز ہے یا نہیں اور احکام قبر بعد منہدم ہونے کے بدل جاتے ہیں یا نہیں۔

(جواب) وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے اور جب قبر مطسوس ہو جاوے نام و نشان نہ رہے تو بعض احکام بدل جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

قبر پر قرآن مجید پڑھوانا

(سوال) قرآن کے حافظوں کو قبر پر قرآن پڑھوانا یا مکان پر یا کسی دوسری جگہ پر واسطے ثواب میت کے کیسا ہے۔ اور اگر بغیر مقررہ اجرت کے کچھ حافظوں کو دیا جاوے کیا ہے اور چنے یا الائچی دانے کھانے کے جس پر کلمہ طیبہ میت کے واسطے پڑھا ہے کیا ہے اور تیجہ دسویں میں جانا کیسا ہے۔

(۱) قال فی شرح فقہ اکبر ردی عن ابن عمر انہ وصی ان یقرأ علی قبرہ وقت الدفن بقوات سورۃ البقرہ و خواتمہا شرح فقہ اکبر میں سے کہ حضرت ابن عمر سے روایت کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر پر دفن کے بعد سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھی جائیں واللہ اعلم۔

(۲) فتاویٰ مولوی عبدالحق صاحب ۱۲۔

(جواب) قبر پر قرآن پڑھوانا درست ہے اگر لوجہ اللہ تعالیٰ ہو اجرت کا خیال دونوں کو نہ ہو اور جو حسب قاعدہ و عرف دیا جاتا ہے وہ بھی بحکم اجرت ہے ایسے پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا نہ قاری کو نہ میت کو اور رسوم تہجد و سوس و غیرہا میں جانا بھی منع ہے۔

### قبروں پر قرآن مجید پڑھوانا

(سوال) قبروں پر قرآن پڑھوانے کو حافظوں کو مقرر کرنا کیسا ہے۔

(جواب) قبروں پر اگر قرآن لوجہ اللہ پڑھوادے تو درست ہے مگر اجرت پر درست نہیں نہ ایسے پڑھنے کا ثواب حافظ کو ملتا ہے نہ مردہ کو اور اجرت دینا اور لینا دونوں ناجائز ہیں۔ فقط۔

### قبر پر خوشبو لگانا پھول رکھنا روشنی کرنا

(سوال) قبر پر خوشبو لگانا یا روشنی کرنا یا پھول رکھنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) قبر پر پھول وغیرہ (۱) چڑھانا درست ہے اگر آمد و رفت زائرین ہو اور لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو تو راستہ میں قبروں پر چراغ رکھنا درست ہے اور فضول روشنی ہر جگہ حرام ہے۔ (۲)

### میت کے لئے کلام اللہ پڑھنے کی اجرت

(سوال) جو شخص ختم کلام اللہ شریف میت کو بخشنے اور اس کے وارث کوئی چیز پڑھنے والے کو بغیر مقرر کرنے کے دیویں اس کا لینا کیسا ہے۔

(جواب) عرف میں یہ بات قرار پانچکی ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو ضرور دیتے ہیں تو اگرچہ پہلے سے باہمی اجرت پڑھنے کلام مجید کی طے نہ ہوئی ہو تو لینا جائز نہیں اور نہ ایسے پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچے اور اگر دینا عرف کے اندر نہیں اور خالی نیت سے لوجہ اللہ اس نے پڑھا۔ پھر اگر لے لیوے تو کچھ حرج نہیں فقط واللہ اعلم۔

### دفن کے بعد فاتحہ پڑھنا

(سوال) بعد دفن میت کے چند قدم ہٹ کر فاتحہ وغیرہ پڑھنی چاہئے یا نہیں۔

(جواب) چند قدم ہٹنا اس کی کچھ اصل نہیں مگر بعد دفن کے اگر ایصال ثواب کے لئے کچھ بخشنے تو درست ہے لیکن کلمات تعزیت کہنے درست نہیں۔

## مسئلہ تلقین میت

(سوال) جب سماع موتی کے حضرت امام صاحب قائل نہیں پھر فقہاء حنفیہ تلقین میت کو کیوں تحریر فرماتے ہیں۔

(سوال) صفر کو ہندی میں پیتل کہتے ہیں یا کانسی غیاث اللغات میں کانسی لکھا ہے اور غایۃ الاوطار میں پیتل لکھا ہے صحیح کس کا قول ہے۔

(جواب) مسئلہ سماع میں حنفیہ باہم مختلف ہیں اور روایات سے ہر دو مذہب کی تائید ہوتی ہو پس تلقین اسی مذہب پر مبنی ہے کیونکہ اول زمانہ قریب دفن کے بہت سی روایات اثبات سماع کرتی ہیں اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس باب میں کچھ منصوص نہیں۔ اور روایات جو کچھ امام صاحب سے آئی ہیں شاذ ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔

نمبر ۲۔ قول مترجم در مختار کا صحیح ہے۔ فقط واللہ اعلم ۱۲۔

## مومنین کی روحوں کا شب جمعہ کو اپنے گھر آنا

(سوال) ارواح مومنین ہر جمعہ کے شب کو اپنے اہل و عیال میں آتی ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) ارواح مومنین کا شب جمعہ وغیرہ کو اپنے گھر میں آنا کہیں ثابت نہیں ہوا۔

یہ روایات واہیہ ہیں۔ اس پر عقیدہ کرنا ہرگز نہیں چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ کتبہ الراجی رحمۃ ربہ رشید احمد گنگوہی

الاجوبۃ صحیحۃ ابوالخیرات سید احمد عفی عنہ  
الاجوبۃ صحیحۃ محمد یعقوب النانوتوی عفی عنہ

مدرس دوم مدرسہ عالیہ دیوبند  
مدرس اول مدرسہ عالیہ دیوبند

الاجوبۃ صحیحۃ الاجوبۃ کلہا صحیحہ۔

احمد ہزاروی عفی عنہ عزیز الرحمن الدیوبندی کان اللہ ذو کل علی العزیز الرحمن

الاجوبۃ صحیحۃ الاجوبۃ صحیحۃ محمد محمود عفی عنہ الہی عاقبت محمود گرداں الاجوبۃ کلہا صحیحۃ ابوالکارم محمد اسحاق

فرخ آبادی عفی عنہ

(۱) ذیہ مسائل و لفظ مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی میں بھی اسی طرح ہے۔

عبداللہ انصاری غمی عنہ مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند

مردہ کی روح کا شب جمعہ گھر آنا

(سوال) بعض علماء کہتے ہیں کہ مردہ کی روح اپنے مکان پر شب جمعہ کو آتی ہے اور طالب خیرات و ثواب ہوتی ہے اور نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے یہ امر صحیح ہے۔ یا غلط؟  
(جواب) یہ روایات صحیح نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔

شب جمعہ مردوں کی روحوں کا اپنے مکانوں میں آنا

(سوال) شب جمعہ مردوں کی روحوں اپنے گھر آتی ہیں یا نہیں جیسا کہ بعض کتب میں لکھا ہے؟  
(جواب) مردوں کی روحوں شب جمعہ میں اپنے گھر نہیں آتیں روایت غلط ہے۔

رافضی تبرائی کے جنازہ کی نماز

(سوال) رافضی تبرائی کے جنازہ کی نماز جو کہ اصحاب ثلاثہ کی شان میں کلمات بے ادبی کہتا ہے پڑھنی چاہئے یا نہیں؟  
(جواب) ایسے رافضی کو اکثر علماء کافر فرماتے ہیں۔ لہذا اس کی صلوٰۃ جنازہ پڑھنی نہ چاہئے۔

بدعتیوں کے جنازہ کی نماز

(سوال) تعزیہ داروں اور مرثیہ خانوں اور بے نمازیوں کے جنازہ کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) یہ لوگ فاسق ہیں اور فاسق کے جنازہ کی نماز واجب ہے پس ضرور پڑھنا چاہئے۔

مردہ کو زمین میں امانت رکھنا

(سوال) بعض شخص کہتے ہیں کہ دفن کرتے وقت قبر میں زمین سے کہہ دے کہ یہ تیرے سپرد ہے تو زمین مردے کو گلاتی نہیں ویسے ہی رہتا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں؟  
(جواب) یہ بات غلط ہے اور زمین ایسے جملہ امور میں عاجز محض اور محکوم حکم الہی ہے۔

مرے ہوئے بچہ کے پیدا ہونے پر نام رکھنا

(سوال) مرا بچہ پیدا ہونے یا ہو کر مر جانے یا ہوتے ہی مر جانے پر نام رکھنا چاہئے یا نہیں؟  
(جواب) جو بچہ پورا ہو یا اسقاط ہوا، ہو اور تمام اعضاء بن گئے ہوں اس کا نام رکھ دینا بہتر ہے۔

اور اگر مفضہ گوشت ہے تو نام رکھنے کی حاجت نہیں ہے۔

عورت کے انتقال کے بعد اس کے شوہر کا اس کے جنازہ کو ہاتھ لگانا

(سوال) کسی عورت کا انتقال ہو گیا، جنازے کو اس کا خاوند ہاتھ لگا دے یا نہیں؟

(جواب) بعد فوت زوجہ کے زوج اجنبی ہو جاتا ہے جب بیگانہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تو زوج کو کیوں ہاتھ لگانا منع ہوگا جیسے اور لوگ ہیں ویسا ہی یہ بھی ہے۔

موت کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے کا منہ دیکھنا

(سوال) بعد مرنے کے خاوند کو بیوی کا منہ دیکھنا اور بیوی کو خاوند کا منہ دیکھنا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) خاوند بیوی دونوں منہ دیکھ سکتے ہیں۔ (۱)

قبل دفن قبر میں مردہ کا منہ دیکھنا

(سوال) منہ دیکھنا میت کا قبل دفن کے گو قبر میں دیکھے درست ہے یا نہیں؟

(جواب) ہوا المصوب۔ منہ دیکھنا میت کا گو قبر میں دیکھے یا قبل دفن کے دیکھے درست ہے قال

فی فتاویٰ عالمگیری ولا باس بان یرفع ستر المیت عن وجہہ وانما یکرہ بعد الدفن انتہیٰ وفی مدارج النبوة (۲) واضح آن سست کہ علی وعباس وفضل وشم در قبر آمدند و بود قسم آخر کے کہ برآمد از قبر و از وی آرنند کہ گفت آخر کسیکہ روی مبارک آنحضرت را دید در قبر من بودم انتہی۔ (۳) واللہ تعالیٰ اعلم حررہ محمد عبدالحی عفی عنہ۔ محمد عبدالحی۔

الجواب صحیح بندہ رشید احمد عفی عنہ گنگوہی رشید احمد (۱۳۰۱)

جنازہ کے لئے جانماز نکالنا

(سوال) دستوراً اکثر بلاد میں یہ ہے کہ اہل میت کپڑا قریب گز بھر کے اپنے پاس سے دیتے ہیں

اس پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے یہ امر درست ہے یا نہیں اور بعض صاحب اس کو بدعت اور بوجہ اسراف فی الکفن کے حرام اور ممنوع کہتے ہیں۔

(۱) در مختار ۱۲۔ (۲) میت کے چہرے سے کپڑا اٹھانے میں کوئی حرج نہیں البتہ دفن کے بعد کر وہ ہے۔ (۳) اور مدارج النبوة میں ہے کہ واضح ہے کہ علی وعباس وفضل وشم قبر میں آئے سب سے آخر میں جو شخص آپ کی قبر مبارک سے نکلا ہے وہ قسم ہیں اور ان سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں جس نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک کو قبر میں دیکھا ہے وہ میں تھا۔

(جواب) صورت مسئول عنہا میں کپڑا دینا اہل میت کا اور نماز جنازہ پڑھنا امام کا کپڑے مذکورہ پر درست ہے اور یہ امر نہ بدعت سیدہ معلوم ہوتا ہے نہ اسراف فی الکفن اس لئے کہ اکثر جا زمین کی پائی اور تپائی کا حال معلوم نہیں ہو سکتا ہے اور چونکہ نماز جنازہ میں طہارت مکان بھی شرط ہے اس وجہ سے بھی احتیاطاً نماز امام کے واسطے بچھا دیتے ہیں اور چونکہ نماز جنازہ ایک آدمی سے بھی کافی ہوتی ہے لہذا امام کے واسطے طہارت مکان واسطے صحت صلوة جنازہ کے کافی ہے فی الدر المختار وفي القنیۃ الطہارۃ من النجاسۃ فی ثوب و بدن و مکان و ستر العورۃ شرط فی حق المیت و الامام جميعاً و فی رد المحتار علی قولہ (فی القنیۃ) الخ مثله فی المفتاح و المحتبى امرنا الی التجرید انتہی . و فی العالمگیریۃ اذا قام بہ البعض و احدا کان او جماعۃ ذکر کان او انشی سقط عن الباقین و ایضاً فیہ و الصلوۃ علی الجنائزۃ تنادی باداء الامام و حدہ . (۱) انتہی .

اور چونکہ اہل میت کو غرض اس کپڑا دینے سے یہ ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کر اللہ دے دیا جاوے تو اسراف بھی نہ ہو نہ مطلقاً اسراف فی الکفن اس واسطے کہ کفن عرف اور شرع میں عبادت ہے ان تینوں کپڑوں سے جو میت کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں اور کپڑا اجاء نماز مذکور کفن میں شامل ہی نہیں جو اسراف فی الکفن ہو اور نیز صراح وغیرہ میں ہے کفن فقہتین جامعہ مردہ اتھلی تو جا نماز مذکور کفن کہنا بعض صاحب کی کم فہمی ہوتی ہے کما لا ینحفی واللہ اعلم الراقم محمد عبدالحی عفی عنہ . محمد عبدالحی۔

اگر ضروری نہ جانے تو درست ہے ورنہ بدعت ہونے میں شک نہیں بس جہاں جائے پاک معلوم ہو وہاں اہل میت کا کپڑا الانا امام کے واسطے بدعت ہوگا باقی اللہ دینا ثواب ہے فقط واللہ اعلم رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

(۱) در مختار اور تقیہ میں ہے کہ میت کے حق میں طہارت حاصل کرنا نجاست سے کپڑے اور بدن میں اور مکان میں اور ستر عورت شرط ہے میت کے لئے بھی اور امام کے لئے اور مختار میں اس قول پر ہے کہ یہ تعینہ میں ہے الخ لکھا ہے کہ اسی طرح ہے مفتاح میں اور تجتبی میں ہے کہ ہمارا معاملہ تجریدی کی طرف ہے اور عالمگیری میں ہے کہ جب ان میں سے بعض نے اس کام کو کر لیا ایک جماعت مرد یا عورت تو باقیوں سے ساقط ہو گیا اور اسی میں یہ بھی ہے کہ اور جنازہ کی نماز امام کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے۔



## کفن میں سے جاء نماز بنانا

(سوال) کفن میں شروع سے ایک کپڑا زیادہ بنا کر اس کا نام جاء نماز رکھ کر امام کو اس پر کھڑا کر کے نماز جنازہ پڑھوانا اور ملاحظہ کو وہ کپڑا دے دینا ثابت و درست ہے یا نہیں؟

(جواب) جاء نماز بنانا زائد ہے اگر مال یتیم سے بنائی جاتی ہے تو حرام ہے اور اگر مال یتیم سے نہیں ہے تو اس کو ضروری جانا بدعت ہے اگر صدقہ کپڑے کا کرنا منظور ہے تو وراثت بالغین کو یا ضرور ہے کہ جاء نماز بنائی جاوے اور امام کے پاؤں کے نیچے ڈالی جاوے ویسے ہی دینا چاہئے مگر چونکہ مسجد کے ملاؤں نے اسی بہانہ سے ایک گز کپڑا لینا ایجاد کیا ہے تو اس کا رکن سے اس رسم کو جاری کیا اور نہ اس کی کچھ اصل نہیں اور نہ ائمہ مجتہدین سے کہیں ثابت اور نہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## میت کو قبر میں کیسے لٹایا جائے

(سوال) میت کو دفن کرنا سیدھی کروٹ پر برخ قبلہ چاہئے یا بحسب رواج چپت منہ بقبلہ ثبوت روایات معتبرہ حدیث و فقہ مسلمہ حنفیہ مدلل و مفصل ارقام فرمایا جاوے۔

(جواب) واللہ تعالیٰ اعلم للحق والصواب۔ دفن کرنا میت کو اپنے پہلو پر قبلہ رخ بالاتفاق مسنون و متواتر و معمول بہا بلا خلاف ہے بلکہ کلام فقہاء علیہم الرحمۃ اس کے خلاف کے منع پر مصرح موجود ہے لہذا لوگوں کو چاہئے کہ اس طریقہ کو معمول بہا اپنا ٹھہرا کر اپنے موتی کو بروجہ ملت و سنت سید المرسلین علیہم التحیۃ و علی آلہ و صحبہ وسلم پر دفنادیں اور جانب پشت میت مٹی کے ڈھیلے سے تکیہ لگا دیں تاکہ میت دائی کزٹ پر قائم رہے جانب پشت لوٹ نہ جاوے۔

قال فی الهدیۃ اذا احتضر الرجل وجہ الی القبلة علی شقة الایمن اعتباراً لحال الوضع فی القبر انتھی (۱) وقال فی النہایۃ وفی حالۃ اللحد فانہ یوضع علی شقة الایمن (۲) وقال فی فتح القدر واما ان السنۃ کونہ علی شقة الایمن فقیل یمن الاستدلال علیہ بحدیث النوم فی الصحیحین عن

(۱) ہدایہ میں ہے کہ جب آدمی قریب المرگ ہو جائے تو اس کو اس کی سیدھی کروٹ پر لٹا دیا جائے اور قبلہ رخ کر دیا جائے جس طرح کہ اس کو قبر میں رکھا جائے گا۔

(۲) اور نہایہ میں ہے کہ لحد کی حالت میں اس کو اس کی سیدھی کروٹ پر لٹا دیا جائے۔

البراء بن عازب عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قال اذا تیت مضجعک فتوضوا وضوءک للصلوٰۃ ثم اضطجع علی شقۃ الایمن وقل اللهم انی اسلمت نفسی الیک الی ان قال فان مت مت علی الفطرۃ (۱) وفی شرح النقیایۃ لالیاس زادہ ویوجه الی القبلة ای یوضع فی القبر علی جنبہ الایمن مستقبل القبلة (۲) انتہی وقال فی البرهان شرح مواہب الرحمن یوجه الی القبلة علی جنبہ الایمن لماروی ابو داؤد والنسائی ان رجلاً قال یارسول اللہ ما الكبائر قال تسع فذكر منها استحلال البیت الحرام قبلتکم احياءً وامواتاً ورواه الحاكم فی المستدرک ایضاً وقال قد احتج الشیخان بروایة هذا الحدیث غیر عبدالحمید بن حنان انتہی واخرجه ابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردويه عن عمیر اللیثی ایضاً واخرج علی بن الجعد فی الجعدیات عن ابن عمر مرفوعاً ایضاً (۳) وقال فی الفتاویٰ قاضی خان یدخل المیت القبر من قبل القبلة ویوضع فیہ علی جنبہ الایمن مستقبل القبلة (۴) انتہی وقال فی الجوہرۃ النیرۃ شرح القدوری بذلک امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین مات رجل من بنی عبدالمطلب فقال یا علی استقبل القبلة استقبلاً وقلوا جميعاً بسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبہ

(۱) اور فتح القدیر میں ہے کہ مردہ کو سیدی کروث لٹا ناست ہونے کے لئے ممکن ہے اس حدیث سے اس پر دلیل لائی جائے جو صحیحین میں براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب تو اپنے خواب گاہ پر آئے تو اسی طرح وضو کر جیسے تو نماز کے لئے کرتا ہے۔ پھر اپنی سیدی کروث پر لیٹ جا اور کہہ "اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تو مرے گا تو فطرت پر مرے گا۔

(۲) اور الیاس زادہ کی شرح فتاویٰ میں ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کیا جائے یعنی قبر میں وہ اپنے سیدھے جانب قبلہ رخ لٹایا جائے۔

(۳) اور برہان شرح مواہب الرحمن میں ہے کہ اس کے سیدھے بازو پر قبلہ رخ کیا جائے جیسے کہ ابو داؤد و نسائی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں تو آپ نے فرمایا تو اور انہی نو میں ایک یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ تمہارا بیت الحرام کو جائز قرار دینا جو تمہاری زندگی میں اور تمہاری موت کے بعد تمہارا قبلہ ہے۔

(۴) اور فتاویٰ قاضی خاں میں ہے کہ میت قبر میں قبلہ کی طرف سے داخل کی جائے گی اور اس میں اپنے سیدھے بازو پر قبلہ رخ رکھی جائے گی۔

ولا تكبره، بوجهه ولا تلقوه على ظهره (۱) انتھی، وفي مسند البزار عن معاذ بن جبل مرفوعاً في حديث طويل مشتمل على ذكر تشفيح القرآن في القبر ثم يضعه الملائكة في القبر على شقه الايمن مستقبلة القبلة (۲) انتھی وقال في تحفة الملوك (۳) مع شرح منحة السلوك للعيني ويضع على شقه الايمن موجهها اليها هكذا جرت السنة اليها انتھی وقال في غيبة المستملى شرح منية المصلى يوجه الميت الى القبلة في القبر على جنبه الايمن ولا يلقى على ظهره (۴) قال السروجي في شرح الهداية ذكر في كتب اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل يوضع تحت راسه لينه او حجرة ولم اقف عليه من اصحابنا (۵) انتھی وقال في المحيط وفي اللحد يضع على شقه الايمن ووجه الى القبلة هكذا وتوارث السنة (۶) انتھی وقال في الدر المختار ويوجه اليها وجوباً وينبغي كونه على شقه الايمن انتھی وهكذا في النهر الفائق والبحر الرائق والعالمگیری وشرح القدوري لعبد الغني الميداني والسراج الوهاب والمستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق ملا مسكين الهروي وطوالع الانوار حاشية الدر المختار والتا تاريخية واكثر العباد والبدائع وجامع الرموز وغيرهامن الكتب الفقه

(۱) اور جوہرہ نہرہ شرح قدوری میں ہے کہ اسی کا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا جب کہ بنی عبدالمطلب کے ایک شخص کا انتقال ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسے علی قبر کی طرف اچھی طرح اس کا منہ کر دو اور سب مل کر کہو ”بسم اللہ وعلیٰ صلیٰ علیہ وسلم اللہ“ (اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت پر) اس کو اس کے بازو پر لٹا دو اور چہرہ کے بل اوندھانہ کرونا اس کو اس کی پیٹھ کے بل لٹاؤ۔

(۲) اور مسند بزار میں معاذ بن جبل سے مرفوعاً ایک ایسی حدیث میں جس میں قبر میں قرآن کی شفاعت کا ذکر ہے یہ آیا ہے کہ پھر اس کو فرشتے قبر میں سیدھی کر دیتے ہیں۔

(۳) اور تحفۃ الملوک مع شرح منیۃ المصلى وشرح منیۃ المصلى میں ہے اور اس کو اس کی سیدھی کر دیتے ہیں اس کی طرف رخ کر کے لٹایا جائے اسی طرح سنت اس کی طرف رخ کرنے کی جاری ہوئی ہے۔

(۴) اور غیبتہ المستملى شرح منیۃ المصلى میں کہا ہے کہ میت کو قبلہ رخ کیا جائے قبر میں اس کی سیدھی کر دیتے ہیں اور پیٹھ کے بل لٹا لٹایا جائے۔

(۵) سروجی نے ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے کہ اصحاب شافعی و احمد بن حنبل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی جائے یا پتھر اور میں نے اپنے اصحاب کا اس بارے میں قول نہ پایا۔

(۶) اور محیط میں کہا کہ اور کھ میں وہ سیدھی کر دیتے ہیں اور قبلہ کی طرف رخ کیا جائے اسی طرح سے سنت سے چلا آتا ہے۔ ۱۳۔ منہ

الحنفیہ (۱) کذا فی رفع الستور عن كيفية ادخال وتوجيه الى القبلة في القبر مستقبل القبلة انتهى وایضا قال فيه ويكون نومه على ما ذكر في الخبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة كما يكون في اللحد انتهى (۲) وقال فی كشف الغطاء ودر شرح منیہ گفتہ مرد با شد میت یازن نہادہ شود میت را بر پہلوئی راست او مستقبل قبلہ کذا فی الخلاصہ (۳) ودر غنیایہ در اول باب الجنائز اتفاق روایات بر این وضع ذکر کرده ودر (۴) شرح منیہ گفتہ نہادہ نہ شود بر پشت او تکیہ دادہ شود میت را پس پشت او بخاک و مانند آن تا منتقل نگردد ودر نہایہ حدیث در امر یا استقبال میت بسوئے قبلہ ونبی از لقاء او بر پشت نقل کرده (۵) و نہادہ شود زیر سر او شنے کذا فی ..... الغرائب (۶) انتهى وقال فی الدرر البهیة للامام الشوكاني ويوضع على جنبه الايمن مستقبلاً (۷) انتهى وقال فی الروضة السندیہ شرح الدرر البهیة وهو مما لا اعلم فيه خلافاً (۸) انتهى وقال فی فتح القدير شرح الهدایة وذلك انه عليه السلام فی القبر الشريف على شقة الايمن مستقبله القبلة (۹) انتهى فقط والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه اتم واحکم قد صح الجواب وهو المطابق للسنة والكتاب وخلافه باطل من

(۱) اور در مختار میں کہا ہے کہ اس کی طرف نہ کرنا واجب ہے اور اسی طرح اس کا سیدھی کروٹ پر لانا اور اسی طرح نہر فائق، بحرائق اور عالمگیریہ اور شرح قدوری مصنف عبدالغنی میدانی اور سرراج جناح اور مخلص الحقائق شرح کنز الدقائق مؤلفہ ملا مسکین بروی اور طالع الانوار حاشیہ در مختار تاریخانیہ و اکثر العباد اور بدائع اور جامع رموز وغیرہ کتب فقہ حنفیہ میں ہے۔  
(۲) اسی طرح داخل کرنے کی کیفیت کے سلسلہ میں پزیرا لانا اور قبر میں قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ہے نیز اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اور اس کی نیندا اسی طرح ہو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اس کے سیدھی کروٹ پر قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے ہو جیسے کہ لحد میں ہوتا ہے۔

(۳) اور کشف الغطاء میں شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ اور شرح منیہ میں کہا ہے کہ میت خواہ مرد ہو کہ عورت میت کو سیدھے پہلو پر رکھ جائے اور قبلہ رخ اسی طرح خلاصہ میں ہے۔

(۴) اور غنیایہ میں اول باب جنازہ میں اور روایات کا اتفاق اس وضع پر ذکر کیا ہے۔  
(۵) اور شرح منیہ میں کہا ہے اور نہ رکھا جائے اس کی پیٹھ پر اور میت کو تکیہ دیا جائے اس کی پیٹھ کے پیچھے خاک میں اسی کے مثل تاکہ لوٹے نہیں۔

(۶) اور نہایہ میں ایک حدیث اس بارے میں نقل کی ہے کہ میت کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے اور اس کو پیٹھ کے بل لانا سے منع فرمایا ہے۔

(۷) اور غرائب میں ہے کہ اس کے سر کے نیچے کوئی چیز رکھ دی جائے۔

(۸) اور امام شوکانی کی دررہبیہ میں ہے کہ اس کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ رکھا جائے۔

(۹) اور روضہ مندیہ شرح دررہبیہ میں ہے کہ یہ ان امور میں ہے جن میں کسی کا اختلاف نہیں جانتا۔

(۱۰) اور فتح القدر شرح ہدایہ میں ہے اور یہ اس لئے کہ خود حضور اکرم ﷺ اپنی قبر مبارک میں اپنی سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ

غیر شک والارقیاب۔ العبد محمد سلامت اللہ عنہ۔

کتبہ ابو سعید احمد عنہ ابو الذکاء سراج الدین راپوری شاگرد مولوی  
محمد سلامت اللہ ۱۹۲۶ء ارشاد حسن صاحب مرحوم۔

الجواب حق العبد التواب ولد حافظ محمد عمر خان ہذا الجواب صحیح  
محمد عبدالوہاب خان ۱۲۸۵۔ محمد جعفر علی عنہ محمد جعفر علی خاں  
ولد محمد اکبر علی خاں

العمل عند تانی الحرمین الشریفین وسائر بلاد العرب علی الاضمار علی الشق الايمن واللہ الموفق  
محمد طیب الہکی المدرس الاول فی مدرسۃ العالیۃ الرافضیۃ..... محمد طیب

روایات مذکورہ جواب مدعا مجیب پر صریح ہیں ان روایات مدعا مجیب بلاشبہ ثابت ہے محمد  
فضل حق بقلم خود مدرس دویم مدرسہ عالیہ ریاست راپوری۔ الجواب مطابق لکسنہ والکتاب العبد  
محمد ارشد علی عنہ مدرس سوم مدرسہ عالیہ راپور۔ جواب صحیح ہے۔

شرافت اللہ عنہ مدرس ششم مدرسہ عالیہ ریاست راپور ہذا الجواب مطابق لہذہ الروایات  
واللہ اعلم بالصواب محمد معزز اللہ عنہ مدرس مدرسہ عالیہ راپور الجواب حق صریح بلا خوف واللہ تعالیٰ  
اعلم بالصواب

خادم شریعت رسول اللہ مفتی محمد لطف اللہ ۱۲۹۸

الجواب صحیح عبدالقادر مفتی عدالت دیوانی ریاست راپور مواہب علماء مراد آباد الجواب صواب  
حمود احسن مدرس مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد لقد اصاب من اجاب محمد ہدایت بعلمی تجاوزہ اللہ عن  
ذنبہ الجلی والحق لکنہنوی ثم الہ آبادی۔ الجواب حق محی الدین عنہ مراد آبادی قاضی ریاست  
بھوپال۔ الجواب صحیح ذالرائے نتیجہ کذا لک الجواب محمد صدیق عنہ مراد آبادی۔ محمد قاسم علی عنہ  
عند امام مفتی شہر مراد آباد

مولانا محمد عالم علی ۱۲۹۶ھ محمد قاسم علی خلف۔

جواب درست است محمد گل مدرس مدرسہ امدانیہ مراد آباد

شکفتہ محمد گل بے نظیر ۳۰۰۔ اسمہ احمد ۱۲۹۷۔

الجواب صحیح محمد حسن عنہ مراد آبادی مدرس اول ریاست بھوپال الجواب صحیح مولانا احمد حسن  
صاحب امر وہی۔ کذا لک الجواب واللہ اعلم بالصواب۔

عبدالرحمن۔ ابن مولانا عتایت اللہ قال فی مختصر الوقایہ۔

کان اللہ ولوالدیہ صحیح المؤمنین مرحوم مدرس حال مراد آباد بوجہ الی القبلۃ۔

محمد ابو الفضل ۱۳۱۱ھ

مشہور فضل محمد امام مسجد جو کی حسن خان مراد آباد۔

تصدیق علمائے دیوبند:

الجواب حق صحیح بندہ عزیز الرحمن عفی عنہ دیوبندی مفتی مدرسہ عالیہ

و توکل علی العزیز الرحمن۔

الجواب صحیح بندہ مسکین محمد بسین خادم مدرسہ عربیہ دیوبند۔

الجواب صحیح بندہ محمود عفی عنہ اول مدرس عالیہ دیوبند۔

الہی عاقبت محمود گردان

الجواب صحیح غلام رسول عفی عنہ مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند۔ الجواب صحیح احقر الزمان گل

محمد خان مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند۔ الجواب صحیح محمد حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ عالیہ دیوبند۔ الجواب صحیح

خلیل احمد عفی عنہ مدرس اول مدرسہ سہارنپور۔ الجواب صحیح اشرف علی تھانوی عفی عنہ ۱۶ ربیع الثانی

۱۳۲۳ھ۔ اشرف علی ازگروہ اولیاء۔

مواہیر علمائے دہلی:

الجواب صحیح محمد بشیر عفی عنہ محدث سہوانی۔ الجواب صحیح الرائے نجیح عبدہ احمد عفی عنہ مدرس

مدرسہ حاجی علی جان مرحوم۔

تصدیق حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی:

در مسئلہ مذکورہ بالا۔ حافظ سید زاہد حسن صاحب سلمہ امر وہوی منتظم مدرسہ شاہی مسجد مراد

آباد نقل فرماتے تھے کہ میں مجلس حضرت مولانا علیہ الرحمۃ میں حاضر تھا اور مسئلہ ہذا کا تذکرہ تھا۔

سوارشاد فرمایا کہ میت کو داہنے پہلو پر رخ قبلہ ہی لٹانا چاہئے اور یہی مسنون ہے العبد بندہ عزیز

الدین عفی عنہ مراد آبادی۔

قبر میں دفن کرتے وقت پیری کی لکڑی رکھنا

(سوال) قبر میں بروقت دفن کرنے کے لئے ایک لکڑی درخت پیری کی ضرور رکھتے ہیں۔

جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) اس کا ضروری سمجھنا بدعت ہے اور بیری کی خصوصیت میں مشابہت روانض کی ہے۔ لہذا اس کو ترک کرنا چاہئے اور اس کی کچھ اصل نہیں فقط۔

ولی کی اجازت کے بغیر جنازہ سے جانا

(سوال) اگر کوئی بغیر دریافت کئے اہل میت کے جنازہ پر سے چلا جائے تو کچھ خطاوار تو نہیں ہے۔

(جواب) بدون اذن ولی میت کے جانا مکروہ ہے۔

## ملفوظات

شیعہ کی تجہیز و تکفین سنی کیسے کریں

۱۔ جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو اس کی نعش کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر وہاب دینا چاہئے اور جو لوگ فاسق کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی تجہیز و تکفین حسب قاعدہ ہونا چاہئے اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا۔

زمین غیر وقف میں میت کے استخوان بوسیدہ ہو کر

مٹی ہجوائیں تو اس پر زراعت و بناء کا حکم۔

۲۔ جب کسی زمین غیر وقف میں میت کے استخوان بوسیدہ ہو جائیں تو زراعت و بناء اسپر درست کہتے ہیں۔ تو درخت کا لگانا چلنا پھرنا سب درست ہو اور زمین کا کھودنا بھی درست ہوا البتہ اس کی کوئی حد نہیں معین۔ شور زمین میں جلد مردہ بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ غیر شور زمین میں بدیر فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔

## مسائل منشورہ

انجمن حمایت الاسلام لاہور کی کتابوں کا مرکز

(سوال) انجمن حمایت الاسلام کا مذہب کیا ہے اور اس انجمن نے جو کتابیں اردو میں دینیات کی

تالیف فرمائی ہیں بچوں کو ان کا پڑھانا مفید ہوگا یا نہیں۔

(جواب) انجمن حمایت الاسلام کا مذہب اہل سنت والجماعت ہے اور ان کی کتابیں دینیات کی اچھی ہیں گو بندہ نے تمام دیکھا نہیں ہے ان کے پڑھانے سے بچوں کو ان شاء اللہ نفع ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### تقویۃ الایمان و صراط مستقیم

(سوال) کتاب تقویۃ الایمان والیضاح الحق و صراط مستقیم تینوں کتب کس کی تصنیف سے ہیں اور کتاب حجۃ اللہ البالغہ کس کی تصنیف سے ہے یعنی اس کے مولف کون ہیں؟

(جواب) حجۃ اللہ البالغہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے اور صراط مستقیم و تقویۃ الایمان جناب مولانا محمد اسمعیل صاحب شہیدؒ کی ہے۔ الیضاح الحق بندہ کو یاد نہیں ہے کیا مضمون ہے کس کی تالیف باقی ان تینوں کتابوں سے میں واقف ہوں اور اس خاندان سے مستفید اور ان کے عقائد و خیالات پر پورا مطلع رسوم و وجہ کو جناب مولانا محمد اسمعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس قدر استیصال فرمایا ہے حق تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے مجلس مولود اور اس میں قیام وغیرہ کی نسبت بارہا لکھا گیا ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### محمد عبدالوہاب نجدی کا مذہب

(سوال) عبدالوہاب نجدی کیسے شخص تھے۔

(جواب) محمد بن عبدالوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا بدعت و شرک سے روکتا تھا۔ مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### وہابی کا عقیدہ

(سوال) وہابی کون لوگ ہیں اور عبدالوہاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا۔ اور اہل نجد کے عقائد میں اور سنی خفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے؟

(جواب) محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے۔ اور ان کا مذہب حنبلی تھا۔ البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں۔ مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا اور عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے۔



### حبیب حسن واعظ سہارنپوری

(سوال) یہاں پر ایک شخص واعظ حبیب حسن سہارنپوری آئے تھے انہوں نے اکثر مضامین و مسائل رطب و یابس فرمائے اور حضور کی نسبت جو پوچھا جاتا تھا تو سکوت کرتے تھے۔ اگر ان کا حال معلوم ہو تو مطلع فرمائیے کہ کس عقائد کے ہیں اور کس استعداد کے ہیں، یہاں تو ایک فعل کے تین چار فاعل پڑھتے تھے زیادہ حد اب اس امر سے بالضرور انما ض نہ فرمایا جاوے۔ فقط

(جواب) حبیب حسن کوئی واعظ سہارنپوری بندہ کو معلوم نہیں اور نہ کوئی عالم وہاں اس نام کا ہے لوگوں نے باوجود جہل کے اردو کتب دیکھ کر وعظ کا حیلہ دنیا کی معاش کے واسطے اختیار کر لیا ہے۔ خلق کو گمراہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ پناہ دیوے اگر بندہ کو معلوم ہوتا تو صاف لکھتا..... مگر یہاں کوئی مولوی اس نام کا نہیں وہاں کے سب علماء سے بندہ واقف ہے۔ فقط والسلام

### حضرت معاویہ کا یزید کو خلیفہ بنانا

(سوال) حضرت معاویہؓ نے اپنے روبرو یزید پلید کو ولی عہد کیا ہے یا نہیں؟

(جواب) حضرت معاویہؓ نے یزید کو خلیفہ کیا تھا۔ اس وقت یزید اچھی صلاحیت میں تھا۔ فقط

### حضرت معاویہؓ کا وعدہ حسینؓ سے

(سوال) جب کہ حضرت معاویہؓ نے حضرت امام حسینؓ سے اقرار نامہ لکھا تھا کہ تازندگی یزید پلید کو ولی عہد نہ کروں گا۔ پھر حضرت معاویہؓ اپنے قول سے کیوں پھر گئے اور یزید پلید کو کیوں ولی عہد کیا۔ صحابی سے اقرار تو زنا بعید معلوم ہوتا ہے قمار باز اور شراب خور یزید پہلے ہی سے تھا یا ولی عہدی..... وقت نہ تھا۔ مفصل صحیح کس طور پر ہے۔

(جواب) حضرت معاویہؓ نے کوئی وعدہ عہد یزید کو خلیفہ کرنے کا نہیں کیا یہ واہیات و قانع ہیں فقط۔ یزید اول صالح تھا بعد خلافت کے خراب ہوا تھا۔

### کیا شمر حافظ قرآن تھا

(سوال) وعظ میں سنا ہے کہ شمر قاتل امام حسینؓ بڑا حافظ قرآن تھا۔ بروقت قتل کرنے امام ہمام کے نو سپارہ ذرا دیر میں پڑھ لئے تھے۔ یہ سچ ہے یا غلط ہے؟

(جواب) یہ قصہ ڈھکوسلا جہاں واعظین کا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کتاب الطہارت طہارت کے مسائل

### باب غسل ووضو کا بیان

(سوال) اگر کسی شخص کو انزال ہو اور بعد انزال کے پیشاب نہ آیا اور اس نے پنبہ رکھ لیا۔ بعدہ بقیہ قطرہ منی اپنی جگہ سے آ کر ذکر میں بوجہ پنبہ کے اندر ہی رہا بعد دو تین گھنٹہ کے ساتھ وہ روئی نکلی تو اس شخص کو اعادہ غسل واجب ہے یا نہیں اور یہ شخص بوجہ قطرہ مرض کے پنبہ رکھتا تھا۔ اب حضور قطرہ منی کے ساتھ اس کا کیا حکم ہے۔ اور پنبہ خشک نکلے یا تر ذکر سے تو ہر دو حالت میں ایک ہی حکم ہے یا فرق ہے۔ فقط۔

(جواب) اگر بعد اخراج پنبہ پھر خروج منی ہوا ہے۔ تب تو امام صاحب کے نزدیک غسل کا اعادہ لازم ہوگا اور اگر بعد اخراج پنبہ پھر منی نہیں نکلی تو اعادہ غسل واجب نہ ہوگا۔ پنبہ اگر منی میں بھیگی ہے تب تو بحکم منی ہے اور اگر مذی میں تر ہو تو بحکم مذی اور پیشاب میں تر ہو تو بحکم پیشاب اور اگر خشک ہو تو اس کا وضو بھی قائم ہے اور غسل بھی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### سر کے مسح کرنے کا بیان

(سوال) وضو میں سر کے مسح کے واسطے پانی ہاتھ میں لے کر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی چھڑک کر مسح کرتے ہیں آیا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) سر کے مسح کے واسطے اس قدر پانی لیوے کہ مسح ہو جاوے چلو بھر کر مسح کرنا اسراف ہے اگر پانی ڈالے گا تو غسل ہو جائے گا اور وہ مسح نہیں ہے۔ فقط

### استنحج کا سچا ہوا پانی!

(سوال) جس پانی سے چھوٹا استنجا پاک کیا ہے اس باقی پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں یا مکروہ ہے؟

(جواب) اس پانی سے وضو بلا کراہت جائز ہے۔ فقط

وضو کا پانی اگر لوٹے میں گر جائے

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ اگر وضو کا پانی لوٹے میں گر جائے وقت وضو کرنے کے تو پانی لوٹے کا مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟  
(جواب) وضو کا قطرہ لوٹے میں گرانا مکروہ ہے مگر وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا وضو اس سے درست ہے۔

آنکھ دکھنے کی وجہ سے اگر پانی آنکھ سے بہے

(سوال) آنکھ دکھتی ہوئی میں جو ڈھیڑا آ جاتا ہے تو زید کہتا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ خون سے بنتا ہے زید کا قول صحیح ہے یا نہیں؟  
(جواب) آنکھ دکھنے میں جو پانی نکلتا ہے پاک ہے اگرچہ بعض نے ناپاک کہہ دیا ہے لیکن تحقیق کے خلاف ہے۔ فقط واللہ اعلم

شک سے وضو جانے کا حکم

(سوال) حدیث لا وضوء الا من صوت اور تح اس کا کیا مطلب ہے۔ آیا جس ریح میں آواز اور بونہ ہو وہ ریح نہیں ہے نہ اس سے وضو جاتا ہے یا وہ کچھ اور ہے ریح کے ساتھ یہ دونوں ضروری ہیں یا نہیں۔

(جواب) اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹنے کا یقین ہو جائے جیسے کہ آواز سننے سے یا بد بو سونگھنے سے یقین ہو جاتا ہے اس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جب یقین نہ ہو تو محض شک سے وضو نہیں جاتا۔ فقط واللہ اعلم

جسمی ہوئی مسی سے وضو اور غسل پر اثر

(سوال) مسی کا استعمال عورتوں کو جائز ہے یا نہیں اس سے جو ریحیں دانتوں میں جم جاتی ہیں اور وضو اور غسل میں پانی دانتوں کے نیچے نہیں پہنچتا مانع طہارت ہے یا نہیں اگر کوئی قصد دانتوں میں ایسا مصالحہ پہنچادے کہ بلا دانت جدا ہوئے وہ مصالحہ جدا نہ ہو اس میں کچھ قباحت شرعی ہے یا نہیں۔

(جواب) مسی اگر جم جائے تو مانع وضو نہیں مگر مانع غسل ہے اور اگر قصد کسی دوا سے خالی

جگہ کو بھر کر ہموار کیا گیا ہے تو اس کا حکم مثل جزو بدن کے ہو گیا وہ مانع غسل کو نہیں ہے۔ فقط

### وضو کے بعد رومالی پر پانی چھڑکنے کا حکم

(سوال) میں نے یہ ہے کہ اگر بعد وضو کے رومالی پر پانی چھڑک لے تو قطرہ کا اگر احتمال ہو تو اس کو نہ دیکھے اور نہ وضو کرے لہذا یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔

(جواب) پانچامہ پر بعد وضو پانی چھڑکنا بغرض رفع و سوسہ درست ہے مگر جو شخص کہ اس کو قطرہ کا مرض ہے وہ پانی ہرگز نہ ڈالے کہ اندیشہ پانچامہ نجس ہونے کا ہے۔ اور اگر اثناء میں قطرہ آ گیا تو پانچامہ یقیناً ناپاک ہو جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

### وضو کے بعد رومالی پر پانی چھڑکنا فرض ہے یا واجب

(سوال) جب وضو سے فارغ ہو تو شرم گاہ یعنی رومالی پر پانی چھڑکنا کیسا ہے آیا جائز ہے یا نہیں اور یہ فرض ہے یا واجب یا مستحب۔

(جواب) دفع و سواس کے لئے بعد وضو تھوڑا پانی رومالی پر چھڑک لینا بہتر ہے اگر نہ چھڑکا تو گناہ نہیں ہے نہ اس سے واجب فوت ہوتا ہے نہ فرض فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### جس کو قطرہ آتا ہو وہ وضو کے بعد رومالی پر پانی چھڑکے یا نہیں

(سوال) حضور نے تحریر فرمایا ہے اس کی تفصیل ذیل میں ہے مرض قطرہ کا نہیں ہے بلکہ بعد پیشاب کبھی جو شبہ ہو اور دیکھا تو قطرہ آیا اور بعض مرتبہ دیکھا تو نہیں آیا۔ لہذا ایسی حالت میں پانچامہ کی رومالی دیکھنا چاہئے یا فقط ترک لینا کافی ہے۔

(جواب) مرض سے یہی مراد ہے کہ اس شخص کو گاہ گاہ قطرہ آتا ہے تو ایسے شخص کو بعد وضو رومالی پر پانی نہ ڈالنا چاہئے بلکہ جب شبہ ہو اس کو دیکھ لینا چاہئے۔

### وضو اور غسل کے لئے پانی کا وزن

(سوال) وضو اور غسل کے واسطے کتنا پانی صرف کرنا مسنون ہے سیر پختہ سے وزن تحریر فرما دیجئے؟

(جواب) وضو میں ڈیڑھ سیر پختہ پانی کی اجازت ہے اور غسل میں چار سیر کی۔ فقط والسلام۔

نماز جنازہ کے وضو سے فرض نماز کا حکم

(سوال) جو وضو جنازہ کی نماز کے واسطے کیا ہے اس وضو سے نماز فرض پڑھ لیوے یا نہیں؟

(جواب) فرض درست و جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

نماز جنازہ کے وضو سے نوافل کا حکم

(سوال) جو وضو جنازہ کی نماز کے واسطے کیا ہے اس سے تحیۃ الوضو اور نماز فرض پڑنا درست ہے

یا نہیں؟

(جواب) نماز جنازہ کے واسطے جو وضو کیا ہے اس سے نماز فرض، سنت، نفل، اشراق، چاشت،

تحیۃ الوضو سب جائز ہیں۔ فقط

جو وضو یا تیمم نہ کر سکے وہ نماز کیسے پڑھے

(سوال) اگر بوجہ نہ ملنے پانی یا مٹی کے وضو و تیمم نہ کر سکے تو نماز کس طور پر پڑھنی چاہئے یا قضا

کر دیوے۔

(جواب) اگر ایسا موقع ہو جائے تو وہاں تہبہ بالمصلین کرے اور نماز کو قضا کر لیوے یہ مذہب

امام صاحب علیہ الرحمۃ کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

اس پانی کا بیان جس سے وضو اور غسل جائز ہے

کس تالاب کا پانی نجس نہیں ہوتا

(سوال) ایسا تالاب جو گرمیوں میں کسی قدر خشک ہو جاتا ہو اور ایام بارش میں طویل و عریض

مگر کسی موسم میں عشر در عشر سے کم نہیں رہتا اور اس میں اکثر نجاست مثل بول و براز شہر کا پانی وغیرہ

بھی شامل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن تاہم اوصاف ثلاثہ میں تغیر نظر نہیں آتا۔ بلکہ ہر طرح صاف

رہتا ہے۔ لہذا یہ ظاہر ہے یا نہیں؟

(جواب) یہ تالاب ظاہر ہے اور ہرگز نجس نہیں ہر موسم میں پاک رہتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

دہ در دہ تالاب بول و براز پڑنے سے نجس نہیں ہوتا

(سوال) تالاب دہ در دہ بہت زیادہ قریب بستی کے ہے اہل بستی کو اس کے اطراف و جوانب

میں بول و براز کا بھی اتفاق ہوتا ہے۔ برسات میں اگر پر نہ ہو اور باہر ٹوٹ پھوٹ کر بھی نہ نکلا ہو۔ اس صورت میں طاہر ہے یا غیر طاہر۔ اور اہل ہستی کو اس کی ضرورت شدید ہے کوئی دریا وغیرہ نہیں جس میں دھوبی کپڑا وغیرہ دھوئیں۔ البتہ کنویں بہت ہیں۔

(جواب) یہ تالاب پاک ہے اگرچہ باہر نہ نکلا ہو۔ فقط

دہ دردہ پانی کب نجس ہوگا

(سوال) آج کل جنگلوں میں بارش کا پانی گڑھوں میں جمع رہتا ہے اور جس وقت نہر بند ہو جاتی ہے تو کسی قدر نہر کا پانی بھی جمع گڑھوں میں ہو جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے وضو کر لیا کرتے ہیں، درست ہے یا نہیں اور کسی قدر پانی میں حکم شرع وضو کرنے کا ہے۔

(جواب) اگر یہ پانی دہ دردہ ہے تو کسی ناپاکی سے ناپاک نہ ہوگا۔ جب تک اس کا رنگ و بو و مزہ نجاست سے نہ بدل جائے۔ اور اس میں غسل اور وضو سب کچھ درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲

## باب: کنویں کے احکام و مسائل

کنویں سے زندہ مرغی نکلنے کا حکم

(سوال) مرغی کنویں میں جا پڑی اور کچھ دیر کے بعد زندہ نکلی دو عالم فرماتے ہیں کہ بغیر تین سو ساٹھ ڈول پانی نکالنے کے اس پانی کا استعمال حرام ہے بخیاں بیٹ کر دینے کے کنویں کے اندر۔ پس کتب مذہب میں یہ مسئلہ کیونکر ہے؟

(جواب) اگر بیٹ نکلتا ثابت ہو جائے تو پانی نکالو ورنہ حاجت نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔

من ٹوٹے کنویں کے گڑھوں میں کتوں کے پانی کے بعد کا حکم

(سوال) ایک شخص نے کنویں کا مسئلہ حضور کا فتویٰ سن کر کہا جب کہتے نے پانی پیا اور ہر وقت پانی ان گڑھوں میں بھرا نہیں رہتا۔ اگر وہ ناپاک ہی تھا تو بھی سینکڑوں ڈول و گھڑے کھینچ کر اہل محلہ کے خرچ میں آگئے۔ اب تک پاک نہ ہوا ہوگا۔ جیسے اناج کے ناپاک ہونے سے دوسرے کی تقسیم میں اناج پاک ہو جاتا ہے کبھی پانی بھر جاتا ہے کبھی خشک ہو جاتا ہے اس کا جواب مرحمت

ہو؟

(جواب) جب اس گڑھے سے کتے نے پانی پی لیا تھا اگر اس کے دو چار روز تک برابر پانی کھینچتا رہا تو واقعی کنواں پاک ہو گیا مگر اہل محلہ کی سب ظروف و جامہ وغیرہ نجس ہوں گے اس لئے کہ وہ پانی جو سب کے گھر پہنچا ہے نجس ہے یقیناً بخلاف تقسیم شدہ غلہ کے اس میں کوئی حصہ یقیناً نجس نہ تھا۔ بلکہ احتمال دونوں طرف تھا اور یہاں جو محلہ میں تقسیم ہوا ہے وہ سب پانی ناپاک ہے۔ فقط

کنویں میں اگر جوتا گر جائے تو اس کا حکم

(سوال) چاہ میں جوتا گر جانے سے کس قدر پانی نکالا جاوے گا؟

(جواب) اگر جوتا ناپاک ہے تو تمام پانی نکالے گا اور اگر پاک ہے تو کچھ نہیں۔

نجس کنویں کے پانی سے بنائے ہوئے گلاب کا حکم

(سوال) طلوع آفتاب سے پہلے ایک کنویں میں سے پانی لا کر اس سے گلاب کھینچا اور صد ہا آدمیوں نے پانی اس سے بھرا اس بجے دن کے معلوم ہوا کہ ایک بلی مردہ اس میں پڑی ہے مگر پوست اس کا بالکل گلا نہیں ہے نہایت سخت ہے وہ گلاب جو اس پانی سے تیار ہوا ہے اس کا شرعاً کیا حکم ہے۔ آیا وہ فروخت کیا جاوے یا پھینکا جاوے فقط۔

(جواب) صاحبین علیہا الرحمۃ کے مذہب کے موافق یہ گلاب پاک ہے کہ احتمال ہے کہ شب کو بلی کا بچہ نہ گرا ہو پس اس کو فروخت کرنا مباح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

من ٹوٹے کنویں کے گڑھوں سے کتے پانی پی لیں تو اس کا حکم

(سوال) ایک کنویں کی من ٹوٹ گئی ہے اور گڑھے بھی ہو گئے ہیں۔ جب ان گڑھوں میں پانی بھرتا ہے تو وہ کنویں کی طرف بوجہ نیچا ہونے کے جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا کہ ان گڑھوں میں کتے نے پانی پی لیا اس کنویں کا حضور کیا حکم دیتے ہیں۔ فقط

(جواب) جب کتے کا پانی پینا اور اس پانی کا کنویں میں جانا یقیناً یا غالب گمان ہو تو کنواں نجس

ہے۔ فقط

## ملفوظات

کنوئیں میں نجاست معلوم ہو تو کب سے اسکی نجاست کا حکم لگایا جائے گا، نجاستوں اور اس کو پاک کرنے کے مسائل

۱۔ از بندہ رشید احمد غفی عنہ بعد سلام مسنون آنکہ مذہب صاحبین در باب چاہ کہ رویتہ کے وقت سے حکم نجاست ہو یہی معمول فقہاء کا ہے اور بعض نے فتویٰ بھی اس پر دیا ہے لہذا اگر سہولت عوام کی وجہ سے اس پر عمل ہو۔ بندہ درست جانتا ہے اور اس وقت میں اس پر علماء کو فتویٰ دینا جائز جانتا ہے کہ قول صاحبین بھی مذہب امام صاحب ہی ہے علیہم الرحمۃ مگر دیکھنے کے وقت سے نجس ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وقوع ممکن ہو مثلاً کنوئیں پر لوگ برابر صبح سے دوپہر تک پانی بھرتے رہے خالی نہیں ہوا۔ اور دوپہر کو جانور نکلا تو ایسی حالت میں صبح سے پہلے نجس کہا جائے گا کہ اس حالت میں لوگوں کے بھرنے تک جانور نہیں گر سکتا۔ البتہ اگر درمیان صبح دوپہر کے چاہ پانی بھرنے والوں سے خالی بھی نہ رہا ہو تو آخر خلو کے وقت سے حکم دیا جائے گا۔ فقط والسلام

## باب: نجاستوں اور اس کو پاک کرنے کے مسائل

منہ کی رال کا حکم!

(سوال) سوتے وقت منہ سے رال جو بعض شخص کے جاری ہوتی ہے زید کہتا ہے کہ اس سے کپڑا پلید ہو جاتا ہے۔ لہذا کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟  
(جواب) یہ رال پاک ہے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ فقط

کھلیان کے غلہ کا حکم

(سوال) خرمن گاہ میں جب کہ غلہ تیار کرتے ہیں تو زرگاواں کا پیشاب اور گوبر غلہ گندم وغیرہ میں جذب ہوتا ہے پھر غلہ کے جواز کی صورت کس طرح پر ہے۔  
(جواب) جب وہ تقسیم ہو گیا سب کے حق میں پاک ہو گیا۔ اگر کچھ اثر گوبر کا دیکھے تو صاف کر دیوے۔



## گوبری کا حکم

(سوال) مسئلہ گوبری دینا جائز ہے یا نہیں جس جگہ مرغی کی سرگین گر کر خشک ہوگئی ہو اور وہاں لوٹا خشک یا تر رکھ دے تو وہ لوٹا ناپاک ہے یا پاک اگر مرغی کی سرگین کی احتیاط کرے تو ان کا پالنا چھوٹتا ہے۔ فقط

(جواب) گوبری دینا جائز ہے مگر جب وہ گوبر نہ رہے تب تو پاک ہے اور اس سے پہلے پہلے نجس ہے اگر ناپاک جگہ خشک ہوگئی اور نجاست کا اثر رنگ و بو و مزہ نہ رہا تو پھر وہ جگہ پاک ہوگئی اب وہاں تر چیز رکھنے سے ناپاک نہ ہوگی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## شراب اگر سرکہ بن جائے تو اس کا حکم

(سوال) شراب میں نمک ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟

(جواب) شراب جب سرکہ بن جاتی ہے تو پاک ہی ہو جاتی ہے نمک سے ہو یا کسی اور ذریعہ سے۔ فقط

## مردہ جانور کی اون کے متعلق حکم

(سوال) مردہ جانور بکری، بھیڑ کی اون کا کمبل استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) مردہ جانور بکری، بھیڑ وغیرہ کی اون پاک ہے اور اس کے کمبل کا استعمال درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## بلی، چوہے، کوئے وغیرہ کے جھوٹے ٹے کا حکم

(سوال) اگر کھانے میں دودھ میں بلی یا چوہے یا کوئے نے منہ ڈال دیا تو کھانا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) ان چیزوں کا جھوٹا حرام اور نجس نہیں ہے اگر نہ کھائیں تو بہتر۔ کھالیں تو کچھ حرج نہیں ہے۔ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) مصنفی شرح موتی میں اسی طرح ہے ۱۲۔

## کولہو کے رس کا حکم

(سوال) کولہو جو یہاں چلتے ہیں اس میں سارا کاروبار چمار اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ یعنی رس کا نکالنا اور رس میں ہاتھ ڈالنا اور رس کا اپنے برتن میں فروخت کرنا مسلمانوں کو ان کے ہاتھ کے چھوئے ہوئے رس کا لینا جائز ہے یا نہیں یا وہ رس نجس ہے اور ناپاک ہے۔ علیٰ ہذا پانی ان کے ہاتھ کا پاک ہے یا نجس ہے۔ ایسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ فقط (جواب) جب تک یقین اس امر کا نہ ہو کہ چمار کے ہاتھ نجس ہیں حکم نجاست رس وغیرہ پانی پر نہ ہوگا۔ پس صورت موجودہ میں خریدنا رس کا مسلمانوں کو اور استعمال کرنا اس کا درست اور حلال ہے۔ علیٰ ہذا پانی بھی پاک ہے۔ نماز وغیرہ درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ عزیز الرحمن عفی عنہ دیوبندی مفتی مدرسہ عالیہ عربیہ دیوبند۔

## منی کا حکم

(سوال) حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خشک منی ناپاک نہیں جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے اور دھونے اور پونچھنے کی کچھ ضرورت نہیں کیا وجہ کہ ایسی پلید چیز کو پاک لکھا ہے؟ (جواب) منی کا پلید ہونا آپ کے نزدیک ہے ان کے یہاں نہیں اور اس کی لم، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ علمی بحث ہے کہ جس کے بیان میں طول ہے ہم اور آپ مقلد ہیں۔ ہم کو علماء کا فرمان بسر و چشم قبول ہے۔ فقط

## ناسور کے پانی کا حکم

(سوال) ایک شخص کے ناسور سے کھانے کے وقت پانی نکلتا ہے اور وہ پانی کپڑوں کو لگتا ہے تو ان کپڑوں سے نماز درست ہے یا نہیں؟ (جواب) ناسور کا پانی نجس ہے اگر قدر درہم سے زیادہ لگے گا تو نماز صحیح نہ ہووے گی کم میں بکراہت ادا ہوتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سرخ پڑیا کا حکم

(سوال) پوڑیا کا سرخ رنگ استر میں لگانا چاہئے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پڑیا میں شراب پڑتی ہے صحیح کیسے ہے۔

(جواب) پوڑیا کا رنگ مشتبہ ضرور ہے اگر بالیقین یہ ثابت ہو جاوے کہ اس میں شراب قطعاً حرام ہے اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ شراب نہیں پڑتی جائز ہے در صورت موجودہ مشتبہ ہونے میں تردد نہیں احتیاط ترک کرنے میں ہے اور رنگ پختہ کا دھلو الیہا مناسب ہے۔

## پڑیا کا حکم

(سوال) پڑیا کچی یا پختہ کا بغیر دھوئے ہوئے مردوں اور عورتوں کو استعمال جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) پڑیہ کا رنگ ناپاک ہے فقط۔

## پڑیہ کے نجاست کی وجہ

(سوال) پوڑیہ سرخ رنگ کی رنگی ہوئی رضائی میں ڈالنا کیسا ہے؟  
(جواب) پوڑیہ میں کہتے ہیں شراب پڑتی ہے اور یہی تحقیق ہے اور شراب نجس ہے۔ اس واسطے نہ ڈالنی چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## پڑیہ میں رنگا ہوا کپڑا کیسے پاک ہوگا

(سوال) پوڑیہ میں کپڑا رنگا ہوا۔ اور اس کو ایک مرتبہ پانی میں نکال دے اور نہ نچوڑے اور نہ ملے اور ویسے ہی پھیلا دے تاکہ خود خشک ہو جاوے اور بعد خشک ہو جانے کے پاک ہو جاوے گا یا نہیں یا ایک مرتبہ مل کر دھونا ضرور ہے۔

(جواب) کپڑا پوڑیہ کا جو ناپاک ہو اس کا رنگا ہوا تب تک پاک نہ ہوگا جب تک رنگ نکلتا رہے گا۔ جب رنگ نکلتا بند ہو جاوے گا تب پاک ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

از بندہ رشید احمد غنی عنہ بعد سلام مسنون آنکہ بندہ نے پختہ رنگ کو پاک نہیں کہا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پڑیا میں رنگ کر پھر دھولیا جائے تو پاک کرنے کے بعد اس کا استعمال جائز ہے اور مدار رنگ کے پاک ہونے کا تحقیق پر ہے۔ مولوی ارشاد حسین صاحب کو تحقیق ہو گیا ہوگا۔ بندہ کو تحقیق نہ ہوا۔ فقط والسلام

## پڑیہ میں رنگے ہوئے کپڑے کو پاک کرنے کا دوسرا طریقہ

(سوال) گولی سرخ رنگ سرخ پختہ کہ دم مسفوح سے بنائی جائے اور گولی خام یا شراب کی آمیزش اس میں ہو جیسا کہ آج کل بہت گولیاں بکتی ہیں۔ ان میں کپڑا رنگنا اور اس سے نماز پڑھنا

جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جو رنگ پختہ کہ جس میں شراب یا دم مسفوح ہے اس کو اگر تین دفعہ دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس سے نماز پڑھنی درست ہے۔ علیٰ ہذا کچے رنگ کی گولیاں تین دفعہ دھلنے کے بعد پاک ہو جاتی ہیں۔ فقط واللہ اعلم

مٹی کا برتن کس طرح پاک کیا جائے

(سوال) مٹی کا برتن اگر کسی طرح سے ناپاک ہو جائے تو کس طرح پاک کیا جائے؟ فقط  
(جواب) مٹی کا برتن اگر چہ کورا ہو تو تین دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے کوئی طرز خاص اس کے دھونے کا نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

## ملفوظات

پڑیہ کے رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے سے اعادہ نماز لازمی نہیں۔

۱۔ بعد سلام آنکہ اعادہ نماز کا اس وجہ سے ضرور نہیں بتایا گیا کہ بعض شرابیں سوا چار کے اس قسم کی ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک وہ نجس نہیں مگر فتویٰ امام صاحب کے قول پر نہیں اور اس رنگ میں متحقق نہیں کہ کون سی شراب پڑتی ہے پس بسبب مسئلہ مختلف فیہا ہونے کے آسانی کی وجہ سے اعادہ نماز کو نہیں کہا گیا مگر نجاست میں عمل امام محمد کے مذہب پر بتایا گیا تھا اور ولایت سے جو کپڑا آتا ہے اس میں شراب نجس کا پڑنا ہم نے نہیں سنا۔ فقط

پڑیہ کے رنگ کی حقیقت

۲۔ جو چھینٹ یا بانات وغیرہ پختہ رنگ ہے۔ وہ تو ہر حال پاک ہے اگرچہ اس میں نجاست پڑے کیونکہ بعد رنگ کے اس کو دھو کر صاف کرتے ہیں اور جو خام رنگ ہیں ان کا حال معلوم نہیں کہ اس میں کچھ نجس ڈالتے ہیں یا نہیں لہذا اسپر حکم نجاست نہیں ہو سکتا کہ اصل شے کی طہارت ہے ہاں جس کو تحقیق ہو گیا کہ نجس اس میں پڑتا ہے اور نہیں دھویا جاتا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ بندہ کو جو محقق ہوا تو یہ ہے کہ بازار میں جو رنگ فلوس فلوس کو پوڑیا فروخت ہوئی ہے اس

میں شراب ہے اور بس لہذا اس کی نجاست کا اظہار کیا گیا ہے۔ پوڑیہ جو تہ جو پاک ہے بوجہ عدم تیقن نجاست کے ہے اگر کسی جو تہ خاص میں محقق ہو جائے کہ نجس لگا ہے وہ ناپاک ہی ہو دے گا۔ لہذا جو تہ کو پڑیا پر قیاس نہیں کر سکتے تبدیل ماہیت بھی نہیں بلکہ ترکیب نجس باظاہر ہے جیسا نجس آب میں گوشت یا روٹی پکائی جائے اس کو تبدیل ماہیت نہیں کہتے ملح خوک مضائقہ نہیں کہ مادہ و صورت ہر دو بدل گئی سرکہ شراب میں گو بر مٹی میں سو یہاں تبدیل ماہیت ہے کہ نہ وہ مادہ سابق رہا نہ صورت پہلی رہی ترکیب میں ماہیت نہیں پلٹی ترکیب پیدا ہو جاتی ہے اس کا اعتبار نہیں دھونے سے البتہ پوڑیہ کارنگا کپڑا پاک ہو جاتا ہے ایک بات باقی ہے اگر وہ صاحب بنانے والے ملے تو تحقیق کروں گا۔ شاید اس میں کوئی صورت جواز پیدا ہو جائے۔ سو دیکھئے وہ کب ملتے ہیں اب تو منع ہی کر دینا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم

پڑیہ میں شراب پڑنے سے پڑیہ کا حکم

۳۔ شراب مسکر مطلقاً نجس ہے امام محمدؒ کے یہاں اس پر فتویٰ دیا ہے۔ در مختار میں مذکور ہے اور یہی مذہب بندہ کے اساتذہ کے یہاں رائج ہے۔ تبدیل ماہیت لے صورت کی تبدیل سے ہوتا ہے کہ حقیقت دیگر ہو گئی نہ ترکیب سے ورنہ روٹی خمیر سے گوندھے درست ہو شراب سے مرکب دو احلال ہو یہ باطل ہے سرکہ میں تبدیل ماہیت ہے پوڑیہ میں نہ ترکیب ہے نہ تبدیل ماہیت منجھائے مسکر سمیت ہے۔ خلاصہ شراب بھی شراب ہی ہوتی ہے۔ اگر چہ تیزاب بن جاوے۔ فقط واللہ اعلم۔

پڑیہ میں کون سی شراب پڑتی ہے۔

۴۔ خمر خواہ انگوری ہو یا غسل اصل اور جو کی غرض کل مسکر حرام نجس ہے۔ امام محمدؒ کے نزدیک اور اس پر ہی فتویٰ دیا گیا ہے اور ہمارے اساتذہ نے جو زمانہ گذشتہ میں نان پاؤ کا قصہ دکرار ہوا تازی کے سبب سے اس کو منع اور حرام لکھا۔ لہذا بندہ کے نزدیک رائج مذہب یہی ہے۔ سو تحقیق اس خمر کی کہ پڑیہ میں پڑتی ہی نہیں۔ بہر حال اختلاف میں احتیاط تو اوروں کو بھی بہتر ہے۔ ظاہر احادیث میں موجود تو سب مسکر کی خمریت کو چاہتا ہے۔ کل (۱) مسکر خمر صاف موجود ہے۔ وان من

(۱) ہر نئے والی چیز خمر ہے۔

الحنطۃ لخمراً بھی (۱) اب تاویل کا باب واسع ہے۔ والشنی اذا ثبت ثبت بلوازمہ (۲) خمر ہے تو حرام بھی نجس بھی ہے ظنی قطعی کے فرق میں تخفیف ہو جائے نہ ارتقاع اگر مزیل نجاست پایا جائے تو طہارت ہوتی ہے ورنہ جفاف مطہر نہیں جفاف ارض تو امام صاحب کے نزدیک مطہر ہے ثوب، دوا، خمیر پاک نہیں ہوتا۔ خمر میں آٹا گوند کرپکاؤں روٹی نجس ہووے گی۔ بول میں پارچہ تر ہو کر خشک ہو جائے ناپاک ہی رہے گا۔ حالانکہ رطوبت بول کو ہوائے گئی۔ علیٰ ہذا جفاف خمر موجب طہارت نہیں شراب کسی شے میں خلط ہو اور پھر خشک ہو بول پر قیاس ہوگا۔ اور جوڑنے کے کچھ اور معنی ہیں وہ مجھ کو معلوم نہیں اگر پارچہ شراب میں مبلول ہو کر خشک ہو تو پاک نہیں ہوتا اگرچہ تیزی دھوپ سے یا حرارت آتش سے شراب اڑتی ہی ہو یہ مسئلہ مجھ کو معلوم نہیں اگر شراب کا پڑنا محقق نہیں تو البتہ ناپاک نہیں اور بعد تحقیق وقوع کے بلوئی کیا کرے گا بلوئی وہ معتبر کوئی کرے کہ اجتناب دشوار ہو۔ زینت کا کپڑا ترک کرنا نفس پر ناگوار ہے یہ کیا بلوئی ہے۔ ہندوستانی کپڑا برتنا چاہئے اس واسطے بلوئی کے معنی فہم میں نہیں آتے۔ فقط واللہ اعلم۔

پڑیہ میں شراب پڑتی ہے یا نہیں

۵۔ خواب اگر نظر نہ آوے کچھ حرج نہیں جانے کا زیادہ اعتبار ہے آدمی کو اپنے لہ پر ہرگز اعتماد نہیں چاہئے۔ مقلب القلوب سے ڈرتا رہے کہ دم بھر میں بدل ڈالتا ہے اور مفارقت و ملاقات دونوں مقدر ہیں کسی کے اختیاری نہیں جس قدر مقدر ہے ملتا ہے کہ زیادہ کون کر سکتا ہے پوڑیہ ہندی میں شراب قطعاً پڑتی ہے اور لندن کی پوڑیا میں بھی اکثر اقوال سے پڑنا ثابت ہے غایت الامر لندن میں شبہ ہو اور شہادت سے بچنا بھی واجب ہے اصل شے کی پاک ہے اور لحوق نجاست میں شک ہو وہ پاک رہتی ہے۔ گاڑہ دھو کر جو نہ اسی قسم میں ہے اور جس میں ثبوت نجاست کا بغالب ظن ہو گیا ہو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ پوڑیا کا یہی حال ہے جب تک شراب کا ہونا معلوم نہ تھا پاک کہتے تھے۔ بوجہ اصل کے اب بعض اقسام میں اعمیٰ ہندیہ میں وقوع محقق ہو گیا اور بعض میں غلبہ ظن ہے۔ فقط والسلام

اور جینٹ جو ولایت سے آتی ہے کہتے ہیں کہ وہ رنگ پوڑیا کا نہیں۔ لہذا اس کو نجس نہیں کہہ سکتے تا تحقیق دیکھنا شرط نہیں بلکہ علم شرط ہے کہ ظن غالب حاصل ہو جاوے۔ اگر بظن غالب ظروف نجس اس میں واقع ہوتے ہیں تو چاہ نجس ہے۔ گو آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ فقط

(۱) اور یقیناً گیہوں بھی نشا آور ہے۔

(۲) اور کوئی چیز ثابت ہوئی ہے تو اس کے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ ۱۲۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کتاب الصلوٰۃ

نماز کے مسائل

باب: نماز کے وقتوں کا بیان

آفتاب کے طلوع و استواء و غروب کے وقت  
سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ کا حکم

(سوال) صلوٰۃ جنازہ و سجدہ تلاوت وغیرہ طلوع و استواء و غروب شمس پر درست ہے، یا نہیں در صورت عدم جواز اگر پڑھ لیوے تو ادا ہوگا یا نہیں۔

(جواب) عین طلوع و استواء و غروب میں نماز جنازہ سجدہ تلاوت مکروہ تحریمہ ہے معہذا اس وقت میں اگر پڑھ لیوے تو ادا ہو جاتا ہے اور ذمہ سے سقوط ہو جاتا ہے بشرطیکہ اسی وقت تلاوت آیت کی ہو اور جنازہ حاضر ہو اور جو پہلے وقت مکروہ سے سجدہ کی آیت پڑھے اور جنازہ آیا اور مکروہ وقت میں ادا کیا تو ادا نہیں ہوتا۔ دوبارہ پڑھنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

نماز جمعہ کس مسجد میں پڑھی جائے جہاں جلد ہو کہ دیر سے ہو

(سوال) جامع مسجد میں نماز جمعہ ڈھائی بجے ہوتی ہے اور مسجدوں میں جمعہ کی نماز ایک بجے ہوتی ہے تو فرمائیے کہ کہاں جمعہ پڑھے جو ثواب زیادہ ہو۔

(جواب) جامع مسجد میں سبب کثرت آدمیوں کے زیادہ ثواب ہے اگر گرمی کا موسم ہو تو ڈھائی بجے تک وقت اچھا ہوتا ہے وہیں جمعہ پڑھے اور جاڑے کے موسم میں بہتر ہے کہ دیگر مسجد میں پڑھے لیوے کہ احتمال ایک مثل سے وقت نکل جانے کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

جمعہ اور ظہر کی نماز کے اوقات میں فرق

(سوال) جمعہ کی نماز اور ظہر کی نماز کا وقت ایک ہی ہے یا نہیں اور جمعہ کی نماز ظہر کے وقت سے کچھ پہلے پڑھنا سنت ہے یا دونوں مساوی وقت ہیں مثلاً جو شخص ظہر کی نماز دو بجے پڑھتا ہے

اس کو جمعہ کی نماز ایک بجے پڑھنا مستحب ہوگی یا دو بجے۔

(جواب) جمعہ و ظہر کا وقت ایک ہے مگر جمعہ کو ذرا پہلے پڑھنا کہ لوگ سویرے سے آئے ہیر ان کو جلد فراغت ہو جائے تو بہتر ہے۔ فقط

## ظہر کا صحیح وقت

(سوال) وقت ظہر مثلین تک رہتا ہے یا نہیں مذہب مفتی بہ میں اگر نہیں رہتا تو جو ظہر مثلین میں پڑھے تو قضاء پڑھے یا ادا اور بعد مثل کے عصر اگر پڑھے تو ہوگی یا نہیں اور سایہ اصلی کی پہچان خلاصہ طور پر ایسے قاعدہ کلیہ سے کہ ہر جگہ وہ قاعدہ دلائلین ہوا رقم فرمادیں۔

(جواب) ظہر میں دونوں قولوں پر فتویٰ دیا گیا ہے جس پر عمل کرے گا درست ہے اور سایہ اصلی کا ایسا قاعدہ جو ہر جگہ موافق و مطابق ہو مجھے معلوم نہیں۔ فقط

ظہر کا وقت ایک مثل تک رہنے سے امام ابو حنیفہ نے رجوع کیا یا نہیں

(سوال) رجوع امام صاحب بزمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہما اللہ ایک مثل ظہر ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب) رجوع امام صاحب کا بندہ کو معلوم نہیں بلکہ خود امام صاحب کی ایک روایت اس باب میں موجود ہے اور یہی مذہب صاحبین کا ہے لہذا یہ مذہب قوی ہے مگر رجوع کی روایت بندہ کو معلوم نہیں۔ لہذا اگر حنفی ایک مثل پر عمل کرے تو حرج نہیں اگر چہ احوط عصر کا بعد و مثل کے اور ظہر کا قبل ایک مثل کے پڑھنا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## عصر و ظہر کے اوقات کے صحیح حدود

(سوال) شیخ اشونخ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مصنفی شرح موطاء میں درتحدید صلوٰۃ ظہر و عصر فرماتے ہیں مترجم گوید ابتدائے وقت ظہر زوال شمس است از وسطہ آسمان و آخر وقت اولیست کہ باشد سایہ ہر چیزے مانند قامت آں چیزے سوائے فی زوال بر ہمیں منطبق است ابرادو لفظ عشی وزانجا وقت عصر داخل میشود الخ (۱) اور مولانا شاہ عبدالعزیز

(۱) مترجم کہتا ہے کہ وقت ظہر کی ابتداء آفتاب کے وسط آسمان سے زوال سے ہوتی ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے مطابق ہو جائے سوائے سایہ اصلی کے اور اسی پر منطبق ہوتا ہے لفظ مترجم کرنے کا اور لفظ عشی کا اور ہیں سے عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔



ماحب رحمہ اللہ علیہ بستان الحدیث میں فرماتے ہیں آنچہ از بعض فقہاء منقول است کہ بایں حدیث تمسک کردہ اندر آنکہ وقت عصر از ماجد المسکین شروع میشود و قبل از آن وقت ظہر است دلالت حدیث بر آن ممنوع است آری گر لفظ مابین وقت احصرالی المغرب می بود گنجائش این استدلال می شد لفظ حدیث مابین صلوة العصر الی مغرب الشمس است کہ صلوة احصر در وقت تحقق نمی شود تا مدعا حاصل گردد و مدار تشبیہ در مقالہ مابین نماز عصر است بروقی آنچہ معمول است جناب بود تا وقت غروب و آن کمتر از مابین ظہر و عصر می باشد گواہ ابتداء وقت عصر تا غروب مساوی آں باشد و اگر کے بخاطر است کہ تشبیہ برائے تفہیم است و دریں صورت تخیل لازم آید بر آنکہ صلوة عصر را تعین نیست ہر کے در وقت از اوقات معصومی خود بخلاف وقت عصر کہ فی نفسہ متعین است گویم تشبیہ برائے تفہیم مخاطبین است و مخاطبین وقت متعارف نماز آن جناب را می نمانند پس نسبت بایشان بوجہ احسن تفہیم تحقق شد و دیگر آنرا بسما آزار ایشان..... این معنی واضح شد نظیرش آنکہ حضرت عائشہ در میان وقت معمول نماز عصر آں جناب فرمودہ است۔ کان یصلی لعصر و الشمس فی حجر تھا یظہر الفی بعد و معلوم است کہ این بیان و تفسیر غیر از کسانے را کہ آں حجرہ مبارک را دید باشند و بودن آفتاب را در آں حجرہ و ظہور سایہ ادران مقایسہ کردہ باشند قائدہ نمیکند کذا ہذا و نیز باید دانست کہ آنچہ در کلام امام واقعہ شدہ کہ و من عجل لعصر کان مابین الظہر الی العصر اقل من بین العصر الی المغرب بظاہر مخدوش است زیرا کہ موافق قواعد ظلال انقضاء مثل وقع می شود کہ ربع النہار باقی می ماند و اکثر بلند ان پس زمین مساوی باشند نہ زیادہ و کم متیوان توجیہ کرد کہ مراد از مابین الظہر مابین وقت المتعارف للصلوة است یعنی زابتدائے وقت تا آخر خصوصاً در ایام صیف کہ ابراد آن مستحب است۔ (۱) واللہ اعلم

(۱) اور جو کچھ بعض فقہاء سے منقول ہے وہ اس حدیث سے تمسک کئے ہیں اس مسئلہ میں کہ عصر کا وقت مثلین کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے ظہر کا وقت ہوتا ہے تو حدیث کی دلالت اس پر منسوخ ہے ہاں اگر یہ لفظ ہوتا کہ "عصر سے مغرب کے وقت تک تو اس استدلال کی گنجائش ہوتی حدیث کے الفاظ "عصر سے غروب آفتاب تک" کے ہیں کہ عصر کی نماز اول وقت میں تحقق نہیں ہوتی ہے کہ مدعا حاصل ہو اور تشبیہ کا مدار ہماری تقریر میں مابین نماز عصر ہے جس میں موافقت اس معمول کی ہے جو آں جناب کا تھا وقت غروب آفتاب تک اور ظہر و عصر کے مابین سے کم ہوتا ہے لہذا کہ ابتداء وقت عصر سے غروب تک اس کے مساوی ہوتا ہے اور اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ تشبیہ سمجھانے کے لئے ہے تو ایسی صورت میں تحقیق لازم آتی ہے اس لئے کہ نماز عصر کا عین نہیں ہے ہر شخص کی ایک وقت میں اوقات وسیعہ سے پڑھ لیتا ہے بخلاف وقت عصر کے کوئی نفس متعین ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تشبیہ مخاطبین کو سمجھانے کے لئے ہے۔ اور مخاطبین آں جناب نماز کے وقت معروف کو جانتے تھے۔ بس ان کی نسبت کرتے ہوئے عمدہ طریق پر سمجھانا ہوا اور دوسروں کو اس کے سننے سے منع معلوم ہو گئے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ صدیقہ عائشہ آنجناب کے نماز عصر کے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں واہ  
اخر وقت الظهر فلم یوجد فی حدیث صحیح ولا ضعیف انه لا یقی بعلم مصیر  
ظل کل شیئی مثله ولهذا خالف ابو حنیفہ فی فی هذا المسئلة صاحبہ ووافقا  
فیہا الجمهور تنہی<sup>(۱)</sup> اب گذارش ہے کہ مذہب ایک مثل ظہر میں اور بعد مثل عصر میں مفتی بہ  
اور محقق و معمول بہ از روئے روایات صحیحہ حسب ارشادات اکابرین محققین رحمہم اللہ تعالیٰ آپ کے  
نزدیک ہے یا نہیں۔

(جواب) وقت ظہر میں ایسا کرنا احتیاط ہے کہ ظہر بعد مثل کے نہ پڑھیں اور عصر قبل مثلین کے نہ  
پڑھیں اور امام صاحب کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور بایں ہمہ مذہب مثلین پر  
اعتراض نہیں ہو سکتا اور اس عبارت بستان الحدیث اور تفسیر مظہری سے قطعاً اور نفی صراحۃً مثلین  
معلوم ہوتی ہے لہذا مذہب مثلین مرجوح ہے۔ اور ایک مثل قوی اور معمول بہ اکثر فقہاء فقط واللہ  
تعالیٰ اعلم۔

### مذہب حنفیہ میں عصر کا صحیح وقت

(سوال) مذہب حنفیہ میں عصر کے وقت کے بارہ میں ایک مثل کو زیادہ قوت حاصل ہے یا دو مثل  
کو مفتی بہ اور راجح قول کون سا ہے کسی مسجد میں قبل از دو مثل عصر کی جماعت ہو رہی ہو تو نماز ان  
کے ساتھ ادا کرے یا نہیں اور اگر مل گیا تو عصر کے فرض ساقط ہوئے یا نقلیں اور بعد دو مثل اپنی عصر  
کی نماز ادا کرے اور وہ لوگ جو قبل از دو مثل ادا کرتے ہیں آثم ہوں گے یا نہیں۔

(جواب) بندہ کے نزدیک ایک مثل کو زیادہ قوت ہے لہذا اگر ایک مثل میں کسی نے نماز پڑھ لی

(بقیہ حاشیہ) معمول کے متعلق فرمائی ہیں کہ ”آپ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے جب کہ آفتاب آپ کے کمرہ میں ہوتا  
تھا اور ابھی وہ سایہ ظاہر نہیں ہوا تھا اور معلوم ہے کہ یہ بیان اور تفسیر ان لوگوں کے سوا لوگوں کو جو حجرہ مبارکہ کو دیکھے ہوں  
اور آفتاب کے اس حجرہ میں ہونے کو اور اس کے سایہ کو قیاس میں لائے ہوں، فائدہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہ اور جانا  
چاہئے کہ جو کچھ امام کے کلام میں واضح ہوا ہے کہ ”اور جس نے عصر کی جلدی کی تو وہ ظہر سے عصر تک کم وقت رکھے گا، اس  
وقت سے جو عصر سے مغرب تک ہو“ بظاہر ضد و شوش ہے اس لئے کہ سایہ کے قاعدہ کے مطابق ایک مثل کا انعقاد اس وقت  
ہوتا ہے کہ دن کا چوتھائی حصہ باقی رہتا ہے اکثر شہروں میں دو دنوں وقت مساوی ہوتے ہیں نہ زیادہ نہ کم اور اس کی وجہ بیان  
کر سکتے ہیں کہ مراد ما بین الظہر سے نماز کے اوقات معروفہ کے ما بین ہے۔ یعنی ابتداء وقت آخر سے خصوصاً موسم گرما  
میں کس کا ضحکا کرتا صحیح ہے۔

(۱) راہ ظہر کا وقت آخری تو نہ کسی حدیث صحیح میں نہ ضعیف میں یہ پایا گیا کہ ہر حجرہ کا سایہ اس کے مثل ہونے کے بعد باقی  
نہیں رہتا اور اسی لئے ابو حنیفہ نے صاحبین سے اختلاف کیا ہے اور صاحبین نے جمہور کی موافقت کی ہے۔

فرض عصر اس کے ذمہ سے ساقط ہوئے اور اعادہ جائز نہ ہوگا کہ نفل بعد نماز عصر منع ہیں اگرچہ بعد مشین کے نماز پڑھنا احوط ہے۔ للخروج عن الخلاف۔ فقط۔ (۱)

### نماز عصر کا صحیح وقت

(سوال) صلوٰۃ عصر اگر ایک مثل پر پڑھ لی جاوے تو ہو جاوے گی یا قابل اعادہ ہوگی۔  
(جواب) ایک مثل کا مذہب قوی ہے لہذا اگر ایک مثل پر عصر پڑھے تو ادا ہو جاتی ہے اعادہ نہ کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا مسئلہ

(سوال) اگر حالت مرض و سفر وغیرہ میں جمع بین الصلوٰتین کر لیوے تو جائز ہے یا نہیں کیونکہ شدت مرض و سفر سخت کی تکالیف میں فوت ہونے کا اندیشہ قوی ہے اور اس کے جواز پر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کا مسلک بھی ہے کہ مصفیٰ شرح موطا میں فرماتے ہیں۔ مختار فقیر جواز ست وقت عذر و عدم جواز بغیر عذر اور مولانا عبدالحی صاحب مرحوم بھی جواز کے قائل ہیں مجموعہ فتویٰ میں لہذا ایسے عذرات میں آپ کے نزدیک بھی جواز ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ مسئلہ مقلد کے دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنے کا ہے تو وقت ضرورت کے جائز ہے عامی کو کہ اس کو سب کو حق جانا چاہئے اگر اپنے امام کے مذہب پر عمل کرنے میں دشواری ہو تو دوسرے امام کے قول پر عمل کر لیوے اس قدر تنگی نہ اٹھاوے کہ یہ موجب ضرر اور حرج دین کا ہوتا ہے فقط یہی مذہب اپنے اساتذہ کا ہے۔ جیسا استاذ اساتذہ تانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ فقط

### زوال کا صحیح وقت گھنٹوں میں

(سوال) زوال کی کیا علامت ہے چار نفل جو پڑھتے ہیں تیل زوں چاہیں یا بعد زول زوال کی علامت گھنٹوں پر زیب قلم فرمانا چاہئے۔

(۱) امام طحاوی نے فرمایا ہے اور ہم اسی کو قبول کرتے ہیں اور عزرا الاذکار میں ہے اور اسی کو لیا جاتا ہے اور برہان میں ہے کہ جبریل کے بیان میں یہی زیادہ ظاہر کرتا ہے اور یہی اس معاملہ میں قطعی ہے اور فیض میں ہے کہ اسی پر آج کل لوگوں کا عمل ہے۔ اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔  
(۲) تاکہ کسی کے اختلاف سے نکل جائے۔

(جواب) زوال دن ڈھلنے کو کہتے ہیں جب سایہ شرق کی طرف میل کرے یہ ہی علامت ہے۔ فقط

### نماز جمعہ کا گھنٹوں سے وقت

(سوال) جمعہ کی نماز کا وقت امام اعظم صاحبؒ کے نزدیک کئے بچے مستحب ہے گھنٹوں سے فرمائیے۔

(جواب) گرمی میں تاخیر کرنا اور اور جاڑے میں جلدی کرنا ظہر و جمعہ میں برابر ہے گھنٹوں کا حساب کوئی ضروری نہیں جیسا مناسب حال ہو کرے۔ اس میں کوئی توقيت نہیں ہو سکتی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مغرب کا انتہائی وقت صحیح

(سوال) شفق سفید تک وقت مغرب کا رہتا ہے یا نہیں۔ اکثر فقہا حنفیہ تو فرماتے ہیں کہ شفق سفید تک مغرب کا وقت ہے اس کے بعد عشاء کا وقت ہے اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعد شفق سرخ کے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے قول اصح یہی ہے اب تردد یہ ہے کہ شفق سفید مغرب میں داخل ہے یا عشاء میں اور علمائے حنفیہ کے نزدیک قول مفتی بہ کیا ہے۔

(جواب) یہ مسئلہ امام صاحب اور ان کے صاحبین میں مختلف ہے احوط یہ ہے کہ دونوں کی رعایت رکھے اور بعض نے فتویٰ صاحبین کے قول پر لکھا ہے جیسا شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے شرح وقایہ میں بھی سرخ پر فتویٰ دیا ہے۔

### جماعت کے لئے گھنٹوں سے وقت مقرر کر لینے کا حکم

(سوال) مسئلہ چند مسلمان یہ تجویز کر لیں کہ نماز ظہر کی بعد نواخت دو گھنٹے دوپہر کے ہوگی۔ یا نماز عشاء کی بعد نواخت آٹھ گھنٹے رات کے ہوگی تو باعتبار نواخت گھنٹوں کے نماز جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) وقت مقرر کر لینا مستحب وقت میں درست ہے نواخت گھنٹہ سے وقت کی تحدید ہے شرع میں چاند سورج کے سایہ سے تحدید ہے یہ بھی تحدید ساعات سے ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ فقط

## فجر کی سنتیں قبل طلوع آفتاب ادا کرنا

(سوال) مسئلہ سنت فجر کی اگر باعث شامل ہونے فرضوں کے نہ ہوئی اور قبل طلوع آفتاب کے کسی نے پڑھ لی تو وہ قابل ملامت اور مرتکب گناہ کا ہوتا ہے اور سنت اس کے ذمہ سے ادا ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ زید کہتا ہے کہ قبل طلوع آفتاب کے سنت پڑھنا مکروہ تحریمہ ہے۔ ان سنتوں کا اختلاف کس صورت پر ہے اور مفتی بہ کیا ہے آیا قبل طلوع آفتاب کے پڑھنا چاہئے یا نہ پڑھنا چاہیے اور جس وقت تکبیر تحریمہ ہوگی اور امام قرأت پڑھنے لگا اس وقت سنت پڑھے یا فرضوں میں شامل ہو جاوے۔

(جواب) جب تکبیر نماز فرض فجر کی ہوگی اور امام نے فرض نماز شروع کر دی تو سنت فجر کی صف کے پاس پڑھنا تو سب کے نزدیک مکروہ تحریمہ ہے مگر صف سے دور جہاں پردہ ہو امام و جماعت سے دوسرے مکان میں اگر ایک رکعت نماز کی امام کے ساتھ مل سکے تو سنت پڑھ کر پھر شریک جماعت کا ہو جاوے ورنہ سنت کو ترک کر دے جماعت میں شریک ہو جاوے اور پھر سنت کو بعد طلوع آفتاب کے پڑھ لیوے بہتر ہے ورنہ کچھ حرج نہیں، یہ مذہب امام ابوحنیفہ کا ہے اور قبل طلوع آفتاب کے بعد فرض کے سنت کا پڑھنا امام ابوحنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمہ ہے اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک درست ہے۔ فقط

## ملفوظات

### دو نمازوں کے جمع کرنے کا مسئلہ

(۱) ہمارے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دو نماز کا جمع کرنا کسی حالت میں درست نہیں مگر ہاں جمع صوری اس طرح کہ ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھے۔ پھر ذرا صبر کرے۔ جب عصر کا وقت داخل ہو جاوے تو عصر کو اول وقت میں ادا کرے تو اس طرح درست ہے۔ ایسا ہی مغرب کو آخر وقت اور عشاء کو اول وقت پڑھے تو اس طرح جمع کرنا عذر مرض سے درست ہے ورنہ درست نہیں فقط والسلام۔

## جمعہ یا ظہر کا صحیح وقت گھنٹوں سے

(۲) نماز پڑھنے میں گھنٹہ کا اعتبار نہیں۔ بعد زوال شمس سایہ اصلی چھوڑ کر ایک مثل کے اندر جمعہ یا ظہر پڑھ لینی چاہئے اور سوائے سایہ اصلی کے ایک مثل کے بعد بروایت مفتی بہ وقت نماز عصر ہو جاتا ہے اور رجوع امام صاحب کا حال پھر پوچھنا عصر کی نماز بعد ایک مثل کے ہو جاتی ہے اعادہ کی حاجت نہیں۔ ہم نے استادوں سے یہی سنا ہے کہ ہزارہ روزہ کی کچھ اصل نہیں اور سب نفل روزوں کے برابر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب العبد عبدالرحمن بقلم عبدالرحمن غفرلہ  
نہم شعبان ۱۳۱۳ھ یوم شنبہ از پانی پت عبدالسلام عفی عنہ کا سلام مسنون۔

## حد اسفار

(۳) حد اسفار خوب صبح کا روشن ہو جانا ہے کہ بعد طلوع صبح کے تقریباً ایک گھڑی میں ہو جاتا ہے باقی سب غلو ہے۔ فقط عصر کو قبل تغیر آفتاب مستحب لکھا ہے مگر عمل درآمد صحابہ یہ ہے کہ اول وقت پڑھے۔ پس نصف وقت تک پڑھ لیں۔ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ظہر کا وقت کب کامل ہے کب ناقص؟

(۴) مثل اول اور سایہ اصلی متفق علیہ ہے اور سارا وقت کامل ہے کچھ نقصان اس میں نہیں تو سارے وقت میں نماز ظہر بلا کراہت تزییہ ادا ہوتی ہے لازم ہے کہ اس وقت میں فارغ ہو لیوے مثل اول کا نصف ثانی مکروہ ہونا کسی نے نہیں لکھا اور جب سایہ اصلی اور مثل اول نکل گیا تو وقت مختلف فیہ آ گیا۔ ایسے میں نماز ہرگز نہ ادا کرے۔ پس بہتر یہ ہے کہ اول مثل میں فارغ ہو جاوے۔ ابراد کے واسطے قدر ایک نصف مثل اول کے کافی ہے۔ باقی قید گھنٹہ کی اول تو گھنٹہ ہر موسم کا مختلف ہے۔ دوسرے بندے نے اس کا حساب بھی نہیں کیا۔ اپنا عمل درآمد یہ ہے کہ جاڑے میں ایک بجے کے قریب فارغ ہوتے ہیں اور اس موسم میں دو بجے دن کے فارغ ہوتے ہیں۔ پس ایسا ہی آپ مقرر کر دیوے اور خوفائے عوام پر خیال نہ فرمائیں کہ ان کی اطاعت میں ہرگز انتظام نماز جماعت کا نہ ہوئے گا۔ واللہ اعلم۔

(۱) پس جمہور فقہاء و محدثین کے پاس نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے ان کے اول اوقات میں اور تعمیل کا مطلب یہ ہے کہ اول وقت سے نماز کی تیاری شروع کر دے اور تیاری کے بعد نصف اول میں نماز ادا کر دے۔

## عصر کا صحیح وقت

(۵) برادر عزیز مولوی محمد صدیق صاحب مدنی و ضمیمہ السلام علیکم وقت مثل بندہ کے نزدیک زیادہ قوی ہے۔ روایات حدیث سے ثبوت مثل کا ہوتا ہے۔ دو مثل کا ثبوت حدیث سے نہیں بنا سکتے۔ ایک مثل پر عصر ہو جاتی ہے۔ گواحتیاط دوسری روایت میں ہے۔ فقط والسلام۔

## اذان اور اقامت کا بیان

مؤذن کیسا ہو

(سوال) مؤذن غلط خواں کے بغیر اجازت دوسرے شخص صحیح خواں کو اذان و اقامت حسبہ اللہ کہنا درست ہے یا نہیں اور جس صحیح خواں کی اذان و اقامت سے مؤذن غلط خواں ناراض ہوتا ہو اس کو اذان و تکبیر کا کہنا کیسا ہے۔ اور مؤذن مذکور کا ناراض ہونا اور شرعاً خواندہ مؤذن ہونا چاہئے یا ناخواندہ بھی پھر اگر باوجود خواندہ کے ایسا مؤذن اذان و اقامت کہتا رہے تو نماز میں تو کچھ خلل نہیں آتا۔

(جواب) مؤذن صحیح خواں اور صالح ہونا چاہئے اگر اس کے خلاف مؤذن ہو اور ایسی طرح پر اذان کہے کہ معنی بگڑ جاویں تو وہ گویا اذان ہوئی ہی نہیں۔ بلا اذان نماز ہوئی فقط۔

اذان اور جماعت میں کتنا فرق ہونا چاہئے

(سوال) اذان جماعت سے کس قدر بیشتر ہونی چاہئے اور انتظار مصلیوں کا کہاں تک ہے موافق طریقہ سنت اور فتویٰ شرعی کے جواب مرحمت ہو۔

(جواب) اذان جماعت سے اس قدر پہلے ہونا ضروری ہے کہ پیشاب پاخانہ والا اپنی حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے آسکے کہ رسول اللہ ﷺ نے بعد اذان کے کتنی تاخیر کو ارشاد فرمایا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

اذان کے وقت اور اذان دینے کے درمیانی وقفہ میں دنیا کی بات

(سوال) درمیان کلمات اذان کے مؤذن جو وقفہ لیتا ہے اس میں بات دنیا کی جائز ہے یا نہیں اور کچھ ثواب میں کمی ہوگی یا نہیں۔

(جواب) دنیا کی بات اٹھائے سکوت مؤذن بھی درست ہے اور جب اذان کہہ رہا ہو اس وقت بھی درست ہے مگر ثواب گھٹ جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

خطبہ کی اذان کا جواب اور اس کے بعد کی دعا

(سوال) جواز اذان کہ خطبہ جمعہ کے واسطے کہی جاتی ہے اس کا جواب دینا اور ہاتھ اٹھانا اللہم رب هذه الدعوة پڑھنا چاہئے یا نہیں۔

(جواب) جائز نہیں اور جب امام اپنی جگہ سے اٹھے اسی وقت سے سکوت واجب ہے۔ فقط

فجر کی اذان میں ”الصلوٰۃ خیر من النوم“ کا جواب

(سوال) صبح کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ کہنا چاہئے ثابت ہے۔

اذان کے بعد دوبارہ نمازیوں کو بلانا

(سوال) بعد اذان کے اگر نمازی نہ آویں تو ان کو بلانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر احیاناً کسی کو بعد اذان بوجہ ضرورت بلوائیں تو درست ہے مگر اس کی عادت ڈالنی اور ہمیشہ کا التزام نادرست ہے۔ فقط

## باب: نماز کی کیفیت کا بیان

نمازی کے قدموں کے درمیان کا فاصلہ

(سوال) نمازی کے قدموں کے درمیان کس قدر فاصلہ ثابت ہے۔ خواہ جماعت میں ہو یا علیحدہ ہو۔

(جواب) درمیان دونوں قدموں مصلیٰ کے فاصلہ بقدر چہرہ انگشت چاہئے۔

ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے قدموں کے درمیان فاصلہ

(سوال) در صورت جماعت ایک نمازی سے دوسرے نمازی کو کتنا فاصلہ ہونا چاہئے۔ زید کہتا



ہے کہ فاصلہ درمیان قدموں کے چار انگشت ہونا چاہئے اور یہ امر کتب فقہ سے مستفاد ہوتا ہے چنانچہ مفتاح الصلوٰۃ میں لکھا ہے۔

باید کہ وقت قیام فرق درمیان ہر دو قدم چار انگشت (۱) باشد فقط اور عمر و کہتا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ایک فصلی دوسرے سے عورتوں سے موٹھا اور قدم سے قدم ملائے رکھے تاکہ اتصال حقیقی پیدا ہو جائے کیونکہ صف کے ملانے کو اور شگاف و دراز بند کرنے کو تاکید فرمایا گیا ہے اور یہ امر جب تک موٹھا سے موٹھا اور قدم سے قدم نہ ملایا جائے گا ہرگز پیدا نہ ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلذق منکبہ بمنکب صاحبہ وقلعہ بقلعہ انتھی۔ (۲) اور یہ حدیث صحیح صریح غیر معارض ہے اور کسی ائمہ دین سے اس کا خلاف مروی نہیں ہے کہ انہوں نے معنی حقیقی کو چھوڑ کر بلاوجہ معنی مجازی لئے ہوں اور حدیث صحیح صریح غیر معارض بلا منسوخ اپنے معنی حقیقی پر واجب العمل ہوتی ہے۔ بالاتفاق تمام اہل علم کے حالانکہ تمام خواص و عوام اس کے خلاف پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تقریر عمر و کی ہے لہذا جواب مدلل عندا التحقیق ارقام فرمایا جاوے کہ زید و عمر و میں کون صحیح کہتا ہے اور عمل کس طرح پر ہونا چاہئے۔

(جواب) اقامت صف کی حالت میں اتصال حقیقی ممکن نہیں ہے اور حدیث شریف میں سد فرجات و خلل کا حکم آیا ہے حالانکہ اگر پاؤں چکرا کر کھڑے ہوں گے تو دونوں پاؤں کے درمیان ایک وسیع فرجہ پیدا ہو جائے گا۔ پس اس حالت میں حدیث شریف کے معنی یہی ہوئے کہ مقابلہ اور محازات مناکب اور کعب کافوت نہ ہونا چاہئے۔ چنانچہ حدیث شریف ابو داؤد میں بہ تصریح موجود ہے۔ ان رسول اللہ صلی علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسیدوا والنخل ولا تلذروا فرجات للشیطن انتھی (۳) پس اس سے ظاہر ہے کہ الزراق اور الصاق سے مراد محازات ہی ہے نہ الصاق والزراق حقیقی ورنہ ادائے ارکان نماز میں سخت دشواری پیش آوے گی مگر معنی حقیقی مراد نہ ہونے سے یہ لازم ہونا کہل کرنے

(۱) چاہے کہ قیام کے وقت دونوں قدموں کے درمیان چار انگلی کا فاصلہ ہے۔ ۱۲۔

(۲) اپنی صفوں کو ٹھیک کرو کیونکہ میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں اور ہم میں سے ہر ایک اپنے موٹھوں کو اپنے سامنے کے موٹھ سے ملالیتا تھا اور اپنے ہم کو اس کے قدم سے۔

(۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صفوں کو ٹھیک کرو اور موٹھوں کو مقابلہ میں رکھو اور غلام کو بند کرو اور شیطان کے لئے کھلی جگہ نہ چھوڑو۔

کھڑے ہوں ہرگز نہیں اور وہ فرجات جو عوام بلکہ خواص پر بھی اس کے الصاق سے غفلت ہے مکروہ تحریمہ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### جو لوگ بیت اللہ سے دور ہیں وہ قبلہ کیسے قرار دیں

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہندوستان میں سمت قبلہ کیا ہے۔ آیا یہ مساجد جو سلف صالحین بنا کر گئے ہیں ان کا اعتبار ہے یا بروئے قاعدہ اہل بیت جو سمت نکلے اس کا اعتبار ہے اور جو شخص بقاعدہ اہل بیت نماز پڑھتا ہو نماز اس کی ہوئی یا نہیں اور یہ شخص تمام مساجد کو غلط بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سمت قبلہ اصلی میں اور سمت قبلہ مساجد میں پانچ سو کوس کا فرق ہے اور یہ شخص ایک مسجد کا امام ہے درحالیہ امت سمت مساجد سے انحراف کر کے نماز پڑھتا ہے اور مقتدیان اس کی اس سمت کو غلط جانتے ہیں ایسی حالت میں اقتداء اس امام کی صحیح ہوگی یا نہیں بینوا بالدلائل والتفصیل وتوجروا بالاجز الجزیل۔

(جواب) جو لوگ کہ بیت اللہ سے غائب ہیں ان کا قبلہ جہت کعبہ شریف ہے جس طرف میں کعبہ ہے اسی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مثلاً جو لوگ کہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے تو ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہئے اگر جنوب و شمال کی طرف ان کا منہ ہو جاوے گا تو ان کی نماز نہ ہوگی اور جو جنوب و شمال کے بیچ میں ہوں گے تو نماز ہو جاوے گی اور اگر کوئی شخص موافق قاعدہ بیت کے ساڑھے ایکس درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہو جاوے گی۔ اس واسطے کہ مکہ معظمہ ساڑھے ایکس درجہ میں واقع ہوا ہے اور ایک درجہ قریب ساڑھے میل کا ہوتا ہے تو جیسا نماز اور مسجد والوں کی درست ہے ایسے ہی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا۔ درست ہوگی اس واسطے کہ محاذ عین بیت اللہ کی ناس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو موافق بیت کے ساڑھے ایکس درجہ میں نماز پڑھتا ہے اور ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جو اس درجہ سے داہنے بائیں ہو کر پڑھتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ درجہ ہوتا ہے ساڑھے میل کا اور بیت اللہ کا عرض ہندوستان کی جانب سے کوئی تیس ہاتھ کی مقدار ہے تو عین بیت اللہ کی طرف کیونکہ متوجہ ہو سکتا ہے یہ تکلف اس شخص کا اور مساجد کو غلط بتانا محض غلط و بے سود ہے سب کی نماز درست ہے اور تفرقہ اور ٹیڑھا کرنا جماعت کا غلطی اس شخص کی ہے اور صورت بیت اللہ کی اور اس کے محاذات کی درمختار اور اس کی شرح میں لکھی ہے جس کا جی چاہے دیکھ لیوے اگر اس میں لکھی جاوے تو شاید فہم عوام میں نہ آوے، اسی لئے نہیں لکھی گئی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھیں یا نیچے

(سوال) نماز میں فوق ناف ہاتھ باندھنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں باوجود ثبوت اس کے عامل کو برا جانا ولا مذہب کہنا کیسا ہے۔ حالانکہ خود اکابرین و محققین علمائے صوفیہ اس کے عامل و ترجیح و توسیع کے قائل ہیں۔ چنانچہ حضرت میرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں ہے۔ و دست را برابر سینہ می بستند وی فرمودند کہ اس روایت ارجح است از روایت زیر ناف اگر کسے گوید کہ در ایں صورت خلاف حنفیہ بلکہ انتقال از مذہب بزمذہب لازم می آید گویم بموجب قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از مائیت بالحدیث فہو ملہبی از انتقال در مسئلہ جزئی خلاف مذہب لازم نئے آید بلکہ موافقت در موافقت است اتھی (۱) اور امام ربانی عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ بھی میزان میں اولویت کے قائل ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ وضع الیدین تحت صدرہ اولی و بذلک حصل الجمع بین اقوال الائمة رضی اللہ عنہم انتھی (۲) اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح مؤطا میں فرماتے ہیں۔ مترجم گوید رضی اللہ عنہ وارضاه کہ جمہور علماء بوضع یمنی علی الیسری قائل اند بعض اختلاف کردند شافعی فوق ناف می نہدو ابوحنیفہ زیر ناف و ایں ہمہ واسع و جائز است اور مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تنویر العینین میں فرماتے ہیں۔ و الوضوع تحت السرة و فوقها متساویان لان کلا منهما مروی عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اور شیخ عبدالحق صاحب بھی توسیع کے قائل ہیں۔ مدارج النبوت میں۔

(جواب) فوق ناف و زیر ناف دونوں طرح ہاتھ باندھنا اگر از روئے دیانت ہے تو جائز ہے اور اگر ہوائے نفسانی سے کرے گا تو ناجائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) اور ہاتھ کو سینہ کے برابر باندھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ روایت زیر ناف کی روایت سے راجح تر ہے اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس صورت میں حنفی مذہب کے خلاف بلکہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونا لازم آتا ہے تو میں کہوں گا کہ بموجب قول ابوحنیفہ کے ”جو حدیث سے ثابت ہو وہ میرا مذہب ہے“ جزئی مسئلہ میں انتقال سے مذہب کے خلاف لازم نہیں آتا ہے بلکہ موافقت در موافقت ہے۔

(۲) ہاتھوں کو اپنے سینہ کے نیچے رکھنا اولیٰ ہے اور اس سے اقوال ائمہ کے درمیان جمع حاصل ہوگا۔ رضی اللہ عنہم۔

(۳) مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو کہ جمہور علماء سیدھے کو بائیں پر رکھنے کے قائل ہیں بعض نے اختلاف کیا ہے۔ شافعی ناف کے اوپر رکھتے ہیں اور ابوحنیفہ ناف کے نیچے اور تمام واسع اور جائز ہے۔

(۴) اور رکھنا ناف کے نیچے۔ ناف کے اوپر دونوں مساوی ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک نبی ﷺ کے اصحاب سے مروی ہے۔

نماز میں ہاتھ کہاں باندھے

(سوال) ناف کے تلے ہاتھ نماز میں باندھنا سنت ہے یا اوپر ناف کے اگر کوئی ناف کے اوپر باندھے تو کیا غیر مقلد ہو جاوے گا۔

(جواب) ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے اور اس مسئلہ میں خلاف شافعی صاحب کا ہے وہ ناف کے اوپر مستحب فرماتے ہیں۔ اگر کسی نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لئے تو اتنی حرکت سے غیر مقلد نہیں ہوتا۔

امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا اور آمین بالجہر کا مسئلہ

(سوال) امام کے پیچھے مقتدی کا الحمد شریف پڑھنا اور نہ پڑھنا کیسا ہے اور آمین بالجہر اور بالسر میں اولویت کس کو ہے۔

(جواب) قرأت کا پڑھنا مقتدی کو مختلف فیہ ہے۔ علیٰ ہذا آمین بالجہر میں بھی اختلاف ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرأت فاتحہ خلف امام اور آمین بالجہر کو منع کرتے ہیں۔

امام کے پیچھے الحمد پڑھنے والے اور آمین بالجہر کہنے والے کا مسئلہ

(سوال) جو شخص خلف امام الحمد پڑھتا اور آمین بالجہر کہتا ہو اس کو ملامت کرنا اور منع کرنا کیسا ہے۔

(جواب) جو شخص فاتحہ پڑھتا ہو آمین بالجہر کہتا ہو اس کو ملامت کرنا نہ چاہئے، بشرطیکہ وہ شخص نہ پڑھنے والوں کو برانہ کہے اور نہ برا سمجھتا ہو۔ ورنہ وہ شخص عاصی ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ۔

مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا

(سوال) صلوٰۃ جہری میں سلکات امام میں سورہ فاتحہ پڑھنی مستحب ہے یا نہیں بر تقدیر مستحب ہونے کے تو حالت سری میں بدرجہ اولیٰ ہوگی فقط۔

(جواب) مذہب قوی حنفیہ کا یہ ہے کہ مقتدی کو فاتحہ پڑھنا جہریہ سلکات میں اور سریہ میں مطلقاً مکروہ ہے اور بندہ کے نزدیک بحسب دلیل یہی مذہب قوی ہے اگرچہ اس میں اختلاف ائمہ کا ہے اگر سبیل الرشاد آپ دیکھیں تو لطف اس مسئلہ کا آپ کو معلوم ہو جاوے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مسئلہ رفع یدین

(سوال) اول:- تنویر میں مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در باب رفع یدین فی الصلوٰۃ سنة غیر مؤکدة من سنن الہدی فیثاب فاعلہ بقلہ ما فعل ان دائما فحسبہ وان مرة فیمثلہ ولا یلام تارکہ وان ترکہ مدة عمرہ واما الطاعن العالم بالحديث ای من ثبت عنده الا حادیت المتعلقة بهذه المسئلة فلا اخاله الا فی من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی. (۱)

اور مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔ والذی یرفع احب الی ممن لا یرفع فان احادیث الرفع اکثر واثبت (۲) الخ لہذا یہ رفع یدین جیسا کہ حضرات مذکور الصدر علیہم الرحمۃ سے ثابت و محقق ہوا آپ کے نزدیک بھی صحیح ہے یا نہیں گو ترک اس کا بوجہ مختلف ہونے انہما احتیاف کو جائز اور اولیٰ ہو۔ لیکن غرض مسائل کی یہ ہے کہ مسئلہ مذکورہ ثابت صحیح غیر منسوخ ہے یا نہیں اور عالمان کا عال سنت ہوگا یا نہیں جو امر صحیح آپ کے نزدیک ہو۔ مفصل ارقام فرماویں۔

(جواب) میرا مسلک عدم رفع کا ہے کہ عدم رفع میرے نزدیک مرجح ہے جیسا کہ قدماء حنفیہ نے فرمایا ہے اور طعن بندہ کے نزدیک دونوں پر روا نہیں کہ مسئلہ مختلف فیہا ہے اور احادیث دونوں طرف موجود ہیں اور عمل صحابہ بھی اور قوت و ضعف مختلف ہوتے ہیں بالاخر دونوں معمول بہا ہیں۔ سبیل الرشاد دیکھو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مسئلہ آمین بالجہر

(سوال) دوئم:- تنویر میں مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در باب جہر بآمین و کذا ینظہر بعد التعمق فی الروایات والتحقق ان الجہر بالتامین اولیٰ من

(۱) رفع یدین کے باب میں ہے کہ رفع یدین نماز میں سنت غیر مؤکدہ ہے اور وہ سنن ہدیٰ سے ہے جس کے کرنے والے کو اس فعل کے کرنے کے مطابق ثواب ملے گا۔ اگر ہمیشہ کرے گا تو اتنا اور جو ایک دفعہ کرے گا تو اتنا ہی اور اس کے چھوڑنے والے پر کوئی ملامت نہیں اگرچہ کہ اس نے مدت العمر چھوڑا ہو لیکن احادیث کا جاننے والا عالم یعنی جس کے نزدیک اس مسئلہ کی احادیث مختلفہ کا علم ہو اس کا طعن کرنا تو میں اس کو ان ہی لوگوں میں سمجھتا ہوں جن کے متعلق ارشاد الہی ہے کہ اور جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی نافرمانی کرے۔

(۲) اور جو شخص کہ رفع یدین کرتا ہے وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے جو رفع یدین نہیں کرتا اس لئے کہ احادیث رفع کی بہت زیادہ ہیں اور ثابت تر۔

خفضہ لان رواۃ جہرہ اکثر و اوضع من خفضہ۔ (۱) اتھی لہذا مسلک جہر کے قوی ہونے کا از روئے روایات صحیح ہے یا نہیں اور عال اس کا عال بادلویت ہوگا یا نہیں۔ عند تحقیق آپ کے نزدیک جو ہواں کو ارقام فرمایا جاوے۔

(جواب) علیٰ ہذا آئین بالجہر میں بھی جواب یہی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### قومہ میں ہاتھ باندھنا

(سوال) در مختار باب مفتہ الصلوٰۃ وهو السنۃ قیام له قرار فیہ ذکر مسنون فیضع حالۃ الشاء و فی القنوت و تکبیرات الجنازۃ لا فی قیام بین رکوع و مسجود رد المحتار ولا تکبیرات العیدین لعلم الذکر مالم یطل القیام فیضع و مقتضاه انہ یعمد ایضا فی صلوٰۃ التسیح (۲) اس عبارت کا کیا مفہوم ہے اس سے قومہ صلوٰۃ التسیح میں ہاتھ باندھنا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔

(جواب) حالت قومہ میں ہاتھ نہ باندھنا چاہیے اور اس عبارت در مختار سے ہاتھ باندھنا نہیں نکلتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس قاعدے سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ فقط

### تشہد پڑھتے وقت انگلی سے اشارہ کیسے کیا جائے

(سوال) حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب محدث پانی پت کتاب مالا بدمنہ میں فرماتے ہیں و انگشت خنصر و بنصر از دست راست عقد کند و وسطیٰ و ابہام را حلقہ کند۔ (۳) و انگشت شہادت را کشادہ دارد و تشہد بخواند وقت شہادت اشارہ کند۔ یہ عبارت موافق امام صاحب ہے یا نہیں؟ اس سے ابتداء رفع سبب شروع التحیات سے معلوم ہوتا ہے لہذا وقت شہادت کے رفع کیا جاوے یا اول ہی سے مرقوم فرمائیے۔

(۱) اور روایات میں گہری نظر ڈالنے اور تحقیق سے اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ آئین کو پیکار کر پڑھنا آہستہ پڑھنے سے اولیٰ ہے اس لئے کہ اس کو پیکار کر پڑھنے کی روایت اس کو آہستہ پڑھنے کی روایت سے زیادہ افضل و واضح ہے۔

(۲) در مختار باب مفتہ الصلوٰۃ میں ہے اور وہ سنت ہے اس کے لئے قیام اس میں قرار ذکر مسنون ہے تو حالت ثناء میں اور قنوت میں اور تکبیرات جنازہ میں باندھے نہ کہ رکوع کے بعد کے قیام اور سجدہ میں رد المحتار میں ہے اور نہ تکبیرات عمودین میں کہ اس میں ذکر نہیں ہے خواہ قیام کئی ہی دیر کا ہو۔ تو ہاتھ باندھ لے اور اس کا مقتضایہ ہے کہ صلوٰۃ التسیح میں بھی وہ اس پر اعتماد کرے۔

(۳) اور سیدہ ہاتھ کی چھوٹی اور اس کے بازو کی انگلیوں سے گرہ لگائے اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھی کو حلقہ بنائے اور شہادت کی انگلی کو کھول کر تشہد پڑھے اور شہادت کے وقت اشارہ کرے۔

(جواب) بعض علمائے حنفیہ اول کھول کر ہاتھ رکھتے وقت اشارہ کے عقد کرتے ہیں اس کا پتہ بھی حدیث سے ملتا ہے اور ملا علی قاری نے لکھا کہ اول سے ہی عقد کر کے ہاتھ رکھے یہ بھی درست معلوم ہوتا ہے دونوں طرح پر عمل درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

تشہد کے وقت انگلی کب سے کب تک اٹھائے رکھے

(سوال) بعض اشخاص جس وقت التیامات میں بیٹھتے ہیں اول ہی سے انگشت شہادت اٹھالیتے ہیں۔ سلام پھیرنے تک حالانکہ حنفیوں کا یہ مذہب ہے کہ جب تشہد پر پہنچتے تب انگلی اٹھائے بعد میں پست کر لے اس میں صحیح قول کیا ہے اور حنفی کو کس وقت سے کس وقت تک انگلی اٹھانا چاہئے اور اس میں امام اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں۔

(جواب) تشہد پر انگشت کو اٹھاوے اور سلام تک اٹھائے رکھے۔ فقط۔

تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا کیسا ہے

(سوال) رفع سبائہ میں عقد شروع قعود و تشہد سے اور رفع وقت شہادت کے سنت صحیحہ سے ثابت ہے یا نہیں باوجود ثبوت اس کے عامل کو برابر اجانا اور لا مذہب کہنا کیسا ہے اور یہ مذہب حنفیہ میں بھی ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب) عمل رفع سبائہ کا تشہد میں سنت ہے اس کے عامل کو برابر اجانا زبون امر ہے حق تعالیٰ اس کو ہدایت فرمادے اور حنفیہ بھی اس کی سنیت کے مقرر ہیں اس پر لا مذہب کہنا سخت نازیبا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قعدہ اخیرہ کی فرضیت کس قدر ہے

(سوال) در فرضیہ قعدہ اخیرہ۔

(جواب) (۱) صحیح آنت کہ قاعدہ اخیرہ مقدار تشہد فرض است چرا کہ بتواتر معنوی ثابت شدہ کہ

(۱) قعدہ اخیرہ کی فرضیت کا مسئلہ صحیح ہے کہ قعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار میں فرض ہے کہ اس لئے کہ تواتر معنوی سے یہ ثابت ہوا کہ فخر عالم نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی مگر یہ کہ قعدہ اخیرہ کو بجالایا ہے اور چونکہ نماز کا مفہوم ایک جمل امر تھا جو محتاج تفسیر و بیان لہذا قول و فعل رسول اللہ اس اجمال کی تفسیر ٹھہرا۔ پس جو چیز کہ رسول اللہ نے نماز میں ادا کی وہ تو چاہئے کہ فرض ہو۔ بجز ان امور کے جو اول و قرآن سے اس میں فرضیت کو منع کریں کہ وہ واجب و سنت ہوں گے نہ کہ فرض جیسا کہ مثلاً سورہ فاتحہ کی قرأت کہ باوجودیکہ رسول اللہ کی نماز میں یہ واقع ہوئی ہے فرض نہیں ہو سکتی اس لئے کہ اس کو فرض ماننے کی صورت میں نص قطعی آیت "پس قرآن سے جو آسان ہو پڑھو" (سورہ مزمل) (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

فخر عالم رحمۃ اللہ علیہ بیچ گاہ نمازے نخواندہ اندگر آ نکہ قعدہ اخیرہ بجا آورده اندواز آنجا کہ مفہوم صلوٰۃ امرے بود۔ مجمل محتاج تفسیر و بیان لہذا فعل و قول رسول اللہ ﷺ تفسیر اجمال آن شدہ پس ہر چیز یکہ در ادائے صلوٰۃ آنحضرت ﷺ واقع شد باید کہ فرض گردوگر آنچہ کہ دلائل و قرائن مانع فرضیہ در آن یافتہ شوند کہ آنها واجب و سنت خواہد بودند فرض چنانچہ مثلاً قرآۃ فاتحہ کہ باوصف تو عیش در صلوات رسالت مآب ﷺ فرض نتوان شد چرا کہ در صورت فرضیہ اوزیادت بر نص قطعی فاقرو اما تیسر من القرآن لازم آید علی ہذا القیاس در دیگر امور و اما اینکه این قعدہ اخیرہ بطور فرضیہ واقع شدہ پس دلیلش حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ است کہ بعد تعلیم اداء قعدہ و قرآۃ تشہد گفت اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلوتک چہ مشارالیه اول درین حدیث قول تشہد است در حالت قعدہ نہ مطلق تشہد بہر جا کہ باشد چرا کہ مشارالیه نبود و دیگر در حالت جلسہ اخیرہ و مشارالیه ثانی قعدہ است مقدار تشہد نہ مطلق قعدہ بہمیں علت مذکور خلاصہ کلام اس شد کہ چون گفتنی اس تشہد را در حالت قعدہ یا فعل قعدہ بجا آوردی تشہد حاصل نیاید اما نفس قعدہ قدر تشہد بدون قول تشہد حاصل

(بچھلے صفحہ کا حاشیہ) پر زیادتی لازم آتی ہے۔ اور علی ہذا القیاس دوسرے امور میں بھی لیکن اس بات کا ثبوت کہ یہ قعدہ اخیرہ بطور فرضیت واقع ہوا ہے تو اس کی دلیل ابن مسعود کی حدیث ہے کہ قعدہ اخیرہ کے ادا کرنے اور تشہد پڑھنے کا طریقہ بتانے کے بعد آپ نے فرمایا "جب تو نے یہ کہا یا یہ کر لیا تو تیری نماز پوری ہوگئی۔" کیونکہ اس حدیث میں پر مشارالیه تشہد کا کہنا ہے۔ قعدہ کی حالت میں نہ کہ مطلق تشہد بہر جگہ اس لئے کہ تشہد مشارالیه نہ تھا دوسرا جلسہ اخیرہ کی حالت میں اور دوسرا مشارالیه قعدہ ہے مقدار تشہد نہ کہ مطلق قعدہ اسی علت مذکور کی بنا پر خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب تم نے یہ کہا کہ اس تشہد کو حالت قعدہ میں یا فعل قعدہ میں تم نے بجا لایا تو تشہد خواہ تشہد کے برابر تم نے پڑھا ہو کہ نہ پڑھا ہو۔ پس نماز قائم ہوگئی اور یہ خود ظاہر ہے کہ پڑھنا تشہد کا قعدہ میں سوائے قعدہ قدر تشہد کے حاصل نہیں ہوتا لیکن نفس قعدہ بمقدار تشہد بغیر تشہد پڑھنے کے حاصل ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ فعل قعدہ بمقدار تشہد فرض ہے کیونکہ نماز کا تمام ہونا اس پر مطلق فرمایا اگر قعدہ تشہد کی مقدار سے کم کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی اس لئے کہ مشارالیه وہی قعدہ بمقدار تشہد ہے نہ کہ مطلق اور اگر تشہد مثلاً سجدہ میں پڑھا اور قعدہ بمقدار تشہد نہیں کیا پھر بھی نماز نہیں ہوئی اس لئے کہ قعدہ مشابہت کے مطابق بہر حال ضروری ہے اور تمامیت ذاتی کہ اس کے بغیر چیز کی ذات ناقص رہتی ہے۔ ارکان و شرائط کے ساتھ ہے اور تمامیت صفتی کہ اگرچہ چیز کی ذات پوری رہتی ہے لیکن اسکے کمال میں نقصان ہوتا ہے وہ وجوب میں ہے اور چونکہ حدیث میں لفظ دو تمام ہوگئی" مطلق و واقع ہو گیا ہے اور مطلق سے فرد کمال مراد ہوتا ہے تو نماز کی ذات مکمل ہونا مراد ہے نہ کہ صفت کا پورا ہونا اور حدیث میں "فھی خداج" (وہ ناقص ہے) کے الفاظ سے مراد غیر تمام ہے۔ تمامیت صفت میں بتا کہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم نہ آئے اور یہ لفظ حدیث کا اذ اقلت (جب تو نے کہہ دیا) ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کو ابن مسعود پر موقوف قرار دیتے ہیں مگر اس موقوف کے مثل کیا اس کو نہ چاہے علم مرفوع کا رکھتا ہے جیسا کہ قاعدہ مقررہ ہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ ایسی ہے اور اس جیسی احادیث۔ فرضیت کا ثبوت نہیں ہو سکتا مگر مقررہ اصول سے ہے کہ خبر واحد جب مجمل قطعی کی تفسیر ہوئی ہے تو جو کچھ اس خبر وارد سے مستفاد ہوگا وہ قطعی ہے مطلق ہوگا اور موجب فرضیت ہوگا اس تقریر سے قعدہ اخیرہ کی فرضیت بمقدار تشہد اباب علم پر واضح ہوگئی ہوگی نہ کہ مطلق قعدہ جیسا کہ بعض نے گمان کر لیا ہے۔ یہ ہے مواد جو کتب سے چنا گیا ہے۔



توان شد پس معلوم شد کہ فعل قعدہ قدر تشہد فرض است چرا کہ تمامیت صلوٰۃ معلق بدان فرمود اگر قعدہ کم از قدر تشہد کر نماز نشد نہ شد چرا کہ مشار الیہ ہوں قعدہ قدر تشہد است نہ مطلق واگر تشہد خواند در سجدہ مثلاً وقعدہ قدر تشہد نہ کرد تا ہم نماز نشد چرا کہ قعدہ قدر تشہد بہر حال ضروریست و تمامیت ذاتی کہ بدون آن ذات شئی ناقص ماند بارکان و شرائط است و تمامیت صفتی کہ ذات شئی گو تمام باشد مگر نقصان در کمال ان باشد در وجوب است و چونکہ در حدیث لفظ تمت مطلق واقع شد و از مطلق رد کمال مراد بود بہ تمامیت ذات صلوٰۃ مراد خواهد بود نہ تمامیت صفت و در حدیث فی خراج غیر تمام تمامیت صفت تا زیادت بر کتاب اللہ لازم نیاید و این لفظ حدیث از قلت الخ ابن ہمام از دار قطنی روایت کردہ فرماید کہ اگرچہ ایس را موقوف بر این مسعود ذارند مگر مثل ایس موقوف کہ قیاس را نشاید حکم مرفوع دارد کہ ما ہوا المقرر و این حدیث ہر چند واحد است و با حدیث فرضیت نتواند شد مگر مقررہ اصول است کہ خبر واحد چون تفسیر مجمل قطعی باشد انچہ استفاد از ایس خبر واحد باشد ملحق بتقطع گردد و موجب فرضیت باشد از ایس تقریر فرضیت قعدہ اخیرہ قدر تشہد برابر باب علم واضح خواهد بود نہ مطلق قعدہ کم از عم البعض ایس است انچہ از کتب ملقط شد و اللہ تعالیٰ اعلم۔

### نوافل میں محبت رسول کی بناء پر رفع یدین کرنا

(سوال) اگر تنہا نوافل وغیرہ میں رفع یدین محض بخلوص نیت اتباع و محبت کے کر لیا کرے۔ کہ یہ سنت رسول اللہ ﷺ احادیث صحیحہ کثیرہ متواترہ و عمل صحابہ و محدثین و مجتہدین و بعض احناف رحمہم اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے تو ایسی صورت میں اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں۔

(جواب) مقلد حنفی کے نزدیک با اتباع اپنے امام کے یہ فعل نہ کرنا چاہئے۔ ان کے نزدیک اس میں احتمال نسخ ہے اور منسوخ پر عمل درست نہیں ہوتا۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ نے انگشتری سونے کی اور حریر پہن کر منسوخ فرمادیا۔ اب کوئی با اتباع حدیث اس عمل کو کرے تو کب حلال ہوگا۔ پس ایسا ہی اس فعل پر عمل کرنا ہی کونہیں چاہئے۔ البتہ اگر محقق عالم۔ اور استحباب اس فعل کا جزم مثلاً قول امام شافعی کے ہو تو اگر کر لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں مگر اتباع حدیث کے لئے بہت سے امور ہیں۔ اس فعل مشتبہ کے کرنے میں کیا بڑا ثواب امید کیا جاسکتا ہے جو انجام اس کا فساد ہو اور بفعل مستحب ترک واجبات کرنا پڑے اور تواتر سے اس کا ثبوت اولاً محل کلام ہے ثانیاً متواتر فعل بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ نفس تواتر سے جواز عمل نہیں ہو جاتا۔ بہر حال صحابہ میں یہ مسئلہ مختلف ہو چکا ہے۔ عدم رفع بھی بہت صحابہ کا مذہب ہے لہذا غیر رافع بھی متبع حدیث و صحابہ کا ہے۔ فقط واللہ

تعالیٰ اعلم۔

نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا

(سوال) نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اگر قرآۃ کی نیت سے پڑھ لیوے گا تو کیا گناہ گار ہوگا۔  
(جواب) نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا بہ نیت قرآۃ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ بطور عامضائقہ نہیں اگر قرآۃ کی نیت سے پڑھ لیوے گا تو گنہگار بھی نہ ہوگا۔

جمعہ کی سنتیں کتنی ہیں

(سوال) بعد جمعہ کے سنت چار رکعت پڑھنی چاہے یا چھ رکعت۔  
(جواب) بعد جمعہ کے چار رکعت سنت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں اور امام ابو یوسف نے چھ رکعت فرمائیں اول چار رکعت پھر دو جس پر عمل کرے درست ہے۔

اعتکاف کتنے دن کا کرنا چاہئے

(سوال) اعتکاف اگر پورے دس روز کا نہیں کیا تو ادائے سنت ہوئی یا نہیں فقط۔  
(جواب) اعتکاف مسنون تو پورے دس رات دس دن کا ہوتا ہے یا نوروز کا اگر چاند ۲۹ دن کا ہو اور اگر خیال ادائے سنت کا نہیں تو جس قدر چاہے کر لیوے۔ فقط والسلام۔

قرأت اور تجوید کا بیان

علم تجوید کا سیکھنا کیسا ہے

(سوال) علم تجوید فرض عین سے یا کفایہ اور کہاں تک مستحب ہے۔  
(جواب) علم تجوید جس سے کہ صحیح حروف کی ہو جاوے کہ جس سے معانی قرآن شریف کے نہ بگڑیں یہ فرض عین ہے۔ مگر عاجز معذور ہے اور اس سے زیادہ علم قرآۃ و تجوید فرض کفایہ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرآن شریف کس لہجہ میں پڑھیں

(سوال) مصری لہجہ میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے اور اگر امام مصری لہجہ میں نماز ادا کرے تو

نماز میں کوئی نقصان تو نہ ہوگا۔ فقط  
(جواب) لہجہ قرآن شریف کوئی نوع نہیں کسی لہجہ میں پڑھو۔ مگر ادائے حروف میں کمی بیشی نہ  
ہو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عیدین و جمعہ کی نماز میں مخصوص سورتیں پڑھنا

(سوال) زید امام جامع مسجد ہے اور عیدین کی نماز بھی پڑھتا ہے اور ہمیشہ زید معمول سح اسم  
اور هل اتی پڑھنے کا کرتا ہے اور جو اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا سوائے ان سورتوں کے اور تم کو یاد  
نہیں یا یہ خود ہی مخصوص ہیں تو وہ کہتا ہے کہ حدیث میں ان کا پڑھنا ثابت ہے اور اسی وجہ سے میں  
پڑھتا ہوں۔ لہذا ایسا معمول کر لینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) ایسا معمول کر لینا درست ہے لیکن اصرار نہ کرے کبھی اس کے خلاف بھی پڑھ لیا  
کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### تہجد میں قرأت کیسے پڑھیں

(سوال) زید تہجد کی نماز کبھی بارہ رکعت کبھی آٹھ رکعت کبھی چار رکعت ادا کرتا ہے۔ مگر اس  
صورت سے کہ کبھی بارہ میں چار رکعت قرأت جہر کے ساتھ ادا کرتا ہے اور کبھی چھ یا دو جہر کے ساتھ  
قرأت پڑھتا ہے اور باقی خفیہ بکر کا قول ہے کہ ایسے نہیں چاہئے یا تو جس قدر نماز تہجد کی پڑھو سب  
جہر کے ساتھ پڑھو یا سب اخفا کے ساتھ پڑھو۔ اس صورت میں زید کا قول معتبر ہے یا بکر کا۔  
(جواب) زید کا نماز تہجد میں جہر کرنا اور خفیہ سب طرح درست ہے بکر کا خیال درست نہیں  
ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بسم اللہ کو تمام قرآن مجید میں کہاں پڑھئے

(سوال) بسم اللہ شریف کو ختم قرآن شریف میں سورہ نمل کے سوا کہ جو جزو قرآن ہے۔ اس کو  
سورہ اخلاص ہی پر پڑھنا چاہئے یا اور کسی سورہ پر بھی پڑھنا بلا تخصیص درست ہے۔

(جواب) بسم اللہ ابو ضیفہ کے نزدیک قرآن کی آیت ہے اور کسی سورہ کا جزو نہیں اس کو ایک بار  
خواہ کہیں پڑھ دیوے درست ہے خصوصیت قل هو اللہ کی نہیں جہاں چاہے پڑھ دیوے۔ البتہ یہ  
عقیدہ کرنا کہ سوائے قل هو اللہ کے اور کسی سورت پر درست نہیں۔ بدعت ہوگا۔ ورنہ کچھ حرج

نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا

(سوال) پانی پت کے قاری تراویح میں شروع ہر سورت پر بسم اللہ جہر سے پڑھتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں اگر درست ہے تو کس امام کے نزدیک۔

(جواب) بسم اللہ جہر سے پڑھنا مذہب حنفیہ کا نہیں ہے مگر چونکہ یہ امر قرأت تعارف ہند کے موافق ہے اس لئے ان پر اعتراض نامناسب ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا

(سوال) ایک شخص نماز تراویح یا اور کوئی نماز لوگوں کو پڑھاتا ہے اور ہر رکعت میں کئی کئی سورتیں پڑھتا ہے اور ہر سورت کے اول میں بسم اللہ بھی جہر سے کہتا ہے تو ہر سورت کے ساتھ نماز میں بسم اللہ کا ملانا جائز ہے کہ نہیں اور نماز جہری میں بسم اللہ آواز سے پڑھنا افضل ہے یا آہستہ پڑھنا فضیلت رکھتا ہے اور اکثر حافظوں کا یہ دستور ہے کہ نماز تراویح میں کسی سورۃ کے اول تمام قرآن میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ صرف سورۃ اخلاص کے اول بسم اللہ پڑھتے ہیں سو یہ فعل ان کا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور اگر ہر سورت کے اول نماز تراویح میں بسم اللہ نہ پڑھی جاوے تو کچھ حرج ہے یا نہیں۔ بسم اللہ کے نہ پڑھنے سے قرآن کی قرأت کامل ہوگی یا ناقص رہے گی۔ بینوا تو جروا۔

(جواب) مذہب حنفیہ میں بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا سنت ہے اور جہر سے پڑھنا ترک اولیٰ ہے اور تراویح میں جو قرآن کا ختم ہوتا ہے اس میں بھی مذہب حنفیہ کے موافق یہی حکم ہے مگر حفص قاری جن کی قرأت اب ہم لوگوں میں شائع ہے ان کے نزدیک بسم اللہ جزو ہر سورت کا ہے اور جہر سے پڑھنا ان کے نزدیک ضرور ہے پس اگر اقتداء سے ان کے کوئی ہر سورت پر جہر سے بسم اللہ پڑھے تو مضائقہ نہیں جیسا بعض قراء کا دستور ہے تو اس حالت میں قرآن کامل ہونا حفص کے نزدیک جہر بسم اللہ پر موقوف ہے اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ایک دفعہ کہیں جہر سے بسم اللہ پڑھنا کافی ہے بہر حال دونوں طرح درست ہے ایسے امور میں خلاف و نزاع مناسب نہیں کہ سب مذہب صحیح ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔

یہ قول ٹھیک ہے اور لاریب احادیث سے بھی دونوں باتیں ثابت ہیں یعنی بسم اللہ کا پڑھنا نماز میں جہراً بھی آیا ہے اور سرّاً بھی ہاں اتنی بات ہے کہ بسم اللہ کا جہراً پڑھنا متروک ہو رہا ہے تو یہ

سنت مردہ کے حکم میں ہے پس اس کو رواج دینے میں امید ہے کہ سوشہیدوں کا ثواب ملے۔ پس اولیٰ یہ ہے کہ اکثر بسم اللہ کو جہر کے ساتھ نماز میں پڑھا کریں خواہ وہ فرض نمازیں ہوں جن میں قرأت جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جیسے فجر۔ عشاء، مغرب۔ خواہ تراویح کی نماز ہو۔ حمید اللہ مقیم مدرسہ مطلع العلوم۔ میرٹھ۔

## دل میں قرأت ادا کرنا

(سوال) قرأت نماز میں بجائے زبان کے دل سے پڑھ لے تو نماز درست ہوگی یا نہیں اور درود شریف یا قرآن شریف وظیفہ دل سے پڑھے تو ثواب زبانی حاصل ہوگا یا نہیں۔  
(جواب) اگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا نہ آہستہ نہ پکار کر تو نہ فرض قرأت ادا ہو نہ سنت نہ تسبیحات (۱) درمختا میں ہے۔)

## حرف ضاد ادا کرنے کا طریقہ

(سوال) یہاں پر ایک شخص قاری محمد تقی صاحب شاگرد قاری نجیب اللہ صاحب پانی پتی ہیں اور قاری صاحب نہایت مستند قاری ہیں عرصہ دو سال کا ہو جاوے گا کہ میں بھی ان سے قرأت سیکھتا ہوں (اور حکیم مولوی محمد صدیق صاحب ناپینا مراد آبادی نے بھی کچھ روز ان سے قرأت سیکھی تھی) تو میرے پڑھنے کی وہ اکثر تعریف کیا کرتے ہیں اور حروف تو ادا ہوتے ہیں مگر حرف ضاد کو فرمایا کرتے ہیں کہ یہ حرف کبھی مخرج غاء سے ادا کرتے ہو اور کبھی مخرج ضاد سے بھی نکلتا ہے۔ مگر قرأت بالجہر میں عمد ایسا نہیں کرتا ہوں بلکہ بجزوری زبان خاص مخرج پر نہیں پہنچتی اور اگر کبھی نماز پڑھتا ہوں تو مجھ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بعض مرتبہ زبان خاص مخرج پر نہیں پہنچتی کبھی وہاں جا کر لوٹ آتی ہے پہلے اسکے کہ حرف پورا ادا ہو تو جو ہی نکل جاوے وہ ہی رہنے دیتا ہوں یہ نہیں کہ پھر اس لفظ کو دوبارہ لوٹوں۔ لہذا حضور تحریر فرمادیں کہ جو ایک مرتبہ ادا ہو وہی کافی ہے یا عاادہ ان الفاظ کا کیا کرے۔ عالموں سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مخرج سے ہم ادا نہیں کرتے مگر دال و ضاد میں فرق کرتے ہیں۔ یہ مخرج علیحدہ بنا رکھا ہے میرے نزدیک دال کے آگے واؤ لگا کر اس کو مضخم کر دیا باوجودیکہ دال کی صفت تنہیم کی نہیں اور حضور خاص مخرج ضاد سے کسی طرح یہ حرف مشابہ دال نہیں نکل سکتا۔ لہذا گزارش ہے کہ یہ لوگ معذور بھی نہیں ہیں اور قرأت کا مخرج حروف کی جانب ان کا خیال ہی نہیں تو ایسے شخصوں کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں اور میری نماز اور قاری کامل کی

نماز ایسے شخصوں کے پیچھے ہو جاوے گی یا نہیں یا ترک جماعت کی جاوے اور اعادہ نماز ہر وقت کا بہایت مشکل ہے کیونکہ عام طور پر مشابہ بالبدال ہی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دال نہیں پڑھی بلکہ ایک مخرج علیحدہ ادا کیا ہے دیگر حروف کافرق کرنا اس سے آسان ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پارہ عم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حرف توجدا ہے مگر مشابہ بالبدال سے مشابہ بالطاء پڑھنا اچھا ہے کیونکہ ضاد وطاء اکثر صفات میں یکساں ہیں اور قریب الخرج بھی ہیں اور دال بعید الخرج بھی ہے اور مخم نہیں لہذا حضور فتویٰ تحریر فرمادیں۔

(جواب) د۔ ظ۔ ض کے حرف جداگانہ اور مخارج ہونے میں تو شک نہیں ہے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصداً کسی حرف کو دوسرے کے مخارج سے ادا کرنا سخت بے ادبی اور بسا اوقات باعث فساد نماز ہے مگر جو لوگ معذور ہیں اور ان سے یہ لفظ اپنے مخارج سے ادا نہیں ہوتا اور وہ حتیٰ الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں ان کی نماز بھی درست ہے اور دال پر ظاہر ہے کہ خود کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ضاد ہی ہے اپنے مخارج سے پورے طور پر ادا نہیں ہوا۔ تو جو شخص دال خالص یا ظاعماً پڑھے اس کے پیچھے تو نماز نہ پڑھیں مگر جو شخص دال بڑ کی آواز میں پڑھتا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حرف ضاد ادا کرنے کا طریقہ

(سوال) چند اشخاص حرف (ض) (دو آد) قرآن شریف میں پڑھنے سے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم قرآن شریف میں (دو آد) پڑھتے ہو تو عربی لفظ جو زبان اردو بولتے ہو تو وضو کو (دو) کیوں نہیں کہتے اور ضیاء الدین کو (دیاء الدین) کیوں نہیں کہتے یہ بھی تو عربی لفظ میں تو قرآن شریف میں (ند آد) کا پڑھنا صحیح ہے یا (دو آد) پڑھنا چاہئے۔ زیادہ والسلام۔

راقم احقر العباد حمایت اللہ ساکن شمس پور ضلع ایبہ پرگنہ پتیالی معرفت جناب عبدالعلیم خان صاحب بھونگامی۔ فقط۔

(جواب) اصل حرف ضاد ہے اس کو اصلی مخارج سے ادا کرنا واجب ہے اگر نہ ہو سکے تو بحالت معذوری دال بڑ کی صورت سے بھی نماز ہو جاوے گی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

الجواب صحیح بندہ عزیز الرحمن عفی عنہ تو کل علی العزیز الرحمن۔ الجواب صحیح خلیل احمد مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔ الجواب صحیح عنایت الہی عفی عنہ مدرس مدرسہ سہارنپور۔

الجواب صحیح بندہ محمود عفی عنہ الہی عاقبت محمود گردان مدرس اول مدرسہ دیوبند الجواب صحیح

اشرف علی عفی عنہ۔ الجواب صحیح غلام رسول عفی عنہ مدرس مدرسہ دیوبند۔ الجواب صحیح احقر الزمان گل محمد خان مدرس مدرسہ دیوبند از گروہ اولیاء اشرف علی ۱۳۰۰ھ۔

## قرآن مجید کے مختلف اوقاف کا مسئلہ

(سوال) بسم اللہ الرحمن الرحیم .

ما قولکم رحمکم اللہ قرآن شریف مطبوعہ ہند میں اکثر مقامات پر علامات وقف جیسے ج۔ ط۔ ص۔ ز۔ صلی۔ سکتے۔ صل وقف لازم۔ وقف غفران۔ وقف النبی۔ وقف جبرئیل وقف منزل لا طبع فیہ وغیرہ ہیں ان علامات پر حسب قرآت حفاظ ہند وقف کرنا حدیث صحیح متصل السند مرفوع سے ثابت ہے یا نہیں۔ اور قرأت نبی ﷺ میں کہاں کہاں وقف ہوتا تھا۔

(جواب) واللہ الموفق للصواب اما بعد . خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیٰ ہدیٰ محمد ﷺ و شر الامور محدثاتہا وکل بدعہ ضلالہ رواہ مسلم والنسائی وزاد کل ضلالۃ فی النار۔ (۱) وقف کرنا علامات مذکورہ پر بدعت ہے اور مرتکب بدعت کا آگ میں داخل ہوگا۔ اور محدث ان علامات کا ابوطفیفو خر اسانی سجاوندی ہے کہ اس نے دو کتابیں اس بارے میں تالیف کی ہیں۔ ایک مدلل کہ اس میں دلائل حسب قواعد عربیت و قیاس ذکر کئے ہیں اور دوسری تلخیص اس میں سے مدلل غیر مدلل کسی ایک میں حدیث کا ذکر نہیں تو جاننا چاہیے کہ وقف سنت وہی ہے کہ نبی ﷺ سے ثابت ہو اور ان سے سوائے آیت کے کہیں وقف ثابت نہیں ہے۔ عن ام سلمة انها ذكرت او کلمها غیرہا فقالت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک يوم الدين يقطع قراءة اية اية وفي رواية قرأت الفاتحة كلها وقطها اية اية الى اخره رواه احمد و ابو داود والترمذی وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم كما في الاتقان (۲)

(۱) اور اللہ تعالیٰ ثواب کی توفیق دینے والا ہے اما بعد بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے اور برے امور اس کے نئے پیدا شدہ ہیں اور بدعت گمراہی ہے اس کو مسلم اور نسائی روایت کیا ہے اور یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں ہے۔

(۲) ام سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا یا کسی غیر نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی قرأت ایسی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمین . الرحمن الرحیم . مالک يوم الدين کہ ہر ایک آیت کو جدا جدا فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پوری پڑھی اور ایک ایک آیت کو آخر تک جدا فرماتے رہے۔ اس کو احمد۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن خزيمة۔ حاکم۔ دارقطنی وغیرہم نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ اتقان میں ہے۔

پس معلوم ہوا کہ درمیان آیت کے وقف کرنا بدعت ہے جیسا کہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہوا کہ قرآۃ رسول اللہ ﷺ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین الخ تھی۔ یعنی قطع فرماتے ہیں آپ قرآۃ اپنی کو آیت آیت مگر وقف اضطرار میں کہ جب سانس رک جائے اور آگے چلنے کی طاقت نہ رہے تو درست ہے کہ لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها۔ (۱) حررہ راجسی الی رحمة اللہ العلمین۔ الی رحمة اللہ المعین ابو البرکات محمد عفا عنہ اللہ الصمد حفیظ الدین۔

وقف علامات مذکورہ پر کسی حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے حدیث صحیح سے صرف آیات پر وقف ثابت ہے۔ کتبہ محمد بشیر۔

الجواب صحیح والجبیب صحیح سنت نبویہ سے اور عمل صحابہ سے اور نیز تابعین سے وقف ثابت ہے۔ صرف آیات پر پس سوا آیت کے وقف کرنا بدعت ہوگا چنانچہ اس کی تحقیق بخوبی رسالہ ازالہ و تحفۃ القراء میں ہوگئی۔ حررہ الحافظ عبداللہ پشاوری۔ مہر عبداللہ۔

یہ علامات مذکورہ او ان پر وقف کرنا قرون صحابہ میں اور کسی حدیث صحیح میں ثابت نہیں صرف آیتوں پر وقف کرنا ثابت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ سلامت اللہ عنہ۔ الجواب صحیح سید محمد نذیر حسین۔

جواب ہذا حسب قواعد نبویہ صحیح ہے حسبنا اللہ بس۔ حفیظ اللہ۔ الجواب صحیح سید محمد۔ عبدالسلام۔ بے شک آیات پر وقف کرنا سنت نبویہ ہے، خلاف اس کے ثابت نہیں۔ کتبہ محمد صدیق۔ ابو محمد یعقوب انصاری۔

الجواب حامد ومصلياً ومسلماً۔ اما بعد اس عجیب اور اس کے مصدقین نے نہایت کم فہمی اور غایت جور علی الائمہ کو کام فرمایا۔ سنو کہ روایات قرأت قرآن شریف متواتر و مشہور و شاذ سب کے سب معتبر تمام امت کے نزدیک ہیں کسی عالم حقانی اور مجتہد کو انکار نہیں کہ سب کا استناد بسند صحیح فخر عالم ﷺ کی طرف ہوتا ہے۔ اور کوئی قرأت ان میں سے نہ بدعت ہے نہ مختراع اگرچہ اختلاف الفاہا کا ہو یا حرکات و سکنات کا یا طرز اداء قرأت کا یا کچھ اور اگر ان میں سے ایک شخص نے ایک رائے اور ایک طرز کو اپنے استادوں سے سیکھا ہے تو وہ دوسری روایت و قرأت پر کچھ اعتراض نہیں کرتا۔ مثلاً سورۃ فاتحہ میں ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین دو قرأت ہیں اور دونوں

(۱) اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔



میں متواتر مگر ملک پڑھنے والا ملک پڑھنے والے پر اور ملک پڑھنے والا مالک پڑھنے والے پر اعتراض نہیں کرتا اور اس کو خاطر نہیں جانتا ایسا ہی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ میں ایک نے بکسر خاء پڑھا ہے۔ بصیغہ امر دوسرے نے بفتح خاء بصیغہ ماضی مگر یہ اس پر اعتراض نہیں کرتا اور نہ وہ اس پر بلکہ ہر ایک دونوں کو حق اور صحیح جانتا ہے ثابت بالتواتر علیٰ هذا واللہ اذا يغشى والنهار اذا تجلجى وما خلق الذکر والانی کہ قرأ سبعه وما خلق پڑھتے تھے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ والذکر والانی پڑھتے تھے اور ما خلق نہیں پڑھتے تھے کہ ہم نے حضرت ﷺ کی زبان سے یہ لفظ یہاں نہیں سنا مگر ما خلق پڑھنے والوں پر بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ علیٰ ہذا دیگر امور میں کہ ان میں اختلاف ہے ہر شخص جس طرح اس نے استادوں سے سنا پڑھتا ہے مگر دوسروں پر اعتراض نہیں کرتا کیونکہ سب کے پاس سند متصل الیٰ فخر عالم الصلوٰۃ والسلام موجود ہے اور یہ قرأ سبعہ زمانہ مشہود لہا بالخیر میں ہیں اور مقبول تمام امتہ حقہ ہیں کہ یا تابعی ہیں یا تابع تابعی اور روایت ان کی صحابہ کرام و تابعین سے ہے۔ پس ایسی حالت اختلاف میں ایک کو سنت اور ایک کو بدعت کہنا کتنا بڑا ظلم ہے معاذ اللہ اسی طریق پر حال اوقاف کا ہے کہ یہ قرأ سبعہ معتبرہ اپنے اپنے استادوں سے جیسا انہوں نے سنا ہے ویسا ہی پڑھتے ہیں اور ان کے بعد ان کے شاگرد ویسا ہی ادا کرتے چلے آئے تو تقریر اوقاف کا ان طبقات میں ہو چکا ہے نہ سجادندی نے وضع کیا نہ کسی دوسرے نے البتہ ان کا تسمیہ اصطلاحاً کہ یہ وقف لازم ہے یہ ط ہے یہ پیچھے ہوا ہے سو اس طرز سے قرأت میں کچھ تفاوت نہیں اور تسمیہ اوقاف میں کچھ حرج لازم نہیں آتا۔ اور جیسا کہ حضرت محمد ﷺ کا پڑھنا کی زیادتی کلمات یا تغیر و تبدل حرکات سکناات میں یا تمدید صوت میں مختلف طرح سے ثابت ہوا ہے ایسے ہی اوقاف کا حال ہے کہ آپ کا فقط ایک طرز وقف کا ہو ہرگز ثابت نہیں اسی واسطے یہ قراء سبعہ معتبرہ مثلاً وقف میں اختلاف رکھتے ہیں نافع مدنی جہاں بلحاظ معنی ٹھہرانا مناسب ہو وہاں ٹھہرتے ہیں اور آیت کی کچھ رعایت نہیں کرتے ہو۔ نہ ہو صرف بلحاظ معنی کا کرتے ہیں اور ابن کثیر اور حمزہ جہاں سانس ٹوٹ جاوے وہاں وقف کرتے ہیں۔ اگرچہ بیچ میں آیت آ جاوے اور عام اور کسائی جہاں کلام ختم ہو وہاں ٹھہرتے ہیں اگرچہ آیت اس جگہ ہو یا نہ ہو اور ابو عمرو و بصری آیت پر وقف کرتے ہیں اور یہ سب اپنی وضع کو معمول بہ اور مستحسن جانتے ہیں اور دوسرے کی رائے یا مذہب پر اعتراض یا طعن بدعت کا نہیں کرتے کیونکہ سب کے پاس حجت شرعیہ موجود ہے الحاصل ان طبقات میں سب قراء اور امتہ

اعلام اس بات پر اجماع اور اتفاق رکھتے ہیں کہ آیت وغیر آیت پر دونوں جگہ وقف جائز ہے اور کسی ایک نے بھی اس وقت میں اس کا خلاف نہیں کیا۔ بس بحکم قول نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام لا یجتمع امتی علی الصلوٰۃ (۱) یہ امر جائز ہو گیا۔ قال اللہ تعالیٰ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبیین له الہدیٰ ویبتع غیر سبیل المؤمنین لولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا من بعد (۲) اگر کوئی خرق اجماع کرے تو وہ خود خاطمی ہے پس جیسا مجیب اور اس کے اتباع نے اختیار کیا ہے۔ یہ کسی اہل حق کا مذہب نہیں ہے اور گویا مجیب نے تمام اہل حق کو مبتدع ٹھہرایا۔ معاذ اللہ اور یہ سب اسی اتفاق سے جس سے مجیب اسناد و استدلال کرتا ہے واضح ہے۔ ہر اہل علم اس کو دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں ہرگز کسی طبقہ کو بدعت نہیں کہا بلکہ سب کو جائز اور متعارف لکھا ہے۔ پس ہر اہل عقل و عدل سمجھ سکتا ہے کہ مجیب نے کس قدر جوہر کیا سب کو مبتدع بنا چھوڑا اور یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو بہ سند صحیح متصل مروی ہے۔ جس کو امام احمد نے اپنی سند میں اور نسائی نے ایک اور روایت سے ابوداؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے۔

حدثنا الیث عن عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی ملیکۃ عن یعلیٰ بن مملک انہ سأل ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلوٰتہ فقالت مالکم وصلو کان یصلی ثم ینام قدر ما صلی ثم یصلی قدر ما نام ثم ینام قدر ما صلی حتی یصبح ثم تنعت قراءۃ تہ فاذا آھی تنعت قراءۃ مفسرۃ حرفاً حرفاً۔ (۱)

دیکھئے اس حدیث میں کوئی ذکر وقف علی الایہ کا نہیں ہے اور دوسری روایت کہ جس میں ذکر واقف کا ہے اور اس کو دارقطنی نے اور ایک روایت سے ابوداؤد نے اور ترمذی نے نقل کیا ہے اس کی سند منقطع ہے کہ عبدہ بن ابی ملیکہ کے بعد یعلیٰ بن مملک مذکور نہیں۔ لہذا وہ روایت منقطع ہوئی۔

(۱) میری امت گراہی پر متشن نہ ہوگی۔

(۲) اور جس شخص نے ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی نافرمانی کی اور مومنوں کی راہ کے سواراہ اختیار کی ہم اس کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا اور اس کو جہنم میں پہنچادیں گے اور ہر اٹھ کا ناہوگا۔

(۱) الیث نے عبد اللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے اور وہ یعلیٰ بن مملک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ زوجہ نبی سے نبی کی قرأت دریافت کی اور آپ کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ان کی نماز پوچھ کر کیا کرو گے کہ آپ نماز پڑھ کر اتنی دیر سے سوتے تھے جتنی دیر کہ آپ نے نماز پڑھی اور پھر اتنی دیر نماز پڑھتے تھے جتنی دیر کہ سوتے یا پھر اتنی دیر سوتے تھے جتنی دیر کہ نماز پڑھی اس طرح صبح فرمادیتے تھے پھر آپ کی قرأت کا بیان فرمایا تو آپ کی قرأت ایک ایک حرف مشرأ بیان فرمایا۔

اور یہ جماعت اس زمانہ کی جو اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں۔ وہ حدیث مرسل منقطع کو حجت نہیں جانتے اور نہ اس پر عمل درست جانتے ہیں تعجب ہے کہ اس حدیث منقطع پر کس طرح اعتماد کر کے تمام امت مقبولہ کو مبتدع بنایا۔ ان کو اپنے قاعدہ کے موافق لازم تھا کہ اس روایت کی طرف التفات نہ کرتے۔ چنانچہ ترمذی نے اس میں کلام کیا ہے۔

حيث قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث  
ليث بن سعد عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة وقدروى  
ابن جريج هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة ان النبي صلى الله  
عليه وسلم كان يقطع قراءة وحديث الليث اصح انتهى وفيه بعد يسير  
حدثنا علي بن حجر نا يحيى بن سعيد الاموي عن ابن جريج عن ابن ابي  
مليكة عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءة  
يقراء الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم وكان يقرأ ملك  
يوم الدين هذا حديث غريب وبه يقرأ ابو عبيدة ويختاره ولا هكذا روى  
يحيى بن سعدى الاموي وغيره عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام  
سلمة وليس اسناده بمتصل لان الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن  
ابى مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة انها وصفت قراءة النبي صلى  
الله عليه وسلم حرفا حرفا وحديث الليث اصح وليس فى حديث الليث كان  
يقراء ملك يوم الدين اسے دیکھو ترمذی نے کیسی منقطع بنا کر استدلال اس جملہ کا لغو ظہر  
دیا۔ (۱) مگر ہم لوگ چونکہ مرسل و منقطع ثقہ کو معتبر جانتے ہیں۔ ہم پر شرح اس حدیث کی ضروری

(۱) چنانچہ کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اس کو نہیں جانتے مگر لیث بن سعد کی حدیث سے جو ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ یحییٰ بن مملک سے اور وہ ام سلمہ سے اور ابن جریج نے اس حدیث کو ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے اور وہ ام سلمہ سے کہ انہوں نے نبیؐ کو قرأت جدا جدا کرتے دیکھا ہے اور لیث کی حدیث صحیح ترین ہے اور اس میں تھوڑی دیر کے بعد ہے کہ ہم سے حدیث بیان کی علی بن حجر نے کہ ہم کو خبر دی یحییٰ بن سعید اموی نے ابن جریج سے اور وہ ابن ابی ملیکہ سے اور وہ ام سلمہ سے کہ رسول اللہؐ قرأت کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے کہ الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر ٹھہر جاتے تھے پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر ٹھہرتے تھے پھر مالک یوم الدین پڑھتے تھے یہ حدیث غریب ہے اور اس کو ابو عبیدہ پڑھتے تھے اور پسند کرتے تھے اور اس طرح نہیں روایت کی یحییٰ بن سعید اموی وغیرہ نے ابن جریج سے اور وہ ابن ملیکہ سے اور وہ ام سلمہ سے اور اس کی اسناد متصل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ لیث بن سعد نے اس حدیث کو ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے اور وہ یحییٰ بن مملک سے وہ ام سلمہ سے کہ انہوں نے نبیؐ کی قرأت کو حرفا حرفا بیان کیا اور حدیث لیث اصح ترین ہے اور حدیث لیث میں یہ نہیں ہے کہ ملک یوم الدین پڑھتے تھے۔

ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرأت رسول اللہ ﷺ کو جو بیان فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ تمام قرآن میں آپ اسی طرح کرتے تھے اور خاص اس ایک طریقہ قرأت اور وقف ہر آیت پر آپ کی قرأت کو حصر نہیں کیا تا کہ اس سے یہ معلوم ہو کہ آپ نے اس کے خلاف نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے احیاناً ایسی ہی پڑھا ہے اور احیاناً دوسری طرح بھی پڑھا ہے۔ جو کہ اجماع قرونِ ثلاثہ سے معلوم ہوا اگر اس میں کوئی لفظ حصر ہوتا تو استدلال ہو سکتا تھا۔ چونکہ اس میں کوئی لفظ حصر کا نہیں ہے تو ہرگز اس روایت سے تردید اس ایک طریقہ قرأت کے خلاف کی نہیں ہو سکتی دیکھو کہ اس ہی حدیث میں طرز تہجد آپ کا اس طرح پر روایت کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کچھ نماز پڑھ کر اتنا ہی سو رہتے تھے، پھر اٹھ کر دوبارہ آدھی نماز پڑھتے تھے پھر اسی قدر سو رہتے تھے حالانکہ اور بہت سی روایات سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ ساری تہجد پڑھی ہے۔ استدلال عجیب بروایت ام سلمہ کے موافق لازم آتا ہے کہ جیسے اس روایت میں طریقہ تہجد مروی ہے اس کے سوا اور جس قدر طریقے ہیں جن پر آپ کا عمل فرمانا خود روایات صحاح سے ثابت ہے وہ سب بدعت ہوں معاذ اللہ اور اس ہی روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی قرأت ملک یوم الدین نقل کی ہے حالانکہ دوسری روایت میں مالک یوم الدین بھی آپ کا پڑھنا ثابت ہے پس جیسا کہ یہ طرز تہجد اور قرأت ملک یوم الدین احیاناً ہے نہ دائماً ایسے ہی وقف علی رؤس الآیات احیاناً ہے نہ دائماً۔ حضرت ام سلمہ نے ان تین امور کو جو فرمایا ہے اس میں کوئی کلمہ حصر کا نہیں ہے کہ نفی دوسرے طریقہ کی ہو جائے علیٰ ہذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قرأت ﷺ کو مفسرۃً حرفاً حرفاً فرمایا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرأت مستحجلاً کہ جس میں صحت لفظ و ادائے حروف فوت نہ ہو بدعت ہو جائے بلکہ اس طرح پڑھنا ہی جائز ہے بلکہ بعض صحابہ کے نزدیک افضل ہے بر حسب رائے عجیب چاہئے تھا کہ بدعت اور ناجائز ہو حالانکہ باجماع امت یہ جائز ہے صرف اختلاف افضلیت میں ہے چنانچہ علامہ مجد الدین سفر السعادت میں فرماتے ہیں و علماء رادرین مسئلہ اختلاف ست کہ ترتیل باقلت قرأت افضل است یا سرعت با کثرت قرأت ابن عباس و ابن مسعود یگوید ترتیل و تدبر باقلت قرأت افضل است و امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جماعتی از صحابہ و تابعین و امام شافعی می گویند سرعت و کثرت قرأت افضل است اگرچہ ہر حرفی را در حدیث حسنہ است پیغمبر ﷺ فرمودہ ہر حرفی را در حدیث حسنہ است لا اقول الم حرف

بل الف حرفے ولام حرف ومیم حرف آتھی۔ (۱) اور طرفہ تماشہ یہ ہے کہ حدیث صحیح متصل السند ام سلمہؓ سے تو یہ ثابت ہوا کہ آپ قرأت مفسرہ حرفا حرفا پڑھتے تھے۔ مجیب اور اس کے اتباع نے اس طرز قرأت کو دائمی قرار دے کر قرأت مستحجلاً کو بدعت نہیں کہا حالانکہ ان کی فہم کے موافق اس کا بدعت ہونا بھی ضرور تھا۔ اور حدیث منقطع جس میں بقطع آیت آیت ہے اور حسب مذہب مجیب غیر معتبر اس پر اعتماد کر کے اوقاف مستحبہ کو بدعت قرار دیا۔ معاذ اللہ من ہذا الفہم الروای پھر دوسرا عجوبہ یہ ہے کہ سائل حدیث متصل السند سے جواب مانگتا ہے اور مجیب صاحب منقطع السند سے جواب دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اگر کہا جائے کہ اگرچہ اس جگہ اس روایت سے مستحجلاً پڑھنا بدعت معلوم ہوتا ہے مگر چونکہ دوسری جگہ مستحجلاً پڑھنا ثابت ہے اس لئے وہ بدعت نہ ہو تو جواب یہ ہے کہ خود اسی حدیث سے بروایت دارقطنی النعمت علیہم پر وقف نہ کرنا ثابت ہو گیا۔ باوجودیکہ یہاں پر آیت ہے اور دیگر روایات صحیحہ و نیز اجماع سے اور بہت سے موقع پر باوجود آیت ہونے کے وقف نہ کرنا ثابت ہے لہذا یہ بھی بدعت نہ ہونا چاہیے اور چونکہ ہندوستان میں قرأت عاصم کی شائع ہے تو اہل ہند کے اوقاف بھی مثل اوقاف عاصم کے ہیں الحاصل اس کے اوقاف کو بدعت کہنا سخت بے جا ہے۔ وقف کرنا روؤس آیات پر روایت مذکورہ سے ثابت ہوا اور غیر روؤس آیات پر روایت ہذا اور بہت سی روایات صحیحہ اور اجماع امت سے ثابت ہوا۔ پس قرأت قرآن میں دونوں طرح سے پڑھنا یعنی قرأت مفسرہ حرفا حرفا اور مستحجلاً دونوں طرح سے درست ہے ایسے ہی وقف علی روؤس آیات بھی درست ہے اور عدم وقف بھی اور اصل یہ ہے کہ اوقاف ہی تفسیر قرآن ہیں کہ فصل وصل سے معنی قرآن کے واضح ہو جاتے ہیں۔ سو ایسی طرح سے پڑھنا کہ جس سے توضیح مطلب ہو جائے مستحسن ہے اور بعض کج فہم جو اس تفسیر کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ ان کی نہایت ہی کم فہمی ہے کیونکہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نظیر قرون ثلاثہ میں نہ پائی گئی ہو اور جب کہ یہ خود قرون ثلاثہ میں پائی گئی تو کوئی ان کو کیسے بدعت کہہ سکتا ہے ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ قرأت بلجی ہیں یا تبع تابعی اور خود صحابہ سے روایت کرتے ہیں اگر بالفرض ان کا وجود

(۱) اور علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ترتیل قلت قرأت کے ساتھ افضل ہے یا سرعت یا کثرت قرأت ابن عباس اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ ترتیل و تدبر قلت قرأت کے ساتھ افضل ہے اور امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت صحابہ و تابعین کی اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ سرعت و کثرت قرأت افضل ہے کیونکہ ہر حرف کی دس نیکیاں ہیں جبکہ ہر حرف کی دس نیکیاں ہیں۔ بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔

قرونِ ثلاثہ میں نہ پایا جاتا تب بھی یہ بدعت نہ ہوتی۔ کیونکہ ان کی نظیر خود حضرت محمد ﷺ سے پائی جاتی ہے کہ حضرت ﷺ نے جب آیت شریف سمیعاً بصیراً کو پڑھا تو آپ نے سبح اقدس و چشمان مبارک پر انگلی کا اشارہ فرمایا اور جب آیت شریف دکت الارض دکتاً دکتاً تلاوت فرمائی تو انگشتان مبارک کو باہم دبا دیا۔ پس جیسے یہ فعل آپ کا تفسیر کلام اللہ شریف کی واقع ہوئی ہے، ایسے ہی اوقاف بھی کلام پاک کی مراد واضح کر دیتے ہیں اور ان سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے اور سنو کہ مسائل نے کیفیت نماز تہجد رسول اللہ ﷺ کی دریافت کی ہے اور یہ سوال فی الجملہ نامناسب تھا جیسا کہ کسی شخص نے حضرت ﷺ سے پوچھا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں تو آپ ناخوش ہوئے اور اس سوال کو آپ نے ناپسند فرمایا پس اس لئے حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا مالکم و صلوٰۃ یعنی آپ جیسی نماز تجھ سے کب ہو سکتی ہے تو اس سے کیا کرتا ہے لہذا جو فعل آپ کا اشد و احر تھا وہ ام سلمہؓ نے بیان فرمایا کہ یہ طریقہ سب طریق سے احر و اشد ہے اور طریقہ قرأت کا بھی وہی فرمایا کہ جو نفس پر اشد ہے یعنی بقراءۃ مفسرہ حرفاً حرفاً پڑھنا اور ہر آیت پر وقف کرنا کہ اس میں دیر زیادہ لگتی ہے اور آپ کو قرآن شریف بھی زیادہ پڑھنا ہوتا تھا۔ نہ یہ کہ آپ ہمیشہ نماز و قرآن اسی طرح پڑھتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس کے سوا کوئی طریقہ معلوم ہی نہ تھا۔ بلکہ یہ طریقہ شدید تھا اس لئے اس کا بیان کرنا مناسب تھا پس انہوں نے اسی کو بیان فرمایا۔ سو اولاً یہ طریقہ خاص قرأت تہجد کا ہے نہ مطلق قرأت قرآن کا نماز و خارج نماز میں مثلاً نماز مغرب میں آپ نے سورہ اعراف پڑھی اگر سورہ اعراف بقراءۃ مفسرہ حرفاً حرفاً اور ہر آیت پر وقف کے التزام سے پڑھی جاتی تو مغرب کے وقت مستحب میں ہرگز تمام نہ ہو سکتی بلکہ عشاء کا وقت ہو جاتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت مستحجلاً قرأت پڑھی تھی۔ ایسے ہی نماز تہجد میں بھی احياناً کیونکہ تہجد میں بھی آپ کا ایک رکعت میں سورہ بقرہ آل عمران و نساء کا پڑھنا ثابت ہے حالانکہ وقت تہجد میں بقراءۃ مفسرہ حرفاً حرفاً بالترام و وقف ہر آیت ساری نماز میں بھی یہ سورتیں نہیں ہو سکتیں رہا حال اوقاف تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ تمام امت کا اتفاق اس کے جواز پر ہے خلاف پر نہیں ہے بلکہ خود اس حدیث کے اندر رجحان موجود ہے۔ دیکھو دارقطنی نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے اس میں یہ لفظ ہیں۔ وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیۃ ولم يعد علیہم (۱) جس سے

(۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے آیت شمار کیا اور علیہم یعنی غیر المخصوص علیہم کو آیت شمار نہیں فرمایا۔

صاف ظاہر ہے کہ آپ نے انعمت علیہم پر وقف نہیں کیا۔ حالانکہ انعمت علیہم آیت ہے۔) نافع مدنی اور ابو عمر و بصری اور ابن عامر شامی تین قاری کو سب سے متواترہ کے راوی ہیں اور قرأت ان کی قطعی ہے یہاں آیت کہتے ہیں اور آیت کا حال سماع سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ امر تو قینی ہے۔ چنانچہ تفسیر کشاف وغیرہ میں مصرح ہے اور اتقان وغیرہ میں بھی اس کی تصریح ہے اور رسول اللہ ﷺ وقف آیت پر اسی واسطے کرتے تھے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں آیت ہے اور جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ لوگوں کو یہاں آیت ہونا معلوم ہو گیا تو بسا اوقات نہیں بھی کرتے تھے۔ پس بتواتر ثابت ہو گیا کہ یہاں آیت آپ نے کی ہے اور اس روایت ام سلمہؓ سے یہاں وقف نہ کرنا ثابت ہو گیا اور یہ دونوں فعل رسول اللہ ﷺ کے ہیں تو اس سے عدم توقف آیت پر ثابت ہو گیا۔ علی ہذا جہاں اختلاف قرآۃ آیات میں ہے کہ بعض کی نزدیک وہاں آیت نہیں ہے اور بعض کے نزدیک وہاں آیت ہے پس وہاں بھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض مرتبہ وہاں وقف کیا۔ بعض مرتبہ نہیں کیا تو جن لوگوں نے پہلے وہاں وقف سن لیا تھا وہ آیت کے قائل ہوئے اور جن کو پہلے سے یہ علم نہ ہوا تھا انہوں نے وہاں نہ ٹھہرائی۔ چنانچہ اتقان صفحہ ۹۶ میں ہے وقال غیرہ سبب الاختلاف فی عدد الاسمی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقف علی رؤس الایات للتوقیف فاذا علم فخلیہا وصل للتیام فیحسب السامع انها لیست فاصلة انتہی واللہ اعلم بالصواب الحاصل جواب مجیب کو اور تصحیح اس کے اتباع کی سراسر بے جا ہے اور طعن ناموزوں جماعت صحابہ و تابعین پر واللہ اعلم و علمہ اتم واحکم۔ فقط

علامات ط اور لا پر ٹھہرے یا نہ ٹھہرے

(سوال) جو کہ قرآن شریف میں (ط) علامت مطلق کی ہے اگر مطلق پر نہ ٹھہرے تو گنہگار ہوتا ہے یا نہیں اور لا آیت کا کیا حکم ہے۔ اس پر ٹھہرے یا نہ ٹھہرے اللہ ان مسئلوں کو بہت جلد زیب قلم فرما کر حرمین بمبہر فرمادیں۔ بیواؤ تو جروا۔

(جواب) (ط) پر اگر وقف نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا اور (لا) پر بھی وقف نہ کرے اگر کیا تو گناہ نہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کسی مقتدی کو جماعت میں شریک نہ ہونے پر امام کا قرأت مختصر کرنا (سوال) باوجود ہونے معمولی وقت کے اگر امام کسی مقتدی کو دیکھ کر بایں خیال کہ یہ مقتدی جماعت میں شامل نہ ہو فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس پڑھے تو نماز مکروہ ہوئی یا نہیں۔

(جواب) اگر امام فی الواقع مخالفت مقتدی کی وجہ سے اور غرض فاسد سے چھوٹی قرأت پڑھتا ہے تو گنہگار ہے اور اگر غرض صحیح ہے تو کچھ حرج نہیں اور کوئی کراہت نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ملفوظ

(۱) ط کی علامت بمنزلہ آیت کے نہیں ہے بلکہ آیت تو وہی ہے جہاں ہ ہے۔ خواہ اس پر

(لا) ہو یا کچھ اور ہو مگر ٹھہرنا نہ ٹھہرنا یہ اور امر ہے آیت پر (لا) ہو تو ٹھہرنا نہ چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

باب کن امور سے نماز میں کراہت آتی ہے اور کن سے نہیں  
نمازی کے آگے جوتیوں کا رکھنا

(سوال) نمازی کے روبرو جوتیوں کا موجود رہنا کہ جو مستعمل ہوں موجب کراہت نماز ہے یا نہیں۔  
(جواب) مصلیٰ کے آگے اگر جو مستعمل رکھا رہے اس کی کوئی کراہت منقول نہیں لہذا کچھ حرج نہیں۔

آمین بالجہر نماز میں حرام ہے یا بدعت

(سوال) آمین بالجہر کہنا نماز میں حرام اور بدعت عند الحنفیہ ہے یا نہیں اور ہم لوگ آمین بالجہر نماز میں کہنے والوں کو مسجد سے نکال باہر کر دیں یا نہیں اور اگر ہم لوگ ان پر نکیر نہ کریں تو کچھ گناہ تو نہ ہوگا یا ہم لوگ گنہگار ہوں گے اور جماعت میں ان کے آمین بالجہر اور رفع یدین کرنے سے ہماری نماز میں کس قدر نقصان واقع ہوگا۔ ہماری نماز بالکل جاتی رہے گی یا مکروہ ہوگی فقط بینوا بالکتاب و تو جروا بیوم الحساب بہرہ سخطہ بواپسی ڈاک فقط۔

(جواب) آمین بالجہر اور قرأت خلف الامام رفع یدین یہ امور سب خلاف بین الاممہ ہیں اور اگر کوئی شخص ہوائے نفسانی اور ضد سے خالی ہو اور محض محبت سنت کی وجہ سے یہ امور کرتا ہو تو اس پر کوئی طعن و تشنیع اور الزام دینی درست نہیں ہے اور اگر محض حنفیہ کی ضد میں ایسا کریں تو سخت گنہگار ہے۔ بہر حال ان لوگوں کے ان امور کے کرنے سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خرابی و نقصان نہیں آتا اور مفصل



بحث اس کی بندہ نے سبیل الرشاد اور ہدایت المبتدئی وغیرہ میں لکھی ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

آمین بالجہر سے نماز میں فساد ہوتا ہے یا نہیں

(سوال) غیر مذہب کے ہمراہ شامل صف نماز ہو کر کسی شخص کا پکار کر آمین کہنا ہمارے واسطے موجب فساد نماز یا کراہت نماز ہے یا نہیں اگر اس کا آمین کہنا ہمارے واسطے موجب فساد نماز یا باعث کراہت ہے تو یہ حنفی مذہب کی کون سی معتبر کتاب میں لکھا ہے۔ بیخواتو جروا (مرسلہ بابو عبد الوہاب صاحب بلند شہر محلہ قاضی واڑہ)

(جواب) آمین جہر سے کہنا غیر مذہب کا مذہب حنفی والے کو مفسد نماز ہے نہ موجب کراہت کیونکہ فعل ایک مصلیٰ کا دوسرے مصلیٰ کی طرف مفضی نہیں ہوتا واللہ اعلم بالصواب حررہ واجابہ خاکسار محمد مسعود نقشبندی دہلوی ۲۸ جمادی الاول ۱۲۹۲ھ۔

بلکہ اگر آمین کے جہر کرنے میں امام قرأت بھول جاوے تو کراہت اس کی مجاہر پر نہ ہوگی کتبہ محمد یعقوب دہلوی صحیح الجواب بلا ارباب حررہ محمد عبدالحق عنہ ذلک کذلک محمد اسلمیل فانی الجلیل الدلیل والجواب المذکور صحیح ان کان المقصود اتباع السنۃ والا فالأفضل عندی الا متاع واللہ اعلم بالصواب۔ (۱)

محمد حسن شاہ	محمد رؤف سعید	دارالمدینہ شفا
	۱۲۸۴	از محمد یعقوب

بلاشبہ جواب ثانی بھی صحیح ہے

محمد عبدالباق	نظام الدین	از منصور علی احمد ہست
---------------	------------	-----------------------

محمد اسماعیل انصاری مدرس مدرسہ حسین بخش مرحوم دہلوی

خدا بادشاہ	محمد عبدعزیز	مولانا سراج احمد صاحب	قبر	اکبر علی خان
بنام محمد محمد علی	القادر	محدث خورجری	امام احمد مالکانا	ولد رحم علی خان

محمد کرامت اللہ	محمد فضل احمد	امام نوری مناظر
۱۲۹۳	۱۲۹۳	اہل اکتساب سناظرین
اصحاب محمد عبد اللطیف علیٰ عنہ مقیم مرہٹہ		محمد البر منصور
		۱۲۹۱ھ

محمد زور اللہ علیٰ عنہ

(۱) جواب مذکور صحیح ہے اگر مقصود اتباع سنت ہو اور نا فضل میرے نزدیک منع کرنا ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اصاب عندی من اجاب (۱) بندہ عبد اللہ گلاوٹھوی عفی عنہ۔ عبد اللہ

میرے نزدیک تو اگر خود خفی بھی آمین بالجہر کہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی نہ کہ دوسرا شخص کہے اور خفی کی نماز فاسد ہو جائے حق یہ ہے کہ جہر و اخفاء دونوں فعل مسنون ہیں ائمہ حنفیہ کو جواز جہر میں خلاف نہیں ہے صرف اولویت میں خلاف ہے چنانچہ حنفیہ اخفاء کو اولیٰ سمجھتے ہیں اور ائمہ جہر کو۔ پس مسائل کو اپنی نماز کے فساد کا کیا معنی کراہیت کا بھی شبہ نہ کرنا چاہئے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب حررہ محمد اسمعیل عفا اللہ عنہ ساکن کول

الجواب صحیح غلیل احمد الجواب صحیح بندہ محمود الجواب صحیح بندہ عزیز الرحمن الجواب صحیح رشید احمد  
 عفی عنہ امہوی عفی عنہ دیوبندی عفی عنہ مفتی مدرسہ دیوبند عفی عنہ گنگوہی  
 مدرسہ اول مدرسہ دیوبند و توکل علی العزیز الرحمن رشید احمد ۱۳۰۱  
 الہی عاقبت محمود گردان ۱۲۹۹

جواب المہجیب حق المتقادم الباری ہذا الجواب بجوب ریب الجواب حق علی احمد  
 والحق ان یقیع عبداللہ انصاری المرتاب محمد حسین عفی عنہ عفی عنہ سنہلی  
 ابو یحییٰ محمد ۱۳۱۳

جملہ جوابات مجتہدین کے صحیح ہیں لیکن مولوی محمد اسمعیل صاحب انصاری مدرس مدرسہ حسین بخش مرحوم کا تحریر فرمانا خلاف شان علماء کے ہے کیونکہ جب ایک امر حدیث سے سنت ثابت ہو چکا پھر اس کے عامل پر الزام نفسانیت کس طرح ہو سکتا ہے نماز میں کسی قسم کی خرابی جب واقع ہوتی ہے کہ خلاف امر مشروع نماز میں کیا جاوے اور آمین بالجہر کے جواز کے تو علماء حنفیہ بھی قائل ہیں۔ چنانچہ مولانا شیخ عبدالحق صاحب دہلوی لکھتے ہیں۔ والظاهر الحمل علی کلالا للعین اور مولانا عبدالحق لکھنو لکھتے ہیں۔ والا نصاب ان الجہر قوی من حیث الدلیل۔ اور شیخ ابن ہمام لکھتے ہیں۔ لو كان الی فی هذا شنی تو فقط بینہما ان یرا دبروایۃ الحفص علم الفزاع العنیف و بروایۃ الجہر بمعنی زیر الصوت وذیلہا۔

اور نیز علمائے دیگر بھی قائل ہیں مانند ان کے مولانا بحر العلوم عبداعلیٰ ارکان اربعہ میں لکھتے ہیں کہ درباب آہستہ گفتن آمین صحیح وارد نہ شدہ مگر حدیث ضعیف (۲) اور مولانا سلامت اللہ صاحب

(۱) جس نے جواب لکھا میرے نزدیک صواب ہے۔

(۲) آمین کے آہستہ کہنے کے بارے میں بجز ایک ضعیف حدیث کے اور کچھ نہیں آیا ہے۔

حنفی بھی قائل ہیں۔ چنانچہ شرح الموطاء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حررہ عبدالصمد حنفی متوطن کوٹھوالی ضلع بلند شہر مورخہ ۱۲ شعبان المعظم ۱۳۱۳ھ ہوا المصیب کسی دوسرے شخص کا زور سے آمین کہنا احناف کے واسطے نہ موجب فساد ہے نہ کراہت احناف اور غیر احناف میں جو کچھ اس بارے میں اختلاف ہے وہ محض اولویت و عدم اولویت کا ہے اس سے فساد کسی کا مذہب نہیں زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک یہ تعامل چلا آتا ہے کہ دونوں فریق ایک جگہ نماز پڑھتے رہے البتہ سب و شتم اور لعن و طعن باہم نہ ہونا چاہئے واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ عبداللطیف عفی عنہ از دفتر ندوۃ العلماء کانپور ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۱۳ھ الجواب صحیح محمد مجتبیٰ حسن عفی عنہ۔

مہر ندوۃ العلماء

الجواب صحیح عبدالرحمن پشوری۔

الجواب صحیح صواب عبد مومن عفی عنہ دیوبندی صحیح الجواب حررہ الفقیر عبدالحی صلی اللہ علیہ وسلم الجواب خدام الفقراء العلماء ابو بکر علی احمد محمود اللہ شاہ کھنسی البدایونی الجواب صحیح، العبد احقر العباد عبد القیوم گندھیکسٹری واعظ علی گڑھ۔

چونکہ آمین بالجہر پر تعامل صحابہ کبار رہا ہے اس لئے آمین بالجہر کہنے والوں پر سب و شتم کرنا اور پردہ صحابہ پر معترض ہونا ہے بالافتقار ممنوع ہے فعل صحابہ سے کسی صحابی کے فعل کا اقتداء سنت ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم (۱) واللہ اعلم بالصواب۔ بندہ محمد محسن عفی عنہ۔ محمد محسن میرٹھی۔

جو شخص اہل حدیث ہو اور وہ شریک جماعت احناف ہو اس کا آمین کہنا مفسد نماز احناف ہرگز نہیں یہ اختلاف اولویت میں ہے واللہ اعلم کتبہ، محمد ریاض الدین مدرس مدرسہ عالیہ میرٹھ زید کے آمین بالجہر کہنے سے عمر و کی نماز فاسد ہوگی۔ نہ مکروہ ہوگی۔

عبداللہ خان، محمد ریاض الدین احمد۔ مدرس مدرسہ اسلامیہ، میرٹھ بالائی کوٹ آمین بالجہر سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور نہ مکروہ ہوتی ہے یہ غلط بیان کرنا ہے جو کہتا ہے کہ آمین بالجہر سے دوسرے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے یا مکروہ احمد علی عفی عنہ مدرس مدرسہ میرٹھ اندر کوٹ۔ آمین بالجہر کہنے سے آمین باخفاء کہنے والوں کی نماز میں کسی طرح کا فساد نہیں ہے حررہ محمد رمضان عفی عنہ مفتی واعظ جامع مسجد آگرہ۔

(۱) جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کا اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے

ریشمی کپڑے سے نماز پڑھنا

(سوال) ریشمی پارچہ سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔

(جواب) ریشمی کپڑے سے نماز ہو جاتی ہے مگر سخت گتہ گار ہوتا ہے اور عورت کو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ فقط

نماز میں آنکھیں بند کرنا

(سوال) مسئلہ امام غزالی علیہ الرحمۃ نے کیا سعادۃ میں لکھا ہے کہ نماز اندھیرے میں پڑھے یا آنکھیں بند کر لیا کرے تاکہ نظر منتشر نہ ہو اور حضور قلب میسر ہو۔ لہذا عرض ہے کہ شرع کا مسئلہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور جہاں سجدہ کی جگہ نہ دیکھے وہ بھی نماز مکروہ ہوگی۔ لہذا اگر واسطے حضور قلب کے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں اور نماز تہجد و وتر تو ہمیشہ اندھیرے میں پڑھتا ہوں اور آج کل چونکہ اندر مکان میں سوتا ہوں تو سنتیں فجر کی بھی اندھیرے میں پڑھتا ہوں۔ لہذا سجدہ کی جگہ نہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔

(جواب) بہ نیت خشوع و تقصد و خطرات و وساوس اگر نماز میں آنکھیں بند کرے تو کراہت نہ ہوگی ایسے ہی ضرورت کے وقت معروف جگہ پر جہاں جہت قبلہ بھی مشتبہ ہو اور نہ کوئی اندیشہ ہو نماز درست ہے۔ فقط

نماز کے پہلے نماز میں سورتیں پڑھنے کا تعین کر لینا

(سوال) اگر قبل نماز پڑھنے تعین کرے کہ فلاں فلاں سورۃ پڑھوں گا خواہ مقتدی ہو یا امام درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اس خیال اور تعین سے نماز میں کوئی نقصان اور خرابی نہیں آتی اور اگر پھر اس قرارداد کے موافق نہ پڑھے اور کچھ پڑھ لے تب بھی کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

دھوبی کے یہاں بدلے ہوئے کپڑے سے نماز

(سوال) کپڑا دھوبی کے یہاں بدل جاوے تو اس سے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر اس کا کپڑا اس شخص کے پاس پہنچ گیا ہے اور قیمت میں چنداں تفاوت نہیں

ہے تو اس کا استعمال مضائقہ نہیں ہے اور اگر وہ کپڑا اس شخص کا دھوبی نے رکھ لیا ہے یا کھودیا اور دوسرے کا کپڑا اس کو دے دیا تو ایسی صورت میں اس کا استعمال ہرگز درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

سرخ استر کے کپڑے سے نماز

(سوال) سرخ استر سے نماز ہو جاوے گی یا نہیں۔

(جواب) سرخ رنگ مرد کو علی الاصح درست ہے۔ کم کارنگ البتہ مرد کو حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

نمازی کے سامنے قرآن شریف کا ہونا

(سوال) اگر قرآن شریف پڑھ کر سامنے رکھ دے اور پھر نماز پڑھے تو کوئی حرج ہے یا نہیں ایک شخص کہتا ہے کہ نماز میں کراہت آجاتی ہے۔

(جواب) اگر آگے قرآن شریف رکھا ہو تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱) فقط

نماز کی نیت توڑنا

(سوال) ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ انگٹھی چاندی کی یا روپیہ غسل خانہ میں بھول آیا۔ نماز پڑھنے کی حالت میں یاد آیا۔ اب وہ کیا کرے، نماز توڑ کر لادے یا نہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھ کو گم شدہ چیز مل جائے گی۔

(جواب) اگر احتمال گم ہونے اور نہ ملنے کا غالب ہے تو نماز کو توڑ کر لانا جائز ہے۔ ورنہ نماز کو تمام کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

جلسہ اور قومہ کی دعائیں

(سوال) جلسے اور قومے میں یہ الفاظ کہنا فرض ہوں یا نوافل جائز ہے یا نہیں۔ اللھم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی جلسے میں اور قومے میں ربنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔

(جواب) یہ کلمات فرض نفل میں سب میں درست ہیں مگر امام کو فرض میں نہ کہنا چاہئے کہ مقتدیوں پر تطویل صلوٰۃ کی کلفت ہوتی ہے تمہا ہو تو کہے کہ نماز میں اذکار مسنونہ اولیٰ ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

بلا عمامہ کے نماز پڑھنا

(سوال) سرور عالم ﷺ سے بھی بلا عمامہ کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے یا نہیں اور حضور نے کبھی بلا عذر نماز بلا جماعت بھی پڑھی ہے یا نہیں؟

(جواب) اس کا صریح ثبوت اس وقت بندہ کو معلوم نہیں مگر احرام کی حالت میں سر برہنہ نماز پڑھنا محقق ہے۔ علیٰ ہذا نماز فرض مرض موت میں بلا جماعت پڑھی ہے ورنہ جماعت سے ہی پڑھتے تھے۔

بلا عمامہ کی نماز کا حکم

(سوال) کیا فتاویٰ عالمگیری اور قاضی خان میں نماز بلا عمامہ کو مکروہ لکھا ہے؟

(جواب) کسی نے بلا عمامہ نماز کو مکروہ نہیں کہا اگر کہا تو وہ قول ما قول ہے۔ تبرک مندب ورنہ مردود ہوگا۔ فقط

بلا عمامہ نماز پڑھانا

(سوال) اگر بلا عمامہ نماز پڑھاوے تو کیا نماز مکروہ ہوگی تزییہ یا تحریمی کیا آنحضرت ﷺ نے ہمیشہ نماز عمامہ سے پڑھائی ہے صرف ٹوپی کو سر مبارک پر زیب نہیں بخشا۔

(جواب) صلوٰۃ بلا عمامہ مکروہ نہیں نہ تزییہ البتہ ترک افضل ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ آپ کے سر مبارک پر گاہ کلاہ بلا عمامہ بھی ثابت ہوتی ہے۔

بغیر عمامہ کے نماز پڑھانے والے سے جنگ کرنا

(سوال) جو شخص تارک عمامہ سے جنگ و جدل کرے، اور عمامہ کو ضروری جانے وہ کیسا ہے حالانکہ تارک عمامہ اولویت عمامہ کا نماز کے اندر قائل ہے اور جہاں امام دستار بند نماز نہ پڑھاتا ہو وہاں سے جو شخص مسجد چھوڑ کر چلا جاوے اسی وجہ سے اور مارنے مرنے پر تیار ہو وہ کیسا ہے؟

(جواب) تارک عمامہ سے جدال کرنے والا جاہل ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

عمامہ والی نماز کا ثواب

(سوال) امام کو باوجود قدرت ہونے عمامہ کے بغیر عمامہ نماز پڑھانا؟

(جواب) بلا عمامہ امامت کرنا درست بلا کراہت کے ہے اگرچہ عمامہ پاس رکھا ہو البتہ عمامہ سے ثواب زیادہ ہوتا ہے فقط واللہ اعلم۔ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ ۱۳۰۱ھ۔ الا جوبہ کلہا صحیحہ ابوحنیفہ محمد عبداللطیف عفی عنہ۔

امام کا بلا عذر بغیر عمامہ کے عمامہ والوں کی امامت کرنا

(سوال) اگر امام کو عذر سے یا بلا عذر عمامہ میسر نہ ہو اور مقتدی باندھ رہے ہیں تو کیا نماز میں کچھ نقصان نہ ہوگا۔

(جواب) اگرچہ مقتدی سب صحیح ہوں اور امام بلا عمامہ ہو تو نماز کسی کی بھی مکروہ نہیں ہوتی۔

بحالت نماز نمازی کے پیر کے نیچے کپڑا دب جانا

(سوال) دو شخص قریب نماز پڑھتے ہیں ایک کا کپڑا ایک کے پاؤں کے نیچے دب گیا اگر وہ شخص جس کے پاؤں کے نیچے کپڑا دب گیا قصداً نکال دے نماز میں نقصان اور قصد ہوتا ہے یا نہیں؟

(جواب) صورت مسئلہ کا یہ ہے کہ مصلیٰ کا بقصد اپنے کپڑا دبا ہو اور دوسرے مصلیٰ کا چھوڑ دینا ناقص کرنے والا نماز کا نہیں یہ اس لئے کہ یہ چھوڑ دینا اس کا امتثالاً امر الفیہ نہیں ہے۔ یعنی دوسرے مصلیٰ کے چھوڑانے سے نہیں چھوڑا بلکہ قصد اپنے سے بلا اجماع امر دوسرے کے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں اگر کچھ دوسرے کے چھوڑنے سے چھوڑ دے گا تو بجز اس کے اس نے نماز میں غیر خدائے تعالیٰ کا حکم مان لیا۔ اور یہ منافی صلوٰۃ ہے نماز اس کی فاسد ہو جاوے گی۔ چنانچہ عبارت در مختار سے مستفاد ہوتا ہے: حتی لو امثل امر غیرہ فقیل تقدم فتقدم او دخل فرجة الصف احد فوسع له فسدت بل يمكث ساعة ثم يتقدم براه شامی میں لکھا ہے و حاصلہ انہ لا فرق بین المسئلین الا ان يدعی محل الا ولی علی ما اذا تاخر بمجرد الجذب بدون امر و الثانية علی ما اذا فسخ له بامرہ ففسد فی الثانية لانه امثل امر المخلوق وهو فعل مناف للصلوٰۃ بخلاف الا ولی فقط حرره محمد قاسم علی عفی عنہ۔

محمد قاسم علی خلف مولانا محمد عالم علی مفتی و امام مراد آباد۔ قد صح الجواب فانه موافق للحق

والصواب محمد حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ مسجد شامی مراد آباد۔

الجواب صواب محمود حسن مدرس مدرسہ اسلامی شاہی مسجد مراد آباد۔

(جواب) اگر مصلیٰ نے اپنے قصد سے اور اپنے ارادہ سے اس کا کپڑا اچھوڑا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فقط واللہ اعلم بندہ رشید احمد گنگوہی غفری عنہ۔

امام زمین پر اور مقتدی جانماز پر

(سوال) اگر امام جائے نماز بور یہ وغیرہ کی کھینچ کر کھڑا ہو جاتا ہو اور مقتدی لوگ فرش پر کھڑے ہوں یہ فعل امام کو کیسا ہے؟

(جواب) اگر امام زمین پر اور سب مقتدی جانماز پر ہوں جب بھی کچھ کراہت نہیں ہوتی یہ فعل درست ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

اگر مقتدی قائلین پر اور امام بغیر فرش کے ہو تو اس کا مسئلہ

(سوال) اگر مقتدی فرش، قائلین وغیرہ پر ہوں اور امام بغیر فرش کے ہو تو درست ہے یا نہیں یا مقتدی خطا وار ہیں۔

(جواب) درست ہے کہ مقتدی فرش پر ہو اور امام نہ ہو کچھ مضائقہ نہیں۔ فقط

امام کا مصلیٰ پر رومال ڈالنا

(سوال) زید عالم ہے اور امامت بھی کرتا ہے مگر بوجہ زیادہ ہونے اپنی عزت کے اپنا رومال بچھا کر امامت کرتا ہے یعنی مصلیٰ ڈال کر اور مصلیٰ پر کھڑا ہو کر امامت کرتا ہے اور مقتدی بغیر فرش کے ہوتے ہیں تو ایسی نزاکت بڑھانا امام کو اپنے واسطے بہتر ہے یا نہیں اور نماز میں کچھ مکروہات نہیں ہوتا۔

(جواب) اگر امام رومال یا مصلیٰ پر کھڑا ہو اور مقتدی زمین پر ہوں اس میں کچھ کراہت نہیں یہ امر درست و جائز ہے۔ بلا خوف فقط واللہ اعلم۔

مسجد کے باہر کے دروں میں امام کا کھڑا ہونا

(سوال) امام کے محراب میں کھڑے ہونے سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور مکروہ ہے امام کو کہ وہاں کھڑا ہو۔ لہذا گذارش ہے کہ مسجد کے باہر کے دروں میں کھڑا ہونا بھی حکم محراب میں ہے یا نہیں۔ فقط



(جواب) باہر کے دروں کا بھی محراب کا ہی حکم ہے۔ اس میں بھی امام کو قیام مکروہ ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

امام کا خفی امور کا سیٹی کی سی آواز سے ادا کرنا

(سوال) اگر امام التحیات یا سجدہ یا سورہ فاتحہ وغیرہ کہ جس کے واسطے حکم خفی پڑھنے کا ہے ایسا پڑھتا ہو کہ نزدیک کے مقتدی بھی سنتے اور سیٹی کی سی آواز مقتدی سنیں تو نماز میں کراہت ہوگی یا نہیں اور جب امام سے کہا جاوے تو یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی میری آواز سیٹی کی سی سنتا ہے تو میں اس وقت میں صا دادا کیا کرتا ہوں۔

(جواب) اگر آواز خفی امام کے آس پاس کے چند سن لیوں تو اس میں حرج نہیں اور کوئی کراہت نہیں۔ فقط واللہ اعلم

کن امور سے نماز فاسد ہوتی ہے اور کن سے نہیں

نماز میں کوئی ایسا کلمہ چھوٹ جانا جس سے مطلب میں کوئی خرابی نہ آئے (سوال) عمرو نے نماز صبح کی پڑھائی دو کلموں کو دو آیتوں میں از روئے سہو کے چھوڑ گیا اول آیت و کذبوا بآئیننا کذا با میں کلمہ و کذبوا آیت دوسری ویقول الکافر بلیسی کنت ترابا میں الکافر چھوڑ گیا اس صورت میں کوئی نقصان نماز میں صادر ہو یا نہ ہو ازید نے جو مقتدی تھا نماز اپنی لوٹائی اور کہا نماز نہیں ہوئی۔

(جواب) یہ دو کلمے اگر چہ چھوٹ گئے مگر تاہم نماز درست ہوگئی ہے کہ معنی درست ہیں اگرچہ دو کلمہ ترک ہوئے فقط ازید نے نماز لوٹائی تو اس نے خطا کی کیونکہ اس صورت میں نہ معنی خراب ہوئے اور نہ نماز فاسد ہوئی۔ فقط

ضاد کو دال کے مشابہ پڑھنا

(سوال) قاری عبدالرحمن صاحب مرحوم پانی پتی نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ حرف ضاد کو مشابہ بالبدال وطاء نہ پڑھے ورنہ نماز نہ ہوگی کیونکہ نماز میں قرآن کا صحیح پڑھنا فرض ہے لہذا ہر ایک شخص کو مخرج سے ادا کرنے کی ہر حرف کی کوشش ہونی چاہئے اگر کوشش کرتا ہے اور تب بھی پورا

حرف صحیح نہ ادا ہو تو اس میں مواخذہ دار نہ ہوگا اگر بلا سعی مشابہ بالمدال وطاء پڑھے گا تو معنی میں فرق آدے گا۔ لہذا اس تحریر میں حضور کیا فرماتے ہیں اور جو شخص کہ قاری ہو یا علم قرأت سے کھتا ہو وہ شخص کہ مشابہ بالمدال وطاء پڑھے اس کے پیچھے اس کی نماز ہوگی یا نہیں یا اپنی نماز لوٹا دے یہ میں نے بھی دیکھا کہ اگر حرف ضاد کو مخرج سے ادا کرے تو ہرگز مشابہ بالمدال نہیں نکلتا۔ مشابہ بالطاء ادا ہوتا ہے۔ اور باوجودیکہ حرف شفیۃ میں سے نہیں ہے مگر ہونٹ ہلتے ہیں۔ اور زبان وہاں سے بنتی ہے تب مشابہ بالمدال نکلتا ہے اصل مخرج سے مشابہ بالطاء مع تمامی شرائط کے ادا ہوتا ہے۔ قیاساً

(جواب) یہ قول قاری صاحب کا درست ہے کہ جو شخص باوجود قدرت کے ضاد کو ضاد کے مخرج سے ادا نہ کرے وہ گنہگار بھی ہے اور اگر دوسرا لفظ بدل جانے سے معنی بدل گئے تو نماز بھی نہ ہوگی۔ اور اگر باوجود کوشش و سعی ضاد اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوتا تو معذور ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے اور جو شخص خود صحیح پڑھنے پر قادر ہے ایسے معذور کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے مگر جو شخص قصداً خالص دال یا طاء پڑھے اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔ فقط

### بغیر علم کے نماز ہونے کا مطلب

(سوال) جو شخص نماز کے فرائض اور واجبات نہ جانتا ہو تو لکھا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی اور دہقانی کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟

(جواب) یہ امر صحیح نہیں کہ بدون علم کوئی نماز درست نہیں ہوتی بلکہ ادا ہونا شرائط و ارکان کا ضرور ہے خواہ علم ہو یا نہ ہو مراد یہ ہے کہ اس کی بہت نمازیں درست نہیں ہوتیں کہ اس کو خیر فساد و کراہت کی نہیں اگر کچھ واقع ہوگا بے علمی سے اس کو خیر نہ ہووے گی۔ اعادہ نہ کرے گا تو بعض نماز کا نہ ہونا مراد ہے نہ سب کا لہذا دہقانی کے پیچھے نماز درست ہو جاتی ہے جب کوئی مفسر صلوٰۃ اس سے بظاہر واقع نہ ہو۔ فقط

### امام کو لقمہ دینا

(سوال) امام نے فرضوں میں تین آیت سے زیادہ پڑھ لی اور اس کو سہو واقع ہوا مقتدی نے پیچھے سے لقمہ دیا امام نے لقمہ لیا۔ مقتدی کی نماز میں نقصان ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ مشہور ہے؟

(جواب) اپنے امام کو لقمہ دینا فاسد نماز اور امام کا مقتدی کا کسی کا نہیں خواہ ضرورت لقمہ کی ہو یا نہ

ہو امام لقمہ لے یا نہ لیوے خواہ کسی قدر ہی امام پڑھ چکا ہو۔ کسی حال کسی وجہ سے فساد کسی کی نماز میں نہیں ہوتا یہ ہی صحیح ہے اور جو مشہور ہے صحیح نہیں اور نماز مندرجہ سوال کی صورت میں ہو جاتی ہے کیونکہ مراد اس لم یکن ذکراً سے یہ ہے کہ وہ کلام ناس سے نہ ہو۔ فقط واللہ اعلم۔

## باب: نماز میں وضو ٹوٹ جانے کا بیان

جمعہ کے دن اگر کوئی شخص پہلی صف میں ہو اور اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا حکم (سوال) ایک شخص جمعہ کے دن اول صف میں جماعت میں ہوتا ہے اگر اس کا وضو جاتا رہے تو وہاں تیمم کرے یا صف کو چیر کر باہر آوے۔  
(جواب) جمعہ میں یا غیر جمعہ میں نمازی کو نماز میں کسی وجہ سے دوبارہ وضو وغیرہ کی حاجت ہو تو صف کو چیر کر باہر چلا جاوے۔ اور اگر صف کے آگے کو راستہ ہو تو اس کی طرف سے آگے نکل کر وضو کر آوے اگر اس کی واپسی تک جمعہ ختم ہو جاوے تو ظہر پڑھے۔

## قطرہ آنے سے نماز کا ٹوٹ جانا

(سوال) ایک شخص کو مرض قطرہ ہے اگر حالت نماز میں قطرہ نکل جائے تو نماز توڑے یا نہیں اگر سو اس امر کا ہوتا ہو کیا کرے؟  
(جواب) اگر قطرہ نکلا خود نماز فاسد ہوگئی یہ کیا توڑے گا مگر ہاں جو وسوسہ ہو تو نہ توڑے بعد نماز دیکھ لیوے۔ اگر نکلا ہے تو اعادہ کر لیوے ورنہ نماز ہوگئی۔ فقط

## نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے

(سوال) ایک امام نماز پڑھا رہا ہے وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرے؟  
(جواب) از سر نو وضو کر کے نماز پڑھاوے کہ بناء کے مسائل سے لوگ واقف نہیں ہوتے اور استیناف اولیٰ بھی ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

## باب: فوت شدہ نمازوں کی قضا پڑھنے کا بیان

### قضا نمازیں کیسے ادا کی جائیں

(سوال) میرے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی خود بخود پک گئی تھی اور زخم شدید ہو گیا تھا۔ قریب ایک ماہ علاج شفا خانہ میں کرایا گیا۔ شفا خانہ میں بعد لگانے مرہم کے ایک پارچہ کی پٹی دونوں وقت باندھی جاتی تھی۔ جس کو صبح وشام خاکروب شفا خانہ ایک گندہ پانی میں جو خاص اس کام کے واسطے مہیا تھا۔ سب مریضوں کی پیوں کو دھو کر اور صاف دھو کر کے کمپونڈ روڈے دیا کرتا تھا۔ پس وہی پٹیاں دوسرے روز کام میں مریضوں کی لائی جاتی تھیں۔ چنانچہ میں انہی کی پٹی باندھی ہوئی سے نمازیں پڑھتا رہا، اس صورت میں اس پارچہ پٹی باندھی ہوئی سے جو نمازیں پڑھی گئیں صحیح ہوں یا نہیں اور فرض میرے ذمہ سے ساقط ہو گئے یا نہیں دوسرے بعض اوقات بوجہ غلبہ تکلیف انگنت نمازیں فوت ہو گئیں اور یہ یاد نہیں کہ کون سے وقت کی قضا ہوئی ہیں پھر کس وقت کی مقرر کر کے نیت نماز کر لوں اور فرض قضا ادا کروں۔ فقط؟

(جواب) آپ کی جس قدر نمازیں گئی ہیں ان کو قضا کر لینا چاہئے اور جو نمازیں اس زمانہ میں اس ناپاک کپڑے سے پڑھی گئی ہوں ان کی بھی قضا آوے گی اول ظہر جو میرے ذمہ ہیں یا آخر ظہر جو میرے ذمہ ہیں اس طرح کی نیت کر لینی چاہئے۔ فقط والسلام۔

### قضا نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ

(سوال) ندوی تالبعہ حضور کی دس سال کی عمر سے اٹھارہ سال کی عمر تک بعض اوقات کی اکثر نمازیں فوت ہو گئی ہیں مگر یاد نہیں کہ کون سے وقت کی پھر کیسے قضا نمازوں کی نیت کی جاوے؟

(جواب) قضا نمازوں کو اپنی رائے اور خیال سے متعین کر لینا چاہئے کہ میرے ذمہ اس قدر نمازیں مثلاً فجر کی ہیں اور اس قدر ظہر کی ہیں۔ اس کے بعد اول ہر ظہر یا آخر ہر ظہر کی نیت سے ہمیشہ جس قدر ادا ہو سکیں ادا کر لیا کریں۔

### قضا نماز کی جماعت

(سوال) ایک مسجد میں نماز صبح کی چند آدمیوں نے باجماعت پڑھ لی چند آدمی باقی رہ گئے۔

انہوں نے قضا نماز باجماعت پڑھی نماز ان کی صحیح ہوئی یا نہیں اور جماعت قضا کی درست ہے یا نہیں؟

(جواب) جماعت قضا کی بھی درست ہے مگر اس طرح چند آدمی نماز کو قضاء کر کے جماعت سے ادا کریں سخت بے حیائی و بے شرمی ہے۔ لازم ہے کہ اس معصیت کو پردہ کریں تو اس طرح کے فعل سے گنہگار ہوئے خدا تعالیٰ معاف فرمادے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## باب: امامت اور جماعت کا بیان

عالم وقاری میں امامت کے لئے کون افضل ہے

(سوال) مذہب حنفیہ میں امامت عالم کی اولیٰ تر ہے قاری سے لیکن اگر قاری ہو اور ضروریات دین سے بخوبی واقف ہو اور عالم قاری نہ ہو تو عالم کی امامت سے قاری کی امامت اولیٰ ہے یا نہیں؟

(جواب) اگر عالم واقف مسائل صلوٰۃ کا قرآن کو مایجوز بہ الصلوٰۃ پڑھتا ہے تو اس کو بھی امام بنانا چاہئے اور جو قرآن ایسا نہیں جانتا تو امامت اس کی درست ہی نہیں ہوئی کہ رکن نماز کا قرأت ہے قرآن جب غلط پڑھا تو نماز فاسد ہوئی۔ ایسی حالت میں قرآن صحیح پڑھنے والا امام ہو اگرچہ تھوڑے مسائل سے واقف ہو چہ جائے کہ بخوبی ہو مگر مراد قاری سے یہ معروف قاری نہیں کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ ہے یہ فرض نہیں، غرض مایجوز بہ الصلوٰۃ صحیح الحروف کذانی عامۃ الکتب۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قاری اور عالم میں امامت کا کون اہل ہے

(سوال) امامت قاری کی بہتر ہے یا عالم کی؟

(جواب) اگر عالم ایسا قرآن پڑھتا ہے جس سے نماز ہو جاوے تو قاری کو امام نہ ہونا چاہئے اور جو ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ نماز فاسد ہو تو قاری امام ہووے۔

والدین کے نافرمان کی امامت

(سوال) عبادت نافذ بہتر ہے یا اطاعت والدین اور جو شخص اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے وہ فاسق ہے یا نہیں اور ایسے شخص کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) اطاعت والدین کی امر مباح واجب ہے اور واجب عبادت ناقلہ سے مقدم ہے پس اگر خدمت والدین سے فرصت نہ ہو تو نوافل کو ترک کرنا لازم ہے اور جو حقوق والدین ادا نہ کرے وہ فاسق ہے۔ امامت اس کی مکروہ تحریمہ ہے فقط کذافی کتب الفقہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## عالم تارک جماعت کی امامت

(سوال) اگر کوئی عالم نماز باجماعت نہ پڑھتا ہو اور کبھی کبھی جماعت کی نماز بھی پڑھتا ہو لیکن اکثر اوقات بلاجماعت تو افضل امامت کے واسطے وہ شخص قرآن خوان ناظرہ بہتر ہے کہ جو پنج وقتی نماز باجماعت ادا کرتا ہو یا اس طرح کا عالم؟

(جواب) جو عالم ماہر ہے مگر اگر تارک جماعت ہے تو وہ فاسق ہے اگرچہ عالم ہو اس کی امامت مکروہ تحریمہ ہے ناظرہ خواں صالح اس سے بہتر ہے امام بنانے میں کہ فاسق اگرچہ عالم ہو اس کی امامت مکروہ تحریمہ ہے اور اس کا امام بنانا حرام ہے چنانچہ رھتار میں صریح صاف یہ لکھا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## غیر مقلد کی امامت

(سوال) غیر مقلد کے پیچھے مقلدین امام کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟

(جواب) اگر غیر مقلد متعصب نہیں اور بزرگوں کی شان میں بے ادب نہ ہو اور وہ شخص ایسا کام نہ کرے کہ جس سے حسب مذہب امام علیہ الرحمۃ نماز مکروہ یا فاسد ہوتی ہے تو ایسے غیر مقلد کے پیچھے ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ فقط۔

## رنڈیوں کے ساتھ جانے والے کی امامت

(سوال) ایک شخص قوم حجام سے امام مسجد ہے اور مسئلہ مسائل نماز وغیرہ سے خوب واقف ہے باوجود ہونے اور شخص خواندہ کے اس کی اقتداء جائز ہے یا نہیں باوجود کہینے ہونے کے تمام نمازی اس سے راضی ہیں مگر ایک دو آدمی باعث فخر قوم کے اس سے ناراض ہیں اور وہ حجام رنڈی کے پیچھے مشعل بھی جلاتا ہے؟

(جواب) شریف اگر متقی اور عالم ہو تو اس کی امامت بہ نسبت رنڈیل قوم کی امامت کے اولیٰ ہے مگر نماز اس رنڈیل کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے مگر جب وہ رنڈیوں وغیرہ میں جاتا ہے اور ان کے

ساتھ ان کی خدمت کرتا پھرتا ہے تو فاسق ہے ایسے کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

رسوم و عرس وغیرہ کو اچھا جاننے والا اور برجان کر  
کرنے والا دونوں کی امامت

(سوال) مسئلہ جو شخص کہ رسوم و عرس وغیرہ کو اچھا جانے اس کے پیچھے نماز میں کچھ نقصان ہے یا نہیں یا لوٹانا ضروری ہے یا یہ کہ ان رسوم کو برا جانتا ہے مگر کرتا ہے اس کے پیچھے نماز میں کچھ نقصان ہے یا نہیں؟

(جواب) ان دونوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے مگر اعادہ واجب نہیں ہے اول شخص کے پیچھے کراہت زیادہ ہے بہ نسبت دوسرے کے فقط۔

انعت کو غلط پڑھنے والے کی امامت

(سوال) مسئلہ نماز قاری کی ایسے شخص کے پیچھے کہ جو لفظ مخرج سے نہ ادا کرتا ہو مگر قدرے فرق حروف مشتبہ الصوب میں کرتا ہو تو نماز قاری اس کے پیچھے ہوگی یا نہیں یا جو شخص عین کو ہر جگہ ادا کرتا ہو۔ مگر انعت کی عین کو الف عادتاً پڑھتا ہو نہ عمداً کہ یہ الف ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز قاری کی ہوگی یا نہیں اور خاص اس شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟

(جواب) قاری کی نماز ایسے شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے اور جو عین کو الف جان کر پڑھے نہ اس کی نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز نہ ہوگی۔ فقط

گناہ کبیرہ کے مرتکب کی امامت

(سوال) جو شخص غیبت کرتا ہے وہ بھی فاسق ہے یا نہیں اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا نہیں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص عرس و رسوم وغیرہ کو کرے یا داڑھی منڈوائے۔ وہ فاسق و بدعتی ہے اس کی امامت نہ چاہئے لہذا گزارش ہے کہ ہر گناہ کبیرہ سے فاسق ہوتا ہے یا یہی گناہ مذکورہ موجب فسق ہیں اور اگر ہر گناہ سے فاسق ہے تو ایسا امام تو بہت کم ملے گا۔ بلکہ غیبت نہ کرنے والا شاید کوئی ہوگا تو جو مقتدی کہ ان گناہوں سے احتیاط کرتا ہو۔ وہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیا ترک جماعت اچھا ہے یا اعادہ نماز اولیٰ ہے یا اور کسی غیر محلہ کی مسجد میں جانا مسجد محلہ چھوڑ کر اچھا ہے تینوں صورتوں کی اجازت دیجئے یا ایک خاص تحریر فرمادیجئے کہ ترک جماعت ہی کرے یا اعادہ

کرے یا سب برابر ہیں یا جو شخص قبروں کا چڑھا و احرام جان کر کھاوے یا مجلس میلاد مروجہ یا سوئم وغیرہ کو بدعت جان کر شرکت کرنا ہو تو اس کے ساتھ ابتدائے اسلام کرنا یا امامت کرنا درست ہے یا نہیں آیا ایسے شخص کی امامت بھی مکروہ تحریمی اور ابتدائے اسلام سے گنہگار ہوگا۔

۲۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے شخصوں کی عیادت و شرکت جنازہ بھی نہ کرے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر شرکت جنازہ اور عیادت مریض کا ضروری حق ہے کیا حکم حدیث تنبیہا ہے یا یہ لوگ کچھ اسلام ہی کامل نہیں رکھتے کیا ان ترک حقوق سے گنہگار نہ ہوگا۔ یا حکم حدیث علماء و مفتیان کے واسطے ہے نہ عامی کے لئے یا جو شخص نہایت ہی عابد زاہد ہے مگر مزامیر مروجہ صوفیان زمانہ حال و میلاد وغیرہ میں سنت رسول اللہ ﷺ جان کر شرکت کرنا ہو تو ایسے شخص کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں اور کیسے ہوگی۔ تحریمی یا تنزیہی حضور اگر جواب موافق والا نامہ سابق ہی ہے تو جو ثواب عیادت مریض و سلام و شرکت جنازہ کا تھا اس سے ہم لوگ بالکل محروم رہے کیونکہ ہمارے تمام شہر میں کل بدعتی اور شرک کرنے والے ہیں۔ فقط دس بارہ ہی آدمی اس عقیدہ کے ہیں۔ فقط

۳۔ جس کسی سے گناہ مذکور ہو گیا تو کب تک اس کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ بدعتی کے پیچھے نماز مسجد میں پڑھ کر پھر انہیں فرضوں کو گھر آ کر لوٹا دے تو ثواب مسجد کا ملے گا یا نہیں کیونکہ مسجد میں فساد کا اندیشہ ہے اور حضور نے جو فتنہ و فساد کو تحریر فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ (جواب) (۱) جو شخص کسی کبیرہ کا مرتکب ہو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے پس جو شخص غیبت کرتا ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے ہاں احياناً اتفاقاً کسی سے غیبت سرزد ہو جائے تو اس پر یہ حکم نہ ہوگا۔ ایسے ہی جو شخص کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے اور پھر جلد توبہ بھی کرے وہ بھی اس حکم میں داخل نہیں ہے گو کتنی ہی مرتبہ اس سے اس فعل کا صدور ہو۔ بشرطیکہ توبہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ سچی توبہ دل سے ہو مگر بشریت سے پھر صدور ہو جاتا ہو مگر ایسی حالت میں نہ ترک جماعت کرے، نہ اعادہ کرے۔ البتہ اور امام مسجد حتی الوسع تلاش کرے اگر نہ ہو سکے تو تنہا پڑھنے سے ایسے شخص کے پیچھے پڑھ لینا بہتر ہے ایسے لوگوں سے ابتداء سلام بھی ایسی جگہ درست ہے کہ یہ امید نفع دینی ہو یا اندیشہ ضرور ہو..... اور دونوں امر نہ ہوں تو انقطاع کلی ہی چاہئے اور امام بنانا تو ایسے شخص کو سخت گناہ ہے۔ ہاں تبدیل امام سے مجبور ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا چاہئے۔ فقط

۲۔ ایسے لوگوں کی عیادت اور شرکت جنازہ بھی ان ہی مسلمانوں کے حقوق اسلام میں داخل فرمایا



گیا ہے جو نیک اور پرہیزگار ہیں اور جو لوگ فساق فجار ہیں ان سے کسی طرح میل محبت نہ چاہئے بالکل انقطاع چاہئے۔

۳۔ ایسے ہی جو لوگ مزا میر سنتے ہیں وہ فاسق ہیں گو کیسے ہی عابد زاہد ہوں اور ان کی امامت بیشک مکروہ تحریمی ہے اور جب اور شخص کو امام نہ بنا سکے اور دوسری جگہ نہ جاسکے تو لا چاری اور مجبوری کے وقت ایسے لوگوں کی امامت درست ہے۔

۴۔ جب تک وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کی اقتداء مکروہ تحریمی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مراہق کی امامت

(سوال) مراہق کتنی عمر کا ہوتا ہے اور اس کی امامت جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) مراہق کی امامت نادرست ہے اور تیرہ چودہ برس کا لڑکا مراہق ہوتا ہے۔

جامع مسجد کا امام بدعتی و فاسق ہو تو کیا کیا جائے

(سوال) اگر جامع مسجد کا امام بدعتی ہو یا فاسق ہو اس وجہ سے اپنی مسجد محلہ میں جمعہ کر لینا اولیٰ ہے یا نہیں اور اگر بدعتی امام کے پیچھے مقتدی بھی بدعتی ہوں تو ان کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی یا نہیں۔

(جواب) بدعتی کی اقتداء سے اپنا جمعہ اور جماعت الگ کر لینا بہتر ہے بدعتی کے پیچھے اس جیسوں کی نماز بھی مکروہ ہے۔ فقط

## بدعتی کی امامت

(سوال) بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔

(جواب) مکروہ تحریمہ ہے۔

رسول اللہ کو غیب دان جاننے والے کی امامت

(سوال) جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان جانے اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔

(جواب) جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جو خاصہ حق تعالیٰ ہے ثابت کرتا ہو اس کے پیچھے نماز

نادرست ہے۔ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) کیونکہ یہ کفر ہے اس کی اقتداء جائز نہیں۔ ۱۲۔

## مشرک بدعتی فاسق کی امامت

(سوال) مشرک بدعتی گور پرست ظالم فاسق غیر مقلد جو مسلمانوں کی برائیاں حکام سے کرے اور مسجد میں کفار کو شہاوے اور خاطر کرے ان سب کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔  
(جواب) ہر مسلمان کے پیچھے جس کے معاصی کفر تک نہ پہنچے ہوں نماز ہو جاتی ہے مگر اجر و ثواب بہت کم ہوتا ہے اور جس کی نوبت کفر تک پہنچ گئی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔

## بدعتی کی امامت کا حکم

(سوال) بدعتی کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔  
(جواب) بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے فقط۔

## بدعتیہ شخص کی امامت

(سوال) جمعہ کی نماز جامع مسجد میں باوجودیکہ امام بدعتیہ ہو پڑھے یا دوسری جگہ پڑھے۔  
(جواب) جس کے عقیدے درست ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## دائی کے شوہر کی امامت

(سوال) ایک شخص کی بیوی پیشہ دائی کا کرتی ہے اور بے پردہ باہر پھرتی ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔

(جواب) جس کی بیوی دائی ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## بدعتی کے پیچھے جمعہ پڑھنا

(سوال) اگر بدعتی امام کے پیچھے جمعہ پڑھا ہو تو اس کا اعادہ کرے یا نہیں اگر اعادہ کرے تو کس طرح کرے۔

(جواب) اگر بدعتی امام کے پیچھے جمعہ پڑھا ہو تو اس کا اعادہ نہ کرے فقط۔

## امام کا جماعت شروع کرنے میں کسی کا انتظار کرنا

(سوال) جو امام مسجد ایسا ہو کہ جس وقت تک مسجد میں ایک یا دو شخص مخصوص نہ آ جاویں چاہے

جماعت کا وقت معمول بھی گزرنے کے قریب ہو اور وقت میں بھی تاخیر ہوتی ہو مگر اپنے دنیاوی نفع کی باعث یا تعلقات کے سبب سے ان اشخاص کا انتظار کرے اور بغیر ان کے جماعت میں تاخیر کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔

(جواب) اگر بوجہ دنیا کے کسی دنیا دار رئیس کا انتظار کرتا ہے اور حاضرین کی رعایت نہیں کرتا تو امام و مکر گنہگار ہیں مگر نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔

کسی شخص کی یہ خواہش کہ امام اس کی وجہ سے جماعت میں تاخیر کرے (سوال) کسی متولی مسجد یا خادم مسجد ایسا کہتا ہو کہ جب تک ہم اس مسجد میں نہ آ جاویں جماعت نہ کھڑی ہو بلکہ بعض مرتبہ اگر کوئی اجنبی شخص وقت نماز معمولہ مسجد میں بعد میں آ جائے امام کے مصلیٰ پر بکبیر جماعت کے واسطے کہہ دے تو وہ متولی مسجد خفا ہو اور کہے کہ تو نے میری بکبیر اولیٰ قضا کرادی ابھی تو وقت بھی نہ تھا تو نے بغیر ہمارے بکبیر کیوں کہی تو ایسا شخص متولی یا حافظ یا عالم کہ جس نے نماز کو اپنے قبضہ میں کیا ہونہ یہ کہ متولی پابند نماز ہو تو ایسا شخص گنہگار ہے یا نہیں۔

(جواب) جو ایسا شخص متولی ہو کہ اپنے واسطے ایسی تاکید کرے اور تاخیر کرے وہ گنہگار ہے اور ایسوں کا انتظار بھی درست نہیں ہاں عوام مسلمین کا انتظار درست ہے بشرطیکہ دوسروں کو جو حاضر ہو چکے ہیں تکلیف نہ ہو اور وقت بھی مکروہ نہ آ جائے مگر رئیس اور دنیا داروں کا انتظار نہ کرے وقت پر جب سب یا اکثر حاضر ہو گئے تو نماز پڑھ لیوے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

امام یا واعظ کا اپنی اجازت کے بغیر امامت یا وعظ نہ کرنے دینا

(سوال) امام مسجد کو یا واعظ مسجد کو اختیار ہے کہ کسی کو بغیر اجازت کے امام جماعت اولیٰ نہ بننے دے یا واعظ اور کسی واعظ کو اپنی مسجد مقبوضہ میں وعظ نہ کہنے دے ایسا مختار ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب) امام مسجد اور واعظ اگر کسی کو امام نہ ہونے دے وعظ نہ کہنے دے کسی مصلحت شرعیہ اور رفع فساد کے واسطے تو درست ہے کہ انتظام کی بات ہے دوسرے شخصوں کو بھی اس کی رعایت چاہئے رسول اللہ ﷺ نے منع کیا ہے کہ دوسرے کی جگہ میں بدون اذن کے امام نہ بنے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قبرستان میں نماز باجماعت ہو تو سترہ کس کے لئے ضروری ہے  
(سوال) قبرستان میں اگر کوئی شخص امامت کرے اور پیش نظر اس کے کوئی قبر ہو تو سترہ کر لیوے  
مگر پیش نظر مقتدیوں کے قبر ہو تو نماز مقتدیوں کی جائز ہوگی یا نہیں۔ اور سترہ امام کا اس صورت  
میں مقتدیوں کو کافی ہو گا یا نہیں۔

(جواب) قبرستان میں نماز پڑھے تو سب کے واسطے امام اور مقتدی کو سترہ کی حاجت ہے سترہ  
امام کا مقتدی کو کافی ہونا مرد و حیوان اور انسان کے واسطے ہے اور قبور کا حضور مشابہ بشرک و بت پرستی  
کے ہے اس میں کافی نہیں ہے ہر نمازی کے سامنے پردہ واجب ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### نوافل کی جماعت کا مسئلہ

(سوال) نوافل کو باجماعت ادا کرنا اور بالخصوص رمضان میں تہجد اور ادا بین کو جماعت سے  
پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جماعت نوافل کی سوائے ان مواقع کے کہ حدیث سے ثابت ہیں مکروہ تحر ہے فقہ  
میں لکھا ہے اگر تداعی ہو اور مراد تداعی سے چار آدمی مقتدی کا ہونا ہے بس جماعت صلوٰۃ کسوف  
تراویح استسقاء کی درست اور باقی سب مکروہ ہیں کذافی کتب الفقہ۔

### جماعت ثانیہ کا حکم

(سوال) جماعت دوسری کرنا جائز ہے یا نہیں اور دوسری جماعت کے ہوتے ہوئے اکیلے نماز  
پڑھنا کیسا ہے۔

(جواب) جماعت دوسری کرنا اس مسجد محلہ میں جہاں نمازی معین ہیں مکروہ ہے تہا نماز پڑھنا  
بہتر ہے۔ دوسری جماعت کی شرکت سے مگر فساد ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں نہ پڑھے دوسری جگہ  
چلا جاوے۔

### جماعت ثانیہ کا حکم

(سوال) مسجد میں ایک مرتبہ نماز جماعت اولیٰ کے ساتھ ہو گئی اب تھوڑی دیر کے بعد نمازی اور  
جمع ہو گئے تو اب جو دوسری جماعت کی جاوے تکبیر پڑھی جاوے یا نہیں اور اسی مصطلیٰ پر یہ دوسرا امام  
کھڑا ہو جہاں کہ پہلا کھڑا تھا یا دوسری جگہ فاصلہ دے کر۔

(جواب) مسجد محلہ میں دوسری جماعت مکروہ ہے۔ ثواب جماعت کا اس میں نہیں ملتا فقط۔

### جماعت ثانیہ کا حکم

(سوال) جماعت ثانیہ مسجد میں درست ہے یا نہیں۔

(جواب) جماعت مسجد محلہ میں دوبارہ کرنا مکروہ ہے منفرد پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ فقط

مسجد میں الگ نماز پڑھ کر جماعت کرنے کا مسئلہ

(سوال) مسجد میں نماز الگ پڑھ کر بعد کو ایک شخص کے ہمراہ نماز پڑھ لینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) ظہر اور عشاء میں درست ہے فقط۔

### رمضان المبارک میں تہجد کی جماعت کا حکم

(سوال) بعض قصبات میں رواج ہے کہ رمضان شریف میں بعض حفاظ نماز تہجد میں باہم

قرآن شریف سنتے سنتے سنا تے ہیں اور دو چار آدمی اور بھی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں اور ایک

دوسرے کے گھر جا کر جگاتے ہیں اور کسی روز بے اطلاع سب مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں سو یہ

جماعت درست ہے یا نہیں۔

(جواب) نوافل کی نماز تہجد کی ہو یا غیر تہجد سوائے تراویح و کسوف و استسقاء کے اگر چار مقتدی

ہوں تو حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمہ ہے خواہ خود جمع ہوں خواہ بطلب آویں اور تین میں اختلاف

ہے اور دو میں کراہت نہیں۔ کذا فی کتب الفقہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### وقت مقررہ سے پہلے کی جماعت کا حکم

(سوال) اگر کچھ لوگ قبل وقت معین اور امام معین کے جماعت کر لیں بعدہ کچھ نمازی جماعت

بعد کو مع امام معین کے کریں تو جماعت اولیٰ کون سی ہوگی۔

(جواب) اگر چند لوگ وقت معین سے پہلے اور امام معین سے الگ اپنی جماعت کر لیں تو اس

سے جماعت معہود و معمولہ قوم میں کراہت نہ آوے گی اور یہی جماعت اولیٰ شمار ہوگی۔

### مقررہ وقت سے پہلے تکبیر کہنا

(سوال) اگر وقت کی وسعت ہو اور چند آدمی وضو کرتے ہوں اور ایک شخص جلدی کر کے مع چند

آدمیوں کے تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دے اور یہ لوگ کوئی تکبیر اولیٰ سے رہ جائے کوئی رکعت سے رہ جائے تو تکبیر کہنے والا کنہگار ہو گا یا نہیں۔

(جواب) اگر وقت کے اندر وسعت ہے اور کوئی ضرورت شرعی بھی نہیں تو ایسے وقت میں تکبیر کا کہنا اگر چہ گناہ نہیں مگر مستحسن بھی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ بعض وقت مسجد میں تشریف لاتے اور قلت لوگوں کو دیکھتے تو کچھ اقامت صلوٰۃ میں توقف فرماتے تھے لہذا انتظار کر لینا بہتر ہے۔ بشرطیکہ پہلے آنے والوں کو کوئی حرج نہ ہو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مقررہ وقت جماعت سے پہلے جماعت کرنا

(سوال) جماعت کے اوقات معینہ کے قبل اگر کچھ لوگ جماعت کر لیں خواہ معینہ جماعت کے یہ لوگ ہوں خواہ باہر کے تو ان کی جماعت ہوگی یا معینہ اوقات والوں کی۔

(جواب) مسجد محلہ میں حق امام و مؤذن و اہل محلہ کا ہے اور جماعت کرنا ان ہی کو لائق ہے لہذا اگر دوسرے لوگ جماعت کریں گے تو ثواب جماعت کا نہ ہوگا اور جماعت اہل محلہ کی ہووے گی اگر ان کو جلدی ہے تو دوسری جگہ جا کر جماعت کر لیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم اور اگر یہ بھی اسی محلہ کے ہیں اور چند آدمی ہیں۔ جب بھی یہی حکم ہے۔ فقط

کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے یا نماز قضا ہو جائے تو اس کی تلافی

(سوال) ایک شخص جماعت کا بلکہ تکبیر اولیٰ کا پابند ہے اب اتفاقاً اس کی کسی وقت تکبیر اولیٰ نہیں ملی اور وقت میں بھی اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ دوسری مسجد میں جا کر شریک تکبیر اولیٰ ہو۔ اب مجبوراً اس کو مسبوق ہونا پڑا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں تاکہ مجھ کو دنیا و ما فیہا کے برابر ثواب ہو جاوے جس سے میں یوں سمجھ لوں کہ گویا میری تکبیر اولیٰ گئی ہی نہیں تو وہ کونسا کام ایسا کرے کہ جس سے تکبیر اولیٰ کے جانے کی تلافی ہو جاوے اور اگر نماز قضا ہو جاوے تو سوائے نماز کے اور کون سا کام ایسا کرے جس سے اس کے ثواب کی تلافی ہو جاوے گویا نماز قضا ہوئی ہی نہیں۔ فقط

(جواب) نیت سے ثواب تکبیر اولیٰ کامل گیا ہے اور قضا نماز کرنے سے تلافی فوت صلوٰۃ کی ہو جاتی ہے۔ فقط

امام کو قعدہ میں پا کر دوسری مسجد میں نماز کے لئے جانا (سوال) ایک شخص مسجد میں آیا حالت جماعت میں جب تک وضو کیا امام نماز ختم کر کے قعدہ میں تھا وہ شریک قعدہ نہیں ہو اور دوسری مسجد میں پوری جماعت کے واسطے چلا گیا لہذا اس مسجد سے نکلنے اور شریک جماعت نہ ہونے سے گنہگار ہو گا یا نہیں۔

(جواب) اس نماز کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا گناہ ہے گویا اعراض کیا صلوٰۃ سے لہذا اس صلوٰۃ میں شریک ہونا چاہئے کہ صورتہ اعراض نہ ہو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### فجر کی سنتیں فرض کے بعد پڑھنے کا مسئلہ

(سوال) بعد تکبیر فرض فجر کے شریک جماعت ہو جاوے یا سنت پڑھ کر در صورت پڑھنے کے کس جگہ خارج و غائب مسجد یا داخل مسجد اور در صورت شریک جماعت ہو جانے کے بعد فرض کے سنت پڑھے یا نہیں۔

(جواب) اگر جگہ سنت پڑھنے کی پردہ میں نہیں تو شریک فرض کی جماعت کا ہو جاوے شرط ادا سنت کی ایسی حالت میں یہ ہے کہ پردہ سے پڑھے اور ایک رکعت امام کے ساتھ پالیوے اور جماعت کے رو برو کھڑے ہو کر پڑھنا سخت معصیت ہے اور جب یہ سنت رہ گئی تو بعد فرض کے کہیں بھی نہ پڑھے بلکہ اگر پڑھنا ہے تو بعد طلوع شمس کے پڑھے کہ نفل ہو جاوے گے بعد فرض فجر کے نفل کو مطلقاً منع احادیث میں فرمایا ہے یہ مسئلہ بھی مختلفہ ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مغرب کی نماز میں تیسری رکعت پانے والا

#### باقی نماز کس طرح ادا کرے

(سوال) ایک شخص نماز مغرب میں تیسری رکعت میں شریک ہو اور وہ رکعت کا مل امام کی ساتھ اس کو ملی۔ بعد سلام امام کے مقتدی کھڑا ہو کر دو رکعت پڑھ کر بیٹھا اور اتحیات اور رد و شریف وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرا اور اول رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھا اکثر لوگ اس طریقہ کو پسند کرتے ہیں اور اکثر دوسرے طریقہ کو وہ یہ کہ امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھے پھر دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیرے ان دونوں طریقوں میں کون سا طریقہ صحیح و درست ہے اگر دونوں صحیح ہیں تو افضل کون سا ہے جواب بہت جلد مدلل بقرآن و حدیث و فقہ تحریر

فرمادیں۔ اور وہ رکعت معہ قرأت کے پڑھے یا نہیں اور قرأت سر اُڑھے یا جہر اُ۔ بیخواتو جہر اُ۔  
 (جواب) بعد سلام امام کے مقتدی کھڑا ہو کر الحمد سے سورت ملا کر رکعت پوری کرے اور اس  
 میں التحیات پڑھے درود نہ پڑھے پھر دوسری رکعت میں الحمد سورت کے ساتھ پڑھ کر التحیات مع  
 درود پڑھے پھر سلام پھیرے یہی طریقہ جائز و درست ہے اور سوائے اس کے درست نہیں اور  
 قرأت خواہ سر اُڑھے یا جہر اُ اختیار ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مقیم نے مسافر کی اقتداء کی تو باقی نماز کس طرح ادا کرے

(سوال) مثلاً نماز ظہر وغیرہ میں مسافر کی مقیم نے اقتداء کی اور فقط قعدہ یا ایک رکعت کو پایا اب  
 باقی رکعتوں میں قراءۃ کا کیا حکم ہے۔ فقط  
 (جواب) فقط قعدہ ملنے کی صورت میں اول رکعت میں قرأت نہ پڑھے اور اخیر رکعتوں میں  
 پڑھے اور رکعت ثانی سے تیسری اور چوتھی بلا قراءۃ پڑھے اس واسطے کہ لاحق ہو کر مسبوق ہو اور  
 لاحق کے ذمہ قرأت نہیں بخلاف مسبوق کے چنانچہ در مختار میں واقع ہے ثم صلی ما نام فیہ  
 بلا قراءۃ ثم ما سبق بہ بھان کان مسبقاً۔ واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ سراج الدین فرخ آبادی  
 الجواب صحیح بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

امام کے ساتھ جماعت میں کب تک شریک ہو سکتا ہے

(سوال) ایک شخص نے بحوالہ حضرت مولانا مولوی احمد علی صاحب مرحوم بیان کیا کہ مولوی  
 صاحب مدوح فرماتے تھے کہ اگر امام کے السلام علیکم کہنے سے پیشتر مقتدی اقتداء امام کی کرے تو  
 اقتداء درست ہے آیا یہ مسئلہ آپ کی تحقیق میں درست ہے یا نہیں؟  
 (جواب) جواب مولوی احمد علی صاحب کا درست ہے خروج عن الصلوٰۃ السلام کی میم کہنے پر ہوتا  
 ہے نہ قبل تلفظ میم فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

آذان کہہ کر لوگ نہ آئیں تو مؤذن کہاں نماز پڑھے

(سوال) خالی مسجد میں آذان کہہ کر بعد انتظار علیحدہ نماز پڑھے لے تو ثواب نماز کا ہوگا یا نہیں یا  
 کسی اور مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے۔  
 (جواب) جس مسجد میں آذان کہی ہے اسی میں نماز پڑھنی چاہئے دوسری مسجد میں نہ



جاوے۔ (۱) فقط

غیر آباد مسجد میں نماز کا حکم

(سوال) جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا افضل ہے یا جس مسجد میں جماعت نہیں ہوتی اس میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر اس غیر آباد مسجد میں جا کر اذان (۲) و تکبیر سے اپنی الگ نماز پڑھ لے تو بہتر ہے امید ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں جماعت ہونے لگے۔ فقط

مستقل تارک جماعت کو کیا کہیں گے

(سوال) تارک جماعت فاسق معلن ہے یا نہیں۔

(جواب) جو شخص ترک جماعت ہمیشہ بلا عذر کرتا ہے وہ فاسق معلن ہے اور جو احياناً یا بوجہ عذر ترک کرتا ہے وہ نہیں ہے۔

نابالغ لڑکے صف میں کہاں کھڑے ہوں

(سوال) نابالغوں کو صف اول میں کھڑا ہونا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) نابالغ اگر ایک ہو تو اس کو صف کے ایک طرف کھڑا ہونا چاہئے زیادہ ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں صف کے سچ کھڑے ہونے کا حکم نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

ایک بالغ مقتدی کے ساتھ کئی نابالغ مقتدی کیسے کھڑے ہوں

(سوال) جماعت میں ایک مقتدی بالغ ہو اور باقی لڑکے نابالغ ہوں تو کس طرح کھڑے ہوں۔

(جواب) سب لڑکے مقتدی کے پاس کھڑے ہوں اگر قریب بلوغ ہوں اور سب چھوٹے ہوں تو مقتدی امام کے برابر لڑکے پیچھے کھڑے ہوں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

(۱) (ترجمہ) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں ہو تو نماز کے لئے اذان دی جائے تو تم میں سے کوئی مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے۔ (اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے)

(۲) عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کو اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ ایک شخص پہاڑ کے کنارے پر بکریاں چرا رہا ہو نماز کے لئے اذان دیتا ہو اور نماز پڑھ لیتا ہو تو اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ کو دیکھو کہ اذان دیتا ہے نماز کو قائم کرتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے لہذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس کو احمد نسائی، ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ ۱۲

## بدعتیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا

(سوال) ایسی مسجد میں کہ لوگ وہاں بدعات و ممنوعات وغیرہ مثلاً تھویب بعد اذان کہتے ہوں جانا اور نماز جماعت میں شریک ہونا چاہئے یا نہیں۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہم ایک مسجد میں تھویب سن کر چلے گئے تھے اور فرمایا تھا کہ نکالو اس بدعتی کی مسجد سے چنانچہ ترمذی شریف اور فتح القدیر و بحر الرائق وغیرہ میں ہے۔

روی عن مجاهد قال دخلت مع عبداللہ بن عمر مسجد او قد اذن فيه فتوب المؤذن فخرج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ من المسجد وقال اخرج بنا من هذا المبتدع (۱) اور فتح القدیر بحر الرائق یعنی شرح کنز وغیرہ میں ہے۔

روی ان علیاً رضی اللہ عنہ رای مؤذناً یثوب فی العشاء فقال اخرجوا هذا المبتدع من المسجد .

(جواب) یہ بدعت فی العمل تھی اگرچہ گناہ ہے اور ایسے شخص کے پیچھے نماز اولیٰ نہیں مگر چونکہ اس زمانے میں اتنی الناس بہت تھے اور جگہ جگہ ایسے شخص متقی کا اقتدا حاصل ہو سکتا تھا اور کوئی حرج نہ تھا تو آپ چلے آئے مگر اب یہ امر نہیں تو ایسے جزوی امور پر تشدد مناسب نہیں خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حجاج کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ جب مدینہ میں آیا تھا حالانکہ وہ فاسق تھا لہذا اب بھی ایسے نازک وقت میں جزوی امور پر ترک جماعت کرنا موجب زیادہ نزاع کا ہے اس سے پرہیز رکھے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## بعد نماز سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کا وظیفہ

(سوال) بعض لوگوں کو بندہ نے اکثر دیکھا ہے کہ بعد نماز فرضوں کے ہاتھ سر پر رکھ کر دعائیں پڑھتے ہیں ارشاد فرماویں وہ کیا دعائیں ہیں۔ فقط

(جواب) بعد فرض کے مقدس راس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذهب عنی الهم والحزن اس کی تصحیح کسی عالم سے کر لینا

(۱) اور مجاہد سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا جس میں اذان ہو چکی تھی اور مؤذن نے تھویب کی (یعنی لوگوں کو نماز کے لئے دوبارہ بلایا) تو عبداللہ بن عمرؓ مسجد سے نکل گئے اور فرمانے لگے ہمیں اس بدعتی کے پاس سے نکالو۔

زیرِ برکتِ درستی وہ کر دیویں گے فقط والسلام

دھوبی کے پاس سے کپڑا بدل کر آنے کا مسئلہ

(سوال) کسی کا کپڑا دھوبی کے پاس سے جاتا رہا ہے اور وہ دھوبی کسی کا کپڑا اس کا بدل کر دے دے اس کپڑے کو لینا اور اس سے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر کپڑا دھوبی کے یہاں بدلا گیا تو اگر اپنا کپڑا اچھا ہے اس کپڑے سے یا مساوی ہے اس سے نماز پڑھنا اور استعمال کرنا اس کا درست ہے اور اپنا خراب تھا یہ اچھا آیا تو درست نہیں بعد تحقیق تمام اگر نشان نہ لگے تو خود حاجت مند ہے تو استعمال کرے ورنہ صدقہ کر دیوے۔

امامت تراویح یا فرائض کے لئے عمر کا تعین

(سوال) اگر حافظ بلا اجرت کا واسطے تراویح رمضان کے قرآن سنانے کو نہ ملے اور حافظ نابالغ بلا اجرت کا ملے تو اس نابالغ کی امامت جائز ہے یا نہیں دیگر یہ کہ امامت فرائض یا تراویح کے واسطے کم از کم کتنی عمر کا امام ہو سکتا ہے کیا جب تک کہ اس کو احتلام ہوا ہو۔

(جواب) نابالغ کی امامت حسب اصل مذہب درست نہیں اس لئے ایسے موقع پر سورت سے تراویح پڑھ لیں پندرہ سالہ لڑکا قابل امامت ہے اگرچہ کوئی علامت اس میں ظاہر نہ ہو۔

بدعتی کے پیچھے جو جمعہ پڑھا جائے اس کا اعادہ کیوں نہ کیا جائے

(سوال) والا نامہ سابقہ میں حضور نے تحریر فرمایا ہے کہ بدعتی کے پیچھے کی نماز کا اعادہ اولیٰ ہے اس عریضہ سے پہلے عریضہ کے جواب میں نماز جمعہ کے اعادہ کو منع فرمایا لہذا اس کا کیا مطلب ہے کیا ظہر اس کا اعادہ نہیں ہے یا دیگر ہی اوقات کا اعادہ ہے۔

(جواب) بدعتی کے پیچھے کی نماز کا اعادہ اس صورت میں ہے کہ اس نماز کے بعد اسی قسم کے نوافل مکروہ نہ ہوں اور جمعہ کو اگر اعادہ کیا جائے گا تو بوجہ اشتراط جماعت و خطبہ وغیرہا جمعہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جمعہ کا اعادہ نہیں۔ فقط

داڑھی منڈانے والے کی امامت

(سوال) داڑھی منڈانے والے امام کے پیچھے فجر عصر کی نماز پڑھ کر اعادہ نماز کرنا اولیٰ ہے یا نہ کرنا اعادہ کا اولیٰ ہے۔ فقط

(جواب) فاسق کا امام بنانا حرام ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو بکراہت تحریم ادا ہو جاتی ہے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جائے تو ہرگز نماز نہیں ہوتی اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر پڑھے ہی لے تو اعادہ کر لینا اچھا ہے بعض فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر اور فجر کے بعد بھی جائز ہے۔

جس شخص کے یہاں پردہ شرعی نہ ہو اس کی امامت

(سوال) مسئلہ جس شخص کے یہاں پردہ نہ ہو وہ امامت کے قابل ہے یا نہیں۔

(جواب) جس کے یہاں پردہ شرعی نہ ہو وہ اس کی امامت درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قاتل کی امامت

(سوال) خونیں قتل کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔

(جواب) خونیں نے اگر اپنے فعل سے توبہ کر لی ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ملفوظات

الزراق مناكب والقدم کا مطلب

۱۔ الزراق مناكب والقدم سے اتصال صفوف و محازات اعضا مراد ہے اور جو حقیقت لمحق مراد ہو تو کعب یا کعب کس طرح متصل ہو سکتا ہے کہ آدی اوپر سے عریض قدم کے پاس سے دقیق اگر اقدام کو فراخ کرے اور پھیلا کر رکھے تو خشوع کے خلاف اور موجب کلفت کا ہے اور حکم تراصوانی الصوف دلیل محازات اور اتصال صفوف ہے۔ واللہ اعلم

پابند رسوم کفار کی امامت

۲۔ جو شخص رسوم کفار کا پابند ہو اور شریک ہو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## جماعت ثانیہ کا حکم

۳۔ جماعت ثانیہ مکروہ ہے لہذا اعلیٰ حد ہر پڑھ لینا اولیٰ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## طمع دنیا رکھنے والے کی امامت

۴۔ نماز اس امام کے پیچھے ادا ہو جاتی ہے اگرچہ وہ طمع دنیا رکھتا ہے اس کے پیچھے پڑھ لینا چاہئے جدا پڑھنے سے بہر حال بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## باب: سنتوں اور نفلوں کا بیان

## فجر کی سنتیں قبل طلوع آفتاب پڑھنا

(سوال) صبح کو بعد فرض کے اگر دو سنتیں اول کی رہ گئی ہوں تو قبل طلوع آفتاب پڑھ لے یا نہیں اس میں آپ کی رائے شریف کیا ہے اور سوائے قول امام صاحب کے آپ کو حدیث سے کیا ثابت ہوا۔ آیا پڑھنا یا نہ پڑھنا۔

(جواب) بندہ کے نزدیک سب احادیث جمع کر کے راجح نہ پڑھنا ہے کہ حجت اس کی قوی ہے۔

## فجر کی سنتیں بعد طلوع آفتاب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں

(سوال) فجر کی سنت اگر قبل از فرض ادا نہ ہوئی ہوں تو بعد طلوع آفتاب کے ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں۔

(جواب) بعد طلوع آفتاب اگر سنن ادا کرے تو اولیٰ ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## عیدین کے روز اشراق و چاشت کا پڑھنا

(سوال) عیدین کے روز نماز اشراق اور چاشت پڑھنا چاہئے یا نہیں پڑھنے کی بات میں تو کچھ حجت نہیں اگر نہ پڑھنے کا حکم ہے تو اس کی لم کیونکر اور کس طرح پر ہے۔

(جواب) قبل عیدین نوافل ثابت نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## تہجد و اشراق کی قضا کا مسئلہ

(سوال) آج کی تاریخ سے ذکر موافق معمول سابق کرتا ہوں جب بیمار ہوا تھا تب سے اکثر

اوقات لیٹ کر ذکر خفی کیا نہ حضور قلب ہو نہ وضو رہتا تھا بلکہ فقط لفظ اللہ زبان سے کہہ دیتا تھا لہذا ذکر بے وضو میں حصول مقصد میں تو کچھ دیر نہیں ہوتی ایک روز نماز تہجد و اشراق بھی قضا ہوئی اس کی قضا ہے یا نہیں۔

(جواب) قضا نہ تہجد کی واجب ہے نہ چاشت اشراق کی نہ ذکر کی مگر اس قدر نوافل یا مقدار ذکر دوسرے وقت پورے کر لئے جائیں تو مستحب اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ فقط

**صلوٰۃ التبیح کے قومہ میں ہاتھ باندھیں یا کھلے رکھیں**

(سوال) صلوٰۃ التبیح میں قومہ میں ہاتھ باندھ کر تسبیح پڑھنا اولیٰ ہے یا ہاتھ کھول کر۔

(جواب) ہاتھ کھول کر پڑھنا چاہئے۔ فقط

**ظہر و مغرب کے نوافل کا ثبوت**

(سوال) نماز نفل دو رکعت جو فرضوں کے بعد وقت ظہر اور وقت مغرب پڑھے جاتے ہیں اس کا ثبوت کس کتاب حدیث یا فقہ سے ہے۔

(جواب) بعد فرض مغرب کے دو رکعت سنت موکدہ ہیں جملہ احادیث سے ثابت ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں اور ماسوائے اس کے جو نوافل ہیں وہ مشروع ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

**جمعہ کے بعد کی رکعات**

(سوال) بعد جمعہ کے کتنی رکعت مسنون ہیں۔

(جواب) چھ رکعت چار ایک سلام اور دو ایک سے فقط۔

**سنتوں کے بعد قضا عمری کا پڑھنا**

(سوال) فجر و ظہر کی سنتوں کے بعد قضا عمری میں نماز نفل پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور نماز قضا عمری اور فجر کی سنتوں کا اندھیرے میں پڑھنا کہ جہاں سجدہ کی جگہ نہ دکھتی ہو۔ یعنی اول وقت پڑھنا جائز ہے یا نہیں یا مکروہ۔

(جواب) سنتوں کے بعد قضا نفل درست ہے مگر اولیٰ یہ ہے کہ سنت و فرض کے درمیان اور کچھ فاصلہ نہ ہو ایسے ہی بعد کی سنتیں اولیٰ یہ ہے کہ فرضوں کے ساتھ متصل پڑھے فقط۔

عشاء کے بعد کے نوافل کس طرح پڑھے

(سوال) ایک شخص دریافت کرتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے عشاء کے بعد نفل بیٹھ کے پڑھے ہیں یا کھڑے ہوئے۔

(جواب) رسول اللہ ﷺ نے بیٹھ کے نفل ادا فرمائے مگر اور جو شخص بیٹھ کر پڑھے تو اس کو نصف (۱) ثواب ملے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

وتر کے بعد کے نوافل کس طرح پڑھے

(سوال) وتر کے بعد جو دو نفل پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھنے یا بیٹھ کر اور ان دونوں صورتوں میں سے ثواب کس میں ہے بحالت بیٹھ کر پڑھنے کی کیا وجہ ہے کہ ان نوافل کے ثواب کو کھڑے ہو کر نفل جو پڑھی جاویں ان پر ترجیح ہو۔

(جواب) اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پورا ثواب ہوگا اور اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا رسول اللہ ﷺ نے بعض مرتبہ بیٹھ کر پڑھے ہیں مگر آپ کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی ثواب پورا ہوتا تھا۔

تہجد کی رکعات

(سوال) تہجد میں کتنی رکعت ہیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ۔

(جواب) تہجد میں کم از کم دو رکعت سنت ہے اور زیادہ سے زیادہ جس قدر پڑھ لے درست ہیں مگر حضرت ﷺ سے علاوہ وتر آٹھ رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہیں۔ فقط

(۱) رسول اللہ ﷺ سے روایت ہے کہ تمہاری نماز بیٹھے ہوئے اس کے کھڑے ہوئے نماز کے نصف کے برابر ہے اس کو سوطا میں امام مالک نے روایت کیا ہے۔

## ملفوظات

## تہجد کا کوئی خاص طریقہ نہیں

۱۔ تہجد کا کوئی طریق خاص نہیں، آپ کی عادت تھی کہ بعد نصف شب کے اٹھتے اور وضو کر کے اول دو رکعت خفیہ پڑھ کر پھر دو رکعت کی نیت کر کے قرآن کثیر اس میں پڑھتے تھے۔ گاہ آٹھ رکعت یہ اکثر ہوا گاہ دس رکعت گاہ چھ رکعت اور بعد رکعات تہجد کے وتر پڑھتے تھے۔ فقط جب تکبیر فجر کے فرض کی ہو تو سنت چھوڑ کر فرض میں شریک ہو جاوے مگر جو سنت کو ایسی جگہ پڑھ سکے کہ سب کی نظر سے غائب ہو اور جماعت کی ایک رکعت بھی مل جاوے تو سنت پڑھ کر شریک ہو مسجد میں سنت ہرگز نہ پڑھے اور سنت رہ جاوے تو بعد آفتاب چڑھنے کے چاہے پڑھ لیوے ورنہ ضرورت نہیں۔ جہاں جمعہ درست ہے وہاں احتیاط ظہر کی کچھ حاجت نہیں اور جہاں جمعہ درست نہیں وہاں فرض ظہر کے جماعت سے پڑھے جمعہ نہ پڑھے۔ انگریز کی عملداری جمعہ کو مانے نہیں۔ مراد آباد میں جمعہ درست ہوتا ہے احتیاط ظہر نہ پڑھو فقط والسلام۔

## بعد وتر نفل کھڑے ہو کر پڑھنا

۲۔ بعد وتر نفل کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے، بہ نسبت بیٹھ کر پڑھنے کے اور مالا بد کی

اس روایت کا اعتبار نہیں ہے۔



## باب: تراویح کا بیان

### تراویح کے رکعات کی تعداد پر مفصل بحث

(سوال) صلوٰۃ تہجد اور صلوٰۃ تراویح دو نماز ہیں یا ایک اور صلوٰۃ تراویح کی جو بیس رکعات پڑھتے ہیں آیا یہ مسنون ہیں یا بدعت اور قرونِ ثلاثہ میں سے کسی عالم کی رائے بست رکعت کے بدعت ہونے کی ہوئی ہے یا نہیں اور آئمہ مجتہدین کا اس میں کیا مذہب ہے۔ بیواؤ تو جروا۔

(جواب) حامد اومصلیٰ اقول وباللہ التوفیق کہ نماز تہجد اور نماز تراویح ہر دو صلوٰۃ جداگانہ ہیں کہ ہر دو کی تشریح اور احکام جدا ہیں کہ تہجد ابتداء اسلام میں تمام امت پر فرض ہوا اور بعد ایک سال کے تہجد کی فرضیت منسوخ ہو کر تہجد تطوعاً رمضان وغیر رمضان میں جاری رہا۔ قال اللہ تعالیٰ یا ایہا المزمئل قم اللیل الآیۃ (۱) عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حدیث طویل میں کہ تہجد بعد فرض ہونے کے نفل ہو گیا چنانچہ ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

قال قلت حدیثی عن قیام اللیل قالت الست تقرأ یا ایہا المزمئل قال قلت بلی قالت فان اول هذه السورة نزلت فقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت اقدامهم وحبس خاتمتهافي السماء اثني عشر شهر ثم نزل اخرها فصار قیام اللیل تطوعاً بعد فريضة (۲) الی آخر الحدیث اس سے ثابت ہوا کہ تہجد قبل ہجرت ابتداء اسلام میں تطوعاً شروع ہو چکا تھا اور اس پر سب صحابہ تطوعاً رمضان وغیر رمضان میں عمل درآمد رکھتے تھے اور تراویح کا اس وقت میں کہیں وجود نہیں تھا پھر بعد ہجرت کے جب صوم رمضان فرض ہوا تو اس وقت رسول اللہ ﷺ نے خطبہ پڑھا اور اس میں یہ فرمایا جعل الله صیام فريضة و قیام تطوعاً الی (۳) آخر

(۱) اے چادر اوڑھنے والے (یعنی رسول اللہ ﷺ) جاگ رات میں۔

(۲) کہا راوی نے عرض کی میں نے (یعنی حضرت عائشہ کی خدمت میں) حدیث بیان کیجئے مجھ سے آنحضرت کے قیام لیل کے بارے میں فرمایا حضرت عائشہ نے کیا نہیں پڑھتا تو یا ایہا المرءل کہا عرض کی میں نے ہاں پڑھتا ہوں فرمایا جب اول اس صورت کا نازل ہوا تو صحابہ آنحضرت نے قیام لیل کا کیا یہاں تک کہ ورم آ گیا ان کے قدموں پر اور روک لیا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ اس صورت کا آسمان میں بارہ مہینہ تک پھر نازل ہوا آخراً اس کا اور قیام لیل فرض سے نفل ہو گیا۔

(۳) کر دیئے اللہ تعالیٰ نے روزے اس کی فرض اور قیام اس کا نفل ۱۲۔

الحديث اس روایت کو مشکوٰۃ نے بیہقی سے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان اس وقت متفقاً مقرر ہوا اور اس سے یہ سمجھنا کہ تہجد جو سابق سے تطوع تھا اس کا ذکر فرمایا ہے بعید ہے کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اس طرح فرماتے کہ نماز تہجد اب بھی نفل ہی ہے یا مثل اس کے کچھ الفاظ فرماتے اس واسطے کہ تہجد پہلے سے رمضان میں جاری تھا پھر اب اس کا ذکر کرنا کیا ضرور تھا۔ جیسا کہ دیگر صلوات فرض و نفل کا کچھ ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ بعض احادیث میں اعمال رمضان کی فضیلت فرمائی ہے اور اس فقرہ میں کوئی فضیلت کی بات نہیں بلکہ دوسری صلوٰۃ نفل کی مشروعیہ کا ذکر ہونا ظاہر ہے اور دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی اس طرح پر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کتب اللہ علیکم صیامہ و سنت لکم قیامہ (۱) اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے باذن اللہ تعالیٰ قیام رمضان کو تطوعاً مقرر فرمایا حالانکہ تہجد خود بحکم خدا تعالیٰ قبل اس سے نفل ہو چکا تھا اور قیام رمضان کو خود رسول اللہ ﷺ نے متفق فرمایا سو اس سے بھی معلوم ہوا کہ تہجد و تراویح تشریحاً و نمازیں ہیں کہ دو وقت میں مقرر کی گئی ہیں۔

اور تہجد قرآن شریف سے ثابت ہوا اور تراویح حدیث رسول اللہ ﷺ سے اور رسول اللہ ﷺ نے ہر روز تہجد کو آخ شب میں پڑھا ہے چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت ہے ثم قلت فالی حین کان یقوم من اللیل قالت کان اذا سمع الصارخ (۲) اور دیگر روایات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور تراویح کو آپ نے اول لیل میں پڑھا ہے مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

عن ابی ذر قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم بنا شیئا من الشهر حتی بقی سبع فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل فما کانت السادسة لم یقم بنا فلما کانت الخامسة قام بنا حتی ذهب شطر اللیل فقلت یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیلة فقال ان الرجل اذا صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلۃ فلما کانت الرابعة لم یقم بنا حتی بقی ثلث اللیل فلما کانت الثالثة جمع اهلہ و نساءه و الناس فقام بنا حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم یقم بقیة

(۱) فرض کر دئے اللہ تعالیٰ نے روزے اس کے (یعنی رمضان کے) اور سنت بنایا میں نے قیام اس کا۔

(۲) پھر کہا میں نے (یعنی راوی نے) کہ کس وقت رسول اللہ ﷺ اٹھتے تھے رات کو فرمایا جب سنتے تھے آواز مرغ کی۔ ۱۲۔

الشہور۔ (۱) (رواہ ابو داؤد و الترمذی والنسائی وابن ماجہ) پہلی اور دوسری دفعہ میں تو نصف لیل تک فراغت پائی اور تیسرے دن اول سے لے کر اخیر شب تک ادا فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دو صلوٰۃ جدا گانہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ تہجد کو ہمیشہ منفرد اڑھتے تھے کبھی بہ تداوی جماعت نہیں فرمائی اگر کوئی شخص آکھڑا ہوا تو مضائقہ نہیں جیسا کہ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ خود ایک دفعہ آپ کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تھے بخلاف تراویح کے کہ اس کو چند بار تداوی کے ساتھ جماعت کر کے ادا کیا۔

چنانچہ اسی حدیث ابو ذر سے واضح ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر دو صلوٰۃ جدا گانہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ تہجد کے واسطے تمام رات کبھی نہیں جاگے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان تہجد میں فرماتی ہیں واعلم ما رایت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کله فی لیلۃ واحده ولا صلی لیلۃ الی الصبح الی اخر الحدیث اور یہ ان کی تحدید صلوٰۃ تہجد میں ہے ورنہ صلوٰۃ تراویح میں صبح تک نماز پڑھنا روایت ابو ذر سے خود ہو چکا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی خود اس کا علم ہے اس واسطے کہ آپ نے اپنی سب اہل و نساء کو جمع کیا تھا پھر باوجود اس امر کے جو آپ انکار احواء تمام لیل کا فرماتی ہیں تو یہ کہنا کہ آپ کو خبر نہیں یا نسیان ہوا نہایت بیجا ہے بلکہ یہ وجہ ہے کہ انکار احواء تمام لیل کا صلوٰۃ تہجد میں وارد ہوا کیونکہ سعد بن ہشام راوی حدیث صلوٰۃ تہجد ہی کو پوچھتے تھے اور اسی کے باب میں آپ نے یہ امر فرمایا تھا چنانچہ مسلم میں یہ روایت موجود ہے نہ تراویح میں کہ اس کا یہاں ذکر ہی نہیں تھا علی ہذا اجوام سلمہ نے قیام رمضان کو پوچھا ہے تو وہاں بھی مراد قیام رمضان سے تہجد ماہ رمضان کا ہے غرض ان کی

(۱) مروی ہے حضرت ابو ذر سے کہ روزے رکھے ہم نے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پس نہ قیام کیا ہمارے ساتھ مہینہ میں سے یہاں تک کہ سات دن رہ گئے (اور مہینہ اسی کا تھا) پس قیام کیا ہمارے ساتھ (یعنی بیسیوں رات کو) یہاں تک کہ گذر گئی تہائی رات پس جب چھٹی رات آئی (یعنی مہینہ کی آخر سے شمار کرتے ہوئے وہ اسی دن والے مہینے میں چوبیس رات ہے) نہ قیام کیا ہمارے ساتھ پھر جب اسی حساب سے پانچویں رات کو انی الحقیقت پچیسویں سے پیش آئی تو قیام کیا ہمارے ساتھ یہاں تک کہ نصف رات گذر گئی پس عرض کی میں نے (یعنی ابو ذر۔) یا رسول اللہ کاش کہ زیادہ کرتے آپ ہمارے لئے قیام اس رات کا فرمایا البتہ شخص جب نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے لکھا جاتا ہے اس کے حق میں قیام رات ساری کا (یعنی اگر چہ ساری رات کا قیام نہ ہو) پھر جب اسی حساب سے چوٹی رات آئی (کہ وہ فی الحقیقت چھبیسویں سے نہ قیام کیا ہمارے ساتھ یہاں تک کہ باقی رہی تہائی رات پھر جب تیسری رات آئی کہ وہ فی الحقیقت ستائیسویں سے شروع کیا یعنی کنبہ کو اپنی عورتوں کو اور لوگوں کو پس قیام کیا ہمارے ساتھ یہاں تک کہ ڈرے ہم کہ فوت ہو جائے ہم سے فلاح عرض لی میں نے کہ کیا مراد ہے فلاح سے فرمایا کہ حشری پھر قیام نہ کیا ہمارے ساتھ باقی مہینہ میں (یعنی اٹھائیسویں اور اسیسویں کو) (اس کو ابو داؤد و ترمذی و نسائی۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے)

(۱) اور نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہ بڑھا ہوسارا تمام اللہ ایک رات میں یا نماز پڑھی ہو ساری رات ۱۲۔

یہ تھی کہ تہجد رسول اللہ ﷺ کا رمضان میں بہ نسبت اور شہور کے زیادہ ہوتا تھا یا نہیں۔ بخاری میں ہے۔ عن ابی سلمة بن عبدالرحمن انه سال عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر قال يا عائشة عن عيني تنا مان ولا ينام قلبي (۱) کیونکہ ظاہر متبادر اس حدیث سے یہ ہے کہ ابو سلمہ نے خاص قیام رمضان کا سوال کیا اور حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ رمضان میں کوئی خاص نماز نہیں تھی۔ بلکہ رمضان وغیرہ رمضان میں ہر روز گیارہ رکعت پڑھتے تھے اس سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے اور ہیئت پڑھنے کی یہ تھی کہ چار رکعت پڑھی اور سو گئے پھر چار رکعت پڑھی اور سو گئے پھر تین وتر پڑھے اور دُعا یہی عادت تھی۔ رمضان وغیرہ رمضان میں اس کے خلاف نہیں پس اگر اس کے یہی معنی ہیں تو یہ حدیث بہت سی روایات کے معارض ہوتی ہے اور واقع کے بھی خلاف ہے کیونکہ حضرت عائشہ خود آپ ہی تیرہ رکعت روایت فرماتی ہیں۔ چنانچہ موطا امام مالک میں ہے عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء للصبح بر كعتين خفيفتين (۲) اور حضرت ابن عباس خود تیرہ رکعت تہجد کی غیر رمضان میں نقل کرتے ہیں اور بعض دیگر صحابی بھی تیرہ رکعت روایت کرتے ہیں اور یہ دونوں ہیئت صلوٰۃ کی بھی خلاف اس ہیئت مذکورہ فی حدیث عائشہ کے ہے چنانچہ مسلم میں بذیل روایت طویلہ ابن عباس سے مروی ہے قال ابن عباس فقامت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقامت الى جنبه فوضع رسول الله ﷺ يده اليمنى على راسي واخذ باذني اليمنى يفتدها فصلى

(۱) مروی ہے حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن سے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ نماز رسول اللہ ﷺ کی رمضان میں (یعنی تہجد کی) کیسی تھی پس فرمایا حضرت عائشہ نے کہ نہ زائد کرتے تھے رسول اللہ ﷺ رمضان اور خارج رمضان کے گیارہ رکعت پر نماز پڑھا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ چار رکعتیں پس نہ پوچھے ان کے حسن اور درازی سے پھر پڑھتے تھے چار رکعت پس عرض کی میں نے (یعنی حضرت عائشہ نے) کیا سوتے ہیں آپ یا حضرت وتر پڑھنے سے پہلے فرمایا آپ نے اے عائشہ آ نکھیں میری سوتی ہیں اور نہیں سوتا دل میرا ۱۲۔

(۲) مروی ہے حضرت عائشہ سے کہ تھے رسول اللہ ﷺ پڑھتے رات میں تیرا رکعتیں پھر پڑھتے تھے جب سننے تھے اذان صبح کی دو رکعتیں بلکی ۱۲۔



وایقظ اہلہ الحدیث (۱) اور بیہوشی نے روایت کیا ہے اذا دخل رمضان لم یات فراشہ حتی ینسلخ الحدیث (۲) ان دونوں حدیثوں سے شدت اجتهاد و عبادت اور احیائے تمام لیل حاصل ہے نہ مساوات رمضان وغیرہ رمضان کی اور حضرت عائشہ نے جو بیان تہجد رسول اللہ ﷺ کا سعد بن ہشام سے کیا وہ بھی اس روایت کے خلاف ہے چنانچہ روایت طویلہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ فقالت کنا نعدلہ سواکہ و طہورہ فبعثہ اللہ ما شاء ان یبعثہ من اللیل فیتسوک و یتوضا و یصلی تسع رکعات لا یجلس فیہا الا فی الثامنۃ فیذکر اللہ و یحمدہ و یدعوہ ثم ینہض و لا یسلم ثم یقوم فیصلی التاسعۃ ثم یقعد فیذکر اللہ و یحمدہ و یدعوہ ثم یسلم تسلیمًا یسمعنہا ثم یصلی رکعتین یعدما یسلم و هو قاصد فتلک احدی عشرۃ رکعۃ یا بنی الخ. (۳)

حاصل نفی زیادہ رکعات کی گیارہ سے اور بیہوشی خاص مخدوش ہوتی ہے لہذا حق یہ ہے کہ معنی حدیث کے یہ ہیں کہ ابو سلمہ نے بائیں وجہ کہ رمضان میں آپ کا اجتهاد عبادت زیادہ ہوتا تھا تہجد رمضان کو پوچھا تھا کہ آیا رمضان میں تہجد آپ کا بہ نسبت اور ایام کے زیادہ ہوتا تھا یا نہیں تو حضرت عائشہ نے زیادہ تہجد کی نفی کی صلوٰۃ تراویح سے اس میں کچھ بحث نہیں نہ سوال میں نہ جواب میں۔ اور گیارہ رکعت کا ذکر اکثر یہ ہے کہ کلیہ کہ اکثر تہجد کی رکعات آپ کی گیارہ ہوتی تھیں۔ اگرچہ احیاناً اس سے زیادہ بھی پڑھی ہیں تو اس حدیث میں نہ احیاناً زیادہ تہجد کی نفی ہے اور نہ ذکر قیام رمضان کا جو سوائے تہجد کے ہے بلکہ ذکر ان عدد رکعات کا ہے جو اکثر اوقات تہجد رمضان وغیرہ رمضان میں ہوتا تھا۔

اور بعد اس کے یہ جملہ یصلی اربعاً الخ (۴) یہ دوسرا امر ہے جس سے آپ کی قوت

- (۱) جب داخل ہوتا تھا آخر عشرہ رمضان کا باندھ لیجئے تہجد اپنا اور اپنی رات زندہ کرتے تھے اور اپنے کنبہ کو جگا لیتے تھے۔
- (۲) جب داخل ہوتا تھا رمضان نہیں آتے تھے اپنے بچھوئے پر یہاں تک کہ نکل جائے ۱۲۔
- (۳) فرمایا حضرت عائشہ نے کہ تھے ہم تیار رکھے رسول اللہ ﷺ کے سواک اور پانی وضو کا سوکا اٹھتے تھے رسول اللہ ﷺ رات میں جب اٹھائے اللہ تعالیٰ ان کو پس سواک کرتے تھے اور وضو اور بڑھتے تھے نور رکعتیں نہیں بیٹھتے تھے ان میں سے مگر آٹھویں میں (یعنی وتر کی دو رکعت کے بعد اور تیسرے کی پہلی) پھر یاد کرتے تھے اللہ کو اور ثناء کرتے تھے اس کی اور دعا مانگتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے اور سلام نہ پھیرتے تھے پھر بڑھتے تھے نوں رکعت اور قعدہ کرتے اور یاد کرتے اللہ کو اور ثناء کرتے اس کی اور دعا مانگتے پھر سلام پھیرتے ایسے سلام کہ ہمیں سنائی دیتے پھر بڑھتے تھے دو رکعت بعد سلام کے بیٹھ کر پس یہ گیارہ رکعت ہوئیں اے جئے۔ ۱۲۔
- (۴) کہ چار پڑھتے تھے۔

عبادت پر تنبیہ منظور ہے کہ نوم دینفظ آپ کے اختیار میں تھا جب چاہیں جاگیں جب چاہئیں سوئیں اور آپ احیاناً ایسا کرتے تھے نہ اس ہدیہ کو خصوصیت رمضان سے ہے نہ لزوم ان رکعات سے بلکہ یہ بعض اوقات کی حالت کا بیان ہے اور یہ مستقل جملہ ہے چونکہ قاعدہ بلاغت میں مقرر ہو چکا ہے کہ عطف جملہ کا جملہ پر اس وقت کرتے ہیں کہ ہر دو جملوں میں بعض وجہ سے اتصال اور بعض وجہ سے انفصال ہو اگر بالکل اتصال ہو یا بالکل انفصال ہو تو حرف عطف ذکر نہیں کرتے پس یہاں حرف عطف ذکر نہ کرنا وجہ کمال انفصال ہے نہ وجہ کمال اتصال چونکہ بیان شدت اجتہاد تھا اس وجہ سے اس کلام کو آپ نے ذکر کیا ورنہ جواب ان کے سوال کا جو عدد رکعات تہجد رمضان کا استفسار تھا وہ تمام ہو چکا تھا۔ پس اس تقریر پر نہ معارضہ احادیث سے زیادہ کافی رہا ورنہ ہدیہ کا اور نہ احیاء تمام لیل کا سب احادیث مطابق واقع کے اور باہم موافق ہو گئیں اور یہی مراد حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے پس معلوم ہوا کہ تمام شب نماز نہ پڑھنا تہجد کے واسطے ہے اور پڑھنا تراویح کی واسطے ہے..... اور بخاری نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت تراویح کو جو اول وقت میں حضرت ابی کرار ہے تھے اور یہ جماعت خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مقرر کرائی ہوئی تھی دیکھ کر فرمایا والنسی تنسا منون عنہا افضل من النسی تقومون تو اس سے یہی اگر مغایرت دونوں نمازوں کی نکالی جاوے تو بعید نہیں کیونکہ معنی اس قول کے یہ ہیں کہ جو نماز کہ اس سے سورتے ہو تم یعنی تہجد کہ آخرات میں ہوتی ہے افضل ہے اس نماز سے جو پڑھتے ہو تم یعنی تراویح کہ اول وقت پر پڑھتے تھے اور چونکہ یہ لوگ تراویح کو پڑھ کر تہجد کو نہیں اٹھتے تھے تو حضرت عمر نے ان کو رغبت تہجد پڑھنے کی بھی دلائی کہ افضل کو ترک نہ کرنا چاہئے۔ لہذا اول وقت میں تراویح اور آخر میں تہجد ادا کریں۔ ورنہ اس تراویح کو اخیر وقت میں پڑھیں کہ فضیلت بھی حاصل ہو جاوے اور آخر وقت کی تراویح سے تہجد بھی حاصل ہو جائے کہ بتداخل صلوٰتین دونوں نماز کا ثواب ملتا ہے اور اس سے افضلیت وقت بھی معلوم ہوگی۔ چنانچہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے فعل سے صراحت یہ ثابت نہیں ہوا کہ جب آپ نے اول رات میں تین روز تراویح پڑھی تو اخیر وقت میں تہجد پڑھایا نہیں واللہ اعلم مگر فعل صحابہ سے اس کا نشان ملتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد نے قیس بن طلح

سے روایت کی ہے فلما زار ناطق بن علی فی یوم من رمضان وامسى عندنا و افطر ثم قام بنا تلك اليلة و او تر بنا ثم انجد رانی مسجدہ فصلى باصحابه حتى اذا بقى الو تر قدم رجلا فقال او تر باصحابك فانی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا و تران فی ليلة انتھی..... اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ طلق بن علی نے اول لوگوں کے ساتھ موافق فعل رسول اللہ ﷺ کے اول وقت میں تراویح ادا کی اور وتر بھی اس کے ساتھ پڑھے جیسا کہ فعل رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور بعد اس کے اپنی مسجد میں جا کر آخر وقت میں تہجد ادا کیا اور اس کے ساتھ وتر نہیں پڑھے اور مقتدیوں کو حکم کیا کہ تم اپنے وتر پڑھ لو اور چونکہ رسول اللہ ﷺ تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے تھے لہذا وہ مقتدی تہجد گزار کے ساتھ وتر پڑھنا چاہتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ دونوں وقت میں نماز پڑھی گئی اور صحابہ اتباع رسول اللہ ﷺ میں نہایت سرگرم تھے سو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے دوسرے وقت میں تہجد پڑھا ہوگا اور یہ جو بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ فرماتی ہیں۔ اذا دخل العشر شد میزره واحی لیلہ و ایقظ اهلہ الحدیث اس سے تین امر ثابت ہوتے ہیں اول یہ کہ ان ایام میں رسول اللہ ﷺ تمام رات جاگے ہیں اس واسطے کہ احیاء لیلہ وہیں بولا جاتا ہے کہ تمام رات جاگیں۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو انکار تمام رات کے جاگنے کا کیا ہے وہ تہجد کی نسبت ہے نہ مطلقاً تو اس بیان میں خود تمام رات جاگنے کو ارشاد فرماتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جن دو شب میں رسول اللہ ﷺ نے تراویح کو ثلث لیل تک اور نصف لیل تک پڑھا تھا تو بعد نصف شب کے آپ سوئے نہیں کیونکہ وہ لیالی بھی داخل عشرہ تھیں پھر بعد نصف شب کے غالب گمان یہ ہے کہ نوافل پڑھیں کہ وہ تہجد تھیں کیونکہ آپ کی عادت رات کو نماز ہی پڑھنے کی تھی۔ بیٹھ کر ذکر کرنا یا قرآن پڑھنا معتاد نہیں اس سے بھی اختلاف دونوں نمازوں کا مظنون ہوتا ہے تیسرے یہ کہ تراویح آپ نے ہمیشہ پڑھی کہ اول شب میں جو کچھ پڑھتے تھے وہ تراویح تھی اور آخر شب میں تہجد سو تراویح فعلاً بھی سنت مؤکدہ ہوئی اور جو کچھ کہ آپ نے بخوف افتراض ترک کیا تھا۔ وہ جماعت بتداعی تھی نہ نفس تراویح۔ الحاصل ان سب وجوہ سے مغائرت

(۱) کہا قیس بن طلق نے زیارت کی ہماری طلق بن علی نے دن میں رمضان کے اور شام کو ہمارے پاس ہی اظہار کیا پھر قیام کیا ہمارے ساتھ اس رات میں اور وتر پڑھے ہمارے ساتھ پھر گئے اپنی مسجد کی طرف اور نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو یہاں تک کہ باقی رہ گئے وتر پھر آگے کیا کسی آدمی کو اور کہا وتر پڑھا اپنے ساتھیوں کو اس واسطے کہ سنا ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے تھے کہ ایک رات میں دو دفعہ وتر نہیں ۱۲۔



تہجد و تراویح کی ظاہر ہے مگر ہاں ایک نماز دوسرے کی قائم مقام ہو سکتی ہے کہ اگر تہجد کے وقت میں تراویح پڑھی جاوے تو تہجد بھی ادا ہو جائے گی اور یہ امر سب نوافل میں ہے۔ مثلاً اگر بوقت ضحیٰ صلوٰۃ کسوف پڑھی جائے قائم مقام صلوٰۃ ضحیٰ کے ہو جاتی ہے اور اگر خسوف قمر کی نماز تہجد کے وقت پڑھی جائے تو تہجد بھی ادا ہو جاتا ہے اگرچہ بحیثیت تراویح تراویح تہجد سے جدا صلوٰۃ ہے اور صلوٰۃ کسوف صلوٰۃ ضحیٰ سے اور صلوٰۃ خسوف صلوٰۃ تہجد سے مگر ثواب ہر دو کا حاصل ہو جاتا ہے۔ علیٰ ہذا وقت ضحیٰ ایک ہے اور اس کے فضائل میں احادیث وارد ہیں اور اول وقت اور آخر وقت دونوں وقت میں نماز رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور ہر دو نماز علیحدہ ہیں مگر ایک کے پڑھنے سے ثواب وارد حدیث حاصل ہو جاتا ہے لہذا اگر رسول اللہ ﷺ نے تمام رات نماز تراویح پڑھی تو تہجد کا بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ثلث شب تک پڑھی یا نصف تک بجماعت تو باقی شب میں منفرداً نماز ادا ہونا ظن غالب معلوم ہوتا ہے مگر کسی راوی نے اس کو ذکر نہیں کیا واللہ تعالیٰ اعلم۔ بعد اس کے واضح ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے قیام رمضان کے عدد رکعات کو تولاً محدود نہیں فرمایا، بلکہ مطلق صلوٰۃ کی رغبت دلائی اور مطلق حسب قاعدہ المطلق بجزی علی اطلاق یہ چاہتا ہے کہ صلوٰۃ کسی ہیئت اور کسی عدد سے اگر ادا کی جاوے مامور مندوب ہووے گی دریں صورت پابندی کسی عدد کی نہیں ہو سکتی بلکہ مامور مختار ہے جس قدر چاہے پڑھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (۱) (الحديث) وقال جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعاً (الحديث) وقال سنتت لكم قيامه (الحديث) ان ہر دو حدیث میں بھی قیام رمضان کو مطلق ہی رکھا ہے کوئی عدد بیان نہیں فرمایا ہے لہذا جیسا کہ تہجد پہلے سے مندوب تھا ایسا ہی قیام رمضان جو تراویح ہے مطلقاً امت پر و جناب رسول اللہ ﷺ پر مندوب ہوا کہ ادنیٰ اس کے دو رکعت اور نہایت کی کوئی حد نہیں اگرچہ ہزار یا کم زیادہ ہوں پس بعد اس کے اگر جناب رسول اللہ ﷺ نے کوئی عدد اکثر معمول فرمایا تو سنت موکدہ ہو جاوے گا اور جس کو احیاناً ادا فرمایا وہ مستحب رہے گا۔ اور سوائے اس کے دیگر اعداد بھی مستحب رہیں گے ہرگز بدعت نہیں ہو سکتے اور یہ قاعدہ سب عبادات میں جاری ہے کہ مامور مطلق ان اعداد میں جن کو وہ شامل ہے مطلق ہی مطلوب ہوتا ہے کسی عدد معین میں منحصر نہیں ہوتا اور رسول اللہ ﷺ کے التزام سے سنت موکدہ اور احیاناً کرنے سے مستحب اور ماسوائے اس کے یہی

(۱) فرمایا رسول اللہ نے جو شخص قیام کرے رمضان میں اعلاص سے اور ثواب کی نیت سے بخشے جائیں گے اس کے پہلے گناہ۔

مستحب۔ مثلاً حق تعالیٰ نے فرمایا استغفر وار یکم الآیہ۔ اس سے استغفار مطلوب ہے اگرچہ جو باہو یا ندبا بعد اس کے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انی لا استغفر الله فی کل یوم سبعین مرة تو اب اگر کوئی سبعین سے زیادہ استغفار کرے وہ اسی امر مطلق کا فرد مطلوب ہوگا اس کو بدعت نہ کہہ سکیں گے یہ جزئیہ بطور تعظیم لکھا گیا ہے اہل علم سے بہت سے عبادات مستحبہ کو برین قیاس دریافت کر سکتے ہیں۔ بناء علیہ جو صحابہ اور تابعین اور مجتہدین علماء نے اعداد رکعات اختیار کئے ہیں۔ چنانچہ ان کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ وہ سب انہیں احادیث کے افراد ہیں کوئی ان سے خارج نہیں سب مامور مندوب ہیں مگر علماء حنفیہ کے نزدیک جو عدد ان میں سے فعل یا قول رسول اللہ ﷺ سے بجماعت ثابت ہوا ہے اس میں جماعت کو سنت کہیں گے اور اس کے سوائے میں جماعت کو بتداعی مکروہ فرمائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک جماعت نفل بتداعی مکروہ ہے مگر جس موقع میں کہ نص سے ثابت ہو چکی ہے وہاں مکروہ نہیں اسی واسطے کتب فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عدد تراویح میں شک ہو جاوے کہ اٹھارہ پڑھیں یا بیس تو دو رکعت فرادئی فرادئی پڑھیں نہ بجماعت بسبب اطلاق حدیث کے زیادہ ادا کرنا ممنوع نہیں خواہ کوئی عدد ہو مگر جماعت میں سے زیادہ کی ثابت نہیں جس کا ذکر آگے آئے گا۔ الحاصل قولاً کوئی عدد معین نہیں مگر آپ کے فعل سے مختلف اعداد معلوم ہوتے ہیں چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ کا قول جامع ترمذی میں ہے قال احمد روى فی ذلک انواع لم یقض فیہ بشیء (۱) انتہی یعنی امام احمد نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور کسی صورت کو مرجع نہیں بنایا بلکہ سب کو جائز اور مستحب رکھا ازاجملہ ایک دفعہ گیارہ رکعت بجماعت پڑھنا ہے چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شب میں گیارہ رکعت تراویح بجماعت پڑھی۔ عن جابر انہ صلی بہم ثمان رکعات والوتر انتظر وہ فی القابله فلم یخرج الیہم رواہ ابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحہما انتہی۔ (۲) مگر یہ آٹھ رکعت پڑھنا تراویح کا بجماعت مستلزم نفی زیادہ کو نہیں اس واسطے کہ ممکن ہے بلکہ مظنون ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اول آخر اس نماز کے مفرداً زیادہ پڑھی ہوں اس واسطے کہ رمضان میں آپ احیاء تمام لیل کا کرتے تھے، چنانچہ سابق میں گذرا اور دیگر لیلی میں بجماعت

(۱) فرمایا امام احمد نے روایت کی گئی ہیں اس میں کئی صورتیں اور کچھ حکم نہ کیا امام احمد نے اس بارے میں ۱۲۔

(۲) مروی ہے جابر سے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی صحابہ کے ساتھ آٹھ رکعتیں اور وتر پھر انتظار کیا صحابہ نے آئندہ کی رات میں اور رسول اللہ ﷺ نے نفل۔ روایت کیا اس کو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ۱۲۔

گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھی ہوں یا منفرداً آپ نے زیادہ پڑھی ہوں اس کی نفی نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ حضرت جابر نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہر روز گیارہ رکعت پڑھیں نہ یہ کہا کہ سوائے اس کے اور کوئی رکعت نہیں پڑھی بلکہ ایک دن کی صلوٰۃ بجماعت کا ذکر کرتے ہیں اور بس یہ واقعہ فعل ہے کہ احتمال عموم کا نہیں رکھتا اور نہ زیادہ رکعت کا معارض ہو سکتا ہے اس واسطے کہ تعارض کے لئے وحدۃ زمان و مکان شرط ہے خصوصاً اس شب میں کہ آپ نے تمام شب سب کو جمع کر کے نماز پڑھی جیسا کہ روایت ابو ذر سے اوپر گذرا۔ اگر اس میں گیارہ رکعت پڑھی جائیں تو تطویل قیام بالضرور کوئی راوی بیان کرتا جس طرح تاخیر موجود کر کیا ہے کیونکہ آٹھ نوگھنٹہ میں آٹھ رکعت پڑھنا نہایت دشوار ہوتا ہے تو یہ تطویل قابل ذکر تھی جیسا کہ صلوٰۃ کسوف کی تطویل کو ذکر کیا جاتا ہے لہذا عجب نہیں کہ اس شب میں بیس ۲۰ رکعت پڑھی گئی ہوں یا زیادہ اور منفرداً آپ نے بیس ۲۰ رکعت بلکہ زیادہ پڑھی ہوں اگرچہ ان تین شب کی عدد رکعات جو ابو ذر نے نقل فرمایا بیس ۲۰ رکعت بلکہ زیادہ پڑھی ہوں اور وجہ نہ نقل کرنے کی یہ ہے کہ عدد رکعات آپ کے مختلف تھے اور توڑا اعداد رکعات کی تعمیم تھی لہذا ہر روز کے اعداد رکعات کا ذکر کرنا کچھ ضرورت نہیں سمجھا گیا اور ابن عباس سے ابن ابی شیبہ نے جو اپنی تصنیف میں رسول اللہ ﷺ کا بیس رکعت پڑھنا نقل کیا ہے اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے مگر مؤید ہے آثار صحابہ سے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ نے بیس رکعت پڑھی ہیں۔ اور جمہور تابعین اور فقہاء کا اس پر عمل در آمد ہے جیسا کہ عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے۔ قلت روی (۱) عبد الرزاق

(۱) کہتا ہوں میں روایت کی عبدالرزاق نے اپنی تصنیف میں داؤد بن قیس سے اور اوروں سے انہوں نے محمد بن یوسف سے انہوں نے سائب بن یزید سے کہ تحقیق حضرت عمر نے حج کیا لوگوں کو رمضان میں ابی ابن کعب اور حمزہ ذاری کے پیچھے کیس رکعت پر قیام کرتے تھے سو آیت والی سورتوں کے ساتھ اور فارغ ہوتے تھے صحیح صادق کے طلوع کی قبل کہتا ہوں میں کہا عبدالبر نے یہ محمول ہے اس پر کہ ایک رکعت وتر تھی اور کہا ابن عبدالبر نے روایت کی حارث بن عبدالرحمن بن ابی ذباب نے سائب بن یزید سے کہا حضرت عمر کے زمانہ میں قیام بیس رکعت کے ساتھ تھا کہا ابن عبدالبر نے یہ محمول ہے اس پر کہ تین رکعتیں وتر کی تھیں اور کہا استاذ ہمارے نے یہ مسرا یعنی ابن عبدالبر کی صحیح ہے۔ ساتھ دلیل اس کے کہ روایت کی محمد بن نصر نے روایت یزید بن حصیف کی ہے انہوں نے سائب بن یزید سے کہ قیام کرتے تھے وہ رمضان میں بیس رکعت کے ساتھ حضرت عمر کے زمانہ میں اثر حضرت علی کا پس ذکر کیا اس کا و بیع نے حسن بن صالح سے انہوں نے عمرو بن قیس سے انہوں نے ابوالحسن سے انہوں نے حضرت علی سے کہ انہوں نے امر کیا ایک شخص کو کہ نماز پڑھے لوگوں کے ساتھ بیس رکعت اور لیکن حضرت عمر اور حضرت علی کے سوا اور صحابہ پس روایت کی گئی ہے عبداللہ بن مسعود سے میرا یہ ظن ہے کہ روایت کرنے والے محمد بن نصر مروزی ہیں کہا انہوں نے خبر دی ہم کو یحییٰ بن محیی نے ان کو حفص بن غیاث نے انہوں نے اعش سے سنا اعش نے یزید بن وہب سے کہا اس نے تھے عبداللہ بن مسعود بڑھتے ہمارے ساتھ رمضان کے مہینہ میں اور فارغ ہوتے کچھ رات سے کہا اعش نے کہ بیس ۲۰ رکعت تراویح کی تھیں اور تین وتر کی۔ لیکن قائل بیس کے تابعین میں سے پس شیر بن شکل اور ابن ابی ہلیبہ اور حارث ہمدانی اور عطاء بن ابی رباح و ابوالخثری۔

فی المصنف عن داؤد بن قیس وغیره عن محمد بن یوسف عن السائب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس فی رمضان علی ابی بن کعب وعلی تمیم الداری علی احدى وعشرين رکعة یقومون بالمثین وینصرفون فی بزوغ الفجر قلت قال ابن عبدالبرہو محمول علی ان الواحدة للوتر وقال ابن عبدالبرروی الحارث بن عبدالرحمن بن ابی ذباب عن السائب بن یزید قال کان القيام علی عهد عمر بثلاث وعشرين رکعة قال ابن عبدالبرہو هذا محمول علی ان الثلاث للوتر وقال شیخنا وما حملہ علیہ فی الحدیثین صحیح بدلیل ماروی محمد بن نصر من روایة یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید انہم کانوا یقومون فی رمضان بعشرين رکعة فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ واما اثر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فذکرہ وکیع عن حسن بن صالح عن عمرو بن قیس عن ابی الحسناء من علی رضی اللہ عنہ انہ امر رجلا یصلی بہم رمضان عشرين رکعة واما غیرہما من الصحابة فروی ذالک عن عبد اللہ بن مسعود رواہ محمد بن نصر المروزی قال اخبرنا یحیی بن یحیی اخبرنا حفص بن غیاث عن الاعمش عن زید بن وہب قال کان عبد اللہ بن مسعود یصلی لنا فی شهر رمضان فینصرف وعلیہ لیل قال الاعمش کان یصلی عشرين رکعتیوتر بثلاث واما القائلون بہ من التابعین شتیر بن شکل وابن ابی ملیکة والحارث الهمدانی وعطاء بن ابی رباح وابو البختری وسعید (۱) بن ابی الحسن البصری اخو الحسن وعبد الرحمن بن ابی بکرو عمران العبدی وقال ابن عبدالبرہو قول جمهور العلماء وبہ قال الکوفیون والشافعی واکثر الفقہاء وهو الصحیح عن ابی بن کعب من غیر خلاف من الصحابة انتہی (۲) وقال الترمذی فی سننہ واختلف اهل العلم فی قیام

(۱) اور سعید بن ابی اسن امہری بھائی حسن بصری اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور عمران عدی کے ہیں اور کہا ابن عبدالبر نے یہی ہے قول اکثر علماء کا اور اسی کے قائل ہیں کوفہ کے علماء اور امام شافعی اور اکثر فقہاء اور یہی ثابت ہے ابی بن کعب سے بدون خلاف کسی صحابی کے ۱۲۔

(۲) اور کہا ترمذی نے اپنی سنن میں کہ اختلاف کیا اہل علم نے قیام رمضان میں پس اعتقاد کیا بعض نے اس بات کا کہ آٹھائیس رکعت پڑھے وتر کے سمیت اور یہی ہے قول مدینہ والوں کا اور اسی پر عمل کرتے ہیں وہ اور اکثر اہل علم اس پر عمل کرتے ہیں جو حضرت عمر اور حضرت علی اور صحابہ آنحضرت ﷺ سے مروی ہے یعنی بیس ۲۰ رکعت اور یہی ہے قول سفیان ثوری کا اور ابن مبارک کا اور امام شافعی کا اور فرمایا امام شافعی نے کہ ایسے ہی پایا ہم نے اہل مکہ کو بیس ۲۰ رکعت پڑھتے ہوئے اور فرمایا امام احمد نے روایت کی گئی ہیں اس میں کئی صورتیں اور نہ حکم کیا اس میں کسی طرح کا اور فرمایا اسحق نے بلکہ ہم پسند کرتے ہیں آٹھائیس رکعت جیسے کہ روایت کی گئی ابی بن کعب سے ۱۲۔

رمضان فرمایا بعضہم ان یصلی احدی واربعین رکعۃ مع الوتر وهو قول اہل المدینۃ والعمل علیٰ ہذا عنہم بالمدينة واكثر اہل العلم علیٰ ماروی عن علی وعمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرين رکعۃ وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی وقال الشافعی وهكذا ادرکت ببلدنا بمکة یصلون عشرين رکعۃ وقال احمد روى فی ذلك الوان لم یقض فیہ بشئ وقال اسحاق بل نختار احدی واربعین رکعۃ علیٰ ماروی عن ابی بن کعب انتهى۔

اور کتب میں بھی یہ اور اس سے زیادہ منقول ہے اس کے ذکر میں تطویل ہے خلاصہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود جن کے باب میں یہ حدیث وارد ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے تمسکوا (۱) بعهد ابن مسعود (الحديث) وکان (۲) اقرب الناس ہدیا وسمتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود (الحديث)

میں رکعت پڑھتے اور اسی کا امر فرماتے تھے تو یہ عدد رسول اللہ ﷺ سے ان کو محفوظ تھا اسی واسطے ان کا التزام کیا اگرچہ ایک ہی دو بار سی لیکن تسنن کے واسطے ایک دفعہ کا فعل بھی کافی ہے اور حضرت عمرؓ جن کے باب میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ اقتدو (۳) بالذین من بعدی ابی بکرو عمرو مطلق اقتداء کا حکم تمام امور میں فرمایا انہوں نے میں کا امر فرمایا اور نیز خلفاء ثلاثہ عمرو عثمان وعلی جب کہ ان ہر س نے میں کا امر فرمایا تو بمقتضیٰ (۴) علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء السراشدین المہدین اس کا عمل امت پر رسول اللہ ﷺ نے لازم فرمایا اور تمام صحابہ موجودین زمانہ عمر میں عثمان وعلی رضی اللہ عنہم نے کبھی اس پر انکار نہ فرمایا اور بر غبت قبول فرمایا یہ اول دلیل ہے اس بات پر کہ سب کے نزدیک یہ عدد عشرين یا رسول اللہ ﷺ سے ان کے نزدیک محفوظ تھا کہ کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا اور سنت رسول اللہ ﷺ سمجھ کر اس پر عمل کیا اور یا یہ کہ اطلاق قول رسول اللہ ﷺ کو مثبت اس عدد کا بھی سمجھا اور بطیب خاطر اس کو قبول فرمایا لہذا اس عدد کو مسنون ہی کہا جائے گا اور اس پر کسی وجہ سے شائبہ لفظ بدعت کا رکھنا سخت مذموم ہوگا۔ کیونکہ اولاً

(۱) پورا عمل کروا بن مسعود کی وصیت پر۔

(۲) اور تھے اقرب لوگوں میں سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ از روئے سیرت کے اور چال چلن کے ابن مسعود رضی اللہ

عنه۔

(۳) اقتداء کرو ساتھ ان دو کے جو بعد میرے ہوں گے یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ۔

(۴) لازم بنا لو اپنے پر عمل میری سنت کا اور سنت خلفاء کا جو اوروں کو ہدایت کرنے والے اور خود ہدایت یافتہ ہیں۔

مطلق قول رسول اللہ ﷺ سے سب اعداد مطلقاً مسنون ہو گئے ہیں ثانیاً خود فعل رسول اللہ ﷺ سے احیاناً اس کا استحباب ثابت ہوا مثلاً جن صحابہ کے اقتداء پر ہم کوتاہی کی گئی تھی ان کے فعل سے یہ عدد ثابت ہوا تو گویا ان صحابہ کا فرمانا اور عمل کرنا خود رسول اللہ ﷺ کا ہی فرمانا اور عمل کرنا تھا۔

رابعاً سوائے ان صحابہ کے دیگر صحابہ جو صدمہ ہاتھ کسی نے اس پر انکار نہ کیا اور سب نے اس کو بطیب خاطر قبول فرمایا پس بعد اس کے کون سی دلیل کی حاجت ہے اور اس فعل حضرت عمر کی روایات صحیح ہیں اور یزید بن رومان کی حدیث میں ہر چند کہ انقطاع ہے مگر اولاً حدیث منقطع موطا کی خود صحیح ہیں کہ امام مالک صاحب نے یہاں اور سب محدثین کے یہاں قبل زمانہ شافعی سے منقطع ثقہ کی صحیح ہوئی تھی اور ابن عبد البر کہتے ہیں کہ جتنے منقطععات مالک کی ہیں ان کا اتصال ہم نے دوسری سند سے دریافت کر لیا ہے۔ سوائے چار روایت کے کہ یہ روایت فعل حضرت عمر کی ان چار ثابت الاتصال میں داخل نہیں اور سائب بن یزید کی روایت جو اوپر مذکور ہوئیں ان کے مؤید ہیں اور یہ صحیح ہیں اور فعل حضرت عمرؓ میں بھی کوئی تعارض نہیں کہ اولاً گیارہ کا حکم کیا تھا اور پھر اکیس کا اور پھر تیس کا اور چونکہ اس میں بھی اختلاف زماں ہے لہذا اس میں تعارض ہے اور نہ ضعف ہے اور اگر یوں کہا جاوے کہ اول دفعہ آٹھ تراویح تھی اور تین وتر اور دوسری دفعہ اٹھارہ تراویح اور تین وتر اور تیسری دفعہ میں بیس تراویح تو تین وتر تو درست ہے اور یہ ہر سہ فعل باوقات مختلفہ صحابہ کو رسول اللہ ﷺ سے معلوم تھے لہذا یہ سب سنت ہیں اور کوئی معارض ایک دوسرے کے نہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے اوپر معلوم ہو چکا کہ تہجد میں ہے نہ تراویح میں سو وہ معارض میں کے نہیں ہو سکتی اور اگر بالفرض ہم دونوں صلوٰۃ کو ایک ہی تسلیم کریں تاہم کچھ معارضہ نہیں اس واسطے کہ یہ قول حضرت عائشہ کا اکثر یہ ہے نہ کہ کلیہ اور اگر اس کو کلیہ کہا جاوے تو خود حضرت عائشہ تیرہ کی روایت کرتی ہیں۔ چنانچہ امام مالک موطا میں روایت فرماتے ہیں اور یہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ عن عائشة قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل

ثلث عشرة رکعة ثم یصلی اذا سمع النداء للصبح رکعتین حقیقتین (الحديث) (۱)

پس اگر وہ روایت کلیہ قرار دی جاوے تو یہ روایت غلط ہو جاوے گی اور حضرت ابن عباس وغیرہ کا تیرہ رکعت روایت کرنا جو صحیحین میں سے ہے غلط ہو جاوے گا۔ پس یا اس روایت کو اکثر یہ

(۱) مروی ہے حضرت عائشہ سے کہ تھے رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے رات میں تیرہ رکعتیں پھر پڑھتے تھے جب اذان صبح کی ہو جائے اور دو رکعتیں ہلکی ۱۲۔

بنایا جاوے تاکہ سب روایتیں صحیح رہیں یا عدم علم حضرت عائشہ پر حمل کیا جاوے اور عدم علم پر حمل کرنا ظاہر ہے کہ غیر مناسب ہے پس جیسا کہ تیرہ رکعت کی حضرت عائشہ سے اور دیگر صحابہ سے تصحیح ہوگئی ایسا ہی اٹھارہ اور بیس اور زائد کی بھی تصحیح ہو سکتی ہے اور جیسا کہ تیرہ اور گیارہ میں تعارض نہیں ہے ایسا ہی بیس میں تعارض نہ رہے گا۔ بہر حال اس حدیث ابن عباس کی مؤیدات موجود ہیں پھر اس کے ضعف پر کیا نظر کی جاوے گی۔ اگر بمقابلہ گیارہ کے روایت کی صحت تیرہ رکعت کو معتبر کیا جاتا ہے تو بیس رکعت کی روایات صحیحہ جو صحابہ کے فعل سے معتبر ہوئیں کس طرح معتبر نہ ہوں گی بلکہ افعال صحابہ بھی حسب ارشاد جناب فخر عالم علیہ السلام کی مثل فعل رسول اللہ ہی کے ہوں گے۔ اب رہی یہ بات کہ بیس کے فعل کی نسبت خلفاء ثلاثہ کی طرف ہے اور خلیفہ اول سے یہ فعل سرزد نہیں ہوا تو کچھ حرج نہیں اس واسطے کہ خلفاء صیغہ جمع کا ہے اور اس پر الف لام داخل ہوا ہے اور قاعدہ عربیت کا ہے کہ جب الف لام جمع پر داخل ہوتا ہے تو وہ معنی عموم کے دیتا ہے جمع اور واحد کو دونوں کو مثلاً لا اتزوج النساء اگر کہے تو جیسا کہ بہت عورتوں کے نکاح کرنے سے حائث ہوگا ایسا ہی ایک اور دو سے بھی حائث ہو جاتا ہے جیسا کہ لا تتحل لک النساء من بعد میں ممانعت نکاح ایک کی اور بہت کی ثابت ہوتی ہے۔ پس تین خلیفہ کا عمل اس پر ہونا کافی ہے اور اگر ایک خلیفہ بھی اس پر عمل کرتے جب بھی کافی تھا چہ جائیکہ تین خلیفہ نے یہ کام کیا اور سب صحابہ نے اس پر اجماع کیا اور مراد سنت الخلفاء سے حدیث میں وہ امر ہے کہ اصل اس کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود ہو مگر شیوع اس کا نہیں ہوا پھر کسی خلیفہ نے اس کا شیوع کر دیا سو وہ فی الحقیقت سنت رسول اللہ کی ہی ہے مگر چونکہ اس کا شیوع خلفاء سے ہوا اس واسطے اس کو سنت الخلفاء فرمایا پس سنت الخلفاء ہی ہے کہ اصل اس کی سنت رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ کہا تھا کہ علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين اس لئے جو امر کہ مخالف سنت رسول اللہ ﷺ ہوگا وہ امر بدعت ہوگا اور صحابہ بھی اسی سنت خلفاء کو التزام کرتے تھے کہ جس کی اصل سنت رسول اللہ میں موجود ہو اور خلفاء کی سنت بھی ایسی ہی ہوتی تھی اور جب تک کہ صحابہ کو سنت خلفاء کی اصل نہ معلوم ہوتی تھی وہ قبول نہ کرتے تھے مثلاً جس وقت شیخین نے زید بن ثابت کو بلا کر جمع قرآن کے واسطے کہا تو چونکہ زید کو یہ امر بدعت معلوم ہوا تو یہ جواب دیا کہ کس طرح کرتے ہو تم اس عمل کو جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا اور زید کہتے ہیں کہ اگر شیخین مجھ کو پہاڑ نقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ میرے نزدیک سہل تھا اس امر سے۔ اور اس کی وجہ وہی تھی کہ اس کو وہ بدعت سمجھ رہے تھے لہذا

انہوں نے اس کو قبول نہ کیا یہاں تک کہ حضرت صدیق نے ان کو سمجھا دیا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ سنت ہی ہے اس وقت انہوں نے قبول فرمایا یہ قصہ بخاری میں موجود ہے عن عیسیٰ بن السباق (۱) ان زید بن ثابت قال ارسل الی ابو بکر مقتل اهل الیمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر يوم الیمامة بقراء القرآن وانی اخشی ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فیذهب کثیر من القرآن وانی اری ان تامر بجمع القرآن قلت لعمر کیف تفعل شیتا لم یفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عمر هذا والله خیر فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح الله صدری لذلك ورایت فی ذالک الذی رای عمر قال زید قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل لا تهتمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول الله صلی الله علیه وسلم فتبع القرآن فاجمهه فوالله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرانی به من جمع القرآن قلت کیف تفعلون شیتا لم یفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هو والله خیر فلم یزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح الله صدری للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر .

اس سے ظاہر ہے کہ قبول کرنا صحابہ کا سنت خلفاء کو اس وقت ہوتا تھا کہ ان کے نزدیک وہ سنت موافق سنت رسول اللہ کے ہوتی تھی پس یہ سنت عشرین رکعت بھی ایسی ہی ہے کہ اس کی

(۱) مروی ہے عیسیٰ بن سباق سے کہ تحقیق زید بن ثابت نے فرمایا کہ بھیجا کوئی آدمی حضرت ابو بکر نے میری طرف جب کہ یمامہ والوں کے ساتھ مقابلہ تھا پس ناگاہ حضرت عمرؓ میں نے وہاں پایا فرمایا حضرت ابو بکر نے حضرت عمرؓ میرے پاس آئے کہا کہ قتل شدید ہوا ہے یمامہ کے مقابلہ میں قرآن کے قاریوں پر اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر ایسے ہی قتل رہا قاریوں پر اور طریقوں میں اکثر کلام اللہ ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا اور مناسب مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ امر کریں کلام اللہ جمع کرنے کا کہا میں نے (یعنی حضرت ابو بکر نے) عمر کے تئیں کیسے تجویز کرتا ہے تو ایسی بات کہ رسول اللہ ﷺ نے نہیں کی کہا حضرت عمر نے یہ بات واللہ اچھی ہے پس رہے حضرت عمر اصرار کرتے یہاں تک کہ جمادیا اللہ نے سینہ میرا اس بات پر اور بچھ گیا میں وہ بات جو حضرت عمرؓ سمجھے کہا زید بن ثابت نے فرمایا حضرت ابو بکر نے تحقیق تو تو اتنا اور عاقل ہے نہیں متم جانتے ہم تم کو اور البتہ تمھے تم لکھتے وہی رسول اللہ ﷺ کے لئے پس جستجو کر کلام اللہ کی اور جمع کر اسے کہا زید نے) پس قسم اللہ کی اگر تکلیف دیجئے مجھے کسی پہاڑ کے اٹھانے کی نہ گراں گزرتا مجھ پر اس سے کہ امر کیا ان دونوں نے یعنی جمع کرنا کلام اللہ کا پس عرض کی میں نے کیسے تجویز کرتے ہو تم ایسی چیز کہ نہیں کیا اس کو رسول اللہ ﷺ نے کہا حضرت ابو بکر نے یہ بات واللہ اچھی ہے پس ایسے ہی رہے حضرت ابو بکر اصرار کرتے یہاں تک کہ جمادیا اللہ نے جی میرا اس بات پر کہ جئے تھے اس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ۔



اصل سنت رسول اللہ میں موجود ہے۔ اسی واسطے تمام صحابہ نے اس وقت میں اس کو قبول کیا اور اس پر عامل رہے اور کسی وقت کسی ایک نے بھی صحابہ میں سے اس پر انکار نہ کیا نہ اس کو مخالف رسول اللہ سمجھا۔ اگرچہ بعض نے اس پر عمل نہ کیا ہو بلکہ دوسرے عدد پر عمل کیا ہو کہ وہ بھی سنت سے ان کے نزدیک ثابت تھا مگر انکار ہرگز کسی نے نہیں کیا، اگر کسی کو دعویٰ ہے تو ظاہر کرے پس جب اجماعاً اس کا ثبوت بلا انکار ترمین صحابہ میں ہو گیا تو یہ مجمع علیہ ہو گیا اور سنت رسول اللہ ﷺ ہونا اس کا واضح ہو گیا۔ قال (۱) علیہ السلام لا تجتمع امتی علی الضلالة۔

پس بعد ایسی دلیل قطعی کے کسی اہل فہم کو جسارت نہ ہوگی کہ اس کو بدعت کہے مگر اس کو بھی سنت جان کر دوسرے عدد پر جو کہ سنت سے ثابت ہے اس سے کم یا زیادہ اگر اس پر عمل کرے تو ملامت نہیں مگر ان لوگوں پر جو آٹھ رکعت پر قناعت کرتے ہیں اور اس سے زیادہ سے اعراض کرتے ہیں۔ سبب ترک کر دینے سنت خلفائے راشدین کے کہ فی نفس الامر وہ بھی سنت رسول اللہ ﷺ ہے اور بقول علیہ السلام (۲) علیکم بستتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بالنواجذ جو کہ امر موکد ہے شائبہ الزام ضرور ہوگا کیونکہ مراد آنحضرت ﷺ کی دونوں سنتوں کا معمول بنانا ہے یہ حکم نہیں فرمایا کہ میری سنت کو لے کر خلفاء کی سنت کو ترک کر دو بلکہ دونوں پر التزام کرو مالا محکم مگر اس کو بدعت کہنا نہایت زیوں اور شیخ ہے بعد اس کے کسی دلیل کی حاجت نہیں اب روایت فتح الباری شرح بخاری کی نقل کی جاتی ہے کہ جس سے مذہب علماء و فقہاء دریافت ہو جائیں اگرچہ اوپر کی عبارات سے بھی معلوم ہو گئے تھے مگر اس میں زیادہ سبب ہے قال فی فتح الباری لم یقع فی هذه الروایة عدد الرکعات التي کان یصلی بہا ابی بن کعب وقد اختلف فی ذلك ففی المؤطا عند محمد بن یوسف عن السائب بن یزید انها احدى عشرة ركة، ورواه سعید بن منصور من وجه اخر وادفیه وکانوا یقرؤن بالمئین ویقومون علی العصى من طول القيام ورواه محمد بن نصر المروزی من طریق محمد بن اسحق عن محمد بن

(۱) فرمایا آنحضرت نے نہ کٹھی ہوگی امت میری گرائی پر۔

(۲) فرمایا لازمی بنا لو سنت میری اور سنت خلفاء راشدین کی جو کہ ہدایت یاب ہیں کھیلوں سے پکڑو اسے (یعنی پورے اہتمام سے)۔

(۳) بخاری کی اس روایت میں تراویح کی تعداد مذکور نہیں ہوئی جو ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے اور اس میں مختلف روایتیں آئی ہیں مؤطا مالک میں محمد بن یوسف سے روایت ہے کہ سائب بن یزید صحابی کہتے ہیں (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یوسف فقال ثلث عشرۃ ورواہ عبدالرزاق من وجہ اخر عن محمد بن یوسف فقال احدی وعشرین وروی مالک من طریق یزید بن خصیفۃ عن السائب بن یزید عشرین رکعۃ وهذا محمول علی غیر الوتر عن یزید بن رومان قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بثلث وعشرین وروی محمد بن نصر من طریق عطاء قال ادرکتهم فی رمضان یصلون عشرین رکعۃ وثلث رکعات الوتر والجمع بین هذه الروایات ممکن باختلاف الاحوال ویحتمل ان ذلك الاختلاف بحسب تطویل القراءة وتخفیفها فحیث یطیل القراءة تقل الركعات وبالعکس وبذلك جمع الداؤدی وغیره۔  
والعدد الاول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث فی الباب والثانی قریب منه والاختلاف فی مازاد علی العشرین راجع الی الاختلاف

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) کہ وہ گیارہ رکعت تھیں اور اسی روایت گیارہ والی کو سعید بن منصور نے بھی دوسرے طریق سے روایت کیا ہے اور یہ بھی روایت کیا ہے کہ وہ یمن سورئیں پڑھا کرتے تھے اور طول قرأت کے جب عصا پرت گیا لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور روایت کی اس کو محمد بن نصر مروزی نے محمد بن اسحاق کے طریق سے وہ محمد بن یوسف سے اور اس میں تیرہ رکعت بیان کی ہیں اور عبدالرزاق نے دوسرے طریق سے محمد بن یوسف سے ایکس رکعت روایت کی ہیں اور مالک نے یزید بن خصیفہ کے طریق سے اس نے سب ابن یزید سے بیس رکعت روایت کیا ہے اور یہ سوائے وتر کے معمول ہیں اور یزید بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس ۲۳ رکعت پڑھا کرتے تھے اور محمد بن نصر نے عطاء کے طریق سے روایت کی ہے کہا عطاء نے کہ میں نے لوگوں کو پایا ہے کہ بیس ۲۳ رکعت مع وتر پڑھتے تھے۔ ان روایات میں یوں تطبیق دی جاسکتی ہے کہ یہ سب روایتیں مختلف اوقات پر محمول ہیں (یعنی سبھی گیارہ رکعت تھی تیرہ ۱۳ اور کبھی ایکس ۲۱ سبھی بیس ۲۳ پڑھتے تھے) اور یہ بھی احتمال ہے کہ رکعتوں کی کمی زیادتی قرأت کے زیادہ اور کم ہونے کے باعث سے ہے جب قرأت زیادہ پڑھتے تو رکعتیں کم کر دیتے اور بالعکس اسی تطبیق کے ساتھ داؤدی وغیرہ اہل قلم نے جزم کیا ہے۔ اور پہلا عدد گیارہ رکعت کا آنحضرت کے فضل کے موافق ہے جو اسی باب میں حضرت عائشہؓ کی حدیث میں مذکور ہے اور دوسرا عدد تیرہ رکعت کا بھی اسی کی قریب ہے اور بیس ۲۰ سے زیادہ ایکس اور بیس میں جو اختلاف ہے وہ وتر کی کمی زیادتی کی وجہ سے ہے کبھی ایک وتر پڑھتے تو ایکس ہو جاتیں اور تین پڑھتے تو بیس اور محمد بن نصر نے روایت کی ہے کہ داؤد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں لوگوں کو یہ میں چھتیس رکعت تراویح اور تین وتر پڑھتا پایا ہے۔ مالک نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہی قدیم سے رائج ہے اور زعفرانی سے روایت ہے کہ شافعی نے کہا کہ میں نے لوگوں کو یہ میں اتالیس ۳۹ رکعت میں بیس رکعت تراویح پڑھتے دیکھا ہے اور ان میں کسی بات پر کبھی نہیں سے اور شافعی ہی سے روایت ہے کہ اگر لوگ قیام کو لیا اور رکعتوں کو کم کریں تو اچھا ہے اور رکعتیں زیادہ پڑھیں اور قرأت کو کم کریں تو بھی اچھا ہے لیکن قرأت کو زیادہ کرنا اور رکعتوں کو کم کرنا میرے نزدیک محبوب تر ہے ترمذی نے کہا زیادہ سے زیادہ اتالیس ۳۹ رکعت تک مروی ہے۔ یعنی وتر سمیت۔ ترمذی نے ایسا ہی ذکر کیا ہے اور حقیق ابن عبدالبر نقل کیا ہے کہ اسود بن یزید سینا لیس ۴۲ رکعت پڑھتے تھے اور بعض نے کہا ان میں رکعت اس کو محمد بن نصر نے برداشت ابن ابی نرک سے روایت کیا ہے اور اس کے ساتھ تین وتر ملانے سے وہی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ایک وتر کی تصریح کی ہے تو اتالیس رکعت ہوئیں۔

فی الوتر کانه کان تارة یوتر بواحدة وتارة بثلاث وروی محمد بن نصر من طریق دائود بن قیس قال ادركت الناس فی امارة ابان بن عثمان وعمر بن عبدالعزیز یعنی بالمدينة یقومون بست وثلاثین رکعة ویوترون بثلث وقال مالک هو الا مر القديم عندنا وعن الزعفرانی عن الشافعی رایت الناس یقومون بالمدينة بتسع وثلاثین وبمكة بثلث وعشرين وليس فی شنی من ذلك ضیق وعنه قال ان اطالوا القيام واقبلوا السجود فحسن وان اكثروا السجود واخفوا القراءة فحسن والا ول احب الی وقال الترمذی اكثر ما قيل فیہ انها تصلى احدى واربعین رکعة یعنی بالوتر كذا وقال وقد نقل ابن عبدالبر عن الاسود بن یزید یصلی 'اربعین یوتر بسبع وقيل ثمان وثلاثین ذكره محمد بن نصر عن ابن ایمن عن مالک وهذا یمكن رده الی الاول بانضمام ثلث الوتر لكن صرح فی رواية بانه یوتر بواحدة فتكون اربعین الا واحدة.

قال مالک (۱) وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة وعن مالک ست واربعون وثلث الوتر وهذا هو المشهور عنه وقدر واه ابن وهب عن العمری عن نافع قال لم ادرك الناس الا وهم یصلون تسعا وثلثین یوترون منها بثلث ومن زرارة بن او فی انه كان یصلی بهم بالبصرة اربعا وثلثین و یوترو عن سعید بن جبیر اربعا وعشرين وقيل ست عشرة غیر الوتر وروی عن ابی مجلز عن محمد بن نصر و اخرج من طریق محمد بن اسحاق حدثنی محمد بن یوسف عن جده السائب بن یزید قال كنا نصلی زمن عمر فی

(۱) مالک نے کہا کئی اوپر سو برس سے اسی پر عمل چل رہا ہے اور مالک سے چھتیس رکعت نفل اور تین وتر بھی منقول ہیں اور مشہور ان سے اسی طرح ہے اور تحقیق ابن وهب نے عمری سے اور عمری نے نافع سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں کا زمانہ پایا ہے وہ اتنا نہیں رکعت پڑھاتے تھے کہ تین ان میں وتر ہوتی اور زرارة بن ابی جلی سے روایت ہے کہ وہ بصرہ میں لوگوں کو علاوہ وتر کے چونتیس رکعت پڑھاتے تھے اور سعید بن جبیر (تابعی کبیر) سے علاوہ وتر کے چونتیس رکعت کی روایت ہے اور بعض نے کہا کہ علاوہ وتر کے سولہ رکعت روایت کیا اس کو محمد بن نصر نے ابی جلی (تابعی) سے اور محمد بن نصر نے محمد بن اسحاق سے روایت کی ہے کہ مجھ کو محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی کہ ان کے دادا سائب بن یزید صحابی نے کہا کہ ہم حضرت عمر کے زمانہ میں تیرہ رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے ابن اسحاق تابعی کہتے کہ اساتذہ سے جو ہم نے سنا ہے اس میں یہی تیرہ رکعت زیادہ ثابت ہیں اور وہ آنحضرت کی نماز شب کے موافق یہی ہے جو حضرت عائشہؓ حدیث میں مذکور ہے۔

رمضان ثلاث عشرة قال ابن اسحاق وهذا ثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث سائشة في صلوة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل والله اعلم انتهى.

الحاصل گیا رہ رکعت تراویح سے جو زیادہ عدد منقول ہیں اس پر کسی نے قرون ثلاثہ میں انکار نہیں کیا اگرچہ عمل اس پر نہ کیا ہو تو بس جواز و سنت جملہ اعداد پر اجماع ہو گیا۔ بعد ازاں قرون کے اور اگر کسی نے اس پر انکار کیا تو وہ قابل التفات کے نہیں لہذا بیس رکعات کو یا اس سے زیادہ کو بدعت کہنا ہرگز سزاوار نہیں۔ چنانچہ واضح ہو گیا اور یہ مدعا در صورت اتحاد دونوں صلوات کے بھی حاصل ہے بے بحث تفرقہ ہر دو صلوات کی بسبب سوال سال کی گئی اگرچہ رائے بعض علمائے سلف سے یہ رائے خلاف ہو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ الاحقر:۔ رشید احمد عفی عنہ گنگوہی ۱۶ شوال ۱۳۱۵ھ۔ رشید احمد۔

## جو نماز تراویح کی آٹھ رکعت پڑھے

(سوال) آٹھ رکعت تراویح پڑھنا درست ہے یا نہیں جیسا کہ بعض آدمی پڑھتے ہیں۔  
(جواب) جو لوگ آٹھ رکعت پڑھتے ہیں وہ تارک فضیلت سنت ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## حفاظ کو تراویح میں قرآن مجید سنانے کا معاوضہ دینے کے مسائل

(سوال) نماز تراویح میں قرآن پڑھنے یا سننے پر اجرت مقرر کر کے لینا یا بغیر مقرر کئے ہوئے قاری و سامع کو کچھ دینا کیسا ہے۔

(جواب) قرآن سنانے کی اجرت تراویح میں لینا درست نہیں کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے اور عبادت پر اجرت لینا حرام ہے۔ قال فی رد المحتار الآخذ والمعطى آمان انتهى والله تعالیٰ اعلم۔

(سوال) حافظوں کو نماز تراویح میں قرآن اجرت پر سنانا اور اجرت مقرر کر کے ہو یا نہ کرے ہو لینا کیسا ہے زید کہتا ہے کہ اجرت لینا منع ہے اور عمرو کہتا ہے کہ جیسے اجرت اذان و اقامت و امامت درست ہے ویسے ہی قرآن سنانے پر درست ہے۔ صحیح کس طور پر ہے۔

(جواب) حافظوں کو اجرت پر قرآن سنانا حرام ہے اور اجرت بھی ناجائز ہے اذان و اقامت اور تعلیم و وعظ اس کو متاخرین نے بوجہ ضرورت استثناء کیا ہے۔ قرآن سنانے میں کوئی ضرورت

نہیں جس نے قرآن سنانے کو اذان پر قیاس کیا ہے وہ غلط ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## تراویح میں قرآن مجید سننے والے کی اجرت

(سوال) جس حالت میں قرآن مجید کا سننا لازم ہو تو اس ضرورت کے ادا کرنے کے واسطے حافظ کو کچھ اجرت کے طور پر ٹھہرا کر دینا کیسے؟ اگر حافظ کو نہ دیا جائے سامع کو کچھ اجرت کے طور پر دینا کیسا ہے اگر حافظ کو نہ بھی دیا جاوے تو سامع بغیر لئے نہیں مانتے اور سامع کے صرف حافظ کے پڑھنے میں شک رہتا ہے اور اکثر بعض بعض الفاظ رہ جاتے ہیں بلکہ آیت رہ جاتی ہے اور تب حافظ کو اس کا پتہ نہیں چلتا تو مجبوراً سامع کو اجرت دی جاتی ہے اور سامع پہلے ٹھہرا لیتے ہیں پس بہتر کیا ہے۔ آیا الم تر کیف سے ہی روزانہ تراویح ادا کر لی جاویں یا سامع کو بطور اجرت کچھ دے دیا جاوے اور جو مصلحتیں اول سے آخر تک قرآن شریف سننے میں ہیں وہ حضور کو معلوم ہیں اظہار کی چنداں ضرورت نہیں اور اس وقت کے حافظ کی حالت بھی زمانہ کے موافق ظاہر ہے پس سب امورات پر نظر فرما کر جو حکم ہو اس سے مفصل اور شرح طور پر آگاہی بخشنے۔

(جواب) تراویح میں جو کلام اللہ پڑھے یا سنے اس کی اجرت دینا حرام ہے جب اجرت کا دینا حرام ہو تو الم تر کیف سے ہی پڑھنا چاہئے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## حافظ کو بغیر مانگے کے دینا

(سوال) جو شخص قرآن نماز تراویح میں سنائے بغیر ٹھہرائے اور مانگے اگر آدمی کچھ اس کو بطور چندہ کے دیویں یہ لینا اس کو جائز ہے یا نہیں ہے اور دینے والے کو یہ دینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر حافظ کے دل میں لینے کا خیال نہ تھا اور پھر کسی نے دیا تو درست ہے اور جو حسب رواج و عرف دیتے ہیں۔ حافظ بھی لینے کے خیال سے پڑھتا ہے اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تو درست نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## تراویح کی دو رکعتوں کی بجائے سہو اچار رکعت پڑھنے کا مسئلہ

(سوال) تراویح میں بجائے دو رکعتیں سہو اچار رکعت پڑھ لیں اب سجدہ سہو سے تلافی ہو کر نماز صحیح ہوگی یا نہیں ایک شخص کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی کیونکہ رکعتیں پر قعدہ فرض تھا اور وہ ترک ہو گیا یہ مقول صحیح ہے یا نہیں۔

(جواب) دو تراویح ہوئیں ترک فرض نہیں ہوا بلکہ تاخیر فرض ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم۔

نماز تراویح میں قرآن مجید سننا کیسا ہے

(سوال) نماز تراویح میں اول سے آخر تک قرآن شریف کا سننا فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب۔

(جواب) نماز تراویح میں کلام اللہ شریف سننا سنت ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

تراویح میں قرآن مجید سنانا

(سوال) ہر حافظ قرآن کو ہر ماہ رمضان میں محراب سننا سنت مومکہ ہے یا نہیں اور حافظ کو محراب

سنانے میں زیادہ ثواب ہے یا نہیں (از سعید احمد خان صاحب مراد آبادی)

(جواب) تراویح میں قرآن سنانا اور سننا سنت ہے مگر ہر حافظ پر مؤکدہ نہیں کہ سب پڑھا

کریں اگر کوئی جدا پڑھے جب بھی درست ہے اس کے ترک سے عتاب نہ ہوگا۔ مگر قرآن کو

پڑھتے رہنا چاہئے۔

شبینہ کا مسئلہ

(سوال) شبینہ یعنی کلام اللہ شریف ایک شب میں تراویح میں پڑھنا ثابت ہے یا نہیں بالخصوص

ایسی حالت میں کہ ادا کرنے حروف پتر تیل حتیٰ کہ تصحیح الفاظ تک نہیں ہوتی اور مقتدیوں پر بار تطویل

دریاء و شہرت علاوہ لہذا ایسی صورت میں جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) قرآن شریف کا ایک رات میں ختم کرنا بصورت تصحیح الفاظ وغیرہ جائز ہے اور حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک رات میں ختم کرنا ثابت ہے اور اگر قرآن ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھا

مگر الفاظ صحیح پڑھے گئے تو اس طرح پڑھنے میں ثواب کم ہوگا اور با ترتیل میں ثواب زائد اور دریاء تو

فرائض میں بھی ممنوع ہے تراویح پر کیا موقوف ہے اور مقتدیوں کو اگر اس طرح پڑھنا دشوار ہوتا

ہے تو نہ پڑھیں فقط۔

## ملفوظات

ایک مسجد میں مکمل تراویح پڑھنے کے بعد  
دوسری مسجد میں تراویح میں شریک ہونا

۱۔ جس صورت میں لوگوں کے جمع ہو۔ نہ سے مسجد کی بے تعظیمی ہوتی ہے ایسی صورت میں  
چپکے سے ختم کر دینا اور کسی کو خبر نہ کرنا بہتر اور مناسب ہے اور جس شخص نے بیس تراویح پڑھ لی  
ہوں پھر کسی دوسری مسجد تراویح ہوتی دیکھے تو شریک ہو جاوے کچھ حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔

## تراویح میں سورہ اخلاص کی تکرار

۲۔ تراویح میں سورہ اخلاص کو مکرر کرتے ہیں اس واسطے کہ ایک بار میں قرآن کی سورہ ہونا  
نیت کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ جو کچھ کمی غلطی قرآن میں واقع ہوئی  
اس کا جبر نقصان ہو جاوے کہ یہ مثلث قرآن وصف رحمن تعالیٰ شانہ ہے بعض کتب فقہ میں بھی یہ  
لکھا ہے۔ پس مضائقہ نہیں۔ اور مکرر پڑھنا کسی سورہ کا حرج نہیں۔ مگر اس کو سنت نہ جانے اور مکرر  
پڑھنا کسی آیت کا تو حدیث سے بھی ثابت ہے کسی وجہ سے مگر اس وجہ خاص سے سراجیہ کتب فقہ  
میں لکھا ہے اور کوئی ضروری امر نہیں چاہے نہ پڑھے البتہ ضروری اور سنت جان کر پڑھنا بدعت  
ہو جائے گا۔

۳۔ جو مکروہ وقت میں نماز ہووے اس کا اعادہ چاہئے اگرچہ عصر کو بعد مغرب ہی پڑھے  
کہ جبر نقصان ہو جاتا ہے۔

۴۔ امانت کو بلا اذن صرف کرنا نابت ہے گناہ ہوگا۔

۵۔ جماعت کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں کہ پوری نماز امام کے ساتھ ملے ہرگز نہ جاوے کہ  
اعراض جماعت مسلمین سے ظاہر ہے اور دوسری جگہ کا ملنا محتمل اور اس مسجد کا حق تلف ہوتا ہے اور  
صورت تہمت و اعراض۔

## باب: بھول کے سجدوں کا بیان

### سنن و نوافل میں قعدہ اولیٰ کا چھوڑنا

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے چار رکعت نفل کی نیت کی اور بیچ کے قعدہ میں بیٹھنا بھول گیا۔ اسی طور پر چاروں رکعت پوری کر لیں اخیر میں قعدہ کر کے سلام پھیرا یہ نماز اس کی ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو نوافل کی اصل رکعات دو ہیں بیچ کا قعدہ فرض تھا باوجود ترک نماز کیسے ہوئی اور جو نہیں ہوئی تو قضا میں کے رکعت پڑھے دو یا چار۔ دوسرے یہ کہ ایک شخص نے چار فرائض کی نیت کی اور قعدہ اخیرہ کا نہ کیا پس اس صورت میں جو فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر پانچویں رکعت کا کر لیا تو فرض باطل ہو گئے اب اگر ایک رکعت اور ملا لیوے گا تو چھ نفل ہو جاویں گے پس جس حالت میں قعدہ اخیر فرض کو ترک ہوا تو نوافل ہونا کیسے صحیح ہوا یا قعدہ اخیرہ کی فرضیت میں بہ نسبت فرائض و نوافل کے کچھ تفاوت ہے اور پہلی صورت نوافل کی بعض صاحب ایسی فرماتے ہیں کہ دو رکعت نفل کی قضا ہوگی اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہاں فرض سے دو جائز اور دو ناجائز اور یہاں فرائض میں چاروں بلکہ چھٹیوں جائز مگر فرضیت باطل اور نقلیت قائم دونوں میں کیا فرق ہے بینا تو جروا۔

(جواب) اس کی چار رکعتیں ہو گئیں اور قعدہ اولیٰ نوافل میں مطلقاً فرض نہیں بلکہ اس وقت فرض ہوتا ہے کہ رکعت اخیرہ بعد واقع ہو اور جس وقت کہ یہ شخص تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو معلوم ہوا کہ یہ محل قعدہ فرض کا نہ تھا بلکہ قعدہ اس جگہ واجب تھا جیسا کہ فرائض میں بھی واجب ہوتا ہے پس اس کا انجبار سجدہ سہو سے ہو سکتا ہے نفل میں بھی اور فرائض میں بھی ہاں اگر مصلیٰ تیسری رکعت کے قیام سے قعدہ اولیٰ کی طرف لوٹ آیا تو معلوم ہوا کہ یہ قعدہ قعدہ اخیرہ تھا جو فرض ہے پس اس وقت میں قیام سے تاخیر فرض ہوئی اس لئے انجبار اس کا سجدہ سہو سے ہو جاوے گا اور فرض میں قعدہ اولیٰ کا وجوب اور ثانیہ رکن ہوتا ہے۔ مسترد اور موقوف فعل مصلیٰ پر نہیں بلکہ قعدہ اخیرہ یعنی ثانیٰ میں دو رکعت کے بعد اور ثلاثیٰ میں تین رکعت کے بعد اور رباعیٰ میں چار رکعت کے بعد قعدہ ہر حال فرض ہے مصلیٰ اگر اس موقوف سے تجاوز کرے تو قبل اس کے کہ رکعت زائدہ کو مقید بسجدہ کرے دو رکعت محل فرض ہے اس کو چھوڑ سکتا ہے اور جب اس کو مقید بسجدہ کر دیا تو اب یہ رکعت ثانیہ ہو کر قابلیت فرض سے نکل گئی تو اس میں متحقق ہو گیا کہ مصلیٰ نے قعدہ مفروضہ کو چھوڑ دیا۔ پس



فرضیت باطل ہوگئی۔ مگر نفلیت کا بطلان اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اس میں یہ قعدہ فرض نہ تھا کیونکہ یہ رکعت وسط صلوٰۃ میں واقع ہوئی ہے نہ آخر میں قال فی الدر المختار تحت قوله والقعود الا اول ولو فی الاصح (۱) اور اس پر علامہ شامی نے لکھا ہے۔

لانه وان (۲) کان کل شفع منه صلوٰۃ علی حدة حتی افترضت القراءة فی جمیعہ لکن القعدة انما افترضت للخروج من الصلوٰۃ فاذا اقام الی الثالثة تبین ان ما قبلها لم یکن او ان الخروج من الصلوٰۃ فلم یبق القعدة فريضة انتهى كلامه .

پس اس سے معلوم ہو گیا کہ چار رکعت اس کی ہو گئیں اور قضا نہ آوے گی نہ دو کی نہ چار کی پس ان صاحب کا قول غلط ہو گیا کہ جو فرماتے ہیں دو کی قضا آوے گی اور دونوں صورتوں میں فرق بھی ظاہر ہو گیا اور یہ جواب موافق مذہب شیخین کے ہے اور امام محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرض و نفل میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ فرائض باطل ہو گئے ویسے ہی اصل صلوٰۃ باطل ہوگی پس ان کے مذہب کے موافق سرے سے سوال ہی وارد نہیں ہوتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قاعدہ کہ کل شفع من النفل صلوٰۃ علی حدة (۳) کلیہ نہیں بلکہ بعض احکام کے اعتبار سے ہے قال فی رد المحتار و کون کل شفع صلوٰۃ علی حدة لیس مطر دافی کل الاحکام ولذالو ترک القعدة الا ولی لا تفسد خلافاً لمحمد رحمہ اللہ تعالیٰ (۴) اتنی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سنن و نوافل میں ضم سورۃ کا حکم

(سوال) آیا سنن و نوافل میں ترک ضم سورت سے سجدہ سہولاً لازم ہوگا اور وتر کو اس بارے میں حکم فرائض کا دیا جاوے گا یا سنن کا کہ وتر میں بھی ترک ضم سے سجدہ آوے۔

- (۱) اور مختار میں اس قول کے تحت کہ قعدہ اولیٰ اگرچہ نوافل میں ہونے کے باوجود صحیح مسئلہ یہ ہے کہ۔  
 (۲) اس لئے کہ وہ اگرچہ اس کی ہر دو رکعت مستقل علیحدہ نماز ہے اور اسی لئے فرأت اس کی کل رکعات میں فرض ہے لیکن قعدہ کی فرضیت صرف نماز سے نکلنے کے لئے ہے تو جب وہ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ اس کے ما قبل نماز سے نکلنے کا وقت نہ تھا لہذا وہ قعدہ فرض نہ رہا۔  
 (۳) نفل کی ہر دو رکعت مستقل علیحدہ نماز۔  
 (۴) رد المحتار میں ہے کہ ہر دو رکعت کا مستقل نماز ہونا تمام احکام میں ضروری نہیں اور اسی لئے اگر کسی نے قعدہ اولیٰ چھوڑ دیا تو نماز قاسد نہ ہوگی اس میں محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔

(جواب) ضم سورۃ یا فاتحہ نوافل و سنن میں مثل فرائض کے واجب ہے ترک سے مجدہ ہو آوے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### قومہ و جلسہ کی دعاؤں کا حکم

(سوال) قومہ و جلسہ میں دعاء مسنونہ پڑھنے سے جو شخص کہتا ہو کہ مجدہ ہو لازم ہے یہ قول صحیح ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ مسلح صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ فقط

### باب وتر کا بیان

فرض پڑھانے والے کے سوا کوئی اور وتر پڑھا سکتا ہے یا نہیں

(سوال) یہ جو مشہور ہے کہ جو شخص فرض نماز پڑھاوے وہی وتر پڑھاوے اگر دوسرا شخص پڑھاوے تو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) درست ہے کہ دوسرا شخص وتر پڑھاوے اور جو مشہور ہے غلط ہے۔

جس کو فرض کی نماز نہ ملے وہ وتر کیسے پڑھے

(سوال) جس شخص کو نماز جماعت فرضوں کی نہ ملے وہ نماز وتر جماعت سے پڑھے یا علیحدہ زید کہتا ہے کہ وتر جماعت سے نہ پڑھے۔ صحیح کس طرح ہے۔

(جواب) وتر جماعت سے پڑھ لے فقط۔

دعا قنوت کے بعد درود شریف کا پڑھنا

(سوال) و تروں میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا جیسے کہ شرح در مختار میں لکھا ہے کیسا ہے زید کہتا ہے کہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا اچھا ہے۔

(جواب) دعائے قنوت کے بعد درود شریف مستحب ہے۔ فقط

## باب الجمعہ والعیدین

جمعہ کہاں اولیٰ ہوگا

(سوال) یہاں بہت سی مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے اولیٰ کس میں ہے۔  
(جواب) سب مسجدوں میں جمعہ درست ہے مگر بڑی مسجد میں اولیٰ ہے یا جس میں امام عالم متقی ہو فقط والسلام۔

قریہ میں جمعہ وعیدین کا ہونا

(سوال) جس مقام پر تفسیر مصر حسب فقہاء صادق نہ آتی ہو مثل قریہ وغیرہ یا جس مصر میں حاکم اور نائب بھی نہ ہو کہ اجرائے حدود شرعیہ کرے اور کفار وہاں کے مانع احکام شرعیہ بھی نہ ہوں تو وہاں جمعہ وعیدین قائم کیا جاوے یا نہیں اگر ایسی جگہ قائم کر لیں تو صحیح ہوگا یا ظہر ذمہ باقی رہے گی اور حدیث لاجمہ ولا تشریق الا فی مصر جامع صحیح ہے یا ضعیف۔

(جواب) یہ حدیث قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح ہے اور اس پر ہی عمل در آمد حنفیہ کثریم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قریہ میں نماز جمعہ کسی حال میں ادا نہیں ہوتی۔ البتہ قصبہ یا شہر میں اگر غلبہ کفار کا ہو اور اپنا امام خطیب مقرر کر کے جمعہ ادا کریں جیسا اب مروج ہے تو جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ ظہر ساقط ہو جاتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

دیہات میں جمعہ کا پڑھنا

(سوال) چھوٹا گاؤں جس میں جمعہ درست نہیں اس کی کیا تعریف ہے اور بڑا گاؤں جس میں جمعہ درست ہے وہ کتنے آدمیوں کا ہوتا ہے اور اگر چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھیں تو پھر ظہر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں اور بڑے گاؤں میں بعد جمعہ ظہر پڑھیں یا نہیں۔

(جواب) واضح ہو کہ جمعہ پڑھنے کے لئے کسی خاص قسم کی بستی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بات شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہوئی بلکہ شرعی دلیل سے ثابت ہے کہ جمعہ کا پڑھنا ہر جگہ فرض ہے خواہ شہر ہو یا گاؤں خواہ بڑا گاؤں ہو یا چھوٹا گاؤں چنانچہ یا ایہا الذین امنوا اذا

نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع .

یعنی اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکار ہو تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں جناب باری نے عام طور پر ہر مسلمان کو فرمایا کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو تو لوگ فوراً حاضر ہوں لہذا اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ جمعہ کے لئے کسی خاص قسم کی ہستی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ حدیث سے یہ بات ضرور ثابت ہوئی ہے کہ جمعہ کے لئے اس قدر آدمی ہونے چاہئیں کہ جن سے جماعت ہو جاوے چنانچہ بیہقی میں ہے۔ عن طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة الا اربعة عبد مملوک او امرأة او صبی او مریض رواہ ابو داؤد انتھی مختصراً۔

یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے بجز چار کے مملوک (۱) غلام یا (۲) عورت یا (۳) بچہ یا (۴) بیمار کے خلاصہ یہ کہ جمعہ کے لئے اتنے آدمی ہونے چاہئیں کہ جن سے جماعت ہو جاوے اور جماعت کے لئے سب سے کم درجہ دو عدد ہے اور دو شخصوں سے جماعت ہو جاتی ہے چنانچہ نیل الاوطار میں ہے۔

امسا الاثنان فبانضمام احدهما الی الاخری حصل الاجتماع وقد اطلق الشارع علیهما اسم الجماعة فقال الاثنان فما فوقهما جماعة کما تقدم فی ابواب الجماعة .

خلاصہ یہ کہ دو شخصوں سے جماعت ہو جاتی ہے اب ظاہر ہے کہ آیت اور دونوں حدیثوں کے ملانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کے لئے کسی خاص قسم کی ہستی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قدر جماعت آدمی ہونے چاہئیں جن کا کم سے کم درجہ دو عدد ہے لہذا ان دلیلوں کے بموجب اگر کوئی ایسی ہستی ہو کہ اس میں صرف دو ہی مسلمان ہوں تو اس میں بھی جمعہ فرض ہے ہاں البتہ حنفیہ کے نزدیک جمعہ کے لئے مصر یعنی شہر کا ہونا شرط ہے اور اس کے لئے دلیل یہ قول بیان کیا گیا ہے۔ لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر

(۱) اگر دو ہوں تو ایک کا دوسری سے مل جانا اجتماع کا حصول ہے اور شارع نے ان دونوں پر جماعت کا لفظ کہا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ ”دو اور ان سے زیادہ جماعت ہیں۔“ جیسا کہ یہ حدیث پہلے ابواب الجماعة میں گزر چکی ہے۔  
(۲) جمعہ تشریق و عید الفطر و عید الاضحیٰ بجز شہر جامع کے اور کہیں نہیں ہوتے۔

جامع اور اس قول کو صاحب ہدایہ نے حضرت کا قول قرار دیا ہے مگر صحیح بات یہ ہے، کہ یہ حضرت کا قول نہیں ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ چنانچہ فتح القدر میں ہے۔ قوله يقول علی لا جمعة ولا تشریق الخ رفعه المصنف وانما رواہ ابن ابی شیبہ موقوفا علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا جمعة ولا تشریق ولا فطر ولا اضحی الا فی مصر جامع او مدینة عظيمة وصححه ابن حزم (۱) یعنی مصنف نے اس قول کو مرفوع قرار دیا ہے یعنی حضرت کا قول کہا ہے حالانکہ یہ قول حضرت علی پر موقوف ہے یعنی ان کا ہی قول ہے خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مصر یعنی شہر کا ہونا شرط ہے اس کے بعد خود حنفیہ میں بارے میں اختلاف ہے کہ مصر کس کو کہتے ہیں اور اس بارے میں علماء حنفیہ کے مختلف اقوال موجود ہیں چنانچہ یہ اقوال ہدایہ اور اس کی شرحوں میں موجود ہیں لیکن واضح ہو کہ جمعہ کے لئے مصر کا ہونا خود حنفیہ کے اصول اور قاعدہ کی رو سے حجت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس کے خلاف حدیث مرفوعہ یعنی حضرت کا قول موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے لئے مصر ہونا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے اور حنفیہ کا قاعدہ ہے کہ جو قول صحابی ایسا ہو کہ اس کے خلاف حدیث مرفوعہ موجود ہو تو وہ حجت نہیں ہے چنانچہ فتح القدر میں ہے۔

قول الصحابی حجة فيجب تقليده عندنا اذا لم ينفخه شئ اخر من السنة (۲) یعنی قول صحابی حجت ہے لہذا اس کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے مگر اس وقت کہ کوئی حدیث اس کی نفی نہ کرے اس قاعدہ سے معلوم ہوا کہ قول صحابی حجت نہ ہوگا کیونکہ اس کے خلاف حدیث مرفوعہ موجود ہے لہذا جمعہ کے لئے شہر کی شرط ظہرانا باطل ہو گیا اور قابل تسلیم نہیں رہا اور جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر پڑھنا ضروری نہیں ہے دو وجہ سے ایک یہ کہ اس کے لئے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے دوسرے یہ کہ جو لوگ آج کل جمعہ کے بعد ظہر پڑھتی بتاتے ہیں وہ یہ وجہ کہتے ہیں کہ دیہاتوں میں جمعہ کے فرض ہونے میں شک ہے اس واسطے احتیاطاً ظہر پڑھ لینی چاہئے لیکن اوپر معلوم ہو چکا کہ قرآن اور حدیث کی رو سے دیہاتوں میں جمعہ فرض ہے لہذا اب جمعہ کی فرضیت میں شک نہیں رہا اور جب شک جاتا رہا تو احتیاطی ظہر بھی جاتی رہی اور اس کے پڑھنے

(۱) اس کا یہ کہنا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جمعہ اور تشریق نہیں ہے۔ اس فتح مصنف نے اس کو مرفوع کیا ہے حالانکہ ابن ابی شیبہ نے اس کو حضرت علی پر موقوف روایت کیا ہے کہ نہ جمعہ ہے نہ تشریق نہ عید الفطر نہ عید الاضحیٰ مگر جامع شہر میں یا بڑے شہر میں اور اس کو ابن حزم نے صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) صحابی کا قول حجت ہے اس کی تقلید واجب ہے ہمارے پاس جبکہ سنت سے کوئی اور چیز اس کے منافی نہ ہو۔

کی کوئی وجہ نہیں باقی رہی واللہ اعلم بالصواب حررہ ابو محمد عبدالحق اعظم گڑھی عفی عنہ:-

عن ابن عباس اول جمعة جمعت في الا سلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي عن البحرين بخارى و ابو داؤد وقال جواثي قرية في قرى البحرين. (۱)

اور امور معلومہ ظاہرہ سے ہے کہ عبد القیس نے بغیر امر حضرت ﷺ کی اقامت جمعہ نہیں کیا ازانکہ عادت صحابہ کرام سے یہ ہے کہ کوئی فعل بغیر امر شارع کے نہیں کیا کرتے خصوصاً زمان نزول وحی میں اور خصوصاً ابتداء اسلام میں معہذا اگر یہ امر اقامت جمعہ بمجملہ ممنوعات شرعیہ سے ہوتا تو البتہ اس کی نہی میں نزول وحی ہوتا اور عدم نزول وحی اتوی اولہ جواز سے ہے۔ چنانچہ حضرت جابر اور ابوسعید نے جواز عزل پر اسی طرح استدلال کیا اور کہا: کنا نعزل والقمرآن ينزل وهكذا.

اور شواہد اس کے بہت ہیں والیضا نماز جمعہ مانند سائر صلوة کے ہے الا ماورد به النص بالتخصیص کا لخطبہ وغیرہ (۲) اور بالاتفاق جمیع صلوات سب جگہ بلا فرق قری ومدن کے لازم ہے یہ بھی ویسا ہی ہے۔ اور..... ایضاً حدیث الجمعة الجمعة واجب علی کل محتلم. (۳) عام ہے جمیع امکان کو بلا تخصیص بلا عظیمة وغیرہ کے اور حسب قاعدہ اصولیہ عام جب تک کوئی تخصیص صحیح موازن اس کی توقيت وغیرہ میں نہ ہو عموم پر محمول ہوتا ہے باقی وہ حدیث جس پر فرقہ حصبہ نازاں وفرحان ہے: عن علی مرفوعاً لا جمعة ولا تشریق الا فی مصر جامع. امام احمد نے اس حدیث کے رفع میں بہت کلام کیا اور اخیر فیصلہ کیا صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے اور ابن حزم نے فرمایا: الصحیح وقتہ نیل الاوطار میں ہے:- وللا جتھاد فیھا مسح فلا ینتھض للا حتجاج. (۵)

- (۱) اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اول جمعہ جو اسلام میں اس جمعہ کے بعد ہوا جو نبی ﷺ کی مسجد میں ہوا تھا وہ مسجد عبد القیس کا جمعہ ہے جو بحرین کی جواثی میں ہوا تھا (بخاری ابوداؤد اور کہا کہ جواثی بحرین کی دیہات میں سے ایک قریہ ہے)
- (۲) ہم عزل کیا کرتے تھے جب کہ قرآن اترتا تھا (عزل کہتے ہیں عورت سے محبت کرنے کے بعد انزال باہر کرنا تاکہ نطفہ نہ پھیرے۔)
- (۳) مگر یہ کہ جس کے حلق نص خصوصیت کی دارد ہو جیسے کہ خطبہ وغیرہ۔
- (۴) و نیز حدیث جمعہ کہ جمعہ ہر یاقین پر واجب ہے۔
- (۵) اور اس میں اجتہاد کے لئے راہ کلی ہے تو اس کو بطور دلیل نہیں کھڑا کیا جاسکتا۔

پس یہ حدیث موقوف کیونکر معارضہ اس حدیث مذکورہ بالا کا کر سکتی ہے بلکہ یہ حدیث متکلم فیہ ہے امام نووی فرماتے ہیں:- حدیث علی متفق علی ضعف (۱) علاوہ اس کے اور احادیث اس کی مؤیدات ہیں بخاری شریف میں ہے قال یونس کتب زریق بن حکیم الی ابن ابی شہاب وانا معہ یومئذ بوادا القری هل تری ان اجمع وزریق عامل علی الارض یعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم وزریق یومئذ علی ایلة فکتب ابن شہاب وانا اسمع یا مرہ ان یجمع الحدیث بطولہ (۲) ابن ابی شیبہ من طریق ابی رافع عن ابی ہریرۃ عن عمر سے لائے ہیں۔

ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب الی اہل البحرین ان اجمعوا حیث ما کنتم قال هذا یشتمل القری والمدن وصححہ ابن حزیمة (۳) امام بیہقی طریق ولید بن مسلم سے لائے ہیں:- قالت مسالت اللیث بن سعد رایہ عن التجمیع فی القری، فقال کل مدینة اوقریة فیہا جماعة امرو ابالجمعة فان اهل مصر و سوا حلہا كانوا یجمعون الجمعة علی عهد عمرو عثمان بامرہما وفيہا رجال من الصحابة (۴)۔

القصة احادیث کثیرہ مابین ضعاف و حسان اس بارے میں اسفار معتبرہ میں موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ جہاں جمعہ پڑھنا ضروری ہے از آنکہ عید تارک جمعہ سب پر عائد ہے باقی جمعہ کے لئے جماعت کا ہونا ضروری ہے اور تعیین جماعت متیقن اقوال مختلفہ وارد ہوئے۔ چنانچہ صاحب فتح الباری نے اقوال نقل کئے اما وہ تعیین جو خود شارع شریف سے ثابت ہے متیقن و واجب التعلیم

صحیح یہ ہے کہ وہ موقوف ہے۔

(۱) علی کی حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

(۲) یونس نے کہا ہے کہ زریق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا ہے اور میں اس وقت ان کے ساتھ (داوی القری میں تھا) کہ کیا تم مناسب سمجھتے ہو کہ میں جمعہ شروع کروں اور زریق زمین پر غالب ہے کہ اس پر حکومت کر رہا ہے اور اس میں ایک جماعت سوڈانیوں وغیرہ کی ہے اور زریق اس وقت ایلہ میں تھا تو ابن شہاب نے لکھا ہے اور میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اس کو حکم دیا کہ پوری حدیث صحیح کر دے۔

(۳) ابن ابی شیبہ ابی رافع کی روایت سے ابی ہریرہ عن عمر سے روایت کرتے ہیں عمر نے اہل بحرین کو لکھا کہ تم جہاں کہیں ہو جمعہ پڑھو۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ یہ حکم دیہات اور شہروں پر شامل ہے اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے۔

(۴) کہا کہ میں نے لیث بن سعد سے ان کی رائے دیہات میں جمعہ کے متعلق دریافت کی تو فرمایا ہر جگہ شہر ہو کہ دیہات جہاں لوگ ہوں گے وہاں جمعہ کا حکم دیا جائے کیونکہ اہل مصر اور اس کے کناروں پر رہنے والے عمر و عثمان کے زمانے میں ان کے حکم سے جمعہ پڑھتے تھے اور ان میں بہت سے صحابہ تھے۔

ہے فرمایا:-

انسان لما فوقها جماعة قال في النيل لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص وقد صحت الجماعة في سائر الصلوة باثنين ولا فرق بينها وبين الجمعة ولم يات نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الجمعة تعقد بكذا وكذا. (۱)

پس حاصل یہ کہ جب دو شخص کسی مکان میں مل کر جماعت سے جمعہ پڑھ لیں تو وہ ادائے ما جب علیہا سے بری ہو گئے ہذا ہوا الحق سید محمد نذیر حسین، سید محمد عبدالسلام غفرلہ، سید محمد ابوالحسن۔

آیت سے فرض ہونا جمعہ کا عام طور پر ہر جگہ ثابت ہوا شہر ہو یا قریہ پس تخصیص شہر کی نص کے مقابلہ میں موافق قاعدہ اصول حنفیہ کے احناف کو کرنا چاہئے و اذا لیس فلیس ءاور خلاف قواعد اپنے مذہب کے فتویٰ دینا کالجہاری فی الصحاری بہ باطل ہے۔ بل ہو ہرس من ہرسات الشیطان اور ابوداؤد میں ہے باب الجمعة فی القری حدیثنا عثمان بن ابی شیبہ ومحمد بن عبداللہ المخزومی لفظہ قالانا وکیع عن ابراہیم بن طہمان عن ابی جمرۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان اول جمعة جمعت فی الاسلام بعد جمعة جمعت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدينة الجمعة جمعت بجواتی قریۃ من قری البحرین قال عثمان من قری عبدالقیس۔

اور صلوة جمعہ ادا کر کے پھر ظہر پڑھنا ایک محدث امر ہے اور وسوسہ شیطانی حدیث میں آیا ہے کل محدث بدعتہ للہ تلتطف حسین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد اللہ علی جزائل نعمانہ وشاکر الہ علی جلائل الآئہ ومصلیا علی رسولہ محمد افضل انبیانہ ومبلغ انیانہ وعلی سائر الصحب والآل ومن نسلک مسالکت اقتفانہ اقول وباللہ التوفیق۔  
یہ جواب فتویٰ کے چھوٹے گاؤں میں بھی جمعہ فرض ہے اگر چہ وہاں دو ایسی مسلمان ہوں

(۱) دو اور دو سے زیادہ جماعت ہیں نیل میں ہے کہ کوئی دلیل اس بات پر ثابت نہیں ہے کہ عدد مخصوص مشروط ہے اور جماعت ہر نماز میں ہو جاتی ہے اور اس میں اور جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ سے کوئی نص ثابت ہے کہ جماعت تین اور اتنے سے ہوگا۔ نہ۔ اور یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔

نہ۔ جیسے جنگل میں مرخاب۔ نہ۔ بلکہ یہ شیطان کی ہوسنا کیوں میں سے ایک ہوں ہے۔  
لہ۔ ہر نئی بدعت ہے۔



ہرگز صحیح نہیں ہے کیونکہ روایات معتبرہ صحیحہ سے یہ امر ثابت ہے کہ فرضیت نماز جمعہ مکہ معظمہ میں قبل ہجرت ہو چکی تھی۔ مگر جناب رسول اللہ ﷺ کو مکہ معظمہ میں اقامتہ جمعہ کی بسبب غلبہ کفار کے قدرت نہ تھی لہذا اقامتہ جمعہ سے عاجز رہے۔ لیکن اہل مدینہ کو آپ نے واسطے اقامتہ جمعہ کے امر فرمایا تھا اور حسب حکم آپ کے مدینہ طیبہ میں جمع ہوا اور تا مقدم رسول اللہ ﷺ وہاں جمعہ جاری رہا۔ چنانچہ شوکانی نیل الاوطار میں فرماتے ہیں: - وذلك ان الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة كما اخرج الطبراني عن ابن عباس فلم يتمكن من اقامتها هنالك من اجل الكفار فلما هاجر من هاجر من اصحابه الى المدينة كتب اليهم يا مرهم ان يجمعوا فجمعوا انتهى عبارته (۱)

اور نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی عمون الباری میں اور علامہ قسطلانی اور علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی اپنی شرح بخاری میں فرماتے ہیں: تحت قوله فهدانا الله له بان نص لنا عليه ولم يكلنا الى اجتها دنا لا احتمال ان يكون صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي وهو بمكة فلم تمكن من اقامتها بها وفيه حديث عن ابن عباس عند الدار قطنی ولذلك جمع لهم اول ما قدم المدينة كما ذكره ابن اسحاق وغيره انتهى كلامه جميعاً (۲) اور نیز سنن البوراد میں ہے: - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد ابيه بعد ما ذهب بصره عن ابيه كعب بن مالك رضى الله عنهما انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لا سعد بن زرارہ قال فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لا سعد بن ذرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم البيت من حرة بنى بياضة في نقيع يقال له نقيع الحضامات قلت كم كنتم يومئذ قال اربعون رجلا وزواه ابن ماجه وقال فيه كان اول من صلى بنا صلوة الجمعة قبل

(۱) اور یہ اس لئے کہ جمعہ نبی ﷺ پر مکہ میں ہجرت کے پہلے فرض ہوا تھا جیسا کہ طبرانی نے اس کی روایت ابن عباس سے اس طرح بیان کی ہے کہ آپ وہاں کفار کی وجہ سے جمعہ قائم نہ فرما سکے لیکن جب آپ کے اصحاب میں سے جن کو ہجرت کرنی تھی ہجرت کر کے مدینہ آگئے تو آپ نے ان کو لکھا اور حکم دیا کہ وہ جمعہ ادا کریں چنانچہ انہوں نے جمعہ ادا کیا یہاں نیل الاوطار کی عبادت ختم ہو گئی۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی ہدایت کی، کے تحت بیان کرتے ہیں کہ وہ دن ہم کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اور ہم کو اجتہاد کی طرف نہ متوجہ کیا اس احتمال سے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو وحی سے بتا دیا ہو، جب کہ آپ کہہ میں تھے اور وہاں اس کو قائم نہ کر سکے اور اس بارے میں دارقطنی کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اور اسی بناء پر جب آپ اول اول مدینہ آئے تو ان کو جمعہ پڑھایا جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں ان سب کا کلام ختم ہوا۔

مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکة انتهى (۱)

اور جب آپ مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو اول جمعہ جو آپ کو وہاں ہوا آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی اور اس وقت تک آیت جمعہ ہرگز نہ نازل ہوئی تھی بلکہ ایک مدت کے بعد نازل فرمائی ہے چنانچہ اتقان میں ہے:-

سورة الجمعة الصحيح انها مدنية لما روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سورة الجمعة واخرين منهم لما يلحقوا بهم قلت من هم يا رسول الله الحديث ومعلوم ان اسلام ابي هريرة بعد الهجرة بمدة وقوله قل يا ايها الذين هادوا اخطاب لليهود وكانوا بالمدينة واخر السورة نزل في انفضاضهم حال الخطبة لما قدمت العير كما في الاحاديث الصحيحة فثبت انها مدنية كلها انتهى عبارة الاتقان. (۲)

پس ان روایات سے ثابت ہو چکا کہ نزول آیت جمعہ کا بعد فرضیت جمعہ کے ہے اس آیت کے نزول سے ابتداء فرضیت جمعہ امت پر نہیں ہوئی بلکہ نزول آیت کا بعد فرضیت جمعہ کے ہوا ہے، بہت سے احکام اس قبیل سے ہیں کہ اول حکم نازل ہو گیا اور آیت اس باب میں بعد میں نازل ہوئی یہ آیت بھی اسی قسم میں داخل ہے سیوطی اتقان میں کہتے ہیں:-

(۱) عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے روایت ہے اور وہ اپنے والد کی بصارت جانے کے بعد ان کو لے جایا کرتے تھے اپنے والد کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن اذان کی آواز سنئے تو سعد بن زرارہ کے لئے دعا فرمایا کرتے کہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ اذان کی آواز سنئے ہیں تو سعد بن زرارہ کے لئے فرماتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ ہم کو اپنے گھر کے نچلے حصہ میں بنی بیاضہ کے پتھر لے میدان میں ایک جگہ جس کو بیع المضامات کہا جاتا تھا میں نے پوچھا کہ اس وقت تم کتنے آدمی تھے تو فرمایا چالیس آدمی اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے مکہ سے آنے کے پہلے انہوں نے ہی ہم کو جمعہ کی نماز پڑھائی تھی۔

(۲) سورہ جمعہ کے متعلق صحیح تو یہی ہے کہ وہ مدنی ہے جیسا کہ بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی جس میں یہ آیت بھی تھی اور آخرین منہم لما يلحقوا بهم تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں (آخر حدیث تک) اور یہ بات معلوم ہے کہ ابو ہریرہ ہجرت کے ایک مدت بعد اسلام لائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نبی کو کہ قل يا ايها الذين هادوا لليهود سے خطاب ہے جو مدینہ میں تھے اور یہ آخری سورہ ہے جو بوقت خطبہ ان کے پرانگندہ ہو جانے کے بارے میں نازل ہوا تھا جب کہ قافلہ آیا تھا۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آتا ہے تو ثابت ہوا کہ یہ سورہ پوری مدنیہ ہے (اتقان کی عبارت ختم ہوئی)۔

النوع الثانی عشر هو تاخر حکمہ عن نزوله وما تاخر نزوله عن حکمہ الی ان قال ومن امثلته ایضاً آية الجمعة فانها مدنية والجمعة فرضت بمكة الیٰ اخر ما قال. (۱)

پس جو علماء فرماتے ہیں کہ فرضیت جمعہ بعد ہجرت مدینہ طیبہ میں ہوئی اس آیت سے سوا اگر ان کی یہ مراد ہے کہ وہ آیت جس سے فرض ہونا جمعہ کا ہم کو معلوم ہوتا ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تو یہ قول ان کا درست اور بجا ہے اور اگر یہ معنی ہیں کہ جمعہ مدینہ طیبہ میں بعد ہجرت اس آیت سے ہی فرض ہوا تو ہر اہل بصیرت پر واضح ہے کہ یہ رائے خلاف واقعہ کے ہے، چنانچہ اوپر کی احادیث سے ظاہر ہو گیا اور یہ روایت ابوداؤد وغیرہ کی ہے:۔ جمع اهل المدينة قبل ان يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ان تنزل الجمعة فقالت الانصار ان لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصارى كك فهلهم فلنجعل يوم نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلى ونشكره فجعלוه يوم العروبة واجتمعوا على اسعد بن زرارۃ فصلى بهم يومئذ وانزل الله تعالى بعد ذلك اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة الاية انتهى. (۲)

سویہ روایت معارض اس پہلی روایت کے کہ جس میں امر رسول ﷺ کا باقلمتہ جمعہ ثابت ہوتا ہے ہرگز نہیں ہے چونکہ یہ اجتماع انصار کا ازرائے خود قبل امر رسول اللہ ﷺ کے ہوا تھا اور وہ صلوة متفلاً تھی۔ اس کے سبب سے انہوں نے فرض ظہر ترک نہ کیا کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنی رائے سے ایک امر ایجاد کر کے فریضہ حق سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھتے اور بعد امر رسول اللہ ﷺ فریضہ دور کعت پڑھی گئی اور اس کو مسقط ظہر ٹھہرایا گیا پس ان دنوں واقعات میں کچھ مخالفت اور تعارض نہیں ہے۔ الحاصل محقق ہو گیا کہ فرضیت جمعہ مکہ معظمہ میں ہو چکی تھی اور مکہ میں اقامتہ جمعہ سے تعذر رہا اور مدینہ طیبہ میں کہ مصر تھا اور مسلمانوں کو تمکن اقامتہ جمعہ کا تھا جمعہ بامر رسول اللہ ﷺ

(۱) بارہویں قسم وہ ہے جس کا حکم نزول سے متاخر ہے اور جس کا نزول حکم سے متاخر ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ اور ان کی مثالوں سے جمعہ کی آیت بھی ہے کیونکہ وہ مدنی ہے اور جمعہ مکہ میں فرض ہوا یہاں تک کہ فرمایا۔  
(۲) رسول اللہ ﷺ کے مدینہ میں آنے اور سورۃ جمعہ کے نازل ہونے کے پہلے اہل مدینہ جمع ہوئے اور انصار نے کہا کہ یہود کا ایک دن ہے کہ وہ اس میں ہر ہفتہ جمع ہوتے ہیں اور نصاریٰ کا بھی اسی طرح تو آدم بھی ایک دن ایسا مقرر کر لیں کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نماز پڑھیں اور شکر ادا کریں چنانچہ جمعہ کے دن کو "یوم العروبة" (عربوں کا دن) قرار دیا۔ اور اسعد بن زرارہ کے پاس جمع ہونے انہوں نے ان کو نماز پڑھائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة۔ کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے بلایا جائے آخر تک۔

جاری رہا اور جو مواقع محل اقلمتہ جمعہ نہ تھے۔ مثل عوالی قبا وغیرہ وہاں جمعہ جاری نہیں ہوا حالانکہ وہاں بہت مسلمان مقیم تھے اور نہ کبھی بعد میں وہاں جمعہ پڑھا گیا۔ چنانچہ ابوداؤد میں روایت ہے۔

عن ابن عباس ان اول جمعة جمعت في الا سلام بعد ما جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثي قرية

من قري البحرين قال عثمان قرية من قري عبد القيس انتهى. (۱)

پس اگر ہر قریہ میں اگرچہ صغیرہ ہو جمعہ فرض تھا تو کیا وجہ تھی کہ حضرت ﷺ نے ان لوگوں کو امر نہ فرمایا جیسا کہ اہل مدینہ کو امر فرمایا تھا حالانکہ تبلیغ احکام آپ کی ذات پاک پر ہر بشر کی طرف فرض تھی اور بعد اس کے جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اول نزول آپ کا قبا میں ہوا۔ اور وہاں چودہ ۱۴ روز آپ نے اقلمتہ فرمائی اگرچہ عدد ایام اقلمتہ میں اختلاف ہے مگر کتاب بخاری اصح الکتب میں جو چودہ ۱۴ روز مذکور ہیں وہ سب سے راجح ہے اور ان ایام اقلمتہ قبا میں آپ کو دو جمعہ پیش آئے کیونکہ آپ پیر کے روز قبا میں فروکش ہوئے اور پیر ہی کے روز پندرہویں دن مدینہ کو تشریف لے گئے مگر آپ نے قبا میں اقلمتہ جمعہ نہ فرمائی اور نہ اہل قبا کو حکم فرمایا کہ تم پر نماز جمعہ فرض ہے تم اقلمتہ جمعہ کرو اور نہ اس پر سرزنش فرمائی کہ مدینہ میں جمعہ ہوتا ہے تم نے اب تک جمعہ کیوں نہیں پڑھا تو اہل قریہ پر اگر جمعہ فرض تھا تو اس ترک نماز جمعہ کی اہل قبا سے اور جناب رسول اللہ ﷺ کی کیا وجہ تھی جو صاحب مدنی وجوب جمعہ بر اہل قریہ ہیں۔ ان پر اس کا جواب واجب ہے۔ بخاری میں ہے۔۔ حدثنا انس بن مالک قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمر بن عوف قال فاقام فيهم اربع عشرة ليلة الحديث. (۲)

اور جن علماء کو اس روایت جمعہ جوانی سے شبہ وجوب جمعہ بر اہل قریہ ہوا ہے وہ کئی وجہ سے درست نہیں ہے اول تو یہ کہ جوانی گاؤں نہ تھا بلکہ شہر تھا اور جب اس میں احتمال ان معنی کا ہوا تو استدلال درست نہ رہا کہ : اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال في العيني شرح بخاری

(۱) ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جمعہ جو اسلام میں پڑھا گیا رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں مدینہ میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ جمعہ ہے جو بحرین کے دیہات میں سے ایک گاؤں جوانی میں جو عبد القیس کے دیہات میں سے تھے۔ (۲) انس بن مالک نے ہم سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اوپر کے حصہ میں ایک قبیلہ میں اتارے جس کو بنو عمر بن عوف کہا جاتا ہے کہ وہاں (۱۴) رات ٹھہرے آخر حدیث تک۔

وحكى ابن القيس عن الشيخ ابي الحسن انها مدينة وفي الصحاح للجوهري  
والبلدان للزمخشري جوائى حصن بالبحرين و قال ابو عبد البكرى هي مدينة  
بالبحرين لعبد القيس قال امرأ القيس -

ورحنا كانا من جوائى عشية  
تعالى النعاج بين عدل ومحقب

یرید کانا من تجار جوائى لكثرة ما معهم من الصيد اراد كثرة امتعة  
تجار جوائى قلت كثرة الامتعة تدل غالباً على كثرة التجار وكثرة التجارة  
تدل على ان جوائى مدينة قطعاً ان القرية لا يكون فيها تجار كثيرون غالباً  
انتهى۔ (۱) اور با آنکہ بعض اوقات اطلاق قریہ کا باعتبار اس کے معنی لغوی اجتماع کے مدینہ پر  
بھی ہو جاتا ہے۔ قال الله تعالى وقالوا لو لا انزل هذا القرآن على رجل من  
القريتين عظيم۔ (۲)

یعنی مکہ و طائف اور اگر تسلیم ہی کر لیا جاوے کہ جوائی قریہ تھا تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اہل  
جوائی نے حضرت ﷺ کی اجازت و اذن سے وہاں جمعہ ادا کیا تھا اور آپ کو اس کی اطلاع  
ہو کر آپ نے اس کی تقریر بھی فرمائی آج تک یہ کسی سے ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ فعل ان کا  
باذن و اجازت آپ کے تھا اگر کسی کو دعویٰ ہو تو اب صراحة اجازت آپ کی کسی حدیث صحیح  
سے ثابت کرے اور یہ خیال کہ جو کچھ کرتے تھے آپ کی اجازت سے کرتے تھے۔ چنانچہ  
بعض علماء مثل علامہ شوکانی وغیرہ نے عذر کیا ہے درست نہیں ہے کیونکہ بہت افعال صحابہ کرام  
سے بلا اذن صریح و اجازت آپ کے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ خود اسی امر جمعہ میں اسعد بن  
زرارہ نے قبل امر رسول اللہ کے جمعہ قائم کیا تھا جیسا کہ حدیث ابوداؤد سے اوپر ثابت ہوا اور

(۱) جب احتمال آ گیا تو استدلال باطل ہو گیا یعنی شرح بخاری میں ہے اور ابن قیس نے شیخ ابوالحسن سے روایت کی ہے کہ  
وہ (جوائی) شہر ہے۔ اور جوہری کی صحاح میں اور زمخشری کی بلدان میں ہے کہ جوائی بحرین میں ایک قلعہ ہے ابو  
عبد البکر ہی فرماتے ہیں کہ وہ بحرین میں ایک شہر ہے جو عبد القیس کا ہے۔ امرأ القیس کہتا ہے۔  
(شعر) اور ہم روانہ ہوئے اس طرح کہ گویا ہم جوائی سے شام کے وقت بھیڑیں بلند تھیں۔ گھڑیوں اور سیوں کے  
درمیان یعنی گویا وہ جوائی کے تجارتیے تھے کہ ان کے ساتھ شکار زیادہ تھے اور مال کی زیادتی سے مراد جوائی کے تجارت سے تھے  
میں کہتا ہوں کہ سامان کی زیادتی اس بات کی دلیل ہے کہ تجارتی کثرت تھی اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ جوائی شہر تھا کیونکہ  
گاؤں میں غالباً زیادہ تجارتیں ہوتے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس شخص پر کیوں نہ اترا جو ان دونوں گاؤں میں سے بڑا  
ہے۔"

چونکہ جواز اقامتہ جمعہ کا جو اثنی عشر میں در صورت قریہ صغیرہ ہونے جو اثنی عشر کے موقوف تھا یا اذن رسول اللہ ﷺ پر یا بعد خبر ہونے کے تقریر اور سکوت پر اور یہ دونوں امر ہرگز ثابت نہیں تو علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس کے جواز کے لئے یہ تجویز فرمائی کہ جس کو مجیب صاحب نقل فرماتے ہیں:-

بقوله عن ابن عباس رضی اللہ عنہ اول جمعة جمعت فی الا سلام بعد جمعة جمعت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواثی من البحرین (بخاری و ابو داؤد) وقال جواثی قریہ من قری البحرین الی اخر ما ذکر فی جواب المجیب (۱)

اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اگرچہ یہاں اذن سے رسول اللہ ﷺ کے نہ ہو یا کسی نے خبر اس اقامتہ کی آپ کو نہ دی ہوتا کہ آپ کی تقریر اور سکوت موجب جواز ٹھہرائی جاوے مگر چونکہ آپ کی حیات میں اہل جواثی نے یہ اقامت جمعہ کی تھی تو اگر یہ اقامتہ ناجائز ہوتی تو بالضرور بذریعہ وحی کے آپ کو اطلاع دی جاتی اور آپ اس کو منع فرماتے پس جب کہ آپ کو اس کی ممانعت کا حکم نہ آیا تو یہ اقامت درست اور جائز ہو گئی اور اس کی نظیر میں واقعہ عزل کو پیش فرماتے ہیں۔ اب بندہ عرض کرتا ہے کہ جو امر صحابہؓ نے اپنی رائے سے بدون علم و اطلاع رسول اللہ ﷺ کے عمل درآمد فرمایا اور اس کی ممانعت میں نزول وحی نہ ہوا تو اس امر کے جواز کی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ اس میں کوئی نص ممانعت کی موجود نہ ہو دوسرے یہ کہ عام صحابہ اس پر تعامل فرمادیں نہ چند نفر اصحاب اگر کوئی نص ممانعت موجود ہو تو ہرگز صحابہ کا تعامل معتبر نہ ہوگا بمقابلہ نص صریح صحیح کے اور نہ یہاں ضرورت نزول وحی کی ہوگی کہ وہ نص ممانعت خود بمنزلہ وحی کے موجود ہے چنانچہ سب پر واضح ہے اور اگر بدون اطلاع نص کے اکثر صحابہ نے بھی کوئی عمل کیا اور اس پر انکار کیا گیا تو وہ بھی قابل اعتماد کے نہ ہوگا اور ضرورت نزول وحی کی نہ ہوگی۔ کیونکہ قول اور فعل رسول اللہ ﷺ کا مثل وحی کے ہے بلکہ ایسے مواقع میں اس کے مقابل دوسری نص کی حاجت ہوتی ہے جو مؤید رائے صحابہ کے ہو۔ چنانچہ باب متعہ میں بعد او طاس کے رسول اللہ ﷺ نے متعہ کو ابدلاً باتک حوام من کل الوجوه فرمادیا تھا اور بعد اس کے بسبب ہجری اس تحریم کے بعض صحابہ نے اس کو ناجائز قرار دیا اور اکثر نے اس پر بھی عمل کیا اس میں نزول وحی کا نہیں ہوا پھر بھی کوئی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا

(۱) حضرت ابن عباسؓ کے اس قول سے کہ اول جمعہ جو بلا و اسلام میں رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں جمعہ ہونے کے بعد پڑھا گیا، جو اثنی عشر میں مسجد عبدالقیس میں بحرین میں ہوا (بخاری و ابوداؤد) اور کہا کہ جو اثنی عشر بحرین کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے (آخر تک جو مجیب کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے۔)

اور اس کے اور نظائر بھی موجود ہیں۔ اور باب عزل میں خود جو از کی نص موجود ہے کہ خود جابر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں:-

قال قلنا يا رسول الله كنا نعزل فزعت اليهود انما لمؤدة الصغرى

فقال كذب اليهود ان الله اذا اراد ان يخلق شيئا لم يمنعه (۱)

پس جب کہ جابر رضی اللہ عنہ کو جواز اس کا معلوم ہو چکا تھا اور اکثر صحابہ اس پر تعامل رکھتے تھے اور کوئی نص اس کی حرمت کی نہ تھی اس پر بھی جب بعض نے اس فعل کا انکار کیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ فعل باجائز رسول اللہ ﷺ ہوا ہے اور کوئی وحی اس کے ترک کی نہیں آئی تو کس وجہ سے یہ فعل ناجائز ہو سکتا ہے ہاں اگر یہ فعل خلاف اولیٰ ہو تو یہ دوسرا امر ہے بخلاف مسئلہ اقامت جمعہ کے اس میں کوئی دلیل جواز جمعہ کی موجود نہیں ہے بلکہ نص صریح فعل رسول اللہ ﷺ و تعامل صحابہ اہل عوالیٰ وغیرہ سے اس کی ممانعت بدیہی و صریح ہے اور اہل جواریٰ کہ بزم علامہ رحمۃ اللہ علیہ وہ قریہ صغیرہ تھا۔ چند نفر صحابہ تھے کہ چند روز صحبت رسول خدا ﷺ سے مشرف ہوئے تھے اور بیشتر قریہ صغیرہ میں بھی چالیس پچاس آدمی ہوتے ہیں۔ پھر یہاں نزول وحی کے باوجود ایسی نص مخالف موجود ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ پس اس کو باب عزل میں پر قیاس کرنا ایسے علامہ محقق سے بہت بعید ہے معہذا اگر کوئی اس رائے کو باوجود عدم صحت قبول بھی کرے تو اس سے جواز اقلمتہ فی القری نکلتا ہے نہ فرضیت پھر یہ روایت مجیب صاحب کو کیا مفید ہوگی کہ وہ دو آدمی قریہ پر بھی جمعہ فرض فرماتے ہیں نہ معلوم نقل اس عبارت سے مجیب صاحب کو کیا تائید ملی اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ جواریٰ مدینہ تھا۔ چنانچہ محققین لغت حدیث نے تصریح فرمائی ہے کما ذکرنا اور عادت ہے کہ مدینہ پر قریہ کا لفظ بولا جاتا ہے اور قریہ کو مدینہ کوئی نہیں کہتا۔ لہذا اگر کسی نے جواریٰ کو قریہ کہا تو وہ حجت اس پر نہیں کہ جواریٰ قریہ تھا بلکہ وہ مدینہ ہی تھا پس دریں صورت اقلمتہ جمعہ اہل جواریٰ کی بغض صریح و باجائز رسول خدا ﷺ ہے کہ اس میں کچھ اشکال نہیں۔ بعد اس کے مجیب صاحب فتح الباری سے آثار حضرت عمر و حضرت عثمان وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین نقل فرماتے ہیں اور یہ ان کو مفید نہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ میں جو لفظ حیثما کنتم (۲) واقع

(۱) کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم عزل کیا کرتے ہیں یعنی صحبت کر کے انزال باہر کرتے ہیں تو یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بچوں کو گاڑتا ہے چھوٹے قسم کا ہوتو آپ نے فرمایا یہود جھوٹ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔

(۲) جہاں کہیں تم ہو۔

ہے اس سے یہ صاحب عموم امکانہ ثابت کرتے ہیں کہ مدن اور قری کو شامل ہے سوا اولاً ہم کہتے ہیں کہ اگر حسب الحکم مجیب صاحب عموم امکانہ ہی مراد ہو تو یہ عموم صحاری اور بحار کو بھی مشتمل ہے اور صحابی میں کسی کے نزدیک بھی جمعہ ادا نہیں ہوتا تو جس طرح صحاری و بحار کو وہ تخصیص کریں گے اسی طرح سے ہم قری صغیرہ کو تخصیص کریں گے، اعمی بالنص المرفوع، ثانیاً اگر مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہم تعلیم تقسیم ہے تو کیونکر مظلون ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر دس سال تک حضرت ﷺ کے فعل کو مشاہدہ فرمائیں پھر آپ کے تعامل کے خلاف پر جرات فرمائیں حاشا دکلا یہ ہرگز حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہو سکتا۔ ثالثاً بفرض محال اگر مراد ان کی عموم ہی ہے تو خلاف نص قطعی فعل رسول اللہ ﷺ کے کس طرح معتبر ہوگی لہذا مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عموم مدن ہے نہ اشتمال قری۔ علی ہذا اثر حضرت عثمانؓ وغیرہ کا یہی جواب ہے اور اسی وجہ سے صاحب فتح نے یہاں اشتمال قری خیال فرمایا ہے وہ اول آثار کو خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ان کے نزدیک موقوف ہے۔ اور بسبب موقوفیت ان ہر سہ آثار کے ان کو مثبت مدعا نہ جان کر فرماتے ہیں کہ رجوع طرف مرفوع کی واجب ہے پس حنفیہ حال اس پر ہوئے کہ نصف مرفوع یعنی فعل رسول اللہ ﷺ کو پیش نظر کیا اور اقوال اور افعال صحابہ کو ہرگز وہ مختلف نہیں جانتے اور نہ وہ فی الواقع مختلف ہیں بلکہ سب کے نزدیک وہ ہی معتبر ہے کہ جس پر جناب رسول خدا ﷺ کو ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور ابن عمرؓ وہی حکم دیتے تھے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت حذیفہ وغیرہما رضی اللہ عنہم فرماتے تھے۔ پس کوئی ادنیٰ صحابی بھی حضرت ﷺ کے خلاف نہیں کر سکتا چہ جائیکہ اکابر صحابہ۔ پس جملہ اصحاب کرام کے کلام کو بالاتفاق موافق فعل رسول اللہ ﷺ کے عمل کرنا چاہئے اور اگر خلاف متبادر ہو تو تاویل کرنا واجب ہے اور اگر تاویل بھی نہ ہو سکے تو ترک کر دینا چاہئے اور مذہب اپنا موافق فعل رسول اللہ ﷺ کے کرنا چاہئے اور اوپر ہم لکھ چکے ہیں کہ جتنی احادیث موقوفہ یا مرفوعہ بلفظ عموم آئی ہیں وہ سب مخصوص ہیں اس میں عموم مدن ہے نہ قری اور جہاں قریہ کا لفظ وارد ہوا ہے وہاں مراد مدینہ ہے۔ حسب لغت قرآن نہ قریہ صغیرہ ورنہ دس سال کے فعل رسول اللہ ﷺ سے سخت مخالفت ہوگی۔ چنانچہ اوپر ذکر ہو چکا۔ الحاصل نہ اقوال صحابہ میں اختلاف ہے اور نہ رجوع الی المرفوع سے جواز اقلہ قری ثابت ہے پس مذہب حنفیہ پر کسی طرح کا اشکال نہیں ہے البتہ نظر غائر درکار ہے اور پھر جناب رسول اللہ ﷺ جمعہ میں کس قدر تاکید فرماتے تھے اور ترک جمعہ پر تغلیظ فرماتے ہیں اور اس کو تمام اہل عوالم سنتے معہذا



کسی نے اپنے قریہ میں یہ جمعہ قائم نہ کیا اور نہ جناب رسول اللہ ﷺ نے دس سال حیاۃ خود ان کو اقامتہ جمعہ کا حکم فرمایا نہ ترک جمعہ پر تغلیظ فرمائی۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ تمام صحابہ اہل عوالمی یہ سمجھتے تھے کہ یہ تاکید اور تغلیظ انہیں لوگوں پر ہے جن پر جمعہ فرض ہے اہل قریہ اہل صحاری اس سے خارج اور مستثنیٰ ہیں علیٰ ہذا آیہ کے عموم اور عموم الفاظ جملہ احادیث واردہ فی الجمعہ سے بھی یہ لوگ خارج ہیں لہذا کسی قریہ میں کبھی کسی نے جمعہ قائم نہ کیا اور اگر کسی شخص کو اس کا دعویٰ ہو کہ وہاں جمعہ ہوتا تھا تو اس کو ثابت کرے ورنہ معاذ اللہ یہ لازم آوے گا کہ تمام اہل عوالمی ترک جمعہ فرض قطعی فاسق ہوں۔ استغفر اللہ اور احادیث سے صریح ثابت ہے کہ عوالمی سے لوگ مدینہ طیبہ میں نوبت بنوبت آتے تھے کہ ایک جمعہ کو چند آدمی آئے باقی اپنے گھر پر رہے اور دوسرے جمعہ کو دوسری جماعت جو پہلے جمعہ کو نہ آئی تھی۔ جمعہ کے وسطے مدینہ آتے اور وہ جماعت جو پہلے جمعہ کو مدینہ آئی تھی اپنے گھر پر رہتی اور جو لوگ اپنے گھر پر رہتے تھے وہ ظہر پڑھتے رہتے تھے وہاں کبھی انہوں نے جمعہ ادا نہیں کیا۔ اور یہ امر بعلم رسول اللہ ﷺ بلکہ بامر رسول اللہ ﷺ تھا تو اگر اہل قریہ پر جمعہ فرض تھا تو معاذ اللہ جناب رسول اللہ ﷺ اقامت جمعہ کا حکم ان لوگوں کو نہ فرمانے میں کیا مخالف حکم بلغ ما انزل الیک من ربک۔ (۱) کرتے ہرگز نہیں بلکہ اہل قریہ پر جمعہ فرض ہی نہ تھا۔ اور نوبت بنوبت ان کا آنا واسطے تحصیل برکات زیارت کے تھا اور بغرض تعلیم مسائل دینیہ کہ ہر ہر جماعت اپنی اپنی نوبت میں شرف زیارت سے مشرف ہو جاوے اور مسائل دینیہ سیکھ کر پس ماندگان کو تعلیم کرے۔ بخاری میں ہے:

عن عرو بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان الناس یتناوبون الجمعة من منازلہم والعوالمی الحدیث قال العلامة ابن حجر فی شرحہ قال القرطبی فیہ رد علی الکوفیین حیث لم یوجبوا الجمعة علی ما کان خارج المصر کذا فیہ نفل لانه لو کان واجبا علی اہل العوالمی یتناوبوا ولکانوا یحضرون جمیعاً انتہی۔ (۱)

(۱) آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب پہنچا دیتے (آیت شریف)  
 (۱) عمرو بن زبیر حضرت عائشہ ام المومنین زوجہ رسول ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ جمعہ کے لئے اپنے مکانوں سے اطراف مدینہ سے تائب بنایا کرتے تھے (ختم حدیث تک) علامہ ابن حجر اپنی شرح میں فرماتے ہیں کہ قرطبی نے فرمایا کہ اس میں اہل کوفہ کی تردید ہے کہ ان کے نزدیک جمعہ اس پر واجب نہیں ہے جو شہر کے باہر ہو، یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ اگر اطراف والوں پر واجب ہوتا تو وہ تائب نہ بناتے بلکہ وہ سب خود حاضر ہوتے۔ (ختم)

سبحان اللہ ابن حجر مرحوم نے کیا انصاف اور دیانت کو کام فرمایا کہ باوجود تعلق اپنے مذہب شافعی کے حق کو ظاہر کر گئے کہ اہل قریہ پر فرضیت جمعہ کی ہرگز اس حدیث سے نہیں ثابت ہوتی جیسا کہ قرطبی کو غلطی ہوئی بلکہ وہ مان گئے کہ اس حدیث سے اہل قریہ پر جمعہ فرض نہ ہونا ثابت ہوتا ہے مگر ہاں اتنی کمی رہی کہ ابن حجر بنظر انصاف یہ فرماتے کہ اس حدیث سے قریہ میں جمعہ کا ادا نہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ورنہ باقی ماندگان عوالی اپنی قریہ میں جمعہ ادا کیا کرتے اس واسطے کہ جمعہ کے فضائل اور کثرت ثواب جو ان کے دلوں میں رچا ہوا تھا تو تمام عمر اس سے محرومی کیونکر گوارا کرتے بلکہ صحابہ کرام بنظر ان کی کثرت حرص حسنات مسابقت الی الخیرات ایک جمعہ کا ترک بھی گوارا نہ فرماتے اور خود رسول اللہ ﷺ جو ارحم الناس اپنے صحابہ پر تھے اور نوافل و سنن و فضائل و مستحبات کے لئے ان کو امر مندب فرماتے تھے اس کا بھی ضرور امر فرماتے حالانکہ کہیں اس کا پتہ نہیں ہے اس سے خود ہویدا ہے کہ قریہ محل اقلیمہ جمعہ بھی نہیں ہے چہ جائیکہ ان پر فرض ہوتا۔ پس ان دلائل واضحہ سے ہر اہل انصاف پر مثل آفتاب روشن ہو گیا کہ نہ قریہ صغیرہ میں جمعہ ادا ہوتا ہے اور نہ ان لوگوں پر اقلیمہ جمعہ واجب ہے اور نہ ان کو ادائے جمعہ کے لئے شہر میں جانا فرض ہے پس عجیب اور ان کے معاومین کا یہ لکھنا (کہ وجوب جمعہ کے لئے خاص کسی بستی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر چھوٹے گاؤں میں جمعہ ہو سکتا ہے) احادیث صحیحہ کے صریح خلاف اور محض دعویٰ بلا دلیل ہے اور عجیب صاحب جو عموم آیت سے یہ نکالتے ہیں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے۔

تو اول تو وہ خود حدیث طارق بن شہاب سے مروی ابو داؤد سے تخصیص آیات کی کرتے ہیں کہ مریض اور مملوک اور مرآہ اور صبی کو خارج کرتے ہیں جس سے عموم آیت بحال خود نہ رہا اور دوسرے مسافر اس آیت سے خارج ہے اور اہل صحرا بھی اسی واسطے جناب رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں عرفات پر نماز جمعہ نہیں پڑھی کیونکہ آپ مسافر تھے۔ اور نیز اس وجہ سے کہ عرفات صحرا ہے نہ بستی ایک روایت رجاہ وابن المرجانے تمیم داری سے نقل کی ہے جس میں پانچ شخصوں کو استثناء کیا ہے چار یہ اور ایک مسافر اور ایسے ہی صحرا میں جمعہ درست نہ ہونا اور صحرا والوں پر فرض نہ ہونا علماء مجتہدین کا متفق علیہ ہے تیسرے یہ سابقا مثل آفتاب کے روشن ہو گیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کسی قریہ عوالی یا غیر عوالی میں اقلیمہ جمعہ نہیں ہوئی لہذا اہل قریہ اس آیت سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر استدلال عجیب کا عموم آیت سے فرضیت جمعہ اہل قریہ پر درست نہیں ہے اور اصل یہ ہے کہ فرضیت جمعہ پہلے محقق ہو چکی تھی۔ اب جس پر اور جس جگہ جمعہ فرض تھا اور

جہاں ادا ہوتا تھا وہ سب پہلے معلوم اور مقرر ہو چکی تھی اور قبل نزول آیت سب قواعد مہمہ ہو گئے تھے۔ پس اس آیت کے اندر جو مومن مخاطب ہیں یہ وہ ہی مومنین ہیں کہ جن پر فرضیت جمعہ مقرر ہو چکی تھی۔ پس اس کے عموم سے کسی کے استثناء کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ سرے سے داخل ہی نہیں تھے۔ علیٰ ہذا القیاس جو احادیث ان میں عام لفظوں سے وجوب جمعہ بیان کیا گیا ہے ان سب سے وہ لوگ مذکورہ بالا حدیث سے مستثنیٰ ہیں۔ جیسا کہ آیت شریف:-

ان الذین کفروا سوا علیہم أنذر تم ام لم تنذر ہم لا یؤمنون (۱)

میں اگرچہ لفظ موصول عام ہے مگر مراد اس سے وہی معدودے چند کافر ہیں کہ جو سابقہ روز ازل میں کافر مقرر ہو چکے تھے۔ جیسے ابو جہل ابولہب وغیر ہمانہ کل کفار کیونکہ بعد نزول اس آیت کے لاکھوں کافر مسلمان ہوئے اگر اس آیت سے عموم جنسی مراد ہوتا تو کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ علیٰ ہذا جملہ احادیث واردہ باب جمعہ آیت جمعہ میں لفظ موصول میں اہل قری وغیرہ داخل ہی نہیں ہیں کہ تخصیص کی ضرورت پڑے مگر چونکہ مجیب صاحب نے غور اور فکر کو کام نہیں فرمایا جو چاہا لکھ دیا۔ اوپر اشارہ ہو چکا ہے آپ کے قبا کے قیام میں اختلاف ہے کہ کتنے روز ہوا مگر جب ہم نے بخاری اصح الکتب پر اعتماد کیا تو ان روایات کی مخالفت کچھ معترض نہیں ہر چند کہ وہ روایت صحیح ہوں مگر صحت روایت منافی اس کے خلاف واقعہ ہونے کی نہیں ہوتی۔ مثلاً صحیح بخاری میں عمر رسول اللہ ﷺ میں تین روایتیں ہیں۔ ساٹھ برس، تریسٹھ برس، پینسٹھ برس، سو یہ ہر سہ روایت بروئے سند صحیح ہیں مگر موافق و مطابق واقعہ کے ان میں سے ایک ہی روایت تریسٹھ برس کی ہے اور دو روایتیں خلاف واقعہ کے ہیں۔ سوان دور روایت کو یا غلط کہا جاوے یا کوئی معنی مجازی لے کر ان کی تاویل کی جاوے گی۔ بہر حال معنی ظاہری خود صحیح روایت خلاف واقعہ کے ہیں ایسے ہی باب قیام قبا میں چند روایتیں ہیں کہ خلاف صحیح بخاری کے ہیں ازاں جملہ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ بروز جمعہ مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے بنی سالم میں نماز جمعہ ادا کی اس روایت سے بھی بعض علماء نے جواز جمعہ قری تجویز کر لیا۔ اگرچہ ہم کو بعد اعتماد روایت بخاری اس پر وثوق کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ خلاف واقعہ ہے کیونکہ جب آپ پیر کو قبا میں تشریف لائے اور پندرہویں روز پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو پھر راہ میں بنی سالم میں جمعہ پڑھنے کے

(۱) بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔

کیا معنی ہوئے یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ غلطی راوی کی ہے لیکن اگر کسی طرح نماز جمعہ بنی سالم میں تسلیم بھی کی جائے تو بنی سالم محلہ مدینہ طیبہ کا ہے اور فناء مدینہ میں واقع ہے کہ وہ آباد نہیں ہے اور اس وقت آباد تھا اور مدینہ طیبہ کا محلہ شمار کیا جاتا تھا کیونکہ فناء مدینہ میں واقع تھا جیسا کہ حرۃ البیت بھی فناء مدینہ میں خارج مدینہ واقع ہے سو یہ حجت مجوزین جمع قری کو مفید نہیں ہے حنفیہ کو مضر نہیں اور بمقابلہ روایات کے جو اوپر مذکور ہوئیں کچھ معتبر بھی نہیں اور یہ سب تقریر بر تقریر و جوہ جمعہ بحالت قیام مکہ ہے اور یہی حکم صحیح ہے اور اگر پاس خاطر بعض علماء یہ تعلیم کر لیا جاوے کہ جمعہ مدینہ طیبہ میں فرض ہوا تب بھی اعتراض جو انب مدینہ میں جمعہ نہ ہونے کا اور اہل عوالی کے تادب کا باقی ہے اور حنفیہ کے لئے عدم وجوب جمعہ بر اہل قری و عدم صحت جمعہ قری کے لئے دلیل کافی ہے۔ چنانچہ ابن حجر نے اس کا اقرار کر لیا پھر یہ کہ عجیب صاحب نے اثر حضرت علیؑ میں کلام کیا ہے جس سے ان کی ناواقفیت اصول حدیث و فقہ سے معلوم ہوگئی۔ پس سنو کہ جو حدیث موقوف کہ اس میں قیاس کو دخل ہو قول صحابی کا ہوتا ہے اور ایسے ہی موقوف کو صاحب فتح القدر حسب قاعدہ اصول فقہ فرماتے ہیں کہ بمقابلہ حدیث مرفوع معتبر نہیں ہوتے اور جو حدیث موقوف کہ قیاس کو اس میں دخل نہ ہو یا وہ مؤید و مشید بخدیث مرفوع ہو وہ خود بحکم مرفوع ہوتی ہے، اور یہ اثر علی قسم ثانی ہے نہ اول سے کیونکہ شرطیت عبادت کی رائے اور قیاس سے ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لئے نص صریح ہونا درکار ہے پس حضرت علیؑ کا صحت جمعہ کے واسطے مصر کا شرط فرمانا بدون نص شارع علیہ السلام نہیں ہو سکتا..... ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسب زعم عجیب اور اس کے شیوخ اور اتباع کی آیت:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَوَدَىٰ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْآيَةَ (۱)

عام ہو اور دیگر احادیث بھی باب جمعہ میں سے عام ہوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو جانتے ہوں اور پھر نصوص قطعیہ کو وہ اپنی رائے سے مخصوص بنا دیں اور تخصیص نسخ ہوتا ہے قدر مخصوص میں معاذ اللہ علی کرم اللہ وجہہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیت قرآنی وحدیث رسول کو اپنی رائے سے نسخ کر دیں یہ تو کسی عامی کا بھی کام نہیں ہے تو بالضرور علی کرم اللہ وجہہ کے پاس وہ علم تھا کہ جس سے تخصیص ان نصوص کے ہوتی ہے اور اس سے انہوں نے تخصیص فرمائی اور خود ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ بعد رسول اللہ ﷺ کے تین روز بعد ہجرت فرما کر قبائش جناب رسول اللہ ﷺ

(۱) اے ایمان والو جب کہ جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے (ختم آیت تک)

سے آٹے تھے اور باوجود فرضیت جمعہ کے مکہ میں پھر آپ کا قبائلی جمعہ نہ پڑھنا انہوں نے دیکھا اور یہ نص قطعی عدم فرضیت جمعہ اہل قری کے ان کو معلوم ہوئی اور پھر مدینہ طیبہ میں جناب رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں رہ کر دس سال تک دیکھتے رہے کہ کبھی کسی قریہ اور گاؤں میں نہ جمعہ ہوا اور نہ آپ نے باوجود علم کے کسی اہل قریہ کو حکم اقامتہ جمع کا دیا اور نہ کسی کے عدم اقامتہ جمعہ پر اسکو سرزنش فرمائی اور نہ استخبارا ارشاد فرمایا پس یہ نص قطعی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم تھی جس سے آپ نے یہ شرط مصر ارشاد فرمائی یہ موقوف موقوف اور اثر علی نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے اعلیٰ درجہ کا اور یہ بات اہل علم پر تو ظاہر ہے مگر بعد اس تقریر کے میں خیال کرتا ہوں کہ کوئی نا فہم بلید بھی اس کا انکار نہ کرے گا۔ باقی رہا یہ کہ رفع اس کا ضعیف ہے بحسب سند سو یہ ضعف منجر ہو گیا۔ دوسری مرفوع سے اور جب دوسری احادیث صحاح سے یہ ضعف منجر ہو گیا تو اثر مذکور ضعیف نہیں رہا بلکہ حسن ہو گیا۔ پس ایسی حدیث حکماً مرفوع کو ضعیف کہنا جس کی تائید دوسری حدیث صحاح کر رہی ہیں خلاف قاعدہ مقررہ اہل اصول ہے۔ اب اس اثر کو ضعیف کہنا اہل علم کی شان نہیں ہے اور ثبوت شرطیت مصر واسطے اقامتہ جمعہ کے اس ہی اثر سے کافی ہے چہ جائیکہ اور بھی بہت سی احادیث اس کی مؤید موجود ہوں۔

## قریہ میں جمعہ پڑھے یا ظہر

(سوال) اگر قریہ میں جمعہ پڑھ لیوے بایں وجہ کہ احادیث میں وارد ہے اور محدثین اور شافعی صاحب رحمہم اللہ کا مذہب ہے تو ہو جائے گا یا گنہگار ہوگا اور ظہر اس کے ذمہ باقی رہے گا۔

(جواب) قریہ میں جمعہ حنفیہ کے نزدیک ادا نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک قریہ میں جمعہ نہ پڑھے کہ ان کا جمعہ درست نہیں ہوتا۔ اور نہ ظہر ذمہ سے ساقط ہوتی ہے اور جماعت نماز جمعہ کی نفل نماز کی جماعت ہو کر کراہت تحریمہ ہوتی ہے کہ جماعت نوافل کی بتداعی مکروہ تحریمہ ہے۔ فقط البتہ۔ حسب مذہب شوافع و بعض محدثین کے جمعہ ادا ہو گیا اور ظہر ساقط ہوگئی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## احتیاط الظہر کا مسئلہ

(سوال) جو لوگ آج کل بعد نماز جمعہ کے چار رکعت احتیاط الظہر پڑھتے ہیں اور ان کے تارک کو ملوم جانتے ہیں اور یہاں تک پابندی اس کی ہوگئی کہ بعض شہروں میں تو مثل جدہ وغیرہ کے جماعتیں اس کی ہونے لگی ہیں آیا یہ نماز احتیاط کی اس صورت مسئلہ میں جائز ہے یا نہیں اور اگر ایسی پابندی ایک خاص شخص کے عقیدے میں نہ ہو تو اس کو ایسی پابندی کے زمانہ میں دوسروں کے ساتھ مشابہت اس عمل کی جائز ہے یا نہیں اور اگر وہ پڑھے گا ان ہی میں داخل ہوگا یا نہیں۔ اور بصورت عدم پابندی و اصرار کالوجوب کے نفس اس نماز احتیاط کا کیا مسئلہ ہے جس نے اس کو نکالا ہے کس بناء پر نکالا اور کس درجہ میں رکھا تھا۔ اب کس درجہ میں پہنچا اور تعجب پر تعجب ہے کہ اس نماز احتیاط کو عوام کیا بعض علماء بھی پڑھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

ان کے پاس کون سی دلیل کتاب و سنت و قیاس و اجتہاد سے ہے اور بظاہر یہ نماز احتیاط نماز شک پائی جاتی ہے۔ اگر جمعہ نہ ہو تو ظہر ہو جائے گی آیا۔ قیاس اس کا صیام یوم الشک پر ہو سکتا ہے یا نہیں اور منجملہ دوسری بدعات محدثین الدین کے ہے یا نہیں۔

(جواب) مذہب حنفیہ میں شرائط جمعہ میں مصر یعنی شہر اور ہونا امام یا اس کے نائب کا لکھتے ہیں لہذا چونکہ امام اور اس کا نائب ہندوستان میں بسبب تسلط کفار کے نہیں پایا جاتا تو بناء مذہب حنفیہ پر جمعہ نہ ہو اور چونکہ دیگر ائمہ نے یہ شرط نہیں رکھی تو ان کے مذاہب پر جمعہ ادا ہو جاتا ہے مگر چونکہ دوسری خرابی یہ ہوگئی کہ ایک شہر میں دو ۲ تین جگہ جمعہ کا پڑھنا ان کے نزدیک درست نہیں جس کا جمعہ اول واقع ہوتا ہے اس کا جمعہ تو ادا ہو اور جس کا بعد ہو اس کے ذمہ پر ظہر کی نماز قائم رہی اور

یہ حال دریافت نہیں ہو سکتا کہ کس کا جمع پہلے ہوا۔ تو ان مذاہب پر بھی عمل تعدد جمعہ میں ہر شخص کو تردد ادا کئے جمعہ اور سقوط ظہر میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے ایجاد احتیاط ظہر کا کیا تھا۔ اگر جمعہ ادا نہ ہووے گا تو ظہر یا یقین ذمہ سے ساقط ادا ہو جاوے گی اور جمعہ ادا ہو گیا تو یہ رکعات نفل ہو جاویں گی یہ اصل اس کی ہے مگر حنفیوں کا یہ عمل پسند نہیں۔ اول تو یہ احتیاط و وجوب کے درجہ کو پہنچی اور خود بدعت ہے۔ دوسرے بعضے اولیٰ النزاع آپس میں جھگڑا اٹھانے والے ہو گئے اگر درجہ احتیاط و احتجاب میں رہتے تو خیر کھل بات تھی۔ پھر یہ کہ جن علماء سے شرطیہ وجود امام و نائب دریافت ہوئی ہے وہی علماء یہ بھی لکھتے کہ اگر امام و نائب سے تعذر ہو تو مسلمین اپنا امام جمعہ مقرر کر کے جمعہ ادا کریں پس حسب اس روایت کے سب جگہ امام موجود ہوتا ہے تو ایسی حالت میں جب مصر میں جمعہ پڑھا گیا ادا ہو گیا۔ اور سقوط ظہر ذمہ سے ہو چکا۔ پس احتیاط ظہر لغو ہے اور جو ان لوگوں کے نزدیک قول علماء کا معتبر نہیں تو خود شرط جمعہ کی مفقود ہے چاہئے کہ ظہر جماعت سے پڑھا کریں یہ کیا بے موقع بات ہے کہ شرط جمعہ کی موجود نہیں اور فقط تردد کی وجہ سے نوافل کو بجماعت پڑھا کریں اور فرض وقت کو فرادی یعنی تنہا پڑھیں یہ سخت خرابی ہے پس احناف کا احتیاط ظہر تو بایں وجہ پسند نہیں کرتا ہوں۔ خصوص اس صورت نزاع میں اور دیگر اہل مذاہب پر یہ اعتراض ہے کہ اگر تعدد درست نہیں تو دیدہ دانستہ اس حرکت لا یعنی کو کیوں اختیار کیا۔ واجب ہے کہ سب جمع ہو کر ایک جگہ جمعہ کو ادا کریں۔ الغرض یہ امر نہایت لغو اور فضول اور سستی دین کا باعث ہے اور موجب کمال غفلت اور بے چوائی دین سے ہونے کا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ الراجی رحمۃ ربہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ رشید احمد ۱۳۰ھ

الحق حق الطلوع و سطح الصدق حق السطوع فما قال ملک العلماء  
سلطان الاتقیاء زین المفسرین رئیس المحدثین نعمان او اننا مجدد زماننا نائب  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ من اللہ الاحد مولانا العالم العامل الحافظ  
الحاج رشید احمد مد اللہ ظلال فیوضہ علی رؤس العالمین اللہم آمین فهو حق  
والحق احق باتباع و اولی لان الحق یعلو و لا یعلی . حرره اذل تلامذۃ الفقیر محمد حسین  
البلوی عفا اللہ عنہ۔ فقیر محمد حسین ۱۲۰۵ قادیان علی عفی عنہ ۱۲۰۴ مدرس مدرسہ حسین بخش۔

جواب ہذا صحیح حسبن اللہ۔ حفیظ اللہ محمد ساکن درگاہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء ضلع

دہلی۔

الجیب مصیب محمد حسین خان خورجوری بقلم خود۔ اصاب من اجاب من محمد حمایت اللہ عفا اللہ

عنہ۔

## جواب دوم از علمائے دہلی دامت افاداتہم

(سوال) صورت مرقومہ میں معلوم کرنا چاہئے کہ یہ نماز احتیاطی حضرت رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے حضرت سے تو یہی ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ بس دو رکعت بعد الجمعہ پڑھتے تھے۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ بروایت ابن عمر انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی بعد صلوة الجمعہ حتی یتصرف۔ فیصلی رکعتین فی بیتہ۔ (۱) اور کتب فقہ میں ہے کہ نماز احتیاط ہرگز ہرگز درست نہیں ہے کسی طرح جائز نہیں ہے اصل عبارت یہ ہے وقد کثر ذلک من جملة زماننا ایضا ومنشاء جہلہم صلوة الاربعة بعد الجمعة بنیة الظہر وانما وضعتها بعض المتأخرین عند الشک فی صحیة الجمعة بسبب روایة علم تعدد فی مصر واحدا لیست هذه الروایة بالمختار قولیس هذا القول اعنی اختیار الاربعة بعد ما مرو یا عن الامام وصاحیہ حتی وقع لی انی افیت مرارا بترکھا بعد صلوتھا خوفاً اعتقاد الجہلۃ انھا الفرض وان الجمعة لیس بفرض التہی۔ ماقال صاحب البحر (۲)

اس روایت فقہیہ سے واضح ہو گیا کہ احتیاطی نہ حضرت نے پڑھی ہے نہ صحابہ کرام نے نہ آئمہ اربعہ نے پڑھی اور نہ امر کیا ساتھ اس کے کبھی کسی کو اور یہ بھی کتب فقہ میں لکھا ہے کہ احتیاطی تو کسی طور درست نہیں ہوتی نہ عقلاً نہ نقلاً نہ کشفاً نہ الہاماً کذا فی تاتار خانی وایضاً قال فیہ قال السید الہمنی ربی ان اداء الجمعة بالشبهة من وسوسة الشیطان انتھی ودر بحر گفت نماز اور نیست کہ فتویٰ دادہ شود پنجہزار رکعت بعد جمعہ دریں زمانہ زیا کہ راہ می یابند عوام جب کمال از جمعہ بلکہ بسا است در دل عوام چنین خواہد رفت کہ جمعہ فرض نیست و ظہر کافی ست و در کفر ایس چنین کس کہ اعتقاد فرضیت ندارد جمعہ را شکے نیست کذا فی عرفانی شرح

(۱) ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد جب تک کہ لوٹ نہ جائے کوئی نماز نہ پڑھتے تھے پھر گھر میں دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔

(۲) جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھنا ظہر کی نیت سے اس بناء پر ہے کہ اس کو بعض متأخرین نے جمعہ کی صحت میں شک کی بناء پر قرار دیا ہے اس روایت کی بنا پر کہ ایک شہر میں کئی جمعہ نہیں ہو سکتے لیکن یہ روایت نہ عقار ہے نہ امام اور صحابین سے مروی ہے حتیٰ کہ میں نے متعدد بار اس کے ترک کا فتویٰ دے دیا۔ (بحر)



سلطانی و کذافی فتح القدرین میں باب شروط الصلوٰۃ وغیرہ درفصول عمادی آورده است کہ فرضیت جمعہ ساقط نمی شود اگرچہ تمامی شرائط منعدم می شوند کذافی اسکندر یہ فی الباب لا آخرفظہ واللہ اعلم بالصواب حررہ الحاجز ابو محمد عبدالوہاب الفعجابی الجھنکوئی ثم للفتانی نزیل الدہلی تجاوز اللہ عن ذنبہ الخشی والحبلی فی اواخر شہر اللہ الذی انزل فیہ القرآن۔

ابو محمد عبدالوہاب رسول الاداب خادم شریعت۔

نماز احتیاط ظہر جو اکثر لوگ بعد جمعہ کے پڑھتے ہیں یہ نماز نہ عند الحدیث درست ہے نہ فقہ میں پائی گئی صرف علماء دین کا قیاس ہے کیونکہ یہ نماز خیر القرون میں نہیں پائی گئی پس جب کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں تو ایسی نماز کا پڑھنا بدعت سیئہ ہے تنگی برباد گناہ لازم کا مضمون معلوم ہوتا ہے پس اس صورت میں یہ نماز احتیاط الظہر کسی طرح درست نہیں بعد جمعہ چھ سنتیں پڑھنی چاہئیں۔ حررہ محمد امیر الدین پٹیالوی خشی واعظ جامع مسجد دہلی مقیم محلہ مزید پارچہ متصل فتح پوری۔

محمد امیر الدین ۱۱۳۰۱ جواب صحیح عبداللطیف عفی عنہ عبداللطیف ۱۲۹۰۵۔

قدح الجواب واللہ اعلم بالصواب حررہ الفقیر ابو محمد عبدالرؤف البہاری عبدالرؤف ۱۳۰۳

محمد تلاف حسین ۱۲۹۲ھ

خادم شریعت رسول الثقلمین۔

نماز احتیاطی محض بناوٹی ہے کسی خیر القرون میں سے مقول نہیں ہے بدعت سیئہ ہے بلکہ کتب فقہ میں ہے کہ مثل صوم شک کے دنوں بھی نہیں ہوتے۔ امیر احمد پشاوری۔

اصاب من اجاب حررہ محمد یسین الرحیم آبادی ثم اعظیم آبادی۔

سید محمد عبدالسلام۔ محمد شمس الدین۔ ابو محمد عبدالحق۔ عبد الجلیل۔

۱۳۰۵

۱۳۰۵

۱۲۹۹

الجواب صحیح محمد طاہر سلمیٰ ۱۳۰۳ بعد نماز جمعہ کے فرض احتیاطی بے سند و بے اصل ہے عند الشرع پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا۔ جواب صحیح ہے۔ محمد فقیر اللہ: اصاب من اجاب فقیر محمد حسین کان خور جوی ضلع بلند شہر بقلم خود: حسینا اللہ حفیظ اللہ اللہ درالجب ابوالقاسم محمد عبدالرحمن لاہوری بلاد ہند میں فرض جمعہ بلاشبہ ادا ہو جاتا ہے۔ نماز ظہر احتیاطی کی حاجت نہیں۔ فقط حررہ بندہ قادر علی عفی عنہ مدرس مدرسہ حسین بخش مرحوم۔

قادر علی عفی عنہ۔ فقیر محمد حسین ۱۲۸۵۔ فقیر مصنف تیغ فقیر وکلیات مدنیہ فقیر۔

شہر اور دیہات میں احتیاط الظہر پڑھنے کا حکم

(سوال) بعد نماز جمعہ احتیاط الظہر جو چار رکعت پڑھتے ہیں یہ پڑھنی چاہئے یا نہیں؟

(جواب) قصبہ میں اور شہر میں جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے بعد ظہر نہ پڑھنی چاہئے۔ فقط

احتیاط الظہر کا مسئلہ

(سوال) یہ موضع قصبہ سردھنہ سے قریب پانچ کوس کے واقع ہے اور اس سے زیادہ قریب کوئی

شہر نہیں ہے اور موضع مذکور میں قریب دو ہزار مردم شماری کے ہے جس میں زیادہ نصف سے

مسلمان اور باقی ہندو ہیں۔ مسلمانوں کے دین احکام سے کوئی مانع نہیں ہے۔ ضروری احتیاج

کے واسطے دکانیں بیس بائیس موجود ہیں۔ روزہ مرہ تیس بیس سے زیادہ نمازی پنج وقتہ میں جمع

ہوتے ہیں۔ رمضان شریف میں ساٹھ ستر تک اور جمعہ رمضان میں دو سو اور عیدین میں ایک

ہزار سے زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ موضع مذکور میں جمعہ کی نماز جائز ہے یا نہیں اور بعض عالم امام شافعی

صاحب کے قول پر عمل کرتے ہیں اور گاؤں میں جمعہ جائز کہتے ہیں اور احتیاط الظہر بھی ایسی

حالت میں پڑھنی چاہئے یا نہیں۔ فقط

(جواب) جس موضع میں دو ہزار آدمی ہندو مسلمان ہوں اس جگہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک جمعہ ادا

نہیں ہوتا ہے۔ وہاں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہئے اور جمعہ نہ پڑھنا چاہئے۔ پس جب

جمعہ نہیں ہوا۔ احتیاط الظہر کہاں بلکہ ظہر کی نماز جماعت سے مثل دیگر ایام کے پڑھنی چاہئے۔ اور

ہندوستان کے سب شہر اور قصبہ میں جمعہ ادا ہو جاتا ہے احتیاط الظہر کی کچھ حاجت نہیں اور امام

شافعی صاحب کے یہاں گاؤں میں جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک بھی کچھ اصل احتیاط الظہر

کی نہیں۔ پس جو صاحب اس مسئلہ میں شافعی بنے ان پر حنفی کیا التزام دے سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ

بات اپنی اختیاری ہے جو مذہب چاہو اختیار کرو۔ غیر مقلد بھی یہی کرتے ہیں کہ جو بات کسی

مذہب کی پسند آئی وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔

احتیاط الظہر کا مسئلہ

(سوال) جو لوگ آج کل بعد نماز جمعہ کے چار رکعت احتیاط الظہر پڑھتے ہیں اور تارک کو اس

کے علوم جانتے ہیں اور یہاں تک پابندی اس کی ہوگی کہ بعض شہروں میں تو مثل جدہ وغیرہ کے جماعتیں اس کے ہونے لگیں ہیں ایسا یہ نماز احتیاط کی اس صورت مسئلہ میں جائز ہے یا نہیں اور اگر ایسی پابندی ایک خاص شخص کے عقیدے میں نہ رہا مگر اس کو ایسی پابندی کے زمانہ میں دوسروں کے ساتھ مشابہت اس عمل کی جائز ہے یا نہیں اور اگر وہ پڑھے گا ان ہی میں داخل ہوگا یا نہیں اور بصورت عدم پابندی و اصرار کا لو جو ب کے نفس اس نماز احتیاط کا کیا مسئلہ ہے جس نے اس کو نکالا ہے کس بنا پر نکالا تھا اور کس درجہ میں رکھا تھا اب کس درجہ میں پہنچا اور تعجب پر تعجب ہے کہ اس نماز احتیاط کو عوام کیا بعض علماء بھی پڑھتے ہیں۔ واللہ اعلم ان کے پاس کون سی دلیل کتاب و سنت و قیاس و اجتہاد سے ہے اور بظاہر یہ نماز احتیاط نماز شک پائی جاتی ہے، اگر جمعہ نہ ہو تو ظہر ہو جائے گی۔ آیا قیاس اس کا صیام یوم الشک پر ہو سکتا ہے یا نہیں اور منجملہ دوسری بدعات محدثی الدین کے ہے یا نہیں۔

(جواب) مذہب حنفیہ میں شرائط جمعہ میں مصر یعنی شہر اور ہونا امام یا اس کے نائب کا لکھتے ہیں لہذا چونکہ امام اور اس کا نائب ہندوستان میں بسبب تسلط کفار کے نہیں پایا جاتا تو بناء مذہب حنفیہ پر جمعہ نہ ہوا اور چونکہ دیگر ائمہ نے یہ شرط نہیں رکھی تو ان کے مذہب پر جمعہ ادا ہو جاتا ہے مگر چونکہ دوسری خرابی یہ ہوگی کہ ایک شہر میں دو تین جگہ جمعہ پڑھنا ان کے نزدیک درست نہیں۔ جس کا جمعہ اول واقع ہوتا ہے اس کا جمعہ تو ادا ہوا اور جس کا بعد ہوا اس کے ذمہ پر ظہر کی نماز قائم رہی اور یہ حال دریافت نہیں ہو سکتا کہ کس کا جمعہ پہلے ہوا تو ان مذاہب پر بھی محل تعدد جمعہ میں ہر شخص کو تردد ادائے جمعہ و سقوط ظہر میں رہتا ہے اس وجہ سے لوگوں نے ایجاد احتیاط ظہر کا کیا تھا کہ اگر جمعہ ادا نہ ہووے گا تو ظہر بالیقین ذمہ سے ساقط و ادا ہو جاوے گی اور جو جمعہ ادا ہو گیا تو یہ رکعات نفل ہو جاویں گی یہ اصل اس کی ہے مگر احتیاط یعنی فیوں کا یہ عمل پسند نہیں۔ اول تو یہ احتیاط و وجوب کے درجہ کو پہنچی اور یہ خود بدعت ہے۔ دوسرے بعضے اولی النزاع یعنی آپس میں جھگڑا اٹھانے والے ہو گئے اگر درجہ احتیاط و استحباب میں رہتے تو خیر سہل بات تھی۔ پھر یہ کہ جن علماء سے شرطیہ وجود امام و نائب دریافت ہوئی ہے وہ ہی علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر امام و نائب سے تعذر ہو تو مسلمان امام جمعہ مقرر کر کے جمعہ ادا کریں۔ پس حسب اس روایت کے سب جگہ امام موجود ہوتا ہے تو ایسی حالت میں جب مصر میں جمعہ پڑھا گیا ادا ہو گیا اور سقوط ظہر ذمہ سے ہو چکا پس احتیاط ظہر لغو ہے اور جو ان لوگوں کے نزدیک یہ قول علماء کا معتبر نہیں تو خود شرط جمعہ کی مفقود

ہے چاہئے کہ ظہر بجماعت پڑھا کریں یہ کیا بے موقعہ بات ہے کہ شرط جمعہ کی موجود نہیں اور فقط تردد کی وجہ سے نوافل کو بجماعت ادا کریں اور فرض وقت کو فرادی یعنی تنہا تنہا پڑھیں یہ سخت خرابی ہے۔ پس احتناف کا احتیاط الظہر تو بایں وجہ پسند نہیں کرتا ہوں خصوصاً اس صورت و وجوب اور نزاع میں اور دیگر اہل مذاہب پر یہ اعتراض ہے کہ اگر تعدد درست نہیں تو دیدہ و دانستہ اس حرکت لا یعنی اور بے فائدہ کو کیوں اختیار کیا۔ واجب ہے کہ سب جمع ہو کر ایک جگہ جمعہ ادا کریں۔ الغرض یہ امر نہایت لغو اور فضول اور سستی دین کا باعث ہے اور موجب کمال غفلت اور بے پروائی دین سے ہونے کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کتبہ الراجی رحمۃ ربہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

رشید احمد ۱۳۰۱ھ الجواب صحیح محمد امیر الدین پٹیلالوی واعظ جامع مسجد دہلی محمد امیر الدین۔  
فقیر محمد حسین قادر علی عفی عنہ ۱۳۰۲ھ مدرس مدرسہ حسن بخش۔

جواب ہذا صحیح ہے حسبنا اللہ بس حفظ اللہ محمد ساکن درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء ضلع دہلی۔  
المحبیب مصیب محمد حسین خان خورجوری لقم خود۔ اصاب من اجاب محمد حمایت اللہ عفا اللہ عنہ جواب بہت صحیح اور ٹھیک ہے اور خلاف اس کی ضلالت و بدعت سنیہ ہے کیونکہ اس فعل نامقبول کو کسی نے بھی ائمہ اربعہ سے نہیں کیا کما ہو فی البحر و تاتار خانی وغیرہما من کتب الفقہ اور اصل میں یہ یعنی نماز احتیاط الظہر بدعت سنیہ ہے جو ایک بادشاہ عباسی معتزلی کہ عرب و عجم وغیرہ کا بادشاہ تھا اس کی نکالی ہوئی ہے۔ حنفی مذہب میں ہرگز یہ نماز درست نہیں ہے جواب یہ کرے نہ حنفی ہے نہ شافعی نہ مالکی ہے نہ حنبلی بلکہ معتزلی مذہب ہے۔ اس ظالم نے یہ حکم دیا تھا کہ نماز احتیاط الظہر ہر جگہ جاری کی جاوے جو اس کو نہ کرے اسے تعزیر لگائی جاوے جو مولوی اس وقت عبدالدنیا والد راہم تھے اس کو قبول کیا اور فتووں میں درج کر گئے اور مذہب حنفی کو بالائے طاق رکھا۔ اس قصہ کو ایک عالم حید قسوری پنجابی حنفی المذہب نے خوب تحقیق سے لکھا ہے۔ کذانی التفسیر الحمدی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف دو رکعت یا چار رکعت بعد جمعہ کے اور پڑھتے تھے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب حررہ العاجز ابو محمد۔

سید عبدالسلام غفرلہ ابو محمد عبدالحق ابو محمد عبدالوہاب عبدالوہاب پنجابی

رسول الادب خادم شریعت نزیل الدہلوی ۱۳۰۵ھ

سید محمد اسماعیل ہذا الجواب صحیح۔ فرید آبادی

جواب صحیح ہے محمد فقیر اللہ پنجابی ضلع شاہ پور۔ محمد ناظم ملک بنگالہ ضلع فرید پور ہذا جواب صحیح حررہ ثابت علی اعظم گڑھ۔ الجواب صحیح محمد طاہر سلوٹی مسکین عبدالغنی ضلع کرنا۔

فرض ظہر احتیاط بایں وجہ ایجاد ہوئی تھی کہ اول میں ایک جمعہ ہوتا تھا پھر تعدد جمعہ پر فتویٰ ہوا تو جمعہ سابق تو ہر حال درست ہو اور دوسرا جمعہ اصل روایت تو حد جمعہ پر درست نہیں ہوتا۔ اور تعدد کی روایت پر درست ہو جاتا ہے۔ تو اس احتیاط سے فرض پڑھنے شروع ہوئے تھے۔ ازاں بعد یہ ٹھہری کہ جب کسی شرط من الشرائط میں خدشہ ہو تو یہ فرض پڑھا کریں۔ امام کا ہونا یا نائب کا بھی حنفیہ کے مذہب میں شرط جمعہ ہے۔ بہ سبب ملک کفار کے وہ شرط بظاہر مفقود تھی تو چونکہ یہ شرط مجتہد فیہ تھی کہ شافعی کا اس میں خلاف ہے۔ لہذا جمعہ کو ترک کرنا مناسب نہ جانا۔ فرض احتیاط پڑھنی شروع کر دی یہ وجہ تو پڑھنے کی ہے مگر چونکہ یہ بھی فقہاء حنفیہ نے لکھ دیا ہے کہ اگر تعدد نصب امام سے ہو تو عامہ کمونین اپنا امام جمعہ کا قائم کر لیں۔ اور جمعہ پڑھ لیں تو بنا بریں روایت جب کہ امام جمعہ کا مقرر ہے تو قائم مقام امام ہو گیا۔ اقامت جمعہ کی درست ہوئی پس اب فرض احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جو حسب روایت حنفیہ درست ہوتا ہے۔ مگر چونکہ معصرا کا ہونا شرط ہے۔ لہذا صحرا میں جمعہ درست نہیں ہو سکتا تو خواہ کتنے ہی آدمی جمع ہویں صحرا میں جمعہ نہ کریں ظہر کی جماعت پڑھیں۔ بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

### احکام فطر و تکبیرات تشریق کب بیان کرے

(سوال) احکام صدقہ فطر اور تکبیر تشریق کے خطبہ میں سنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ صدقہ نماز سے پیشتر اور تکبیر تشریق یوم عرفہ سے واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ احکام جمعہ ماضیہ میں بیان ہونے چاہئیں اور بعض کتب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پہلے خطبہ عیدین کا پڑھتے تھے۔ یہ تقدیم سنت عثمان ہے یا بدعت مروان ہے۔

(جواب) عیدین کے احکام کو جو عیدین سے پہلے جمعہ ہوا اس میں تلقین بطور وعظ کے مستحسن ہے اور خطبہ میں اردو بیان کرنا مکروہ ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قبل نماز خطبہ پڑھا ہے۔ اس واسطے کہ ان کے وقت میں دور دور سے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ اگر نماز پڑھ کر خطبہ پڑھتے تو دور والے شریک نماز نہ ہوتے اور اگر نماز نہ پڑھتے تاکہ باہر والے آ جاویں اور پھر خطبہ پڑھتے تو خلق کثیر گوگرمی سے تکلیف ہوتی اس واسطے یہ صورت پیدا کی کہ خطبہ اول میں پڑھا کہ شرکت باہر والوں کو حاصل ہو جائے اور خطبہ سے کوئی محروم حاضر نہ رہے۔ اور خطبہ عیدین کا سنت ہے نہ

واجب فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عید الفطر کی تکبیرات کا جہر اُڑھنا

(سوال) کتاب مبسوط امام محمد میں تکبیر عید الفطر میں امام صاحب کے نزدیک جہر لکھا ہے۔ اور امام صاحب نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع بھی فرمایا ہے کہ تکبیر جہری، عید الفطر میں بھی کہنا چاہئے یا سری ہی پڑھے کیونکہ اور کتابوں میں سری تکبیر امام صاحب سے منقول ہے۔ اور فتح القدر میں دونوں مرقوم ہیں مگر رجوع نہیں لکھا ہوا ہے۔ فقط

(جواب) رجوع کرنا امام صاحب کا جواز تکبیر کا عید الفطر میں بندہ کو معلوم نہیں مگر عمل کرنا مذہب صاحبین پر بلا کراہت جائز جانتا ہوں اور عوام کو منع جہر کرنے سے تو فقہاء نے خود طرہ لکھا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### خطبہ عیدین و جمعہ ایک شخص پڑھے نماز دوسرا شخص پڑھے

(سوال) بروز عیدین و جمعہ اگر ایک شخص نماز پڑھا دے اور دوسرا بلا عذر خطبہ پڑھے جائز ہے یا نہیں اور اگر وہ مکروہ ہے تو تنزیہی یا تحریمی حرام ہے یا غیر حرام یا با عذر یا باعث اس کے کہ ایک شخص خطبہ پڑھنا اچھا جانتا ہے اور نماز نہیں پڑھا سکتا اور دوسرا نماز پڑھا سکتا ہے۔ مگر خطبہ نہیں پڑھ سکتا اور تیسرا شخص موجود نہیں یا موجود ہے تو ان ہر سہ صورتوں میں کیا حکم ہے۔

(جواب) بروز عیدین و جمعہ خطبہ دوسرے شخص کو پڑھنا درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### خطبہ میں اشعار کا پڑھنا

(سوال) خطبہ عیدین یا جمعہ میں اشعار فارسیہ یا عربیہ یا اردو پڑھنے اور مقصود پڑھنے سے ترغیب و ترہیب ہوتا ہے۔ اور اشعار میں بھی مضمون ترغیب، و ترہیب ہوتا ہے جائز ہیں یا نہیں مکروہ ہے تو تنزیہی یا تحریمی اور بعد ثبوت اشتهاع پڑھنے والا اشعار کا گنہگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔

(جواب) خطبہ جمعہ و عیدین میں اشعار پڑھنا خلاف سنت کے ہے۔ لہذا مکروہ ہوگا کہ قرون مشہور و لہا یا اخیر میں ثبوت اس کا نہیں اور یہ رفتہ رفتہ منجر بافراط ہو جاتا ہے۔ پس مکروہ ہوا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

الجواب صحیح محمد منفعت علی  
 الا جوابہ کلہا صحیحہ  
 احمد عفی عنہ  
 خلف مولانا  
 محمد قاسم صاحب  
 اسمہ احمد

اصاب الجیب سلمہ بندہ محمود عفی عنہ مدرس اول مدرسہ عالیہ دیوبند۔  
 محمود گرداں الہی عاقبت۔

الا جوابہ الاربعہ صحیحہ..... عبداللہ خاں۔

الا جوابہ کلہا صحیحہ..... محمد حسن عفی اللہ عنہ دیوبندی۔

جواب صحیح ہے احمد حسن عفی عنہ دیوبندی جواب اس بناء پر صحیح ہے کہ باوصف مقتضی کے خطبہ  
 عیدین اور جمعہ میں اشعار کا قرون ثلاثہ سے عدم منقول ہونا دلیل بدعت مکروہ کی ہے۔ کما حررہ  
 ملا سحر رومی فی کتابہ مجالس الابرار فقط۔ محمد قاسم علی عفی عنہ از بندہ رشید احمد عفی عنہ

خلف مولانا محمد عالم علی محمد قاسم علی ۱۲۶۰۱۔

السلام علیکم مولوی محمد قاسم علی صاحب کے تعاقبات دیکھے سو بہت شکر کرتا ہوں کہ صحیح مولوی  
 صاحب نے کی اور دلیل صحت وہی ہے جو بندہ نے لکھی مگر عبارت بدل کر ادا کیا ہے سو کچھ مضائقہ  
 نہیں شکر ہے کہ جواب تو صحیح رہا۔ فقط والسلام۔

خطبہ میں عربی عبارت کا ترجمہ کرنا

(سوال) ایک شخص کبھی کبھی جمعہ کے خطبہ میں اس نیت سے کہ لوگوں کا اس وقت اجتماع ہے بعد  
 نماز چلے جاویں گے بعض آیت اور حدیث کا ترجمہ حسب احکام وقت کر دیتا ہے جائز ہے یا نہیں۔  
 بیٹنوا وتوجروا یا علماء دین ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔

(جواب) خطبہ جمعہ میں سوائے عربی زبان کے دوسری زبان میں کچھ پڑھنا مکروہ لکھا ہے مگر  
 خطبہ کا فرض ادا ہو جاتا ہے کذانی کتب الفقہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

غیر عربی عبارت میں خطبہ پڑھنا

(سوال) خطبہ جمعہ یا عیدین میں آیات اردو یا فارسی یا آیات عربی ہوں پڑھنا آیات کا درست  
 ہے یا نہیں۔

(جواب) آیات اردو فارسی بلکہ عربی خطبہ جمعہ یا عیدین میں پڑھنا مکروہ ہے اس لئے کہ شعر پڑھنا خطبہ میں مخالف سنت ہے اور جو فعل اور عبادت کہ آنحضرت ﷺ سے ثابت نہ ہو اس کو کرنا درست نہیں۔ فقط

محمد بشیر ونذیر آمدہ ۱۲۹۷۔ مولانا بشیر الدین صاحب فتویٰ۔

خطبہ جمعہ اور عیدین کا زبان ہندی میں اور فارسی میں مکروہ ہے۔ فقط محمد عالم علی عفی عنہ ۱۲۸۳

محمد مراد آبادی شاگرد مولانا محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمہ اللہ۔

### ملفوظ

جمعہ کا ثواب کس مسجد میں زیادہ ہوگا

جس مسجد میں جمعہ پڑھنے لگیں۔ اس میں مسجد جامع کا ثواب ہوگا۔ البتہ مسجد قدیم کا اور کثرت جماعت کا ثواب اسی جگہ ہوگا جہاں ہمیشہ سے جمعہ ہوتا ہے اور نمازی بکثرت ہوتے ہیں۔ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے جب کہ دوسری جگہ جمع سنت امام موجود ہے پانچ سو کا ثواب نفس مسجد جامع کا ہے اور وجہ سے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔



## باب: جنازہ کی نماز کا بیان

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا

(سوال) صلوة جنازہ مسجد میں بموجب احادیث صحیحہ چنانچہ ابو داؤد میں ہے:-

عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد (۱) انتهي ايضا قالت. والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء الا في المسجد (۲) سهيل واخيه انتهي درست ہے یا نہیں۔ در صورت عدم جواز دلیل صحیح کیا ہے اور یہ حدیث ابو داؤد من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شئی لہ۔ (۳) صحیح ہے یا نہیں۔ کیونکہ صاحب سفر السعادت فرماتے ہیں۔ گاہ بیرون مسجد درگاہ اندرون مسجد ہر دو جائز است وحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ پیغمبر ﷺ فرمود من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شئی لہ غلط است وصواب آنت کہ خطیب بغدادی روایت کردہ وگفتہ کہ دراصل فلا شئی علیہ است بعض آئمہ حدیث میگویند این حدیث خود ضعیف است چہ از افراد صالح مولی التوامہ است ونماز برابر ابو بکر وعمر در مسجد گذارند محضرت جمع مہاجرین و انصار واز کسے انکار وارد شدہ آئی۔ (۴) اگر کوئی پڑھ لیوے تو ہو جاوے گی یا قابل اعادہ ہوگی۔

(جواب) نماز جنازہ کی مسجد میں ادا کرنے میں علماء کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک روایتیں اور حدیث ابو ہریرہ حسن ہے غلط اور ضعیف نہیں اور اس حدیث صحیحین سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے نجاشی پر مسجد سے باہر تشریف لا کر نماز پڑھی اور اگر کوئی شخص نماز جنازہ مسجد میں پڑھ لیوے تو نماز ادا ہوگی۔ اعادہ ضروری نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم رسول ﷺ نے سہیل بن بیضاء پر مسجد میں ہی نماز پڑھی۔

(۲) دوسری روایت حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ ﷺ نے بی بی بیضاء سہیل اور اس کے بھائی پر مسجد میں ہی نماز پڑھائی۔

(۳) جس نے جنازہ پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھی تو اس کو کچھ نہ ملے گا۔

(۴) کبھی مسجد کے باہر اور کبھی مسجد کے اندر دونوں طرح جائز ہے اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ پیغمبر نے فرمایا جو شخص جنازہ پر مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو کچھ نہ ملے گا غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ دراصل یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں بعض آئمہ حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث خود ضعیف ہے کیونکہ افراد صالح مولی التوامہ سے ہے اور ابو بکر وعمر برابر مہاجرین و انصار کے سامنے مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور کسی سے انکار ثابت نہیں۔

بوجہ عذر نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا

(سوال) صلوٰۃ جنازہ اگر بسبب عذر مطر وغیرہ مسجد میں پڑھ لی جائے تو درست ہے یا نہیں۔  
(جواب) عذر کے سبب کہ جگہ بسبب مطر کے نہ ہو اگر پڑھ لیوے تو مضائقہ نہیں ورنہ یہ بھی مسئلہ مختلفہ ہے کہ اس کو کر کے محل طعن بنالائق نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

نماز جنازہ کے نمازی مسجد میں ہوں اور جنازہ خارج مسجد

(سوال) جنازہ خارج مسجد ہو اور اس کی نماز پڑھنے والے اکثر خارج مسجد ہوں اور بعض بیاعت دھوپ یا بارش مسجد میں ہوں تو بمذہب حنفیہ جائز ہے یا نہیں اور اگر اکثر خاص مسجد میں ہوں اور بعض خارج مسجد ہوں تو بھی جائز ہے یا نہیں۔ اور اگر جنازہ بھی خاص مسجد میں ہو اور اس کے نمازی بھی بیاعت دھوپ بارش خاص مسجد میں ہو تو جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) نماز جنازہ کی مسجد میں پڑھنا ہر حال میں مکروہ لکھا ہے۔ فقط

قبرستان میں نماز جنازہ

(سوال) قبرستان میں صلوٰۃ جنازہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔  
(جواب) قبور میں اگر نماز جنازہ کی پڑھ لیوے تو درست ہے مگر خارج از قبور ہونا بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

نماز جنازہ سنتوں سے پہلے پڑھے یا بعد

(سوال) جنازہ کی نماز فرض نماز کے بعد سنتوں سے پہلے چاہئے یا بعد ادا کرنے سنتوں کے چاہئے۔  
(جواب)

نماز جنازہ جوتے کے ساتھ پڑھنا

(سوال) صلوٰۃ جنازہ مع جوتہ پڑھنا درست ہے یا نہیں، بالخصوص زمین نجس پر۔  
(جواب) اگر جوتی پاک ہے تو نماز جنازہ درست ہے ورنہ درست نہیں۔ ایسا ہی حال زمین کا ہے پس زمین ناپاک پر کھڑے ہو کر بھی درست نہ ہووے گی اور زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا

(سوال) سورۃ فاتحہ صلوٰۃ جنازہ میں پڑھے یا نہیں اور اگر تکبیرین آخرین میں بھی بجائے دعا پڑھ لے تو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے امام صاحب حدیث سے ممانعت قرآن کی نماز جنازہ میں ثابت کرتے ہیں اگر دعا کی طرح پڑھے درست ہے تو جب نبی اور جواز دونوں حدیث سے ثابت ہیں اور مسئلہ مختلف ہے تو ایسے فعل کو کرنا کیا ضروری ہے ایسے افعال کر کے لامذہب مشہور ہونا ہوتا ہے۔

اتقوا مواضع التہم (۱) خود حکم شارع علیہ السلام کا ہے مستحب مختلف کو ادا کر کے فساد برپا کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا

(سوال) سورۃ فاتحہ صلوٰۃ جنازہ میں پڑھنا کہ حسب احادیث صحیح مسنون ہے۔ چنانچہ:

عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازة فقر أفا تحته الكتاب فقال لتعلموا انها سنة وحق رواه البخاری والنسائی انتھی وعن ابی امامة رضی اللہ عنہ قال السنة فی الصلوة علی الجنائز ان یقرأ فی التکبیر الا ولی بام القرآن مخالفة ثم یکبر ثلثا والتسلیم عند الاخرة رواه النسائی. (۲)

اور محققین علماء بھی اس کی سنیت و افضلیت کے قائل ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ حجۃ اللہ بالہذا میں فرماتے ہیں:-

ومن السنة قراءة فاتحة الكتاب لانها خير الادعية واجمعها علمها  
اللہ تعالیٰ عبادہ فی محکم کتابہ. (۳)

(۱) تہمتوں کی جگہ سے پوچھو۔

(۱) طلحہ بن عبد اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ کی پڑھی تو آپ نے اس سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا (میں نے اس لئے پڑھا ہے) تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت اور حق ہے اس کو بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور ابن امامہ سے روایت ہے کہ جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ میں فاتحہ آہستہ پڑھ لے پھر تین بار تکبیر کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام کہے اس کو نسائی نے روایت کیا ہے۔

(۲) سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اس لئے کہ وہ بہترین اور جامع دعاء ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم میں اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے۔

اور ملا علی قاری رحمہ اللہ بھی استحباب کے قائل ہیں۔ بنا بریں احتیاطاً مذہب شافعی رحمہ اللہ کے چنانچہ رد المحتار میں ہے: وقول ملا علی القاری ایضاً يستحب قراءتها بنية الدعاء خروجا من خلاف الشافعی (۱)

اور قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وصیت نامہ میں فرماتے ہیں وبعد تکبیر اولی سورۃ فاتحہ ہم خوانند آتھی (۲) لہذا ابرعایت اولہ مذکورہ فاتحہ پڑھنا ہی اولیٰ ہے یا نہیں۔  
(جواب) حضرت فخر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ نماز جنازہ میں ایسا بنا بجواز پڑھی ہے ورنہ معمول ضروری نہ تھا۔ کیونکہ امام صاحب قرآن کی ممانعت حدیث سے ثابت فرماتے ہیں۔ البتہ بطور دعاء پڑھنا مضائقہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

### کئی جنازوں کی نماز ایک ساتھ اور مجنون کی نماز جنازہ

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مجنون شخص کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی جاوے آیا نہیں دعاؤں مخصوصہ سے اس کی نماز پڑھائی جاوے یا کوئی اور دعا بھی اور اگر یہ نہیں تو کون سی دعا ہے اور اگر چند جنازہ مجتمع ہوں تو علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنا عمدہ ہے یا ایک جا اور پھر ترحیب کس طرح سے ہے اور اگر مردہ بالغ ہو اور دوسرا نابالغ تو پھر کیا کرے اگر کسی شخص نے مجنون کے جنازہ پر بھی اللهم اغفر لحیننا الخ..... پڑھی تو درست ہے یا نہیں۔ فقط

(جواب) دعائیں نماز جنازہ مجنون کی بلا تفاوت تندرست مردوں جیسی ہوتی ہیں کچھ ذرہ بھر فرق نہیں وہی معمولی دعوات ہیں اور یکساں حکم نماز کا ہے کہ انی عامۃ عموم الکتب واللہ تعالیٰ اعلم جملہ اموات کو جمع کر کے اس طرح کہ ایک مردہ امام کے پاس دوسرا قبلہ کی طرف تیسرا اس کے قبلہ کی طرف صف باندھ کر نماز پڑھے صائز کو جمع کی بناوے اور نہ بناوے جب بھی کچھ حرج نہیں، درست ہے اگر ایک طفل ہو تو اس کو بعد جوان کے قبلہ کی جانب رکھے اور دعا مرویہ میں جمع کر لیوے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) اور ملا علی قاری کا بھی یہی قول ہے کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بنية دعاء مستحب ہے تاکہ امام شافعی کے اختلاف سے بھی نکل جائے۔

(۲) اور تکبیر اولیٰ کے بعد سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں۔

## باب: سجدة تلاوت کا بیان

سجدہ تلاوت کے لئے تکبیر کا مسئلہ

(سوال) تلاوت کلام مجید کے سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہے یا نہیں۔  
(جواب) اللہ اکبر کہہ کر جانا چاہئے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا چاہئے۔ فقط

## باب: بیمار کی نماز کا مسئلہ

بیٹھ کر نماز پڑھنا

(سوال) ایک شخص بیمار گھر سے خود چل کر مسجد آ جاتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے زید اس کو منع کرتا ہے کہ باوجود قدرت قیام کے بیٹھ کر نماز درست نہ ہوگی۔ ہاں نماز کھڑے ہو کر شروع کیا کر۔ اور بعد عاجزی کے بیٹھ جایا کر۔ خواہ تو بعض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھا کرے۔ اور بعض بیٹھ کر پس قول زید کا صحیح ہے یا نہیں۔

(جواب) زید صحیح کہتا ہے۔ فقط

## مسافر کے احکام کا بیان

مسافر امام مقتدی مقیم کی نیتوں کا مسئلہ

(سوال) امام مسافر ہے اور دو رکعت کی نیت کرتا ہے مقتدی مقیم ہیں امام کی متابعت کی وجہ سے دو رکعت کی نیت کرے یا چار کی نیت کرے۔ اس مسئلہ کو شروع و مفصل زیب قلم فرمائیے۔

(جواب) امام دو رکعت پڑھتا ہے اس لئے وہ دو رکعت کی نیت کرے گا۔ اور مقتدی چار رکعت کی نیت کرے۔ اس لئے کہ اس کے ذمہ چار واجب ہیں۔ فقط

سفر میں سنت و نفل پڑھنا

(سوال) سفر میں اگر چہ ریل کا ہونے کا ہونے کے علاوہ سنت نفل بھی پڑھے یا نہیں؟

(جواب) اگر جلدی اور تقاضا نہ ہو اور اطمینان ہو تو سنت ضرور پڑھنی چاہئیں اور نفل کا اختیار ہے

سفر میں بھی، حضر میں بھی۔ فقط

## فرخ اور میل صحیح حد

(سوال) فرخ اور میل کی تحدید معتبر کیا ہے۔ از عزیز الدین صاحب مراد آبادی۔

(جواب) فرخ تین میل کا اور میل چار ہزار قدم کا لکھتے ہیں مگر یہ سب تقریبی امور ہیں۔ اصل میں اس مسافت کا نام ہے کہ نظر میل کرے اور یہ بھی مختلف ہے وقت اور محل اور رائی کے اعتبار سے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## صحیح مسافت سفر

(سوال) کتنی مقدار مسافت سفر میں نماز قصر کرنی چاہئے۔ حسب احادیث صحیحہ۔

(جواب) چار برید جس کی سولہ ۱۶ سولہ ۱۶ میل کی تین منزلیں ہوتی ہیں۔ حدیث مؤطا امام مالک سے ثابت ہوتی ہے۔ مگر مقدار میل کی مختلف ہے۔ لہذا تین منزل جامع سب اقوال کو ہو جاتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ملفوظ

اگر اسٹیشن شہر میں داخل نہیں ہے تو قصر کرے

اگر اسٹیشن اس شہر میں داخل ہے تو داخل ہے اور اگر اس کے اندر داخل نہیں تو قصر کرے گا۔ جو نمازیں پہلے پڑھی گئیں ان کے اعادہ کی حاجت نہیں اور اسٹیشن شہر میں داخل ہونے کے یہ معنی کہ ریل شہر میں ہو کر جاتی ہو جیسے دہلی میں ایس وہاں اسٹیشن پر قصر نہ ہوگا۔ اور مد نظر آنے پر نہیں ہے بلکہ دخول پر ہے۔ فقط والسلام۔

## شہید کا بیان

چور اور ظالم کے ہاتھ سے مارے جانے والے کی شہادت

(سوال) چور و دیگر ظالم وغیرہ اگر کسی کو مار ڈالیں تو مظلوم شہید ہوگا یا نہیں اور اگر مظلوم کے ہاتھ سے چور وغیرہ مارے گئے تو یہ گنہگار تو نہ ہوگا۔

(جواب) چورا اور ظالم اگر مظلوم کے ہاتھ سے مر گئے تو شہید نہیں ہوتے بلکہ فاسق مرتے ہیں اور مظلوم مارا گیا تو شہید ہوا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## حضرت حسینؑ کی شہادت

(سوال) زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت امام حسین و حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو شہید نبی سبیل اللہ نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ شہید ہونے کے شرائط ان کے قتل میں نہیں پائی جہاں اور نہ کسی کافر کے ہاتھ سے جہاد شرعی میں مارے گئے بلکہ خانگی لڑائیوں میں قتل ہوئے۔ البتہ مقتول مظلوم ہوئے ورنہ صریح حدیثوں میں ان کی شہادت پائی جاتی ہے۔ پس آپ کی تحقیق کیونکر ہے اور زید مذکور کا عقیدہ خلاف سلف ہے یا موافق قانون شریعت فقط۔

(جواب) شہید اصطلاح شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ جو مظلوم مارا جائے خواہ کسی طرح سے مارا جائے پس بایں معنی یہ سب آئمہ مذکورین شہید ہیں اور اجر شہادت کا ان کو ملے گا البتہ احکام شہداء کے جو غسل کا نہ دینا خون آلودہ ان کے لباس میں دفن کرنا ایسے شہداء کے واسطے نہیں ہوتے ان احکام شہداء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ شریک نہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شریک ہیں پس اگر وہ شخص انکار سب شہادت کا کرتا ہے تو غلط ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید فرمایا ہے۔ اور اگر احکام مذکورہ شہداء کے جاری ہونے کا انکار ہے تو درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## کتاب الزکوٰۃ

### زکوٰۃ کے مسائل کا بیان

#### نوٹ پر زکوٰۃ کا حکم

(سوال) نوٹ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں اور اگر ہے تو فلوس میں زکوٰۃ کیوں نہیں ہے یعنی اگر فلوس میں غیر نقدین ہونے کی زکوٰۃ نہیں ہے تو نوٹ بھی ایسے ہی ہے اس میں زکوٰۃ کیوں دینا ہوگا۔

(جواب) نوٹ وثیقہ اس روپے کا ہے جو خزانہ حاکم میں داخل کیا گیا ہے۔ مثل تمسک کے اس واسطے کہ اگر نوٹ میں نقصان آ جاوے تو سرکار سے بدلا سکتے ہیں اور اگر گم ہو جاوے تو بشرط ثبوت اس کا بدل لے سکتے ہیں اگر نوٹ مبیع ہوتا تو ہرگز مبادلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیا میں کوئی بیع بھی ایسا ہے کہ بعد قبض مشتری کے اگر نقصان یا فنا ہو جاوے تو بائع سے بدل لے سکیں پس اسی تقریر سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ نوٹ مثل فلوس کے نہیں ہے۔ فلوس مبیع ہے اور نوٹ نقدین ان میں زکوٰۃ نہیں اگر بنیت تجارت نہ ہو اور نوٹ تمسک ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ اکثر لوگوں کو مثل آپ کے شبہ ہو رہا ہے کہ نوٹ کو مبیع سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دیتے اور کاغذ کو مبیع سمجھ رہے ہیں سخت غلطی ہے فقط والسلام۔

#### مال نصاب سے کوئی چیز خرید لینا

(سوال) جس شخص کے پاس مال نصاب ہو اور وہ اس مال کی کوئی شے مثل مکان وغیرہ خریدے تو اس مال پر زکوٰۃ ہوگی یا اس کی آمدنی پر۔

(جواب) جب تک اس مال سے کوئی شے نہ خریدی تھی اس پر زکوٰۃ تھی اور بعد خریدنے کے اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ فقط

#### زکوٰۃ اپنے مخصوصین کو دینا

(سوال) اگر کوئی عورت نے اپنے ایسے عزیز کو زکوٰۃ دے کہ وہ مال اس عورت اور شوہر اس کے صرف میں آوے اور عورت بھی یہ جانتی ہے کہ اگر اس عزیز کو زکوٰۃ نہ دوں گی تو بھی یہ مال ان سب لوگوں کے صرف میں آوے گا اور میرے بھی اور میرے شوہر کے اور زکوٰۃ دوں گی تو بھی ان



کے ہی صرف میں آوے گا تو زکوٰۃ اس صورت میں ادا ہوگی یا نہیں فقط۔  
 (جواب) زکوٰۃ ایسے شخص کو دینا درست ہے محل زکوٰۃ میں جب دے کر قبض کرادیا پھر اس شخص کو اختیار ہے چاہے اس کو ہی واپس دے دیوے یا جو چاہے کرے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

دوسرے شہر میں زکوٰۃ ادا کرنا

(سوال) زید کا روپیہ کسی شہر دیگر میں ایک شخص کے پاس امانت ہے زید نے اس امین کو تحریر کر دیا کہ اس قدر روپیہ فلاں شخص کو تو میری طرف سے دے دے اور دل میں زید نے نیت ادا کے زکوٰۃ یا نیت تصدق قیمت جرم قربانی یا نیت ادا کے صدقہ فطر کر لی۔ اندریں صورت زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں۔

(جواب) ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہوگی فقط۔

زکوٰۃ کی رقم سے کوئی چیز خرید کر دینا

(سوال) خرید کر قرآن شریف زکوٰۃ میں دینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) زکوٰۃ کے روپیہ سے قرآن، کتاب، کپڑا وغیرہ جو کچھ خرید کر دے دیا جاوے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ فقط

مدیون کے قرضہ کو زکوٰۃ میں محسوب کرنا

(سوال) جس شخص نے مدیون کو قرضہ کے چار روپیہ اپنی زکوٰۃ میں سمجھ کر معاف کر دیئے تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں۔

(جواب) اگر اس کو قرضہ معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہ دگی اگر یہ چار روپیہ اس کو زکوٰۃ دے کر پھر اس سے اپنے قرضہ میں واپس لے لے تو درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ملفوظ

زکوٰۃ میں غلہ دینا اور اسقاط حمل کا بیان

زکوٰۃ میں غلہ دینا درست ہے بہ نرخ بازار قیمت غلہ لگا کر اس روپیہ کا غلہ دے دیا جائے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اسقاط حمل قبل جان پڑنے سے جائز ہے مگر اچھا نہیں ہے اور جان پڑ جانے

کے بعد حرام ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## باب عشر و صدقہ و زکوٰۃ کن کن کو دیا جائے اس کا بیان

جو زمیندار صاحب نصاب نہ ہو اور عشر دینا ہو اس کو عشر لینا جائز ہے یا نہیں۔

(سوال) جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اور زمیندار بھی ہو مگر کاشتکار ہو اور بوجہ کاشتکاری عشر جب دیتا ہو تو اس کو عشر کا لینا بھی جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو عشر لینا درست ہے۔

## کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں

(سوال) غایت الاوطار میں لکھا ہے کہ زوجہ مال زکوٰۃ کا زوج کو دے دے کیونکہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو فرمایا تھا۔

(جواب) زوجہ کو زوج کی زکوٰۃ اور زوج کو زوجہ کی زکوٰۃ لینا درست نہیں اور روایت صدقہ نفل پر محمول ہے۔ فقط

## رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ

(سوال) خوشدامن زوجہ پر کو اور زوجہ پر خوشدامن کو مال زکوٰۃ و عشر کالے دے سکتی ہے یا نہیں۔

(جواب) لے دے سکتی ہے فقط۔

رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے کہ غیر رشتہ داروں کو

(سوال) غریب محتاج غیر کو دینا افضل ہے یا اپنے رشتہ دار محتاج غریب کو۔

(جواب) اپنے کو دینے میں بہ نسبت غیر کے زیادہ ثواب ہے فقط۔

زکوٰۃ کے روپیہ سے کتب خرید کر تقسیم کرنا

(سوال) زکوٰۃ کے روپیہ سے دینیات کی کتابیں خرید کر عام لوگوں میں تقسیم کرنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر رسائل دینیہ خرید کر کسی کی ملک کر دے تو درست ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

## زکوٰۃ کی رقم تعمیر مسجد میں لگانے کے لئے حیلہ شرعی

(سوال) زکوٰۃ مسجد کی تعمیر میں صرف ہو سکتی ہے یا نہیں۔

(جواب) زکوٰۃ کا روپیہ بغیر حیلہ شرعی مسجد میں لگادیں گے تو مسجد میں کسی قسم کا نقصان نہیں آتا مگر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور حیلہ شرعی سے لگادیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور حیلہ یہ کہ کسی محتاج فقیر کو وہ یعنی زکوٰۃ دی جائے اور اس کو مالک بنا دیا جائے اور وہ اپنی خواہش سے اور اپنی طرف سے مسجد میں لگادے تو یہ درست ہے۔ فقط

## رفاہی انجمن کا چندہ زکوٰۃ سے دینا

(سوال) انجمن حمایت الاسلام لاہور کے کارکنان نے یہ قاعدہ کر رکھا ہے کہ ہر فرقہ کا مسلمان کم سے کم چار آٹہ ماہوار انجمن کو امداد دینے سے انجمن کا ممبر ہو سکتا ہے پس اگر کوئی ممبر چندہ فیس ممبری کو زکوٰۃ کے روپیہ میں سے ادا کرے تو یہ امر جائز ہے یا نہیں اگر کوئی ممبر علاوہ فیس ممبری کے زکوٰۃ کا روپیہ خاص یتیم خانہ انجمن مذکور کو بھیج دے تو مناسب ہے یا نہیں اور فیس منی آرڈر زکوٰۃ کے روپیہ سے وضع کر کے بھیجینی چاہئے یا نہیں۔

(جواب) اگر چندہ لینے والوں کو اس امر کی اطلاع کر دی جاوے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے اور وہ اپنی طرف سے اس کا اہتمام کر لیں کہ یہ روپیہ مصرف پر خرچ ہو تو مضائقہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## زکوٰۃ و صدقات کی اداگی کے لئے کسی کو وکیل بنانا

(سوال) اگر کسی کو زکوٰۃ و دیگر صدقہ واجبہ و نافلہ کا وکیل بنا دیوے کہ اس کو اپنے انتظام سے صرف کر دینا پھر اگر وکیل خود بھی کہ وہ بھی اہل حاجت ہے اس میں سے سب یا بعض لے لیوے تو درست ہے یا خیانت میں داخل ہے۔

(جواب) اگر زکوٰۃ دینے والے نے وکیل کو عموماً اجازت دی کہ جہاں چاہے محل پر صرف کر دے تو بشرط مصرف ہونے کے وکیل خود بھی لے سکتا ہے اور جو مراد دینا غیروں کو ہے تو خود لینا

درست نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم کذانی کتب الفقہ۔ (۱)

صدقہ کے زیادہ مستحق ہم وطن ہیں کہ عرب

(سوال) اہل عرب کا ہم پر کوئی حق ہے یا نہیں اور کچھ صدقہ کہ جو ہم کو میسر ہو اہل عرب کو دینا بہتر ہے یا اپنے ہم وطن کو کہ جن کا ہم پر حق ہے۔

(جواب) اپنے ہم وطن کو دینا بہتر ہے عرب کے دینے سے جو مانگتے پھرتے ہیں مگر وہاں جب زیادہ حاجت ہو اور یہاں کم حاجت ہو تو پھر عرب کو دینا بہتر ہے احبوا العرب رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ فقط

حجاز ریلوے میں زکوٰۃ کی رقم دینا

(سوال) حجاز ریلوے کے واسطے جو چندہ وصول کیا جاتا ہے اخباروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چندہ میں زکوٰۃ واضحی کا بھی دے دیں لہذا گزارش ہے کہ اس میں مال زکوٰۃ کا جائز ہے یا نہیں ان میں شخص معین شرط ہے یا نہیں اور اس چندہ میں تملیک ہے یا نہیں۔

(جواب) چندہ حجاز ریلوے کے لئے کوئی صدقہ واجبہ ادا نہ ہوگا زکوٰۃ صدقہ کسٹرو وغیرہ ہاں نفل صدقہ جتنا چاہے دے۔ فقط

زکوٰۃ کاروپہ مسجد میں لگانا

(سوال) زکوٰۃ کاروپہ مسجد میں لگانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) زکوٰۃ کاروپہ مسجد میں لگانا درست نہیں ہے بلکہ کسی کی ملک کرنا ضروری ہے اس لئے کسی ایسی جگہ خرچ کرنا درست نہ ہوگا جس میں تملیک نہیں ہوتی پس نہ تو زکوٰۃ کاروپہ چندہ تعمیر مسجد میں دینا درست ہے اور نہ کسی مدرس وغیرہ کی تنخواہ میں دینا درست ہے اور نہ کتب و رسائل خرید کر وقف کرنا درست ہے اور نہ محصول میں دینا درست ہے۔

زکوٰۃ کی رقم سید کو دینا

(سوال) زکوٰۃ اپنے عزیز و اقارب کو جو کہ نہایت محتاج اور غریب ہیں اور سوائے اس موقع کے اور کوئی صورت دینے کی نہیں ہوتی لیکن سید مشہور ہیں ایسی صورت میں درست ہے یا نہیں۔

(جواب) سید کو زکوٰۃ دینی درست نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ملفوظ

زوجین میں سے کسی کو آپس میں زکوٰۃ دینا

اگر زوجہ صاحب نصاب اور شوہر فقیر یا شوہر نصاب والا ہو اور زوجہ فقیر تو ان میں سے ہر ایک کو اپنے مال کی زکوٰۃ دوسرے کو دینی درست نہیں ہے اگر شوہر کا مکان سکونت کا ہے مگر وہ زوجہ کے مکان میں رہتا ہے تو اس سے اس پر زکوٰۃ اس مکان کی واجب ہوگی اور اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے تو لینا بھی درست ہے مگر زوجہ کی زکوٰۃ لینا خاوند فقیر کو درست نہیں ہے اور اس مکان سکونت کی وجہ سے اس پر صدقہ فطر واضحیہ بھی واجب نہیں ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## باب: صدقہ فطر کا بیان

صدقہ فطر صاحب نصاب کن کن کا ادا کرے

(سوال) ایک شخص صاحب نصاب ہے اور اس کی ایک عورت اور ایک لڑکا بالغ ہے اور تمام خرچ عورت اور لڑکے کا ذمہ اس شخص کے ہے اور عورت اور لڑکے کو کوئی اختیار نہیں ہے صدقہ عید الفطر کا عورت اور لڑکے کی طرف سے اس شخص کو دینا واجب ہے یا نہیں ہے۔

(جواب) زوجہ کا صدقہ فطر خاوند پر واجب نہیں اور پسر و دختر بالغ کا بھی واجب نہیں اگر ان سے پوچھ کر دے دیوے تو ثواب ہوگا جائز ہوگا مگر واجب نہیں اور دختر اور پسر صغیر کا واجب ہے اگر چہ روزہ نہ رکھے۔ اگر چہ ایک دن کا بچہ ہو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

صاحب نصاب کن کن کا صدقہ فطر نکالے

(سوال) ایک شخص کی ہاں ایک عورت اور ایک لڑکا بالغ ہے اور سب ایک جگہ ہیں عورت اور لڑکے کو اس کے مال میں کچھ نہیں ہے یہ شخص صدقہ عید الفطر ان کی طرف سے دے یا نہ دے۔

(جواب) اس شخص پر ان دونوں کی طرف سے صدقہ عید الفطر دینا واجب نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم

صاحب نصاب شخص کو کن کن کا فطرہ ادا کرنا لازم ہے

(سوال) ایک شخص صاحب نصاب ہے یعنی ایک ہی نصاب تک اس کے پاس مال ہے اس کی

ایک زوجہ اور ایک لڑکا بالغ ہے اور ایک نابالغ اور وہ سب ایک جگہ شریک ہیں یعنی زوجہ و طفلان اس کے ذمہ کھاتے ہیں اور وہ ایک شخص ہے کچھ کاروبار کرتا ہے۔ اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف سے ادا کرے یا سب کی طرف سے دے دے فقط۔

(جواب) صدقہ فطر اپنی اولاد کی طرف سے ادا کرے زوجہ کی طرف سے اس کے ذمہ واجب نہیں فقط۔

### قربانی و صدقہ فطر واجب ہونے کا نصاب

(سوال) جس شخص کے پاس پچاس روپے ہوں اس کو قربانی کرنا اور صدقہ عید الفطر کا دینا واجب ہے یا نہیں۔

(جواب) جس کے پاس پچاس روپیہ نقد ہے اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### صدقہ فطر واجب ہونے کا نصاب

(سوال) صدقہ عید الفطر کا کس قدر مال پر چاہئے۔

(جواب) اگر پچاس روپیہ نقد یا اس قیمت کا مال حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عید الفطر کے صدقہ کے لئے ہندوستانی وزن

(سوال) عید الفطر کا صدقہ ایک شخص کو سہارن پور کے وزن سے جنس گیہوں کا کس قدر ادا کرنا چاہئے۔

(جواب) صدقہ فطر ایک شخص کی طرف سے موافق سہارن پور کی تول کے ڈیڑھ تار پختہ گیہوں دیئے جائیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### صاع اور مد ہندوستانی وزن سے کتنے کے ہیں

(سوال) تحدید صاع و مد بوزن ہندوستان سو روپیہ کے سیر سے معتبر کیا ہے اور یہ جو ترحمہ اعانہ میں مولوی محمد احسن صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ مد مشقی رطل کی تہائی کے برابر ہے یعنی سو روپیہ بھر کے سیر سے قریب ڈیڑھ پاؤ کے ہوتا ہے اور صاع ایک رطل و تہائی رطل کے قریب یا ڈیڑھ سیر

کے قریب ہوتا ہے قول مذکور صحیح ہے یا نہیں۔

(جواب) بانوے کے سیر سے یعنی چہرہ شاہی بانوے روپیہ کی برابر کے سیر سے ایک صاع تین سیر کا ہوتا ہے اور مد اس کی چوتھائی ہے اور یہ مد و صاع بمذہب حنفی ہیں اس کے موافق آپ حساب کر لیں اور تولہ دو تولہ کی کمی و زیادتی شرعاً مضرت نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ملفوظ

#### رطل بنانے کا طریقہ اور مد بنانے کا طریقہ

چونکہ ہر جگہ کا حساب مختلف اور وزن مختلف ہے پس سترہ سو جو مد بڑیدہ غیر مقشر کا ایک درم پس اس حساب سے رطل بنالیں اور آٹھ رطل کا ایک صاع بنالیں اور کسی کی تحریر کا اعتبار نہ کریں اور یہ حساب تقریبی ہے اور ایک لپ یعنی دو ہاتھ بھر کے کف دست بہم کر کے یہ ایک مد ہوتا ہے۔

## باب: عشر و خراج کے احکام کا بیان

بٹائی میں عشر کا مسئلہ

(سوال) آسامیوں کو زمین بٹائی پر جو دی جاتی ہے اس میں عشر واجب ہے یا نہیں اسامی مسلمان ہوں تو کیا حکم ہے اور کافر ہوں تو کیا حکم ہے کل عشر زمین کے مالک پر ہی واجب ہے یا مشترک مابین مالک و اسامی کون سا قول مفتی بہ ہے نیز اگر اسامی کافر ہوں تو کیا حکم ہے۔

(جواب) مزرعتہ کے مسئلہ میں عشر حصہ دار ہوتا ہے مالک و مزارع پر اگر کوئی کافر ہو گا وہ ماخوذ نہ ہو گا مسلمان اپنے حصہ سے دیوے گا۔ یہی ایک مسئلہ ہے اور دوسرا قول مقابل اس کے مجھ کو یاد نہیں آتا فقط۔

عشری زمین کی شناخت کا طریقہ

(سوال) اس طرف کی زمین عشری کی کیا شناخت ہے۔ فقط

(جواب) زمین عشری وہ ہے جو اول سے مسلمان کے پاس ہو اور عشری پانی سے سیراب کی جاتی ہو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

عشر مالگذاری ادا کرنے کے بعد دیا جائے یا پہلے

(سوال) آمدنی یعنی جو کہ مالک کو کاشتکاروں سے وصول ہوئی مثلاً پانسو روپیہ ہے اور سرکاری مالگذاری تین سو روپیہ تو اب عشر کل پانسو کا مالک پر واجب ہے یا ماہی دوسو پر فقط۔

(جواب) جب مالگذاری مالک ہے جو وصول اس کا ہو جملہ محصول سے عشر دیوے گا حسب رائے امام صاحب اور جو سرکار نے لیا وہ ظلم ہے وہ محسوب نہ ہوگا مجموعہ محصول سے دیوے گا یہ ہی ظاہر ہے۔

ہندوستانی زمینات عشری ہیں کہ خراجی

(سوال) ہمارے یہاں کی اراضیات عشری ہیں یا خراجی ہیں اور عملداری جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اراضیات ہند بعض عشری ہیں بعض خراجی فقط۔



سرکاری جمع اور معافی شدہ زمین کے متعلق عشر کا مسئلہ

(سوال) یہاں زمینوں میں سرکاری جمع ہے اور معافی بھی ہیں لہذا ایسی زمینوں پر عشر ہے یا نہیں۔

(جواب) زمین معافی ہو یا اس میں مالکذاری سرکاری ہو محصول برائے خراج تو کافی ہے مگر بجائے عشر کافی نہیں ہو سکتا۔ پس اگر زمین عشری ہے تو عشر ادا کرنا جدا چاہئے اور اگر خراجی ہے تو خراج اس کا مالکذاری سرکاری میں محسوب ہو سکتا ہے۔ فقط

آم کا عشر کس طرح ادا کیا جائے

(سوال) انہ کتنی مقدار سے لائق عشر کے ہیں اگر انبہ کا عشر دیا جاوے تو برابر تول کر دیا جاوے یا شمار سے کم وزیادہ ہو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جب جس قدر توڑے جاویں اس قدر کا عشر دینا چاہئے اگر چھوٹے بڑے ہوں تو وزن سے دینا چاہئے اور برابر ہوں تو شمار سے فقط۔

نقد کر ایہ کی زمین پر عشر کا مسئلہ

(سوال) نقشی زمین یعنی جو کہ بکریہ نقدی جاتی ہے اس میں عشر واجب ہے یا نہیں۔

(جواب) زمین جو نقد پر کر ایہ دیا اس کے عشر میں خلاف ہوگا امام صاحب مالک سے سب دلادیں گے۔ صاحبین مستاجر سے سب دلادیں گے یہ ظاہر ہے۔ فقط

زمانہ گزشتہ کی واجب الادا زکوٰۃ و عشر کا حکم

(سوال) زمانہ گزشتہ کی زکوٰۃ و عشر واجب الادا ہے یا نہیں اور اگر اب روپیہ نہ ہو تو کہاں سے دے یا کیا کرے یا زمین یا مکان فروخت کرنا ضروری ہے کہ ادا کرے۔

(جواب) جو عشر و زکوٰۃ اس کے ذمہ ایک دفعہ واجب ہو چکی ہیں وہ ساقط نہیں ہوتی البتہ اگر وہ مال تلف ہو جاوے تو ساقط ہو جائیں گی۔ فقط

جس باغ کو پانی نہ دیا جاتا ہو اس کا حکم

(سوال) جس باغ کو پانی نہ دیا جاتا ہو اس پر عشر ہے یا نہیں۔

(جواب) اس پر عشر ہے۔ فقط

### مواضعات مالگذاری کا مسئلہ

(سوال) ملکات معانی پر تو عشر واجب ہی ہے لیکن مواضعات مالگذاری میں تردد ہے۔ کیونکہ ہم لوگ ان کے مالک واقعی نہیں سرکاری مالگذاری دیں تو ہماری ورنہ جو چاہے سرکار وہ کرے۔

(جواب) عشر میں امام صاحب و صاحبین کا خلاف ہے اور در مختار نے طحاوی سے فتویٰ صاحبین کے قول پر لکھا ہے مگر مختار نے بہت سے متاخرین کا فتویٰ امام صاحب کی رائے پر لکھا ہے اور قوی لکھا ہے تو اب چند علماء کے مقابلہ میں ضعیف بندہ کو کیوں کرتے ہو میرا بولنا فضول ہے جس پر جمہور کا فتویٰ ہو بندہ کیا بولے اگر چہ دل میں خلش ہوتی ہو پس بعد اس کے کہ رائے امام صاحب پر فتویٰ رہا تو مالگذاری کی زمین اگر آپ کے نزدیک ملک سرکار ہے تو مالگذاری پر عشر نہ ہوگا سرکار کافر ہے وہ ماخوذ نہیں اور جو رائے صاحبین پر عمل ہو تو مالگذاری عشر دیوے گا فیصلہ ہو گیا۔ مگر یہ سنو کہ اگر سرکار مالک ہے تو بیع شرع مالگذاری کرتا ہے سرکار کا ہے مانع نہیں یہ دلیل ملک مالگذاری کی ہے اور اگر زمین مالگذاری سرکار اپنی سرک یا مکان میں لیوے تو قیت زمین کی رقبہ مالگذاری کو دیتی ہے یہ دلیل مالگذاری کی بدیہی ہے اگر ملک سرکار ہوتی تو قیمت دینے کے کیا معنی ہوویں گے پس جب ملک مالگذاری محقق ہوئی تو مسئلہ قلب ہو جاوے گا رائے امام و صاحبین پر بظاہر آپ کو کوئی دلیل ملک سرکار کی نہیں ملی ہوگی کیونکہ یہ لکھنا کہ مالگذاری کی عدم ادا میں سرکار دوسرے کو زمین دیتی ہے یہ دوسرے کو دینا اپنے حق کی تحصیل کے واسطے ہے نہ اپنی زمین کا لینا ہے جیسا وقت عدم اداء خراج کے شرع میں زمین خراجی دوسرے کو دے دیتے ہیں حالانکہ صاحب خراج مالک زمین کا ہوتا ہے لہذا یہ دلیل ملک سرکار کی نہیں۔ فقط

### ملفوظ

### بینڈ اور پولے کے مسائل

اگر بینڈ اور پولہ خود روئے تو اس میں عشر بھی نہیں ہے اور وہ ملک بھی نہیں ہے اور اگر پرورش کیا ہے اور لگوا یا ہے تو اس میں عشر بھی ہے اور وہ ملک بھی ہے۔ غیر شخص کو اس کا کاٹنا درست نہیں

## کتاب الصوم

### روزے کے مسائل کا بیان

بچے کب سے روزہ رکھیں!

(سوال) جب کہ بچوں کے ساتھ حکم نماز کا عمر سات برس کے سکھلانے کا ہے اور دس برس کے بعد مارنے کا تو کیا روزہ کی نسبت بھی یہی حکم ہے۔  
(جواب) روزہ کی نسبت یہ حکم نہیں فقط۔

چاند کے معاملہ میں ایک شہر کی خبر سے دوسرے شہر پر کیا اثر پڑے گا

(سوال) خبر رویت الہلال رمضان اگر کہیں سے آوے مثلاً کلکتہ سے تو مطابق اس کے ایک روزہ کی قضاء لازم ہوگی یا نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ دور کی خبر کی سند نہیں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھو اور افطار کرو چاند دیکھ کر لہذا یہ قول صحیح ہے یا نہیں۔

(جواب) شہادۃ معتبرہ سے چاند ہونا انتیس شعبان کا ثابت ہے اگر روزہ نہ رکھا ہو تو ایک روزہ قضا کر لینا اس شخص کا یہ کہنا محض غلطی ہے وہ حدیث کا مطلب نہیں سمجھا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

چاند کی خبر کے لئے خط اور اعتبار

(سوال) اگر کہیں سے خبر تحقیق اس بات کی آوے کہ وہاں چاند اتنے اشخاص معتبر نے دیکھا اور شخص معین جس کو وہ اشخاص جانتے ہیں وہ ان کو ایک تحریر اپنی و نیز گواہی گواہان سے مزین کر کے بھیجے تو وہ تحریر قابل سماعت ہوگی یا نہیں اور جو تحریر اس طرح پر ہو تو قابل قبول ہے یا نہیں اور اگر تار کہیں سے آوے کہ چاند ہو گیا وہ معتبر ہے یا نہیں۔

(جواب) تحریر خط جو مثل دستور کے لکھا آیا از طرف فلاں بنام فلاں مثلاً اور مکتوب الیہ اس کو پہچانتا ہے اور اس کا ہی خط ہے تو اس کا لکھنا خبر رویت ہلال کے بارے میں معتبر ہوگا۔ اور اس پر عمل کرنا درست ہوگا۔ اور تار کی خبر بھی مثل تحریر کے ہے مگر وساطت کفار کی موجب عدم قبول

ہو جاتی ہے ورنہ تحریر خط اور خبر تار کا ایک حکم ہے۔ (۱) کذا یفہم من کتب الفقہ واللہ اعلم۔

ایک شہر میں چاند نظر آئے تو دوسرے شہر میں کیا کیا جائے

(سوال) اختلاف مطالع معتبر ہے یا نہیں اگر ایک بلدہ میں رویت ہلال ہو جاوے اور دوسرے میں اس کی خبر تحقیق طور پر بطریق موجب مثل تحریر خطوط معتبر اس درجہ کی کہ ظن حاصل ہو جاوے اور شبہ باقی نہ رہے قرآن سے صداقت ہو جاوے کیونکہ غلبۃ الظن حجة موجبة للعمل (۲) فقہا لکھتے ہیں یا خبر تار میں کہ جو ایسے ہی درجہ کی ہو اور خواہ رویت ہلال رمضان المبارک ہو یا شوال یا ذی الحجہ کی یاد دیگر کسی ماہ کی۔

(جواب) اختلاف مطالع صوم اور افطار میں تو ظاہر روایت میں معتبر نہیں مشرق کی رویت غرب والوں پر ثابت ہو جاوے گی اگر حجت شرعیہ سے ثابت ہوئے مگر قربانی اور صلوة عید ذی الحجہ اور حج میں معتبر ہوگا۔ (۳) کما حقیقہ فی رد المحتار فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

چاند کے دیکھنے میں اختلاف مطالع کا اثر کن مہینوں پر پڑے گا

(سوال) اختلاف مطالع رویت ہلال رمضان شریف یا شوال یا ذی الحجہ وغیرہ میں معتبر ہے یا نہیں اور تحریر خط یا تار معتبر کہ اپنے قرآن سے تصدیق ہو جاوے اور شبہ مطلق نہ رہے ایسے معاملہ میں معتبر ہے یا نہیں۔

(جواب) اختلاف مطالع صوم و افطار میں معتبر نہیں اور سوائے اس کے معتبر ہے یا ظاہر روایت ہے اور بعض علماء حنفیہ کے نزدیک صوم و افطار میں بھی معتبر ہے اور تار مثل خط کے ہے اگر تار خط میں ذرائع عدول ہوں گے تو اعتبار ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

اگر تیس دن گزرنے پر شوال کا چاند نہ نظر آئے

(سوال) اگر رویت ہلال رمضان المبارک بثبوت شہادت واحدہ ہوئی تو بعد گزرنے تیس دن کے رویت ہلال شوال بسبب غبار ابر نہ ہو تو افطار درست ہے یا نہیں اور در صورت عدم غبار و مطالع صاف کے کہ تیس دن پورے ہو چکے کہ کوئی مہینہ کتیس کا نہیں ہوتا اور شہادت بھی بطور موجب

(۱) کتب فقہ سے ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔

(۲) گمان کی زیادتی حجت سے جو عمل کو واجب کرنے والی ہے۔

(۳) جیسا کہ رد المحتار میں اس کی تحقیق کی ہے۔

شرعیہ ہو چکی تھی اور موافق امام محمد علیہ الرحمۃ بھی ہے تو اظہار درست ہو گا یا نہیں۔

(جواب) ایسی حالت میں بعد تیس کے غبار ابراگر ہو تو اظہار بافتاق درست ہے اور مطلع صاف اگر ہو تو شیخین رحمہما اللہ کے قول پر عمل کرے اگر کسی نے امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کیا تو وہ ملام نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی مذہب حنفیہ کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### تار پر چاند کی خبر کا حکم

(سوال) تار انگریزی خواہ تار باودنوں طرف مسلمان ہوں یا خط جو بذریعہ ڈاک انگریزی آیا ہو رویت ہلال رمضان یا عیدین میں معتبر ہوں گے یا نہیں اور اگر مفتی شہر یا قاضی شہر اپنے مہر و دستخط کر کے کسی آدمی مسلمان کی معرفت کسی دوسرے شہر یا جگہ خط لکھ کر بھیج دیں کہ یہاں رویت ہلال ہوئی ہے لوگوں نے چاند دیکھا ہے یا گواہی چاند دیکھنے والے کی مان لی گئی ہے تو ان کے خط کا اعتبار ہے یا نہیں یا خط پر اپنی مہر اور دوسرے لوگوں کی گواہی ثبت کرا کر آدمیوں مسلمانوں کے ہاتھوں بھیجے اور وہ گواہی اس خط کی دیں تب جائز ہے یا نہیں جب شہادت رویت ہلال خواہ بذریعہ شہادت یا خط کے شرعاً معتبر سمجھی جاوے اور ایسے وقت پر شہادت پہنچے کہ گنجائش اس وقت صلوٰۃ عید الفطر ادا کرنے کی نہیں ہے ایک شخص بعض اپنے ضعیف احتمال پر روزہ اظہار کرے تو شرعاً مرتکب کیسے گناہ کا ہوگا اگر شاہد رویت ہلال نمازی تو ہے مگر خلاف شریعت داڑھی رکھتا ہے سود خوار یا شرابی ہے۔ انی ہے وغیرہ ذلک تو اس کی گواہی شرعاً مانی جاوے گی یا نہیں۔

(جواب) خبر تار کی معتبر نہیں اولاً یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے تار دیا ہے آیا واقعی وہی شخص ہے یا اس کی طرف سے کسی نے فریب کیا ہے چنانچہ اکثر تار اسی طرح دیئے جاتے ہیں اگرچہ تحریر خط میں بھی یہ بات ہے مگر خط میں طرز تحریر سے اور قرآن مضامین سے کچھ پتہ لگ جاتا ہے تار میں کوئی پتہ اور قرینہ نہیں ہوتا مثلاً تار ایک شخص کے نام سے آیا اور وہ عادل بھی ہے تو معلوم نہیں ہے اگر اس نے ہی تار باو سے آن کر کہا ہے یا کسی سے کہلا بھیجا ہے اور وہ پیغام لانے والا عادل ہے یا فاسق ہے مطلب سمجھا ہے یا نہیں۔ ثانیاً باو تار دینے والا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ عادل ہے یا فاسق مثلاً تار دینے والا علیٰ ہذا القیاس معلوم نہیں کہ کیسا ہے۔ رابعاً اکثر تار لینے میں اشارات کی خطا ہو جاتی ہے مثلاً اکثر جملہ استہمامیہ کو جملہ خبریہ سمجھ جاتے ہیں وغیر ذلک خاصاً ترجمہ کرنے والا اس تار کا بیشتر خطا کرتا ہے۔ جب اس قدر اشتہاہ خبر تار میں موجود ہیں تو دیانات میں ایسی خبر کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے اگر یہ سب احتمالات مرتفع ہو جاویں تو خبر معتبر ہو جاوے گی اور یہ بظاہر محال۔

پس خبر تارکی تو لغو ہوئی اب رہا خط ڈاک کا سواں میں یہ شبہ کہ فقہاء لکھتے ہیں۔ الخط يشبه الخط. (۱) تو وہ بھی اعتبار کے قابل نہ ہو پس ایسا خط کہ جس پر اعتبار ہو وہ خط ہے کہ عادل لکھے اور اپنی رویت بیان کرے ساتھ دوسرے عادل کے دیکھنے کے اور اس عادل کو کہہ دیں گے کہ میں نے دیکھا یا عادلین کا اس شخص سے یہ بیان کرنا کہ ہم نے دیکھا اور کسی عادل کے ہاتھ وہ خط آوے اگرچہ امام صاحب رحمہ اللہ نے کتاب القاضی میں زیادہ تشدید فرمایا ہے مگر اتنا جو لکھا گیا یہ ادنیٰ درجہ ہے اور یہ وسعت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ثابت ہوتی ہے بدون اس کے تو خط بھی قابل اعتبار کے نہیں قاضی اور مفتی مسائل کا یہ لکھنا ہے کہ یہاں رویت ہلال ہوئی ہے۔ قابل اعتبار نہیں ہے اولاً فقہاء نے ایسی خبر کو قابل اعتبار نہیں سمجھا ہے ثانیاً اس زمانہ کے قاضی اور مفتی مشاہدہ سے معلوم ہیں کہ مسائل فقہ سے ایسے بے خبر ہیں کہ اگر ان کو عوام کہا جائے تو بجا ہے ہاں اگر وہ عادل ہوں اور یوں بیان کریں کہ ہم سے دیکھنے والوں نے فلاں فلاں عادلین نے بیان کیا ہے عادل بھی کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا اور بدست عادل اپنا خط روانہ کریں تو اس پر عمل کرنا درست ہے اگر موافق قاعدہ شریعہ کے ثبوت رویت ہلال کا ہو جاوے تو اگرچہ وقت عصر کے ہی خبر معلوم ہو تو افطار روزہ کا لازم ہے کہ عدم افطار میں محصیت ہے کہ شرعاً ثابت ہو چکا ہے کہ آج یوم فطر ہے۔ اب روزہ رکھنا یوم الفطر کا خود ممنوع ہے عدم افطار میں مرتکب اس محصیت کا ہوگا اور اگر موافق قاعدہ شرعہ کے ثبوت نہیں اور ایسی خبر سے معلوم ہوا ہے کہ جس کا غیر معتبر ہونا معلوم ہو چکا تو افطار ممنوع ہوگا۔ بلکہ روزہ کا اتمام چاہئے۔ افطار کرنے میں گنہگار ہوگا۔ کہ بدون حجت شرعی اس نے روزہ فاسد کیا فقط نماز پڑھنے سے عادل نہیں ہوتا۔ بلکہ عادل وہ ہے کہ سب کبار سے مجتنب ہو اور صفائز پر مصر نہ ہو یہاں تک کہ فقہاء لکھتے ہیں اگر کسی نے چاند دیکھا اور اس نے شہادت دینے میں تاخیر کی اور پھر بعد وقت کے وہ چاند دیکھنا بیان کرے تو اس کی گواہی معتبر نہ ہوگی کیونکہ اس پر فوراً خبر دینا واجب تھا یہ شخص ترک واجب کر کے فاسق بن گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ستائیسویں رجب کے روزہ کی فضیلت

(سوال) ۲۷ تاریخ صوم رجب کا ثبوت حدیث سے ہے یا نہیں اور فضائل اعمال میں تو حدیث ضعیف قابل عمل ہوتی ہے نہ کہ ثبوت اعمال میں لائق قبول ہو اگر ہو سکتی ہے تو اس کو تحریر فرمادیں۔

(۱) خط خط کے مشابہ ہوتا ہے۔

(جواب) فضیلت ستائیس صوم رجب کی کسی حدیث صحیح سے منقول نہیں رجب وغیر رجب برابر ہیں مگر بعض احادیث سے اشہر حرم کی کچھ فضیلت ثابت ہوتی ہے پس چاروں ماہ حرام برابر ہیں سوائے ایام معدودہ کے جن کی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ بعد اس کے اگر ضعیف روایت سے فضیلت صوم رجب کی ثابت ہو تو روزہ رکھنا جائز ہے کیونکہ صوم خود عبادت ہے مگر جب صوم رجب کو مثل واجب کے جانا جاوے تو اس وقت بدعت ہو جاوے گا پس ثبوت صوم کا تو مطلق فضیلت صوم نفل سے ثابت ہے اور پھر اشہر حرم کے صوم سے ثابت ہے اور فضل خاص اگر ضعیف روایت سے ہو تو اس پر عمل درست ہے جب تک موکدہ واجب نہ جانا جاوے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ہزاری روزہ کا مسئلہ

(سوال) ۲۷ رجب کو روزہ رکھنا کہ جس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں اور مشہور ہے کہ اس روزہ کا ثواب ہزار روزوں کا ہوتا ہے اور حضرت بڑے پیر صاحب بھی شاید اس کو ایسا ہی لکھتے ہیں آپ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں اور اگر کسی نے یہ روزہ دکھ لیا تو اس کو توڑ دینا چاہئے یا نہیں اور اگر کوئی شخص بدعت بنا کر اس روزہ کو توڑ وادے تو گنہگار ہوگا یا نہیں۔ اور ۲۷ رجب کو رسول اللہ ﷺ سے یا صحابہ عظام سے روزہ رکھنا ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب) ۲۷ رجب کا روزہ رکھنا جائز ہے کہ ہر روز روزہ نفل درست ہے۔ سوائے پانچ روز منیٰ کے فضیلت اس کی صحاح احادیث میں نہیں ہے۔ فقط

### رجب کے روزہ کا مسئلہ

(سوال) سفر سعادت میں درباب صوم رجب فرماتے ہیں در رجب (۱) روزہ داشتن نہی فرمودہ و ایضاً در باب صوم رجب و فضل آن چیزے ثابت نغذہ بلکہ کراہیت وارد شدہ عبارت مذکورہ سے مطلق رجب میں روزہ رکھنا منع و مکروہ معلوم ہوتا ہے صحیح ہے یا مراد اس سے کوئی خاص روزہ ہے جس کو ہزاری وغیرہ کہتے ہیں۔

(جواب) رجب کا روزہ رکھنا مباح و جائز ہے مگر خصوصیات کسی تاریخ کی کرنا اس کو مستنون اور

(۱) رجب میں روزہ رکھنے کو منع فرمایا و نیز رجب کے روزہ کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی بلکہ کراہیت رکھتی ہے۔

دیگر ایام سے افضل جاننا یا زیادہ موجب ثواب جاننا اس کو مکروہ و بدعت لکھتے ہیں ورنہ جیسا تمام سال ہے رجب بھی ایک ماہ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم اور ہزاری لکھتی کچھ نہیں اسی وجہ سے بدعت لکھا ہے۔ فقط۔

۲۷ رجب کے روزہ کو ہزاری روزہ سمجھنا

(سوال) ۲۷ رجب کے روزہ کو ہزاری روزہ سمجھنا کیسا ہے۔

(جواب) ۲۷ رجب کے روزہ کی فضیلت صحاح احادیث میں ثابت نہیں مگر غیبتہ میں سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے لکھا ہے اس کو محدثین ضعیف کہتے ہیں۔ حدیث ضعیف سے ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ نفس روزہ جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

شہادت معتبرہ سے اگر ثابت ہو جائے کہ جس دن روزہ رکھنا چاہئے تھا

نہیں رکھا گیا تو کیا کیا جائے

(سوال) یہاں پر پہلا روزہ رمضان شریف کا جمعرات کے روز ہوا رویت ہلال شوال کی جمعرات کی ہوئی اور عید بروز جمعہ ہوئی اور آتیس روزے ہوئے بعض مقامات شملہ و کوہ منصور و دہلی تال بھوپال میں سنا گیا کہ روزہ بدھ کا ہوا اور ان مقامات مذکورہ کے باشندگان کے پورے تیس روزے ہوئے زیادہ تر خارجاً یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت مولانا صاحب عم فیضہ نے بدھ کے روزہ کی بابت تحقیق فرمائی ہے اور آتیس روزہ رکھنے والوں کو ایک روزہ رکھنے کے واسطے حکم فرمایا ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ آیا ہم لوگوں کو جنہوں نے آتیس روزے رکھے ہیں ایک روزہ رکھنا چاہئے یا نہیں اور کوہ شملہ و منصور و دہلی تال جو بلندی پر آباد ہیں وہاں کی رویت ہلال ہمارے واسطے لازم ہے یا نہیں اور یہ بھی ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ہم نے جب یہ خبر سنی کہ پہلا روزہ بدھ کا ہوا ہے تو یہاں علی العموم منگل کے روز اپنی ۱۳ رمضان کو ان لوگوں کی ۱۴ رمضان کو چاند شام کے وقت اس نیت سے دیکھا کہ اگر چاند منگل کا ہوا ہے تو ضرور ہے کہ منگل کے روز ۱۳ تاریخ کو چاند بیٹھ جاوے گا اور دیر سے نکلے گا مگر چاند ۱۳ تاریخ کے ہی موافق نظر آیا اور دن سے موجود تھا۔ اگلے روز ہم نے اپنے حساب کے موافق ۱۴ تاریخ بروز بدھ کے چاند کو دیکھا تو فی الواقع بدھ ہی کے روزہ رمضان کی ۱۴ تاریخ تھی اور اس بدھ کے دن چاند بیٹھ گیا تھا یعنی دیر سے نکلا



صورت ہائے مفصلہ و معروفہ بالا میں ہر ایک بات پر خیال فرما کر جو حکم شرعی ہو فوراً آگاہی بخشنے چاند کے بیٹھنے کی طرف ضرور خیال فرمایا جاوے ہمیشہ چاند ۱۴ تاریخ کو بیٹھتا ہے اور ۱۴ تاریخ بدھ کو ہوئی اور شملہ و منصوری وغیرہ مقامات کی رویت ہمارے واسطے قابل تسلیم ہے یا نہیں۔

(جواب) شہادت معتبرہ سے یہ امر پورے طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ پہلا روزہ چہار شنبہ کا ہوا یہاں بھی اس روزہ کی قضا کی گئی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے چہار شنبہ کو روزہ نہیں رکھا وہ لوگ ایک روزہ بہ نیت قضاے رمضان رکھ لیوں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ملفوظات

### چاند کی خبر خط کے ذریعہ

۱۔ چاند کی خبر تحریر خط سے دریافت ہو سکتی ہے مکتوب الیہ کو غالب گمان یہ ہے کہ فلان کاتب عدل کا خط ہے اس میں کوئی انحراف نہیں ہوا۔ تو اس پر عمل درست ہے کتاب القاضی جیسی تو کید و توثیق ضروری نہیں۔ اور امام ابو یوسف نے خود وہ قیود کتاب القاضی میں بھی کم کر دی تھیں۔ بعد تحریر کے فقط دلیل اعتبار خط کی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ وحیہ کلیٰ کے ہاتھ اپنا نامہ ہرقل کو بھیجا۔ تو ہرقل نے یہ نہ کہا کہ ایک آدمی کا اعتبار نہیں ہے اور نہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ قاصد کا کیا اعتبار ہوگا۔ علیٰ ہذا ارسال نامجات پر آپ کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں دو دو گواہ کہیں نہیں گئے۔ فقط والسلام۔

(۲) ہزاری روضہ جو رجب کا مشہور ہے اس کی اصل احادیث سے کچھ نہیں نکلتی مگر شیخ عبدالقادر قدس سرہ کی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے وہ احادیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اگر ضعیف پر عمل کر لیوے فضائل میں درست کہتے ہیں۔ فقط والسلام۔

## باب: روزہ کی قضا اور کفارہ کا بیان

### کفاروں کی ادائیگی میں دیر کرنا

(سوال) جس کے ذمہ روزہ کفارہ کے ہوں طلب علم میں ہو یا حفظ کلام اللہ میں اگر روزہ رکھتا ہے تو طلب علم میں نقصان ہوتا ہے اور اگر نہیں رکھتا ہے تو اس کا مواخذہ سخت ہوتا ہے کہ کفارہ کے روزے اس کے ذمہ ہیں اگر بعد طالب علم کے رکھ لے تو درست ہے یا نہیں۔

(جواب) کفارہ کے روزوں میں دیر نہ چاہئے اگرچہ حفظ قرآن و تحصیل علم میں حرج لازم آوے۔

### کئی رمضان کے کئی روزوں کا کفارہ

(سوال) اگر قضاء چند صوم رمضان کے سبب کفارات ہوں خواہ دو رمضان کے جمع ہوں تو کفارہ ایک ہی کافی ہوگا یا ہر ایک صوم کا علیحدہ اور اگر طالب علمی میں کفارہ ادا نہ کر سکے تو بعد فراغ علم درست ہے یا نہیں۔

(جواب) کفارات میں تداعیل ہو جاتا ہے۔ اگر دس روزہ رمضان کے خواہ ایک ماہ خواہ چند سال کے جمع ہوں تو ایک کفارہ کافی ہے اور اگر بعد فراغ طالب علمی کے کفارہ دیوے تو بھی درست ہے مگر جب تک طاقت صوم کی ہے۔ اطعام جائز نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کئی روزے توڑنے کے کفارے کتنے ہوں گے

(سوال) جس شخص نے چند روزہ رمضان بعد بلوغ کے توڑے ہوں اور یاد نہ ہوں کہ کتنے روزوں کا کفارہ دینا ہوگا تو کیا ایک کفارہ سب کے لئے کافی ہے۔

(جواب) کئی روزہ توڑنے کا کفارہ ایک ہی ہے خواہ رمضان ایک ہی کے روزے توڑے ہوں یا کئی رمضان کے توڑے ہوں فقط۔

### عید کی خبر دوسری جگہ سے آنے پر روزہ رکھنے والے کیا کریں

(سوال) جوانب و اطراف سے خبریں عید ہونے کی بروز پیر کے معتبر و یقینی سن کر چند آدمیوں نے روزہ ظہر کے وقت توڑ دیا یا زیادہ ہوتا ہے کہ ان آدمیوں کے ذمہ کفارہ روزہ کا لازم ہو گیا بکر کہتا ہے کہ

کفارہ لازم نہیں ہوا قضا واجب ہوگئی کہ جن آدمیوں نے روزہ توڑا اس نیت سے توڑا کہ عید کے دن روزہ منع ہے کچھ خواہش نفس سے نہیں توڑا جن شخصوں نے روزہ توڑا شریعت کا کیا حکم ہے آیا کفارہ لازم ہو گیا یا قضا کا روزہ رکھے یا نہ رکھے۔

(جواب) جب دلیل شرعی سے ثابت ہو گیا کہ اتوار کے دن چاند ہو گیا تو پیر کے دن افطار واجب ہو گیا افطار کرنے والوں پر نہ قضا ہے نہ کفارہ فقط واللہ تعالیٰ۔

## ملفوظات

### غیر رمضان کا روزہ توڑنا

۱۔ کسی شخص نے رمضان شریف کا مٹی سے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہ آوے گا اور اگر غیر رمضان میں توڑا ہے تو کفارہ نہیں آتا خواہ مٹی سے توڑے یا کسی اور شے سے توڑے البتہ رمضان میں کسی غذا دو اسے رمضان کا روزہ توڑے تو اس سے کفارہ آتا ہے۔ فقط

۲۔ اگر کسی پر دس بیس روزے رمضان کے عمدہ توڑنے کے سبب کفارات ہوں اگرچہ چند رمضان کے ہوں تو سب کا ایک کفارہ آتا ہے۔ ہر ایک روزہ کا جدا نہیں ہوتا بعد ختم قرآن کے دعا مانگنا مستحب ہے۔ خواہ تراویح میں ختم ہو خواہ نوافل میں خواہ خارج نماز پڑھا ہو یا کہ بعد عبادت کے نماز ہو یا ذکر ہو اجابت کی توقع ہے اور جو کچھ کنز العباد وغیرہ میں لکھا ہے وہ قابل اعتبار نہیں حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعد تلاوت قرآن کے اور بعد ختم قرآن کے وقت اجابت کا ہے۔ لہذا ختم بعد تراویح بھی اس میں داخل ہے اگر اس وقت کی دعا کو واجب اور ضروری جانے تو بدعت ہے اس کو یہی شاید کنز العباد وغیرہ میں بدعت کہا ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور ایک دفعہ بسم اللہ کا پکار کر پڑھنا ختم میں چاہئے۔ حنفیہ کے نزدیک خواہ فاتحہ کی ساتھ پڑھ لیوے خواہ کسی اور سورۃ کے ساتھ۔

## باب: روزہ کس بات سے فاسد ہوتا ہے اور کن باتوں سے نہیں

بواسیر کے مسوں کو دبانے کا روزہ پر اثر

(سوال) ایک شخص کو تعرض بواسیر ہے وقت اجابت مہائے بواسیر اس کے جو کثیر الحجم ہیں باہر آتے ہیں اور بعد کرنے استنجاء کے ڈھیلوں سے اور کرنے طہارت کے پانی سے مہائے مذکور دبانے سے اندر ہو جاتے ہیں اور بغیر اس کے طہارت مسوں کی پانی سے کی جاوے یا ہاتھ کو خواہ مسوں کو پانی سے تر کر کے مسوں کو دبایا جائے مسوں کا اندر جانا کسی وقت غیر ممکن اور کسی وقت سخت دشوار اور باعث نہایت تکلیف کا ہوتا ہے اور اس طرح کے دبانے سے کبھی کبھی خون بواسیر بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شخص مذکور بحالت صوم جب مسوں کو یا ہاتھ کو پانی میں تر کر کے یا طہارت مسوں کی پانی سے کر کے مسوں کو دباوے تو روزہ اس کا رہے گا یا نہیں اگر نہیں رہے گا تو اس کو واسطے قائم رکھنے روزہ کے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

(جواب) ایسی حالت میں روزہ اس کا قائم رہے گا روزہ میں کسی طرح کا نقصان نہ آوے گا اس واسطے کہ محل مسوں کا جو کنارہ دبر ہے اس جگہ پر پانی پینچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہ معذور کا نہ غیر معذور کا واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ رشید احمد ۱۳۰۱ھ۔

الجواب واللہ سبحانہ الموافق للمصواب بحال صوم میں ہاتھ کو پانی سے تر کر کے مسوں کو دبانایا طہارت کی پانی سے کر کے مسوں کو دبانایا مفسد صوم نہیں ہے اس واسطے جو کہ رطوبت پانی کی مسوں پر رہ جائے گی اور وہ مسوں کے ساتھ جوف میں داخل ہوگی اس سے احتراز ممکن نہیں خصوصاً مریض بواسیر شدید کو اور جو اس قسم کی چیز جوف میں داخل ہو جس سے احتراز ممکن نہ ہو وہ ناقص صوم نہیں ہوتی جیسے رطوبت پانی کی جو منہ میں بعد کلی کے رہ جاتی ہے۔ باوجودیکہ وہ نسبت رطوبت مسوں کے کثیر ہوتی ہے۔

قال فی الدر المختار اذا اکل الصائم او شرب او جامع ناسیا او دخل

حلقه غبار او ذباب او دخان ولو ذاکرا استحسانا لعدم امکان التحرز او

بقی بلل فیہ بعد المضمحة وابتلہ مع الریق انتھی مختصر فقط. (۱)

(۱) در مختار میں کہا ہے کہ اگر روزہ دار نے کھانا یا جماع کیا بھول کر یا اس کے طلق میں غبار یا کبھی یا ہواں چلا گیا اگر چہ اس میں بھول نہ ہو اس لئے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں یا گل کے بعد اس کے منہ میں تری رہے گی اور اس نے اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا۔

واللہ سبحانہ اعلم وعلمہ اتم العبدراپوری۔ محمد ارشاد حسین احمدی۔ شبہ مولوی محمد حسن صاحب سلمہ مراد آبادی مغلوپوری نے مولانا گنگوہی کی خدمت میں لکھا تھا کہ مظاہر (۱) حق میں لکھا ہے کہ اس صورت میں صوم میں فساد آئے گا فقط حیفظ اللہ بیک عفی عنہ۔ اس پر مولانا نے بجواب خط مولوی احمد شاہ صاحب حسن پوری بنام محمد حسن صاحب لکھا از احمد شاہ عفی عنہ مسئلہ وہی ہے جو حضرت اقدس مدظلہم نے سابق از نام فرمایا ہے اور بے شک نواب قطب الدین خاں مرحوم کو مظاہر حق میں غلطی ہوئی سرخ کے ترہونے اور اندر جانے سے بھی روزہ جائے گا۔ اس لئے کہ یہ بھی موضع حقنہ سے درے ہے یعنی کالج۔

(سوال) منجن جس میں نمک پڑا ہوا ہو روزہ میں ملنا جائز ہے یا مکروہ اور روزہ میں نقصان ہوتا ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر منجن کا اثر حلق تک نہ جاوے تو منجن ملنا درست ہے فقط۔

### ملفوظ

جس شخص نے اس قدر کھانا کھایا کہ بعد طلوع آفتاب کے ڈکاریں آتی ہیں اور ان کے ساتھ پانی آتا ہے اس سے روزہ میں حرن نہیں آتا واللہ اعلم۔ ۱۲۔ رمضان یک شنبہ ۱۷ شنبہ کو یہاں بوجہ ابر کے چاند نظر نہیں آیا مگر اور مقامات سے مستند خبریں آئی ہیں کہ چہار شنبہ کی پہلی ہوئی۔

(۱) وہ عبارت یہ ہے کہ مظاہر حق فصل مفسدات صوم جلد اول ص ۱۵۹ اور اگر نکل آویں سے بوا سیر والے کے اور دھودے ان کو اگر خشک گوشت کر لیوے ان کو پہلے اٹھنے کے اور سے پھر اوپر چڑھ گئے نہیں ٹوٹے گا روزہ اس لئے کہ پانی پہنچا تھا ظاہر بدن پر پھر زائل ہو گیا پہلے پہنچنے کے طرف باطن کی بسبب گود کرنے مقصد کے اور اگر خشک نہ ہوں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی ۱۲۔

## باب: اعتکاف کا بیان

### اعتکاف مسنون کی مدت

(سوال) اعتکاف مسنون کے روز کا ہے اور کب سے ہے۔  
 (جواب) اعتکاف مسنون اکیسویں سے آخر رمضان تک ہے نفل اعتکاف تین روز کا بھی درست ہے۔

### معتکف کا علاج کرنا

(سوال) معتکف کو مسجد میں علاج مریضوں کا اللہ واسطے درست ہے یا نہیں۔  
 (جواب) معتکف کو مریضوں کو دوا بتلادینا درست ہے۔ فقط

### معتکف حقہ کہاں پئے

(سوال) خاکسار نے اپنے ایک بھائی کو اپنے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دی ہے لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ حقہ پینے کی عادت ہے اور حقہ مسجد میں پینا چاہئے یا نہیں۔  
 (جواب) معتکف کو جائز ہے کہ بعد نماز مغرب مسجد سے باہر جا کر حقہ پی کر کھلی کر کے بوزائل کر کے مسجد میں چلا آوے۔

### معتکف کن وجوہ کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے

(سوال) معتکف کو شرکت جنازہ و عیادت مریض اگر ضرورت ہو تو جائز ہے یا نہیں اگر آتشزدگی ہو تو اس کو بچھانا جب کہ اپنے گھر کے جلنے کا بھی خوف ہو تو جائز ہے یا نہیں۔  
 (جواب) معتکف کو عیادت اور شرکت نماز جنازہ وغیرہ ضروریات درست ہیں ایسے ہی اگر آگ لگ جائے تو اس کو بچھانے جانا درست ہے۔ فقط

### اعتکاف فاسد ہو جائے تو کیا کرے

(سوال) اگر اکیسویں روز اعتکاف کیا بعدہ کسی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو گیا تو روز دوم یا سوم پھر کرنے سے اعتکاف رمضان میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں۔

(جواب) اعکاف مسنون وہ روزہ تو اس سے فوت ہو گیا باقی جتنے روز کا اعکاف کرے گا اس کا ثواب ملے گا۔ فقط

### ملفوظ

اعکاف مسنون اگر فاسد ہو جائے

اعکاف مسنون میں اگر فساد ہو جائے تو اس کی قضا نہیں آتی سحری کھانے کے اندر تاخیر مستحب ہے اور ایسی تاخیر کہ جس سے شک میں واقع ہو جاوے اس سے بچنا واجب ہے۔

## کتاب حج کا بیان

### رشوت کے روپیہ سے حج

(سوال) رشوت یا سود یا زنا وغیرہ سے اگر روپیہ جمع کیا حج زکوٰۃ وغیرہ فرض ہوتا ہے یا نہیں۔  
(جواب) اس کا سارے کا نکالنا فرض ہے اہل حقوق کو واپس کر دے جو نہ معلوم ہوں تو صدقہ محتاجوں پر کر دے حج وغیرہ اس سے ادا نہیں ہوتا فقط۔

### حج بدل کا مسئلہ

(سوال) ایک شخص پر حج فرض ہو اور دوسرا اس کو اپنے نفقہ سے حج کر دے تو اول کا فرض اتر یا باقی رہا۔

(جواب) اگر نفقہ دینے والے نے کسی اور کی طرف سے حج کرایا تو کرنے والے کا فرض ساقط نہیں ہوا اور اگر خود کرنے والے ہی کو اپنے حج کے واسطے روپیہ دیا ہے تو فرض ساقط ہو گیا۔ فقط

### عالم کا ہجرت کرنا

(سوال) ایک شخص ایسا ہے کہ اس سے دین کے بہت فائدے ہیں مثلاً کلام اللہ وحدیث و تفسیر وغیرہ پڑھاتا ہے جس میں رہتا ہے وہ مسجد اس سے آباد ہے آیا اس شخص کو ہجرت کرنا حرامین شریفین کی اولیٰ ہے یا یہ شغل اولیٰ ہے۔

(جواب) اگر یہاں رہنے سے اس عالم کے دین میں کوئی نقصان نہیں اور خلق کو اس سے نفع دین کا ہے تو اس کا یہاں رہنا ہجرت عرب کرنے سے بہتر ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مدینہ منورہ کی زیارت حکم

(سوال) جو شخص حج کو مکہ شریف جاوے اور مدینہ منورہ نہ جاوے اس خیال سے کہ مدینہ شریف جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ ایک کار خیر ہے۔ ناحق میں ایسے راستہ خوفناک میں جاؤں کہ جا بجا راستہ میں قافلے لٹ رہے ہیں اور خوف جان و مال کا ہے۔ اور اس قدر روپیہ صرف ہوگا۔ اس سے کیا فائدہ تو یہ کچھ گنہگار ہو گا یا نہیں۔

(جواب) مدینہ نہ جانا اس وہم سے کمی محبت فخر عالم علیہ السلام کا نشان ہے۔ ایسے وہم سے کوئی



دنیا کا کام نہیں ترک ہوتا۔ زیارت ترک کرنا کیوں ہو اور راہ ہر روز نہیں لٹتی اتفاقی بات ہے یہ کوئی حجت نہیں۔ مگر ہاں واجب بھی نہیں۔ بعض کے نزدیک بہر حال رفع یدین آئین بالجہ سے زیادہ موجب ثواب و برکت کا ہے اور اس کو توبا و جوہ فساد اور خوف آبرو کے بھی ترک نہ کریں اور زیارت کا احتمال وہم سے بھی ترک کر دیں اور اس کو بھی تامل کر کے دیکھ لیں کہ کون سا حصہ کمال ایمان کا ہے اور روپیہ خیرات میں صرف ہونا سعادت ہے مکہ سے مدینہ تک پچاس روپیہ اعلیٰ درجہ کا صرف ہے جس نے پچاس روپیہ کا خیال کیا اور حضور ﷺ کے مرقد مبارک کا خیال نہ کیا اس کا ایمان و محبت لاریب ناٹھس ہے گو گنہگار نہ ہو مگر اصلی جبلت میں ہی کمی ایمان کی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## کتاب نکاح کے مسائل

بذریعہ خط ڈاک نکاح کا مسئلہ

(سوال) بذریعہ تحریر ڈاک نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔

(جواب) نکاح بذریعہ تحریر بھی ہو سکتا ہے جب کہ اس تحریر پر اعتماد ہو اور مکتوب الیہ مجلس شہود میں قبول کرے اور مضمون تحریر بھی ان کو سنادے فقط۔

نامرد سے نکاح

(سوال) ایک شخص نے اپنی لڑکی کا نکاح ایک مرد سے کر لیا اس کی عمر بیس یا بیس برس کی تھی کر دیا بعد کو معلوم ہوا کہ وہ مرد محض نامرد ہے اس شخص کے واسطے شریعت میں کیا حکم ہے یعنی اپنی لڑکی کا نکاح اور جگہ کرے یا نہ کرے اور نامرد مطلق بھی نہیں دیتا ہے وہ لڑکی کیا کرے۔ فقط

(جواب) جب نکاح ہو گیا تو اب بدون طلاق دینے خاوند کے دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا فقط۔

نکاح کا صحیح طریقہ

(سوال) ایک مرد نے ایک عورت سے کہا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا لوگ میری اور تمہاری نسبت کہتے ہیں کہ ان کا پوشیدہ باہم نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تم کیوں گھبراتے ہو اگر کوئی نکاح کو پھر کہے تم کہہ دینا کہ جب نکاح نہ ہوا تھا اب ہو گیا یہ سن کر اس مرد نے دو آدمی یعنی دو گواہ کے سامنے کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے فلاں عورت سے بعوض اس قدر مہر کے اپنا نکاح پڑھ لیا اس کے بعد اس عورت سے آکر کہا کہ میں نے دو گواہ کے سامنے تم سے اپنا نکاح پڑھ لیا بایں وجہ کہ تم نے کہا تھا کہ تم لوگوں سے کہہ دیا کرو کہ جب نکاح نہ ہوا تھا اب ہو گیا اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے غصہ میں یہ بات کہی تھی اس مرد نے کہا کہ نکاح ہر طرح ہو جاتا ہے ہنسی اور غصہ برابر ہے اس کے جواب میں عورت نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں تم سے راضی ہوں مگر صحبت نہیں کروں گی باقی سب طرح تم کو اختیار ہے اس بات کو سن کر اس مرد نے جواب دیا بہت اچھا تم سے صحبت نہیں کروں گا لیکن مجھ کو بوس و کنار سے چارہ نہیں پھر چند روز

کے بعد اس نے اس عورت سے صحبت کی اب وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ کو تردد ہے کہ میں تم سے نکاح سے اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ مجھ سے صحبت نہ کرنا اب تم نے صحبت کیوں کی شاید نکاح جائز نہ ہونظر براں التماس ہے کہ یہ نکاح جائز ہو یا نہیں جواب سے بہت جلد معزز فرمانا چاہئے زیادہ حدادب فقط۔

(جواب) یہ نکاح صحیح نہیں ہوا کیونکہ عورت کا یہ کہنا کہ جب نکاح نہیں ہوا اب ہو گیا تو کیل نکاح کی نہیں ہے پس وہ شخص وکیل تو نہ ہوا اور اس کا نکاح کرنا فضول نکاح ہوا اور اصل اور فضولی ایک شخص نہیں ہو سکتا پس اگرچہ عورت نے اجازت اس نکاح کی دی مگر نکاح درست ہی نہیں ہوا تھا سو صحبت بھی شبہ ہوئی اور بیجا ہوئی اب مکرر نکاح کر لیں ورنہ وہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### نکاح کا غلط طریقہ

(سوال) ایک شخص ایک عورت کو فروخت کرنے کے لئے لایا خریدنے والے نے دریافت کیا کہ عورت بیوہ ہے یا منکوحہ تو فروخت کنندہ نے بھی اور عورت نے بھی کہا کہ بیوہ ہوں بعدہ ایک مسلمان نے اس کی قیمت اسی ۸۰ روپے دے کر خرید اور مبلغ بارہ روپیہ مہر مقرر کر کے نکاح کر لیا اب بعد چند روز کے اسی عورت فروخت شدہ کی زبانی معلوم ہوا کہ خاوند اس کا حالت چوری میں گرفتار ہوا اور دس برس کی قید ہو گئی بعد قید ہونے کے عورت ملنے کے لئے گئی اس قیدی نے اپنے وارثوں سے کہا کہ میری عورت کو اچھی طرح رکھنا نان و نفقہ میں کمی نہ کرنا اور عورت سے کہا کہ اگر میرے وارث تجھ کو تکلیف دیں اور تو دس برس گزار نہ کر سکے تو تجھ کو اختیار ہے جہاں چاہے اپنا نکاح کر لے بیوہ مفتی صاحب کو واضح ہو کہ یہ تقریر عورت کی زبانی ہے اب نکاح پوچھتا ہے کہ میرا نکاح اس عورت سے ہو یا نہیں اور اگر نہیں ہوا تو وطی جو میں نے کی اس کا جرم میرے ذمہ کیا ہے اور مہر اس کا میرے ذمہ ہے یا نہیں اور فروخت کنندہ اس کے خاوند کے وارث تھے۔

(جواب) یہ جو بیچ اس عورت کی کی گئی یہ معاملہ باطل اور حرام ہوا اور اسی ۸۰ روپیہ جو شخص لے گیا ہے اس کا رد کرنا واجب ہے اور نکاح جو لاعلمی میں ہو گیا اس وجہ سے نکاح پر کوئی گناہ نہیں مگر اب جو اس کو اطلاع ہوئی تو وہ اپنی زوجہ سے جدا ہے اس کی تحقیق کرے اگر واقع میں اس کا زوج قید خانہ میں ہے وہ اس کو طلاق دلا کر بعد عدت کی دوبارہ نکاح کر لے اور اگر نہیں تو نکاح درست ہو گیا اور عورت کے قول کا اعتبار نہیں ہے کہ اس کا کذب و فریب خود ظاہر ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## زوجہ کی بھانجی سے نکاح کا مسئلہ

(سوال) سالی یعنی خسر پورہ کی لڑکی سے نکاح کرنا کیسا ہے۔

(جواب) اگر زوجہ مرگئی تو زوجہ کی بھانجی سے نکاح درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## نکاح کے وقت کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کرنے کی شرط

(سوال) بعض اہل سنت حنفی مذہب عقد نکاح میں ناکح سے یہ شرط کرتے ہیں کہ اگر اس منکوحہ کے سوا دوسری عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق اور مضمون کی ایک دستاویز بھی شوہر سے لکھوا لیتے ہیں اس صورت میں نکاح مذکور صحیح ہے یا فاسد اور ایسی شرط کرنا اور دستاویز لکھا لینا درست ہے یا نہیں در صورت عدم جواز حاکم مسلم کی ممانعت اس امر خلاف شرع سے پہنچتی ہے یا نہیں جو کچھ حق صریح اس بات میں ہو با شہادت اولہ عقلیہ و نقلیہ زیب قلم فرمادیں۔

(جواب) یہ نکاح شرعاً صحیح و معتبر ہے اور اس تعلق سے نکاح میں فساد نہیں آتا اور یہ تعلق بھی شرعاً معتبر اگر اس شرط پر نکاح کیا گیا ہے تو خاوند کے دوسرے نکاح کرنے سے اس پر طلاق پڑ جائے گی فی الدر المختار فی بیان التعلیق ہو ربط حصول مضمون جملة محصول مضمون جملة اخروی بشرط الملك كقولہ لمنكوحه ان ذہبت فانك طالق او

الاضافة اليه كان نکحت امرأة وان نکحک فانك طالق و کذا کل امرأة انتھی۔ (۱)

مگر چونکہ اصل مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ مرد کو بشرط اقامت عدل بین الازواج و تحمل نان نفقہ چار تک زوجات درست ہیں اس لئے ایسی شرط رائج کرنا ہرگز اصول شریعت کے سزاوار و مطابق نہیں قال اللہ تعالیٰ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم وقال عز اسمہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلث وربع اقل (۲) درجات امراباحت یہ ہے پس اس میں اشراط مذکور رواج و شائع کرنا

(۱) جیسا کہ در مختار میں تعلق کے بیان میں ہے کہ تعلق سے مراد مرد کو طلاق کرنا ہے کسی جملہ کے مضمون کے حصول کو دوسرے جملہ کے مضمون کے حصول سے بشرط ملک جیسے کہ مرد اپنی منکوحہ سے کہے کہ اگر جائے تو تجھے طلاق ہے یا اس کی طرف اضافت کرنا جیسے یہ کہے کہ اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں یا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے اسی طرح ہر عورت۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس بناء پر کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لئے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تم کو پسند آئیں دو دو تین تین چار چار۔

بیشک اس اباحت کی مخالفت اور حکمت شرعیہ تعدد ازواج کو روکتا ہے بلکہ بعض اوقات بسبب بعض ضرورت کے نکاح ثانی کی سخت احتیاج ہو جاتی ہے حالانکہ نکاح ثانی سنت ہے اور بشرط عدم حیثیت میل و اقامت عدل و امن از جور موجب نفع ہے اور نیز مقتضائے شریعت تزوج اولود ولد و دفانی مکاتر بکم الامم (۱) پر عمل ان وجوہ سے بوجہ ان اشراط کے موقوف کرتے ہیں سعی مناسب ہے اور جس مسلمان حاکم کی ریاست میں اس کا شیوع ہو اس کو چاہئے کہ اس کے رفع میں کوشش کرے اور بجز ان لوگوں سے ترک کرادے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ایک ماہ بعد طلاق دینے کی نیت سے نکاح

(سوال) ایک شخص نے بروقت نکاح ہونے کے یہ نیت کی کہ ایک ماہ بعد طلاق دے دوں گا اور بعد کو طلاق نہ دی نکاح اس کا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جس شخص نے نکاح کے وقت یہ نیت کی اس کے نکاح میں کچھ خرابی نہیں نکاح ہو گیا بعد ایک ماہ کے چاہے طلاق دے یا نہ دے نکاح قائم ہے فقط۔

### ایک ماہ بعد طلاق کی شرط سے نکاح کرنا

(سوال) نکاح بایں شرط کہ بعد ایک ماہ کے طلاق دے دوں گا خواہ اس لفظ کو عقد میں لایا ہو یا دل میں رکھا ہو یا منکوحہ یا کسی اور سے کہا ہونا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) نکاح بشرط طلاق بعد ایک ماہ تو بحکم متعہ کے حرام ہے اگر زبان سے یہ شرط کی جاوے اور جو دل میں ارادہ ہے عقد میں ذکر نہیں ہوا تو نکاح صحیح ہے کہ عقود میں اعتبار الفاظ کا ہوتا ہے فقط واللہ تعالیٰ۔

### مرد کو چار نکاح کی اجازت کی وجہ

(سوال) عورتوں کی نسبت مردوں کی دس ۱۰ حصہ خواہش زیادہ ہے یا نہیں زید کہتا ہے کہ اگر عورتوں کو خواہش زیادہ ہے تو ایک مرد کے واسطے ایک وقت چار عورتیں کیوں مقرر ہوئیں بلکہ نو ۹ مردوں کو ایک عورت ہونی چاہئے اصل کس طرح پر ہے آیا مردوں کو خواہش زیادہ ہے یا عورتوں کو۔

(۱) تم زیادہ بچے جننے والی اور محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ میں تمہارے ذریعہ امتوں پر زیادتی کرنے والا ہوں۔

(جواب) خدا تعالیٰ کا یوں ہی حکم ہے کہ چار نکاح ایک مرد کو جائز ہیں ہماری تمہاری عقل پر موقوف نہیں۔

### سنی عورت کا رافضی سے نکاح کرنے کا مسئلہ

(سوال) جو عورت سنیہ رافضی کے تحت میں بعد ظہور رض کے بخوشی خاطر رہ چکی ہو پھر رض یا دوسری شے کو حیلہ قرار دے کر بلا طلاق علیحدہ ہو جائے اور سنی سے نکاح کر لیوے تو یہ نکاح بلا طلاق شیعہ کے کیا حکم رکھتا ہے اور اولاد سنی کی اگر رافضی ہو جاوے تو پھر سنی کے ترکہ سے محروم الارث ہوگی یا نہیں۔

(جواب) جس کے نزدیک رافضی کافر ہے وہ فتویٰ اول سے ہی بطلان نکاح کا دیتا ہے اس میں اختیار زوجہ کا کیا اعتبار ہے پس جب چاہے علیحدہ ہو کر عدت کر کے نکاح دوسرے سے کر سکتی ہے اور جو فاسق کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ امر ہرگز درست نہیں کہ نکاح اول صحیح ہو چکا ہے۔ اور بندہ اول مذہب رکھتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم علی ہذا رافضی اولاد سنی کو ترکہ سنی سے نہ ملے گا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### فاسق سے نکاح کرنا

(سوال) اگر کوئی شخص معتقد تیزیوں کا ہو کہ ان سے مرادیں مانگے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہو کہ اس میں امام حسین علیہ السلام موجود ہوتے ہیں یا قبروں پر چادریں چڑھاتا ہو اور مدد بزرگوں سے مانگتا ہو یا بدعتی مثل جواز عرس و سویم وغیرہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ یہ افعال اچھے ہیں تو ایسے شخص سے عقد نکاح جائز ہے یا نہیں کیونکہ نصاریٰ اور یہود سے تو جائز ہے تو ان سے کیوں نہ جائز ہو یہ بھی تو بہت سی رسمیں شرک و کفر کی ترک کرتے ہیں یا جس مرد و عورت نے سابق میں مراسم شرک و کفر معتقد یا غیر معتقد ہو کر کئے ہوں اور اب تائب ہو گئے ہوں تو ان کو تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں اور ان دونوں قسموں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں اور اگر مکروہ ہے تو تنزیہی یا تحریمی بشرط مکروہ تنزیہی یا تحریمی اگر کوئی شخص اعادہ نماز کرے تو اس نے اچھا کیا یا برا کیا اور نماز فجر و عصر کا بھی اعادہ کرے یا نہیں اور ابتدائے سلام کرے یا نہیں اور رسم ہدیہ باہمی جاری رکھے یا نہیں عیادت مریض و شرکت جنازہ کرے یا نہیں مولانا مرحوم تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ جو شخص

ستاروں (۱) وغیرہ کی نحوست و سعادت کا قائل ہو تو اس کی شرکت جنازہ و عیادت نہ کرے اور جو شخص (۲) بدعتی سے دل ملائے اس کا ایمان نہیں ہے لہذا عرض ہے کہ اگر ظاہر ان سے ملتا رہے اور اخلاق نہ رکھے اور دل سے برانہ جانے تو یہ جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جو شخص ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاسق ہے اور احتمال کفر کا ہے ایسے سے نکاح کرنا دختر مسلمہ کا اس واسطے ناجائز ہے کہ فساق سے ربط ضبط کرنا حرام ہے اگرچہ نکاح اس سے درست ہو جاوے اور دختر مسلمہ کا نکاح نصرانی سے ہرگز درست نہیں اور جس عورت مسلمہ کا اگر فاسق فاجر سے نکاح ہو گیا تھا اگر وہ تائب ہو گیا تو کوئی ضرورت تجدید نکاح کی نہیں البتہ اگر اس کا کفر ثابت ہو جاوے تو تجدید واجب ہوگی اور جو ایسے شخص ہیں ان کا جب تک کفر ثابت نہ ہو فاسق کہلاتے ہیں اور فاسق کا امام بنانا حرام ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو بکراہت تحریم ادا ہو جاتی ہے اور اگر اس کا ثبوت کفر ہو جاوے تو ہرگز نماز نہیں ہوتی اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر پڑھے ہی لے تو اعادہ کر لینا اچھا ہے بعض فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر اور فجر کے بعد جائز ہے اور ایسے شخصوں سے ابتدائے سلام درست نہیں اور اگر فساد کا اندیشہ ہو تو کر لے اور عیادت و جنازہ کے لئے بھی وہی حال ہے اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو کرے ورنہ نہیں تقویۃ الایمان کا کلام صحیح فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## غیر کی بیوی سے نکاح کر لینا

(سوال) زید اپنی ہندہ بیوی کو نان نفقہ کے واسطے دوسرے شہر سے روپیہ بھیجتا رہا مگر درمیانی اشخاص کی چالاکی سے روپیہ ہندہ کو نہیں ملا کئی سال کے بعد ہندہ نے عمرو سے نکاح کر لیا جب زید آیا تو بذریعہ پولیس ہندہ کو ملنا چاہا اور نا کامیاب ہو کر چپ ہو رہا زید کی اس کاروائی کا ہندہ کو علم تھا چند سال بعد ہندہ موقع پا کر عمرو کے گھر سے نکل آئی صورت مذکور بالا میں ہندہ زید کی بیوی ہے یا نہیں اور پہلے نکاح پر زید اس کو اپنے گھر رکھ سکتا ہے یا نہیں جب ہندہ نے عمرو سے نکاح کیا تھا زید نے طلاق نہیں دی تھی اب ہندہ جب عمرو کے یہاں سے نکل آئی عمرو نے طلاق نہیں دی تھی دلیل کے ساتھ جواب مراحت ہو۔ فقط

(۱) تذکیر الاخوان فصل ایمان بالتقدیر۔

(۲) تذکیر الاخوان فصل اجتناب عن البدعۃ ۱۲۔

(جواب) اس صورت میں نکاح نہیں ٹوٹا چنانچہ درمختار میں ہے۔ لا عدۃ لہ لو تزوج امرأۃ الغیور و طیہا عالمًا بذلک و منها یحد مع العلم بالحرمۃ و انه زنا و المزنی بہا لا تحرم علی زوجہا۔ (۱) جب نکاح شوہر دوم باطل ہو اور اس کی عدت بھی لازم نہ آئی تو معلوم ہوا کہ اس فعل سے نکاح اول میں کچھ نقصان نہیں آیا اور وہ اپنے حال پر باقی ہے اور شوہر زوجہ کو اپنے گھر اسی نکاح سابق سے رکھ سکتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بے نمازیوں کے نکاح میں شہادت

(سوال) اس موضع میں یہ رواج ہے کہ فقراء کو شاہد اور وکیل نکاح کا بنا لیتے ہیں اور یہ اشخاص اسی کے واسطے مقرر ہیں اور نماز وغیرہ سے بے خبر ہیں ایسے لوگوں کی شہادت عند الشرع معتبر ہے یا نہیں۔

(جواب) ایسے لوگوں کی شہادت سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے مگر ایسے فاسق اور مستدرک کو شاہد اور وکیل بنانا خود گناہ ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### فاسق کا نکاح فسق سے فسخ ہونے کا مسئلہ

(سوال) ایک شخص زانی اور شرابی ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہوئی یا نہیں اور اولاد حرام کی ہوئی یا حلال کی۔

(جواب) یہ شخص فاسق ہے نہ کافر اور نکاح فاسق کا فسق سے فسخ نہیں ہوتا لہذا نکاح قائم ہے اور اولاد حلال ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عرس میں جانے والوں کے نکاح کا مسئلہ

(سوال) عرس میں بے ضرورت واسطے تماشا کے جانا کیسا ہے زید کہتا ہے کہ ایسی جگہ جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ کہنا اس کا کیسا ہے۔

(جواب) بے ضرورت بھی جانا حرام ہے مگر نکاح نہیں ٹوٹتا کہ کفر نہیں البتہ فسق ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) اگر کسی شخص نے کسی غیر عورت سے نکاح کر لیا اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ دوسرے کی بیوی ہے اس سے وٹلی کیا تو اس کو (اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے میں) کسی عدت کی ضرورت نہ ہوگی اور حرمت کا علم رکھنے کے باوجود اس سے نکاح کرنے پر حد لگائی جائے گی کہ وہ زنا ہے اور جس عورت سے زنا کیا جاتا ہے وہ اپنے شوہر پر حرام نہیں ہوتی ہے۔



## حلالہ کا صحیح طریقہ

(سوال) مسئلہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق ایک مجلس میں دے دی تھیں مگر باوجود اس کے اس کو اپنے گھر سے علیحدہ نہ کیا اور اس کے ساتھ خفت و خیز ترک نہیں کی اور جب لوگوں نے اس کو اس حرکت پر ملامت شروع کی تو اس نے عورت کا نکاح ایک اور شخص سے اس شرط سے کرادیا کہ صبح کو طلاق دے دے چنانچہ ایسا ہوا اور بدون اس کے کہ وہ شوہر ثانی اس عورت کے پاس شب باش ہو صبح کو طلاق دے دی گئی اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس نکاح ثانی کے وقت وہ عورت حاملہ تھی اور ابھی تک وضع حمل نہیں ہوا آیا اس عورت کا نکاح شوہر اول سے جس سے طلاق پا چکی ہے جائز ہے یا نہیں اور کسی طریقہ سے جائز ہو سکتا ہے یا نہیں اور نیز یہ بھی عرض ہے کہ شوہر اول نے طلاق اس طور سے دی تھی کہ عورت سے دو گواہوں کے رو برو مہر بخشوالیا تھا اور خود ایک جلسہ میں تین بار طلاق کے لفظ کہہ چکا تھا اس کا مفصل حکم شریعت محمدیہ کی رو سے فرمایا جاوے۔

(جواب) اس صورت میں اس عورت پر تین طلاق ہو گئیں اور اس کا نکاح شوہر اول سے جائز نہیں اور اپنے زوج اول پر حرام ہو گئی اور اس کو حلال کرنا چاہئے تو یہ طریقہ ہے کہ جب اس کا وضع حمل ہو جاوے پھر کسی دوسرے سے نکاح پڑھا دے اس طرح کہ کوئی شرط اس میں وقت اور چھوڑنے وغیرہ کی نہ ہو اگر کوئی قید ہوگی تو نکاح درست نہ ہوگا اور پھر دوسرا خاوند اس سے قربت کرے اور بعد نکاح کے اپنے ہی نکاح میں رکھے جب اس کو تین حیض آجاویں تو اس وقت طلاق دے اور بعد طلاق کے اس کی عدت پوری ہو اور اگر اس عرصہ میں حمل ہو گیا تو وضع ہو ورنہ جب تک تین حیض آجاویں اس وقت شوہر اول سے نکاح ہو سکتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی کم ہو جاوے گی تو ہرگز نکاح نہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

لڑکی کا قبل بلوغ نکاح ہونے پر بعد بلوغ رضا مندرہ کر پھر انکار کرنا

(سوال) زید کا نکاح ہندہ نابالغہ بولایت اولیاء ہندہ منعقد ہوا تھا بعد فوت ہونے زید کے ہندہ نابالغہ کا نکاح ثانی برادر زید سے والدین زید نے بلا اجازت و اطلاع اولیاء ہندہ اپنے گھر میں کرالیا بعد اطلاع کے اولیاء ہندہ بھی شکایت وغیرہ کر کے نکاح ثانی ہندہ سے راضی ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہندہ کی آمد و رفت برابر اپنے اولیاء و زوج میں رہی کسی قسم کی ناراضی اولیاء ہندہ میں نہیں پائی گئی۔ بعد بلوغت کے ہندہ خود بھی بدستور راضی و خوش رہی مگر اب بوجہ کسی نزاع کے جو اولیاء

ہندہ و زوج ہندہ میں ہے ہندہ اپنے نکاح سے انکار کرتی ہے اور زوج سے علیحدہ ہو کر اولیاء میں چلی گئی۔ لہذا ایسی صورت میں کہ ہندہ اپنے نکاح سے راضی تھی نکاح صحیح ہے اور ہندہ آسکتی ہے یا نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ بیوا تو جروا۔

(جواب) صورت مسئلہ میں جب کہ نکاح صحیح ہو گیا کہ ہندہ کے اولیاء نے اس کو رد نہیں کیا اور دلالت اور صراحت اس کی رضا پائی گئی اور بعد بلوغ کے خود ہندہ بھی زوج سے راضی رہی اور اس کے پاس رہتی رہی تو اب یہ نکاح ہرگز انکار ہندہ سے فسخ نہیں ہو سکتا۔ کذا فی کتب الفقہ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

لڑکی شیبہ کس کو کہتے ہیں

(سوال) شیبہ باعتبار فقہاء کے کس کو کہتے ہیں۔

(جواب) شیبہ اس کو کہتے ہیں کہ خاوند کے پاس جا کر اس کا ازالہ بکارت ہو گیا ہو فقہاء کے نزدیک اور لغت میں مطلقاً ازالہ بکارت سے شیبہ ہو جاتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) کتب فقہ میں اسی طرح ہے۔

## باب: رضاعت کا بیان

### رضاعی بھتیجی سے نکاح

(سوال) شیخ کرم علی نے ساتھ سلیمہ کے جو دختر بی بی رحیمہ کی ہے دودھ مسماۃ رحیمہ کا زمانہ شیر خواری میں پیا تھا پیچھے ایک مدت کے رحیمہ سے ایک فرزند تولد ہوا جس کا نام اشرف علی ہے۔ پس درمیان کرم علی اور اشرف علی بموجب تقریر بحر الرائق نسبت بھائی ہونے کی دونوں سے ہے حسب مشاہدہ فی شرح قول الماتن وبين مرضعة ولد مرضعتها او ولد والمرضة الا ولى بفتح الضاد اسم مفعول ای لا حل بين الصغيرة المرضعة وولد المرأة التي ارضعتها لانهما اخوان من الرضاع انتهى۔ اب ساتھ دختر شیخ کرم علی کے مسماۃ حلیمہ کا نکاح اشرف علی فرزند رحیمہ کا ہونا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) نکاح اشرف علی کا حلیمہ کے ساتھ حرام ہے کیونکہ حلیمہ اشرف علی کی بت الازہ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وبنات الازہ پس یہ نکاح قطعاً حرام ہے اور کسی عالم اور امام اور اہل مذہب کے نزدیک درست نہیں اور جس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا وہ سراسر بے علم ہے۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام حرم من الرضاع ما يحرم من النسب الحدیث فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۱)

### رضاعی بہن کب سمجھی جائے گی

(سوال) ایک مرد اس وقت بیس برس کی عمر کا ہے اور ایک عورت بارہ برس کی ہے جب اس مرد کی عمر آٹھ برس کی تھی عورت کی عمر چھ مہینے کی تھی اس عورت نے اس م کی ماں کا دودھ پیا ہے ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے یا نہیں جس وقت یہ عورت چھ مہینے کی دودھ پیتی تھی وہ مرد جس کی عمر آٹھ برس کی تھی اس کی ماں کے اور لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا دودھ اس عورت نے پیا ہے۔

(جواب) جس مرد کی والدہ کا دودھ کسی لڑکی نے پیا وہ اس کی بہن ہوگی اس کا نکاح کسی حال میں جائز نہیں برابر کی عمر کی بہن بھی حرام ہے اور چھوٹی عمر کی بہن بھی حرام ہے آٹھ سال کی بڑی چھوٹی ہونے سے بہن کس طرح حلال ہو جاوے گی تمام اولاد شیر پلانے والے کی پہلی اور پھپھلی پر

(۱) نبی ﷺ نے فرمایا کہ رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں آخر حدیث تک۔

یہ دختر حرام ہے فقط۔

### مدت رضاعت

(سوال) ایک شخص نے کسی عورت غیر محرم کا سوائے اس مدت کے کہ جو بچوں کے لئے دودھ پینے میں مقرر ہے۔ دودھ پیا تو اس شخص کا اس عورت دودھ پلانے والی سے نکاح جائز ہے یا نہیں اور سوائے اس عورت کے اس کی بہن یا دختر وغیرہ سے جو نسباً حرام ہیں نکاح جائز ہوگا یا نہیں۔ بیوا تو جروا۔

(جواب) اگر بعد دو برس تمام ہونے کے دودھ پیا ہے تو اس دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوئی کہ مدت ثبوت حکم رضاعت کی دو سال ہے پس اب اس پر کہ اس عورت سے اس کے اقارب سے کوئی علاقہ بسبب شیر کے پیدا نہیں ہوا اس کا نکاح اس عورت سے اس کی اولاد وغیرہ سے سب سے درست ہے کذا فی عامۃ کتب الفقہ (۱) واللہ تعالیٰ اعلم۔

## کتاب الطلاق

### طلاق کے مسائل

ایک مجلس میں تین طلاق مغلطہ ہیں

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے محققین شریعت بیضاء اس مسئلہ میں کہ طلاق ثلاثہ جلسہ واحدہ میں دفعۃً واحدہً یک لخت کہ یہ عند الشرع ملت بیضاء میں حرام و ممنوع و بدعت ہے اگر کوئی شخص بایں ہمہمیت دیوے تو رجعت حالت مذکورہ بالا میں حسب احادیث صحیحہ ہو سکتی ہے یا نہیں یا بقاعدہ فقہاء ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ عند الضرورة بحسب مذہب دیگر رجوع کیا جاتا ہے چنانچہ مواقع کثیرہ عدیدہ میں یہ امر مسلم اور جاری ہے خاص کر مسئلہ ہذا میں بھی کذا افتاء مولانا محمد عبدالحی المرحوم اللکھنوی فی مجموعۃ الفتاویٰ و کذا فی مسک الختام فی شرح بلوغ المرام نقلہ عن الائمة الحنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

بینوا بالحق والصواب تو اجر و ایوم الفتح والحساب. (۱)

(جواب) ایک مجلس میں تین طلاقیں دے کر خاوند رجوع کر سکتا ہے کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے شروع زمانہ خلافت میں یہی دستور تھا چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث مندرجہ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔ کان الطلاق علیٰ عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکرو سنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث و احدۃ فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ اناءة فلو امضیناہ علیہم فامضاه علیہم.

حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جو تینوں کو تین قرار دیا تو یہ حکم ان کا سیاسی تھا شرعی نہ تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منصب شریعت نہ تھا و اللہ اعلم و العلم عند اللہ راقم البوالوفاء ثناء اللہ کفا اللہ امر تسری ثناء اللہ محمودی جواب صحیح ابوتراب محمد عبدالحق۔

جمہور کا تو مذہب یہی ہے کہ تین طلاق پڑ جاتی ہیں مگر بعض محققین جن میں بعض صحابہ بعض تابعین بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ تین نہیں بلکہ ایک ہی طلاق ہوگی ان کی دلیل قوی ہے پہلوں

(۱) اس طرح مولانا محمد عبدالحی لکھنوی نے مجموعہ فتاویٰ میں فتویٰ دیا ہے اور اسی طرح مسک الختام شرح بلوغ المرام میں ہے جس کو ائمہ حنفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے حق اور صواب بیان فرمائے اور روزِ فتح حساب اجر حاصل فرمائے۔

کے ساتھ کثرت رائے ہے۔ من اتبع عالما لقی اللہ سالما انشاء اللہ تعالیٰ (۱)۔  
ابوعبید احمد اللہ عفی عنہ ابو عبید احمد اللہ محدث امرتسری۔

یہ فتویٰ موافق مذہب بعض اہل علم از صحابہ اور تابعین اور محدثین اور فقہاء کے ہے جمہور علماء از صحابہ کرام و تابعین و محدثین و فقہاء اس فتویٰ کے خلاف پر ہیں جمہور کا مذہب اسلم ہے احتیاط کی رو سے اور پہلا مذہب قوی ہے دلیل کی رو سے فقط عبد الجبار عفی عنہ عبد الجبار۔  
مجموعہ فتویٰ جلد دوم ص ۲۵۹ مکتوب اسلام استفتاء..... بن عبد اللہ لغز نوئی۔

(سوال) زید نے اپنی عورت کو حالت غضب میں کہا کہ (۱) میں نے طلاق دیا (۲) میں نے طلاق دیا۔ (۳) میں نے طلاق دیا پس ان تین بار کہنے سے طلاق واقع ہوں گی یا نہیں اور اگر حنفی مذہب میں واقع ہوں اور شافعی میں مثلاً واقع نہ ہوں تو حنفی کو شافعی مذہب پر اس صورت خاص میں عمل کرنے کی رخصت دی جاوے گی یا نہیں ہو امطلوب اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک تین طلاق ہوں گی اور بغیر تحلیل کے نکاح نہ درست ہوگا مگر بوقت ضرورت کہ اس عورت کا علیحدہ ہونا اس سے دشوار ہو اور مفاسد زائدہ کا خطرہ ہو تقلید کسی اور امام کی اگر کرے گا تو کچھ مضائقہ نہ ہوگا نظیر اس کی مسئلہ نکاح زوجہ مفقود و عدت ممتدة الطہر موجود ہے کہ حنفیہ عند الضرورة قول امام مالک پر عمل کرنے کو درست رکھتے ہیں چنانچہ رد المحتار میں مفصلاً مذکور ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ وہ شخص کسی عالم شافعی سے استفسار کر کے اس کے فتویٰ پر عمل کرے۔

واللہ اعلم حررہ محمد عبدالحی عفی عنہ لکھنوی۔ عبدالحی ابوالحسنات۔

(جواب) تین طلاقیں اس صورت میں واقع ہو گئیں سوائے حلالہ کے کوئی تدبیر اس کی نہیں فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر بندہ رشید احمد عفی عنہ گنگوہی۔

طلاق کے گواہوں کا نہ ہونا

(سوال) اگر زوجہ مدعیہ طلاق ہے اور شوہر منکر اور گواہ نہ ہوں تو کیا ہو اور دونوں کے ہوں۔ تو کس کے اولے ہوں گے اور زوجین رضامند ہو اور کوئی مدعی نہیں اور اجنبی کہتا ہے کہ دی تھیں تو کس کا قول ماننا پڑے گا۔

(جواب) یہ معاملہ قضا کا ہے قاضی ظاہری فیصلہ دیتا ہے عند اللہ تعالیٰ حلت نہیں ہو سکتی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) جس نے عالم کو اتباع کیا تو انشاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے ساتھ ملے گا۔

## ثبوت طلاق کا نصاب شہادت

(سوال) جو ثقہ اور سچا ہو اس کے رو برو کسی نے دو طلاق دی ہوں اور پھر منکر ہو جاوے پھر اس شور و شغب کی وجہ سے کوئی شخص نکاح صورت ہذا میں پڑھ دیوے تو کیا وہ اور حضار گنہگار ہوں گے اور اس صورت میں ثقہ کے قول کا اعتبار ہوگا کیا مطلق کا۔

(جواب) ایقاع طلاق کا ثبوت دو گواہوں سے ہوتا ہے ایک گواہ سے اگرچہ عادل ہو نہیں ہوتا پس ان کا زوج پر عمل ہوگا اور دو طلاق کی حالت میں اگر نکاح دوبارہ کر دیا تو کچھ حرج نہیں کسی پر کہ درست امر ہے اگرچہ فضول ہی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## طلاق کے لئے گواہوں کی ضرورت

(سوال) زید نے اپنی زوجہ کو باس وجہ طلاق دی کہ وہ امورات و انتظامات خانہ داری میں ہمیشہ اس کی مرضی کے خلاف کار بند رہا کرتی تھی باعث اس کا یہ تھا کہ زید نوکری پیشہ ہے وہ ہمیشہ سفر میں رہا ہے جب کبھی ایک سال یا چھ ماہ کے بعد وہ گھر آتا تو جن امورات کی نسبت وہ ہدایت کر کے سفر کو جاتا تھا ان امورات سے زیادہ خرابیاں کر دیکھتا تھا اور معاملات اس قسم کے پیدا ہوئے جن کی وجہ سے زید کے اقرباء میں نفاق پیدا ہو گیا اس صورت میں زید نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر یہ نفاق اس کی طرف سے ہوا ہے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا پس تحقیقات باطنی سے ثابت کیا تو بنیاد نفاق اس کی ہی جانب سے ثابت ہوئی زید نے اپنے عہد کو پورا کیا اور یہ امر بھی قابل اظہار ہے کہ زید کی زوجہ کا بروقت دینے طلاق کے کوئی عزیز موجود نہ تھا۔ چونکہ اس کی ماں اور باپ اور بھائی بہن سب قضا کر چکے تھے بروقت دینے طلاق کے زید کا پسر اور زید کا باپ موجود تھا لہذا یہ بیان زید کا صحیح ہے اس صورت میں طلاق جائز ہے یا ناجائز۔

(جواب) زید نے جو طلاق دی وہ واقع ہوگئی زوجہ کے اقرباؤں کا موجود ہونا کچھ ضرور نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## طلاق کے بعد میاں بیوی کا راضی ہو جانا

(سوال) اگر کوئی ہزاروں طلاق دے دیوے اور بعد کو منکر ہو اور باہم زوجین رضا مند بھی ہو جائیں اور تحلیل نہ کرائیں اور شوہر تین کا بھی اقرار نہ کرتا ہو پس کسی نے نکاح جدید انکا پڑھ دیا

گنہگار کون ہے۔

(جواب) وقوع طلاق حق اللہ اور تحریم فرج بھی پس رضا مندی زوجین سے حلت نہیں ہو سکتی جب تین طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت ہوئی اور اب وہ مثل مادر کے حرام ہوگی رضاء طرفین سے کچھ حلت نہیں ہو سکتی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

بیوی کو ماں کہنا

(سوال) اگر کوئی حالت غصہ میں اپنی عورت کو ماں بہن کہہ دے اور وہ یہ جانتا ہے کہ ماں بہن کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کہنے سے طلاق ہو جاوے گی یا نہیں۔

(جواب) ماں بہن کہنے سے طلاق نہیں واقع ہوتی ہے خواہ کچھ مجھ کے کہے فقط۔

(سوال) ایک شخص اپنے دل میں بالیقین جانتا ہے کہ اپنی عورت کو ماں کہنے سے طلاق آ جاتی ہے حالت غصہ میں اپنی عورت کو تین مرتبہ بہ نیت طلاق ماں بہن کہہ دیا یا بہ نیت طلاق یہ کہہ دیا کہ تیرا وجود میرے نزدیک مثل میری ماں بہن کے وجود کے ہے مگر کسی عضو خاص کا نام نہیں لیا صرف لفظ وجود کہاں دونوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں۔

(جواب) اس ہر دو صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی مگر دوسری صورت میں جو کہا کہ وجود مثل ماں کے اس میں اگر تحریم کی نیت کی ہے تو زوجہ میں نیت کے سبب حرمت ہو جاوے گی فقط۔

شوہر کا بیوی کو ماں بہن کہنا اور بیوی کا شوہر کو باپ بھائی کہنا

(سوال) زید غصہ میں اپنی عورت کو ماں یا بہن یا اسی طرح عورت اپنے مرد کو باپ یا بھائی یا اور کچھ کہے یا عورت مرد ایک دوسرے کو گالیاں دیوں تو اس صورت میں نکاح باقی رہتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے۔

(جواب) ان سب صورتوں میں نکاح نہیں ٹوٹا مگر یہ فعل خود شنیع ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

بیوی کو گھر سے نکل جانے کا حکم دینا

(سوال) جو شخص اپنی عورت کو چند بار کہہ دے کہ تو میرے گھر سے چلی جا اور دل میں یہ ہو کہ نہ جاوے بطور ڈرانے کے کہتا ہے اس لفظ سے اس کے نکاح میں کچھ نقصان تو نہیں ہوتا۔

(جواب) اس طرح کہنے سے نکاح میں کچھ نقصان نہیں ہوتا البتہ اگر طلاق کی نیت سے کہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے فقط۔



## باب: عدت کا بیان

عدت والی عورت کا باپ کی عیادت کرنا

(سوال) عورت کو حالت عدت زوج میں اپنے والد کی عیادت کو جانا جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) عیادت کے واسطے خروج معتدہ کا گھر سے درست نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

عدت والی عورت کا طاعون زدہ مقام سے نکلنا

(سوال) جس محلہ میں بمعہ کتبہ کے میرا قیام ہے طاعون کی نہایت زیادتی ہے اموات کثیر ہوتی ہیں شہر کی آب و ہوا بہت خراب ہے اہل محلہ ہمسایہ دیگر جگہ کو فرار ہو رہے ہیں میرے مکان میں ایک عدت والی عورت ہے اس مکان میں اس کے خاوند نے انتقال کیا ہے جس میں وہ زمانہ عدت کاٹ رہی ہے۔ دوسری جگہ جانے سے مجبوری ہے نیز اس کی بہ سے دوسرے لوگ بھی غیر جگہ جانے سے اور مکان خالی کرنے سے جس میں اکثر چوہے مرے ہوئے نکلے ہیں مجبوراً لاچار ہیں لہذا اس صورت میں اپنے محلہ سے بخیال آب و ہوا دوسری جگہ ایام طاعون میں بارادہ سکونت جاسکتے ہیں یا نہیں اور ایسی حالت میں و باء میں جہاں اندیشہ مال و جان ضائع ہونے کا ہو عدت والی بھی اس مکان کو چھوڑ کر دیگر جگہ جاسکتی ہے یا نہیں بعض علماء و باء سے بھاگنے والے کو جہاد کے بھاگنے والے سے تشبیہ دیتے ہیں اور گنہگار مرتکب کبیرہ کا بتلاتے ہیں۔ جواب باصواب عنایت فرمادیں بینوا تو جروا۔ مرسلہ احقر الزمان عبدالعلیم خان غنی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم آلہ آباد محلہ گیٹ گنج مکرر عرض ہے کہ آج کل مقدمات وغیرہ اکثر ہو رہے ہیں کوئی ورد شافی و کافی رفع فساد کو تھلایا جاوے زیادہ و سلام۔

(جواب) اللہ تعالیٰ رحم فرماوے دست بدعا ہوں ورد حسینا اللہ کی اجازت ہے پس جب بوجہ طاعون اہل محلہ باہر چلے جاویں یا دوسرے محلہ میں چلے جاویں تو عدت والی کو بھی جانا درست ہے اور ایسی جگہ سے لوگوں کو شیر سے دور چلا جانا یا دوسرے شہر میں جانا درست نہیں ہے البتہ اسی شہر کے آس پاس رہنا درست ہے یا دوسرے محلہ میں چلے جاویں تب بھی درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## باب: بچوں کی پرورش کا بیان

بچوں کی پرورش کا حق کن کن کو حاصل ہے اور مدت بلوغ کیا ہے (سوال) حق حضانتہ یعنی استحقاق پرورش و تربیت اولادِ صغیرہ والدین میں سے کس کو حاصل ہے اور صورت طلاق دینے زوجہ کے کس کو حاصل ہے اور در صورت فوت ہونے زوج کے کس کو حاصل ہے اور در صورت فوت ہونے زوجین کے کس کو حاصل ہے اور یہ حق حضانتہ اولادِ صغیرہ کس حد عمر تک حاصل ہے اور مدت بلوغت لڑکی یا لڑکے کا کس مدت عمر تک ہے اور جو اس کی حدود و علامات ہیں تو کیا کیا علامات ہیں مفصل مدلل بمذہب حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ارقام فرمادیں تاکہ ماجور ہوں عند اللہ مشکور ہوں عند الناس بمہر و دستخط مزین فرمایا جاوے۔

(جواب) نمبر ۱۱۱ کو فقط نمبر ۲، ۳، ۴ ماں کو جب تک وہ کسی ایسے شخص سے نکاح نہ کرے جو اس بچہ سے ایسا علاقہ نہیں رکھتا جس سے پھر وہ ساقط ہو جاوے فقط نمبر ۴ ماں کے بعد نانی کو اور نانی کے بعد خالہ کو اور خالہ کے بعد بہن کو فقط نمبر ۵ آٹھ سال تک حاصل ہے فقط نمبر ۶ موافق مذہب مفتی بہ پندرہ سال کی عمر تک حد بلوغ لڑکا لڑکی ہے اور اگر اس سے پہلے انزال یا حمل ظاہر ہو جاوے تو اس پر حکم بلوغ دیا جاوے گا واللہ تعالیٰ اعلم بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ رشید احمد ۱۳۰۱۔

بندہ محمود عفی عنہ

عزیز الرحمن عفی عنہ دیوبندی

مدرس اول مدرسہ عالیہ عربیہ دیوبند

مفتی مدرسہ عالیہ دیوبند

الہی عاقبت محمود گردان۔

و توکل علی العزیز الرحمن۔

## باب اولیا اور کفو کا بیان

### ماں کی ولایت کا نکاح

(سوال) ایک لڑکی کا نکاح باوجود موجود ہونے لڑکی کے چچا حقیقی کے والدہ لڑکی نے بلا اجازت و اذن لڑکی و چچا کے باہمی عداوت کی وجہ سے نکاح کر دیا اور نہ لڑکی راضی ہے تو اس صورت میں شرعاً نکاح صحیح اور جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر کوئی ولی عصبہ نہ ہو تو ولایت دختر نابالغہ کی اس کی ماں کو ہوتی ہے اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کے رد کرنے سے نکاح رد ہو جاوے گا اور اگر کوئی عصبہ موجود ہو تو وہ رد کر سکتا ہے اس کی رد سے نکاح رد ہو جاوے گا۔ اور اگر لڑکی بالغہ ہے تو وہ خود رد کر سکتی ہے بغیر اس کی اذن و رضا کے نکاح نہیں ہو سکتا پس جب وہ بروقت پہنچنے خبر نکاح کے کہہ دے کہ میں نے اس کو رد کیا اور میں راضی نہیں ہوں تو اس سے نکاح رد ہو جاتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### چچا کی ولایت نکاح

(سوال) ایک لڑکی صغیرہ بھر تقریباً آٹھ ماہ اس کی والدہ نے مرض موت میں اس کے چچا حقیقی کی کفالت و ولایت میں دے دیا یا اس صورت کہ تم اس کے مالک پرورش کنندہ ہو کل اختیارات تم کو حاصل ہیں حالانکہ یہ خود بھی لا ولد ہیں اس وجہ سے ان کو بھی لڑکی کے کفیل بننے کی معاہدہ اپنی زوجہ کے خواہش دامن گیر تھی اور والدہ لڑکی بھی جانتی تھی کہ اس کے چچا سے تکمیل کفالت پوری ہوگی اور پدر لڑکی بھی معاملہ مذکور سے راضی تھا اور صراحتہ رضاً ظاہر کی بعد ازاں جب کبھی پدر لڑکی سے تذکرہ معاملہ مذکور کا کوئی کرتا تو یہ کہا جاتا تھا کہ لڑکی اس کے چچا کی ہی ہے اسی کی پرورش میں ہے اس کے نکاح وغیرہ کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے اور درحقیقت ایسا ہی معاملہ واقع ہے کہ لڑکی اپنے پدر کو پدر بھی نہیں پہنچاتی ماں اور باپ، چچا اور چچی کو ہی جانتی ہے کیونکہ ہمیشہ سے اس کے کفیل نان و نفقہ اور ہر طرح سے خبر گیری اور پرورش میں شفقت سے رکھتے ہیں اور تعلیم دین و پابند صوم و صلوة سے آراستہ رکھتے ہیں اور کبھی پدر کو کچھ تعلق کسی قسم کا لڑکی سے نہیں ہوا اب بھر تقریباً گیارہ سال کے تجویز نکاح معدرائے پدر لڑکی اپنے کفو میں کی گئی مگر فی الحال بوجہ کسی امر دنیوی آپس میں بھائیوں کے نزاع واقع ہو گئی بائیں وجہ پدر لڑکی یہ کہتا ہے کہ لڑکی کو میں لے لوں گا اور نکاح اس کا

خود کروں گا تم سے کچھ واسطہ نہیں رکھتا ہوں اور یہ امر بھی ظاہر ہے کہ جگہ تجویز نکاح میں پدر کی راضی رہی صرف بوجہ تنازع بھائیوں کی یہ امر واقع ہوا اور لڑکی بھی ہرگز کسی نوع یہ امر قبول نہیں کرتی کہ میں پدر کے یہاں جاؤں کیونکہ جو معاملہ چچا سے واقع ہے وہ پدر سے واقع نہیں لہذا ایسی صورت میں کہ ولایت کفالت لڑکی استحقاق چچا کو حاصل ہے تو نکاح بولایت چچا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں مدلل بقواعد شرعیہ ارقام فرمایا جاوے۔

(جواب) باپ کے موجود ہوتے چچا کو ولایت نکاح اس لڑکی کی نہیں پہنچتی باپ کو اختیار ہے جہاں چاہے لڑکی کا نکاح کرے فقط اور چچا کو باپ کی اجازت سے ولایت و اختیار نکاح ہو سکتا ہے جب اس کی طرف سے اجازت نہیں رہی تو چچا کو اختیار بھی نہیں رہا۔ قال فی البحر الرائق تحت قوله (وللولی انکاح الصغیر والصغیرة والولی العصبۃ بترتیب الارث) افاد بقولہ بترتیب الارث ان الاحق الابن وابنه وان سفل الی ان قال ثم الاب ثم الجد ابوہ ثما الاخ الشقیق ثم الاب الخ ..... (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## دادا کی ولایت نکاح

(سوال) ایک شخص مر گیا اس نے اپنے بچوں اور عورت کو چھوڑا اور اس کا چچا اور دادا ہے ولی ان بچوں کا دونوں میں سے کون ہے۔

(جواب) یہ نکاح چچا کا مثلاً دادا کو ہے چچا کو نہیں ہے اور حق خضانت سات سال تک زوجہ کو ہے جو والدہ چچا کی ہے۔

## غیر کنفو میں نکاح ہو تو فسخ کا مسئلہ!

(سوال) زید ایک شخص اجنبی کے مکان پر رہتا تھا عمر و نے وارثان ہندہ کو بہکا کر اور دھوکہ دے کر زید کو نسب سید بتلایا اور نکاح کر دیا بعد چند مدت کے معلوم ہوا کہ زید سید نہیں ہے نور باف ہے اب وارثان ہندہ کو شرم و حیا معلوم ہوتی ہے کہ بہت اہانت ہے کیونکہ سید اور نور باف کا نکاح ہونا نہایت عار کی بات ہے لہذا شرع شریف کے مطابق وارثان ہندہ کو فسخ کرنا فی زمانہ

(۱) بحر الرائق میں اس قول "اور ولی کو چھوٹے لڑکے اور چھوٹی لڑکی کے نکاح کرانے کا حق ہے اور ولی وراثت کی ترتیب سے عصبہ ہوتا ہے۔" میں وراثت کی ترتیب کے قول سے یہ واضح کیا کہ سب سے زیادہ حق ولد ولایت کا بیٹا ہے پھر پرہتا جہاں تک نیچے جائے یہاں تک کہ کھاپھر باپ پھر دادا پھر چچا بھائی پھر باپ الخ۔

جائز ہے یا نہیں دیگر زید بعد ظاہر ہونے کفو کے وہاں سے چلا گیا وقت رخصت زوجہ سے کہا کہ میں اس گھر میں ونیز قریہ میں تاحیات نہیں آؤں گا اور قسم بھی کھائی اور بعد کو ایک خط بھی اسی مضمون سے لکھا اب اس کا کیا حکم ہے۔

(جواب) صورتہ مذکورہ میں ہندہ کو اور اولیاء ہندہ کو اختیار فتح ہے۔ کما فی العالمگیریہ ولو انتسب الزوج لہا نسبا غیر نسبہ فان ظہر دونہ وهو لیس بکفو فحق الفسخ ثابت للکل وان کان کفواً فحق الفسخ لہا دون الالیاء انتہی (۱) وفی الدر المختار لونکحت رجلاً ولم تعلم حالہ فاذا ہو عبد لا خيار لہا بل للالیاء ولو زوجوا برضاہا ولم یعلموا بعدم الکفءة ثم علموا الا خيار لا حد الا اذا اشترطوا الکفءة او اخبر ہم بہا وقت العقد فزوجوا علی ذلک ثم ظہر انہ غیر کفو کان لہم الخيار. (۲) اور زید کا قسم کھانا مستلزم ایلیاء کا نہیں۔ کما فی الدر المختار او قال وهو بالبصرۃ واللہ لا ادخل مکة وہی بہا لا یكون مولیا لانہ یمكنہ ان یخرجہا منہا فیطہا انتہی. (۳) اور اس زمانہ میں اگرچہ قاضی نہیں ہے جب بھی شہر کے مفتی سے حکم لے کر فتح کر سکتا ہے کیونکہ قائم مقام قاضی کا مفتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ محمد عبدالرحمن برسانی تعقبہ بعضہم وهو مندرج فی الذیل (۴) ایضاً صورتہ مستفسرہ میں وہ سرے سے خود ہی نہ ہو اسائل مظہر کہ ہندہ بالذہ ہے اور روایت مفتی بہا پر ولی والی عورت کے لئے کفایت شرط نکاح ہے یا ولی اقرب پیش از عقد عدم کفایت پر اپنی رضا ظاہر کر دے بعد عقد راضی ہونا بھی نفع نہیں دیتا۔ والمختار یفتی فی غیر الکفو بعلم جوازہ اصلاً وهو المختار للفتویٰ وفی رد المحتار هذا اذا کان لہا ولی لم

(۱) عالمگیریہ میں ہے کہ اگر شوہر نے اپنا نسب اپنی بیوی کے سامنے اپنے نسب کے علاوہ بتایا تو اگر اس سے کم نکلا اور وہ کفو نہیں ہے صحیح کا حق سب کو حاصل رہے گا اور اگر کفو نکلا تو صحیح کا اختیار صرف عورت کو ہے۔

(۲) اور نہ کہ اولیاء کو اور در مختار میں ہے کہ اگر اس عورت نے کسی مرد سے نکاح کر لیا اور وہ اس کا حال نہیں جانتی تھی پھر وہ غلام نکلا تو اب اس عورت کو اختیار باقی نہیں رہا بلکہ اولیاء کو اختیار ہے اور اگر خود اولیاء نے اس عورت کی رضا مندی سے نکاح کیا اور وہ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے کہ وہ کفو نہیں ہے پھر ان کو یہ بات معلوم ہوگئی تو پھر کسی کو اختیار نہیں رہا الا اس کے انہوں نے اس کی شرط کر لی ہو یا اس غلام نے ان لوگوں کو عقد کے وقت اس کی خبر دی تھی کہ وہ کفو ہے اور انہوں نے اس بات پر کہ وہ کفو ہے اس عورت کا اس سے نکاح کر دیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ کفو نہیں ہے تو ان کو نکاح صحیح کرنے کا اختیار ہے۔

(۳) در مختار میں ہے یا اس نے بصرہ میں کہا کہ خدا تعالیٰ کی قسم میں کہہ کر ہم میں داخل نہیں ہوں گا اور وہ عورت کہہ کر مرد میں ہو تو اس کو ایلیاء نہ کہا جائے گا کیونکہ اس سے ممکن ہے کہ وہ اس عورت کو وہاں سے نکال کر اس سے صحبت کرے۔

(۴) بعضوں نے اس کے اوپر کچھ لکھا ہے اور درج ذیل ہے۔

یرض بہ قبل العقد فلا یفید الرضی بعدہ (۱) یہاں جب کہ وہ کفو نہیں اور ولی کو دھوکا دیا گیا دونوں امر سے کچھ متحقق نہیں ہوا تو نکاح باطل محض رہا بعد ظہور حال زید کے قسم و تحریر سب مہمل ہے جس پر ہندہ کے لئے کوئی مرتب نہیں ہو سکتا واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی کتبہ عفی عنہ، محمد بن المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم

کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی

عفی عنہ محمد المصطفیٰ النبی الامی ﷺ

فتنازعوا بینہم فرجعوا الی علمائنا خصوصاً الی شیخنا الاجل امام

الفقہاء فی عصرہ المولانا رشید احمد سلمہ اللہ تعالیٰ فاجاب باحسن۔

التفصیل وهو هذا۔ (۲) صورت مندرجہ ذیل مسئلہ ہذا میں اولیاء کو حق فسخ نکاح ہے اور وہ کسی حاکم یا قاضی مسلمان سے رجوع کریں کہ وہ فسخ کرے مفتی کو حنفیہ کے نزدیک بغیر تحکیم طرفین اختیار فسخ نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ الجواب صحیح۔

الجواب صحیح۔ محمد منفع علی۔ الجواب صحیح بندہ مدرس اول مدرسہ عالیہ عربیہ

محمود عفی عنہ دیوبند و توکل علی العزیز الرحمن

الہی عاقبت محمود گرواں۔

جواب مجیب اول صحیح ہے اولیاء کو اختیار فسخ نکاح ہے۔ فقط۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

عزیز الرحمن عفی عنہ دیوبند

(۱) در مختار میں ہے کہ غیر کفو میں تو بالکل عدم جواز کا فتویٰ دیا جائے گا اور بخر میں ہے کہ یہ جب ہے کہ اس کا ولی ہو اور وہ قبل عقد کے اس سے راضی نہ تھا تو اس کے بعد رضامندی سے کوئی فائدہ نہیں (بخر)  
(۲) انہوں نے اس میں جھگڑا کیا اور ہمارے علماء کے پاس رجوع کیا خصوصاً محترم شیخ اور اپنے زمانہ کے امام الفقہاء رشید احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور انہوں نے عمدہ تفصیل سے جواب لکھا جو درج ذیل ہے۔

## باب وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے ان کا بیان

اگر لڑکا اپنے باپ پر اپنی بیوی سے زنا کی تہمت لگائے!

(سوال) زید نے اپنی زوجہ کی بابت اپنے والد سے تہمت زنا لگائی اور ہر کس ونا کس حتیٰ کہ عدالت کے روبرو یہی بیان کیا۔ اب اوپر والے اس سے سخت پریشان ہیں اور حکم شارع کے جو یاں کہ ایسی حالت میں آیا حرمت باعث تفریق بین الزوجین واقع ہے یا نہیں ہر چند کہ عرصہ چار پانچ سال سے یہ امر واقع ہو رہا ہے لیکن اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ زید آماہ اپنے والد اور اپنی زوجہ کے ہلاک کر دینے کا ہے امیدوار ہوں کہ ایسی کوئی وجہ تصفیہ ارقام فرمائیں کہ رفع فساد ہو خاص جامع مسجد میں مجمع عام اپنے والد پر حملہ کیا۔ جینا تو جروا۔

(جواب) زید کی زوجہ فقط اس قول تہمت سے جدا نہیں ہوئی لیکن اگر زید لفظ کہہ دے کہ میں نے جدا کیا یا کوئی اور اس قسم کا کلمہ کہہ دیوے تو اس وقت جدا ہو جاوے گا اور پھر عدت کرائی جاوے گی اور یہ قول اگر چہ غلط ہو مگر جب خود زوج اس کا اقرار کرتا ہے تو حرمت اس عورت کی اس شخص پر ہوگی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

اگر عورت اپنے خسر پر زنا کے ارادہ کی تہمت لگائے

(سوال) مسئلہ نمبر ایک شخص نے بہ نیت حرام اپنے لڑکے کی زوجہ کا ازراہ زبردستی کمر بند توڑ دیا مگر وہ عورت قابو میں نہ آئی اور حرام سے بچ گئی اور وہ شخص انکار کرتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور عورت از روئے قسم کے کہتی ہے اور وہ عورت نیک بخت ہے اور کوئی گواہ شاہدان کا نہیں ہے اس صورت میں وہ عورت اس کے لڑکے پر حرام ہوگئی یا نہیں زید کہتا ہے کہ وہ حرام ہوگئی۔

(جواب) صرف عورتوں کے کہنے سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی۔ فقط۔

## باب: غائب شخص کی بیوی کے مسائل

اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے

(سوال) ایک عورت کا خاوند عرصہ میں ۱۲۰ کیس سال سے مفقود الخمر ہے اور نکاح ثانی ایسی کا اسی صورت پر کسی شخص نے کر دیا تو جائز ہے یا نہیں اور جو حمل ہے اس کا کیا حکم ہے فقط۔

(جواب) اس صورت میں جب کہ شوہر کو مفقود ہوئے میں ۲۰ سال سے زائد ہو گئے ہیں تو اس کا نکاح دوسرے شخص سے حسب مذہب امام مالک جس پر حنفیہ نے بھی بوجہ ضرورت فتویٰ دے دیا ہے درست ہو گیا اور اولاد جو اس شوہر دوم سے ہوئی ہے اس کا نسب ثابت ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ بندہ رشیدہ احمد گنگوہی۔ رشید احمد ۱۳۰۱۔ زوجہ حنفیہ المذہب کو موافق قول امام مالک کے بعد گزرنے چار برس کے چار مہینے دس دن عدت گزار کر نکاح بلا ریب درست ہے کیونکہ قول امام مالک مستند ہے قول خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين (۱) حنفیہ کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ قال فی الموطاء امام مالک عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ایما امرأة فقد زوجها

فلم یدر این هو فانها تنتظر اربع سنین ثم تعدار بعة اشهر و عشر ثم تحل (۲)۔

اور یہی مذہب حضرت عثمان و عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا ہے چنانچہ فتح الباری اور تلخیص امام رافعی وغیرہ میں بوجہ بسط و تفصیل مذکور ہے اسی نظر سے جامع الرموز شرح مختصر وقایہ اور طحاوی اور رد المحتار حواشی در مختار اور فتاویٰ حسب المفتیین وغیرہ حنفی مذہب میں بھی بوقت ضرورت کے دوسرے نکاح کرنے کا زین مفقود کے واسطے فتویٰ دیا ہے اور قول امام مالک معمول بہ لکھا ہے۔

قال فی حسب المفتیین قول مالک معمول به فی هذه المسئلة وهو

احد قولی الشافعی رحمه الله ولو افنی الحنفی بئذک یجوز فتواه لان عمر رضی

الله عنه قضی هکذا فی الذی اسوته الجن بالمدينة و کفی به اماما و لانه

(۱) تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے۔

(۲) موطاء امام مالک میں یحییٰ بن سعید۔ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے فرمایا ہے کہ جس عورت کا شوہر گم ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو وہ چار سال تک انتظار کرے پھر چار مہینے اور دس دن عدت گزارے پھر حلال ہو جائے۔



منع حقها لغيبه في سنة عملا بالشبهين انتهى كلامه لو افتي به في موضع الضرورة ينبغي ان لا باس به كذا في الطحاوي ورد المحتر وخزانة العلماء وغيره والله اعلم بالصواب۔ (۱) الرام العاجز محمد نذير حسين عفي عنه..... محمد سيد نذير حسين۔

ابو محمد عبدالحق ۱۳۰۵، سيد محمد عبدالسلام غفر له ۱۳۹۹، ابو محمد عبدالوهاب رسول الادب خادم شريعت قد صرح الجواب والله اعلم بالصواب حرره ابو محمد عبدالرؤف البهاري..... محمد نجيب خان۔

جواب ہذا صحیح ہے حسينا اللہ بس حفيظ اللہ ..... حفيظ اللہ بس حسينا اللہ۔

جواب صحیح ہے..... ابو علی محمد عبدالرحمن۔ الجواب صحیح نمحہ بس الرحيم آبادی ثم اعظميم آبادی۔

ابو علی محمد عبدالرحمن منصور الرحمن محمد میس

قد اصاب من اجاب حرره ابو محمد عبداللہ فقير اللہ المتوطن ضلع شاپور۔

الجبیب مصیب محمد حسین خان خورجوی، محمد تطف حسین رسول الثقلین ۱۳۹۲ خادم شریعت۔

الجواب صحیح الجبیب مصیب ولہ جزاء الصیب هذا الجواب صحیح والجبیب صحیح۔

محمد طاہر سلہٹی خادم عباد اللہ الجلیل احقر محمد اسمعیل محمد عبدالقادر ۱۳۸۹

عند الضرورة حنفية کے نزدیک تقلید مذہب غیر کی درست ہے اور اس مسئلہ میں بھی حنفیہ

تصریح کرتے ہیں چنانچہ جامع الرموز میں ہے۔ قال مالک والا و زاعی الی اربع سنین

فینکح عروسه بعدھا کما فی النظم فلو افتي به فی موضع الضرورة ینبغي ان لا

باس به علی ما اظن (۲) اور رد المحتار حاشیہ در مختار میں ہے ذکر ابن وہبان فی منظومة

انه لو افتي بقول مالک فی موضع الضرورة یجوز (۳) انتهى والله اعلم حرره

عبدالحی تجاوز الله عن ذنبه الجلی والحنفی۔ محمد عبدالحی ابو الحسنات۔

(۱) حسب المتضمن میں ہے کہ اس مسئلہ میں امام مالک کا قول معمول ہے اور یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے

اور اگر حنفی نے یہ فتویٰ دے دیا تو بھی جائز ہے اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا

جس کو خبات نے مدینہ میں برابر کر دیا تھا اور اس کے لئے امام کا فیصلہ کافی ہے اور اس لئے کہ اس نے اپنے غیاب سے

عورت کے حق کو ادا نہ کیا۔ تو قاضی اس مدت کے گزرنے پر دونوں میں تفریق کر دے گا عدہ میں ایلاء کا اعتبار کر کے اور

غیبت کا سال میں اعتبار کر کے دونوں شبہوں پر عمل کرتے ہوئے ان کا کلام ختم ہوا اور اگر کسی ضرورت پر اس کا فتویٰ دے

دیا تو چاہئے کہ اس میں حرج نہ سمجھا جائے طحاوی اور رد المحتار اور خزائن العلماء وغیرہ میں اسی طرح ہے واللہ اعلم بالصواب۔

(۲) مالک و داؤد اسی نے چار سال کی مدت قرار دی ہے کہ اس کے بعد اس کی بیوی نکاح کر لے جیسا کہ نظم میں لکھا ہے تو

اگر کسی نے ضرورت کی جگہ میں اس کا فتویٰ دے دیا تو میرا گمان یہ ہے کہ اس کے متعلق یہ فیصلہ ہونا چاہئے کہ اس میں کچھ

حرج نہیں۔ (۳) ابن مہبان نے منظومہ میں لکھا ہے کہ اگر اس نے ضرورت کے موقع پر فتویٰ دے دیا امام مالک کے قول پر تو جائز ہے۔

فی الواقع جوابات مذکورہ صحیح ہیں کہ عمل کرنا مذہب غیر پر مواقع ضروریہ میں حسب تصریحات فقہاء احناف بلاشبہ ثابت و جائز و معمول بہا ہے۔ کما فی الشرح الا سیحابی نا قلا عن جامع الفتاویٰ الفتی علماء نا و علماء العراق وما وراء النہر علی مذہب الشافعی و مالک رضی اللہ عنہم فی سبعة مسائل فی تکبیرات العیدین و فی الزوال فی الظهر و العصر و فی التسمیة علی رؤس کل سورة فی الصلوة و فی البلوغ خمسة عشر سنة و فی حکم تفریق امرأة الغائب باربع سنین و فی حکم النظر و اللمس للمولی کما فی المعیار (۱)

اور جناب رئیس محققین حجۃ من حج اللہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موسوی شرح الموطاء میں یہ بظ اس کو ارقام فرمایا ہے اور ان کے خلف الصدق شیخ الہند مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ نے بھی بجواب سوالات بخار اشراط جواز تقلید مذہب غیر میں مسئلہ مذکور کو بھل عبارات جامع الرموز کے ارقام فرمایا ہے فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم حررہ ابو الجمیل محمد خلیل عفی لہ اللہ ابو الجمیل محمد خلیل غفر لہ اللہ الجلیل (جواب) جو کوئی حادثہ مہلکہ میں گم ہوا وہ بھی مفقود اصطلاحی فقہاء میں داخل ہے چنانچہ وہ عبارات رجحان جس سے مجیب نے اور اس پر اعتماد کیا خود وہ بھی ایسے شخص کو مفقود میں ہی شمار کرتا ہے لہذا یہ فرمانا مجیب کا کہ یہ مفقود حادثہ مہلکہ مفقود اصطلاحی نہیں درست نہیں بلکہ مفقود میں داخل ہے اور مفقود حادثہ مہلکہ میں اور مفقود غیر حادثہ مہلکہ میں کچھ فرق نہیں باقی یہ بات کہ مفقود پر کس وقت حکم موت کا لگایا جاوے تو وہ مختلف فیہ فقہاء کا ہے کسی نے موت اقران ہی پر اعتماد فرمایا اور یہ ہی ظاہر روایت ہے اور کسی نے رائے امام کے سپرد کیا کہ جب اس کو غلبہ ظن موت اس مفقود کا ہو جاوے حکم موت دیوے اور یہ مختار زلیعی کا ہے صاحب رجحان اس رائے کو بھی ظاہر روایت میں داخل کرتا ہے کیونکہ اعتبار موت اقران میں بھی غلبہ ظن موت مفقود ہے اور یہ روایت جامع

(۱) شرح اسمعیلی میں جامع الفتاویٰ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمارے علماء اور علماء عراق و ماوراء النہر نے سات مسائل میں مذہب شافعی و مالک پر فتویٰ دیا ہے۔ تکبیرات عیدین زوال ظہر و عصر کے اوقات نمازیں ہر سورہ کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھے۔ چندہ سال کی عمر میں بالغ ہونے اور چار سال کے بعد غائب کی بیوی کے تفریق کرنے اور مولیٰ کو اپنی لوزی کے دیکھنے اور چھونے کے معاملہ میں جیسا کہ معیار میں ہے۔

افتادگی کی جس کو مجیب صاحب نے نقل کیا وہ بھی رائے بعض فقہاء کی ہے اور اس رائے کو بھی صاحب رجحان میں زیلیعی کے قول پر حمل کیا ہے تو حاصل یہ ہوا کہ ایسے مفقود کے باب میں بعد مضمیٰ ایسی مدت کے کہ ظن غالب موت کا ہو جاوے حسب مختار زیلیعی اگر حکم موت اس مفقود کا کیا جاوے تو درست ہے جس سے صاف معلوم ہوا کہ حسب آراء دیگر فقہاء یہاں بھی وہی اختلاف ہوگا الحاصل ایسے مفقود کو اصطلاحی مفقود میں فقہاء نے داخل رکھا ہے اور اس کی کہ ایسا مفقود مفقود اصطلاحی ہے تو حکم موت اس پر دینا حسب رائے زیلیعی مضائقہ نہیں کہ وہ بھی ایک رائے مفتی بہا مشائخ ہے خصوصاً اس زمانہ میں کہ احتمال فساد غالب لہذا اور باب نکاح زن مفقود اس روایت پر فتویٰ دیا جاوے تو بہتر ہے الغرض یہ لوگ مفقود اصطلاحی فقہاء میں اور بعد مضمیٰ اس مدت کے کہ ظن غالب ان لوگوں کی موت کا ہو جاوے ان پر حکم موت کا دینا درست ہے اور پھر بعد عدت کے نکاح کرنا ان کی عورتوں کو بھی جائز ہے اور پھر اگر کوئی ان میں سے آ جاوے اور اپنی عورت و مال باقی کو لے سکتا ہے اور روایات ان امور کے مجیب صاحب نے خود لکھے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

## کتاب البیوع

### خرید و فروخت کے مسائل

#### غلہ کی تجارت کا حکم

(سوال) کیا تجارت غلہ کی عموماً حرام ہے زید کہتا ہے کہ عموماً حرام ہے کیوں کہ احتکار ہے اور احتکار حرام ہے آیا قول صحیح ہے یا نہیں؟

(جواب) احتکار کی حرمت اس وقت ہے کہ عوام کو ضرر پہنچاؤے یا بد نیتی سے اپنے نفع کو عوام کے ضرر کا امیدوار ہو کر گرانی کا انتظار کرے۔ فقط ورنہ در صورت دونوں امر کے نہ ہونے کے گناہ نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### چڑھاوے کے جانور

(سوال) جو جانور قبروں پر یا تھان یا نشان جھنڈے پر چڑھائے جاتے ہیں مجاور یا کوئی اور ان کو پکڑ کر اگر بیع کرے تو ان کا خریدنا حلال ہے یا حرام اور خود چڑھانے والے کچھ تعرض بھی نہیں کرتے خواہ کوئی لے جائے اور اس قسم کے جانور بحیرہ و سائبہ میں داخل ہیں یا نہیں اور بحیرہ و سائبہ حلال ہیں یا حرام مفصل ارقام فرمائیں۔

(جواب) جو جانور مالک نے کسی بت یا تھان و قبر کے نام پر چھوڑا وہ ملک چھوڑنے والے سے نہیں نکلتا پھر اس کو اگر کوئی پکڑ کر بیع کر دیوے اور مالک منع نہ کرے اس کا خریدنا مباح ہے اور وہ حلال ہے اور جانور مجاور کو قبض کرادیا اور تملیک مجاور کی کردی وہ حرام ہے۔ اس کو خریدنا نہ چاہئے کہ وہ معصیت کی نیت سے مجاور کے پاس آیا ہے اس میں بسبب معصیت کے حرمت عقدہ بہہ کی ہوگئی ہے۔ اور بحیرہ و سائبہ کا حکم وہ ہے جو اوپر کی شق میں لکھا گیا ہے کیونکہ بحیرہ وغیرہ کا کوئی مالک نہیں کیا جاتا بلکہ بت کے نام چھوڑ دیتے ہیں۔ فقط

#### نوٹ کی خرید و فروخت

(سوال) نوٹ کی خرید و فروخت کمی یا زیادتی پر جائز ہے یا نہیں بالتفصیل ارقام فرمائیں؟

(جواب) نوٹ کی خرید و فروخت برابر قیمت پر بھی درست نہیں مگر اس میں حیلہ حوالہ ہو سکتا ہے

اور بحیلہ عقد حوالہ کے جائز ہے مگر کم زیادہ پر بیع کرنا ربا اور ناجائز ہے۔ فقط

مندر اور قبر کا چڑھاوا خریدنا

(سوال) مندر کا چڑھاوا اس کے پجاری سے خرید کرنا اور قبر کا چڑھاوا مجاور سے خرید کرنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) مندر کی چڑھی ہوئی شے خریدنا حرام ہے ایسے ہی قبر کی چڑھی ہوئی فقط واللہ اعلم۔

چڑھاوے کے جانور کا بیچنا

(سوال) نذر لغیر اللہ مرغا بکرا وغیرہ کہ جو کسی تھان یا کسی قبر یا نشان یا جھنڈے وغیرہ پر چڑھایا گیا ہو اگر وہاں کے خادم مجاور وغیرہ کسی کے ہاتھ بیع کریں تو اس کا خریدنا اور صرف میں لانا جائز ہے یا نہیں۔ در صورت علم یا بلا علم کے ارقام فرمائیں؟

(جواب) جو مرغ یا بکرا دکھانا کفار اپنے معابد پر چڑھاتے ہیں اور کافر مجاور لیتا ہے تو اس کا خریدنا درست ہے کہ کافر مالک ہو جاتا ہے اور جو مسلمان مجاور ایسی چیز لیتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا اس کا خریدنا درست نہیں اور یہ سب جواب اس حالت میں ہے کہ علم ہو اس کے چڑھاوا ہونے کا اور بدون علم کے تو مباح ہوتا ہی ہے، واللہ اعلم۔

تمباکو خوردنی و نوشیدنی کی تجارت

(سوال) تمباکو خوردنی اور نوشیدنی کی تجارت کیسی ہے؟

(جواب) جائز ہے مگر اولیٰ نہیں ہے۔ فقط۔

بدعتیوں سے کتابوں کی تجارت

(سوال) کتب غیر مذہب و مبتدعین وغیرہ کی تجارت و طبع و اشاعت کرنا کہ اس میں ابطال

مذہب حق اور تائید مذہب باطلہ ہوتی ہے منع و ناجائز ہے یا نہیں

(جواب) ایسی کتب کی تجارت حرام ہے کہ وہ خود معصیت کی اشاعت اور اسلام کی توہین ہے۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مردار جانور کی ہڈی کی تجارت

(سوال) فی زمانہ جو مردار وغیرہ کی ہڈیاں زمین پر پڑی ہوتی ہیں۔ ان کو چن کر خرید و فروخت

کرتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں کچھ خشک وتر کا فرق نہیں ہے اس میں کلاب اور خنازیر کی بھی ہڈیاں ہوتی ہیں؟

(جواب) مردار جانور کی ہڈی جب خشک ہو جائے بیع اس کی درست ہے سوائے آدمی اور خنزیر کے اور تر ہڈی مردار کی بیع درست نہیں اور مذبح کی تر بھی درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### شریت خشخاش کا بیچنا

(سوال) شریت خشخاش بیچنا جائز ہے یا نہیں اور اس کا فروخت کرنا کیسا ہے۔ اس شریت میں دانہ خشخاش اور پوست خشخاش پڑتا ہے۔ فقط۔

(جواب) شریت خشخاش کا بیچنا اور فروخت کرنا درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### زمین مزروعہ مشترکہ شرکاء میں اپنی ملک فروخت کرنا

(سوال) زید کا مملوکہ مقبوضہ ایک قطعہ اراضی مزروعہ مشترکہ شرکاء دیگر ہے کہ جس کو اصطلاح اہل ہندو دیہات میں ملک کہتے ہیں۔ زید نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ ملک پانصد روپیہ کو مثلاً فروخت کی اور زرشن اسکا اہتمام و کمال تجھ کو بخش دیا۔ زوجہ نے کہا کہ میں نے قبول کیا اندریں صورت شرعاً کیا حکم ہے آیا یہ بیع صحیح ہوئی یا نہیں۔ بیوا تو جروا۔

(جواب) یہ بیع صحیح اور وہ زمین ملک زوجہ ہوگی اور قیمت اس کی ذمہ زوجہ سے ساقط ہوگی۔ فقط

### حشرات الارض فروخت کرنا

(سوال) حشرات الارض اگر بے قیمت نہ ملے دوائی کے لئے خریدنا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) جائز للضرورة در مختار (۱) واللہ سبحانہ و تعالیٰ شانہ اعلم۔

### بغیر قبضہ کے جائیداد کو فروخت کرنا

(سوال) اس وقت میں ایسا رواج ہو رہا ہے کہ قانوناً یا شرعاً اگر کچھ حق اپنا کسی کی جائیداد سے ملنا اور ممکن الحصول سمجھتے ہیں تو اس کو بیع کر دیتے ہیں اور مشتری مول لے کر مقدمہ لڑاتا ہے یہ بیع شرعاً صحیح ہوتی ہے یا نہیں۔

(۱) ضرورت کے لئے جائز ہے ۱۲۔

(جواب) اگر کسی کا حق کسی ملک میں ہو اور وہ اس کو بلا قبضہ کے بیچ ڈالے تو یہ بیچ درست ہے

نقطہ

### تصویر دار برتن کی فروخت

(سوال) تصویر دار بکس و ڈبہ وغیرہ کے اندر جو اشیاء فروخت ہوتی ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ کو مقصود تصویر نہیں ہوتا بلکہ مجبوراً مارکہ تصویر دار لینا پڑتا ہے۔ لہذا یہ خرید و فروخت درست ہے یا نہیں؟

(جواب) اگر ڈبہ پر تصویر ہو اور اصل مقصود وہ شے ہے نہ ڈبہ تو اس بیچ میں مضائقہ نہیں ہے اور اگر بالفرض ڈبہ بھی مقصود ہو تو اس پر جو تصویر ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ اس لئے اس کی بیچ میں مضائقہ نہیں ہے۔ فقط والسلام۔

### امام باڑہ کی تعمیر کے لئے سامان بیچنا

(سوال) ایک امام باڑہ بننا ہے ایک شخص نے اپنا سامان یعنی کڑی وغیرہ واسطے تیاری امام باڑہ کے مالک امام باڑہ کے ہاتھ فروخت کر دی زید کہتا ہے کہ یہ شخص جس نے اپنی کڑی امام باڑہ کے واسطے فروخت کر دی بڑا گنہگار ہو لیا کہنا زید کا صحیح ہے یا غلط؟

(جواب) اگر کوئی امام باڑہ کے بنانے کو کڑی خرید کرے تو اس کے ہاتھ کڑی کا بیچ کرنا امام صاحب کے نزدیک درست ہے کہ مکان بنانے سے گناہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ دوسرا افضل ہے۔ مگر بہتر ہے کہ اعانت نہ کرے۔ فقط

### حرام مال والے کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا

(سوال) مال حرام مثلاً بذریعہ سود و زنا و لہو و تماشاً و صول تاشا و تجارت ممنوعات شراب و تصویر وغیرہ سے حاصل کیا ہوا ایسے مال کے عوض بیچ کرنا اور مشتری کو اس مال کا لینا حرام ہے یا حلال؟

(جواب) جس کا مال حرام ہے اس کے ہاتھ اگر اپنا حلال مال بیچ کر لیا تو حرام ہی رہے گا حلال نہیں ہو جاوے گا۔ حرام شے ہر جگہ حرام ہی رہتی ہے۔ البتہ مالک کے پاس اگر بیچ جاوے تو حلال ہو جاوے گی کہ وہاں اول بھی حلال تھی۔ پھر وہاں جا کر بھی حلال ہو جاوے گی کہ وجہ حرمت کی رفع ہوگئی۔ ورنہ جہاں تک وہ پہنچے گی حرام ہی رہے گی۔ جب تک مزمل حرمت اس کا

نہ ہو جاوے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حرام کی کمائی والوں کو کوئی چیز بیچنا

(سوال) مراٹھی یا طواف کہ پیشہ حرام سے کماتے ہیں۔ ان سے معاملہ بیع و شرعی حلال ہے یا حرام یا مکروہ وغیرہ اور مکان ان کو کرایہ پر دے دینا کیا حکم رکھتا ہے؟  
(جواب) حرام والے کے مال سے بیع کرنے سے قیمت حرام ہی ہوتی ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

### نقد میں کم ادھار میں زیادہ قیمت لینا

(سوال) قرض لینے والے کو کم دینا یعنی نقد ایک روپیہ کو دیتا ہے اور ادھار میں سو روپیہ کو دیتا ہے جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) ادھار پر کم نقد سے دینا مروت کے خلاف ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ولا تنسوا الفضل بینکم (۱) مگر مال میں حرمت نہیں آتی۔ فقط

### ادھار چیز کو زیادہ قیمت پر دینا

(سوال) کسی شے کو اس طرح بیچنا کہ اگر اس وقت قیمت دے گا تو دس روپیہ کو دے دوں گا ورنہ بعد اس قدر مدت کے مثلاً پندرہ لوں گا۔ ایک جگہ کے علماء نے عدم جواز باسناد اس روایت فقہیہ کے لکھا ہے قال فی الخلاصة رجل باع علی انه بالنقد هکذا و بالنسیة هکذا لم یجوز والی شهر هکذا او الی شهرین هکذا . اور دوسری جگہ کی علماء نے جواز اور آئینہ کس کو پسند فرماتے ہیں؟

(جواب) اس طرح بیع کرنا بشرطیکہ اسی جلسہ میں مقرر ہو جاوے کہ نسیۃ لے لیوے گا یہ نقداً درست ہے اور بیع صحیح ہے مال حلال ہے مگر خلاف مروت اور احسان کے ہے کہ فقیر پر احسان چاہئے نہ تشدد پس فعل مکروہ ہے اور بیع صحیح ہے اور معنی روایت منقولہ کے یہی ہیں کہ مجلس میں دونوں شق کی تعیین نہ ہو ورنہ در صورت تعیین درست ہے۔ پس جس نے بدیں روایت نا جائز کہا وہ مطلب سمجھ نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت نہ بھولو۔ (آیت شریف)



غریب کو کم قیمت میں اور امیر کو زیادہ قیمت میں دینا

(سوال) زید جو چیز غریب آدمی کو ایک پیسہ کو دیتا ہے وہ چیز امیر آدمی کو دو پیسہ کو دیتا ہے اس طرح فروخت کرنا زید کو درست ہے یا نہیں؟  
(جواب) زید کو ایسی تجارت جائز ہے فقط۔

قیمت معلوم کئے بغیر دو الے جانا اور بروقت حساب ادا کرنا

(سوال) اکثر بلاد میں رواج ہے کہ عطاری کی دکان پر جا کر دوائیں لیتے ہیں، اور قیمت دوایں دریافت نہیں کرتے اور عطاری اس دوایں کو کتاب حساب میں لکھ دیتا ہے اور بروقت حساب کے جو کچھ عطاری نے طلب کیا وہ دیدیا جاتا ہے پس یہ تعالیٰ ناس معتبر ہے یا نہیں اور یہ بیع صحیح ہے یا نہیں؟  
(جواب) یہ تعالیٰ صحیح ہے دوایں کو قرض لاتے ہیں اور وقت ادا کے اس کی قیمت دے دیتے ہیں پس ذمہ پر دوایں ہوتی ہے دیتے وقت اس کی قیمت ادا کر دی جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

اگر مشتری چیز پر قبضہ نہ کرے لیکن نہ قیمت دے نہ بیع فسخ کرے

(سوال) مشتری نے بیع پر قبضہ نہ کیا اور غائب ہوا یا زبردستی ثمن دیتا ہے نہ فسخ کرتا ہے۔ بائع نے بہ مجبوی بطور فضولی بیع کر دیا مشتری مدعی ہو اب کیا حکم ہے؟  
(جواب) اگر مشتری بدون ادا ثمن غائب ہو یا جبراً ادا ثمن کرے نہ فسخ تو بائع خود فسخ کر سکتا ہے۔ ولا انه بما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فإت رضاء البائع فيستبدأ بفسخه انتهى. (۱) ہدایہ۔

پس بائع نے تنگ ہو کر مبیع کو دوسرے سے بیع کر دیا فسخ بیع ہو اب مشتری کے ذمہ سے ساقط ہو گیا اور بائع پر کوئی وجہ ضمان کی نہیں اور نہ بائع فضولی ہے بلکہ خود اپنی ملک بیع کرتا ہے۔

چیز دوسری جگہ سے لا کر نفع لے کر فروخت کر دینا

(سوال) ایک شخص نے ایک دکان سے کوئی شے خریدی مگر دکاندار کے پاس نہیں تھی۔ دوسرے دکاندار سے لا کر اور اپنا منافع لگا کر دی۔ لہذا یہ صورت درست ہے یا نہیں؟

(۱) اور چونکہ خریدار ادا ثمن سے معذور رہا بیچنے والے کی رضامندی فوت ہو گئی تو اس کے فسخ کی ابتدا کر لے۔  
درست ہے۔ فقط

(جواب) اگر اس شخص سے پیشگی قیمت لے لی ہے اور اس نے اس شخص کو خریدنے کا وکیل بنا دیا ہے تو اب یہ اس سے نفع نہیں لے سکتا اور اگر خریدار نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت نہیں پھر دوسرے وقت تم آ کر لے جانا اور اس کو کہنے کے بعد دوسرے شخص سے خرید کر اس پر نفع لے لیا تو البتہ درست ہے۔ فقط

قبر کی زمین خریدنے کے بعد کس کی ملک ہوگی

(سوال) اگر مملو کہ قبرستان میں مالک نے قیمت قدر زمین قبر وراثت سے لے لی۔ پھر دوبارہ سہ بارہ بعد منہدم ہونے قبروں کے یا بحالت موجودگی یا عدم موجودگی وارثان میت و مالک زمین خود منہدم کر کے قیمت لے لیوے تو یہ بیع حلال ہوگی یا نہیں؟

(جواب) جب مالک زمین نے قدر قبر زمین کی قیمت لی تو اب وہ زمین ملک وراثت کی ہو جائے گی پھر مالک کو بیع کرنا حلال نہ ہووے گا مگر باذن وراثت میت کے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بیعانہ کا مسئلہ

(سوال) بیع نامہ اس لئے دینا کہ بائع یا مشتری معاملہ میں انکار نہ کریں یا ادائے ثمن یا تسلیم بیع میں عذر و توقف نہ کریں ورنہ عہد شکنی حربہ کا ذمہ دار ہے اور بیع فسخ ہو جائے گی جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) بیع نامہ دینا اس طرح کہ اگر بیع ہوئی تو منجملہ ثمن میں ہووے گا ورنہ ضبط ہو جائے گا ناجائز ہے۔ بقولہ علیہ السلام نہی عن بیع العربان۔ (۱) مگر جو یہ ٹھہر جاوے کہ در صورت عدم بیع کے بیعانہ واپس ہو جاوے گا درست ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ملفوظ

جو شخص اپنا حلال مال اس کو بیچے جس کے پاس حرام روپیہ ہے بائع جو مال حلال اپنا اس شخص کے ہاتھ بیچ کرے کہ مال اس کا حرام ہے تو وہ روپیہ جو ثمن مال حلال میں آوے گا بائع کے قبضہ میں وہ حرام ہی رہے گا اس کے عوض جو شے خرید کی جاوے گی اس میں بھی حرمت ہووے گی سب علماء کے نزدیک اور کھانا پینا بھی اس کا حرام ہے۔ البتہ ایک دوسری بات ہے جس میں سہارا روایات فقہاء سے نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روپیہ ثمن اگرچہ حرام

(۱) بیعانہ کی بیع سے رسول نے منع فرمایا۔

ہے مگر اس روپیہ کے ذریعہ سے اس طرح کوئی چیز خرید کی جاوے کہ قیمت مقرر کر کے شے قبض کر کے پھر یہ روپیہ قیمت میں دے دیوے تو امام کرختی نے اس بیع کو حلال فرمایا ہے اور اس پر بعض علماء نے فتویٰ بھی دے دیا ہے۔ فقط

## باب: بیع فاسد کا بیان

ایکھ بونے کے وقت اس کی خریداری

(سوال) اس دیار میں خریداری رس نیشکر کا عموماً طریقہ یہ ہے کہ موجودگی اس سے چند ماہ پیشتر بیع و شری رس کی جاتی ہے۔ بعض تو ایسے وقت میں خرید کرتے ہیں کہ ہنوز رس قابل وصول نہیں ہوتا۔ اور بعض اکیچہ بونے وقت خرید لیتے ہیں۔ پس شرط بیع سلم کے کہ جو نزدیک آئمہ اربعہ کے ہے ان یکسرن المسلمم فیہ موجود امن حین العقد. (۱) مفقود ہے اگرچہ الی حین المحل (۲) میں اختلاف ہے آئمہ میں پس اس صورت میں آپ سے دریافت ہے کہ بوجہ طریقہ عام اس دیار کے اس کو عموماً بلوئی کہہ کر جواز پر فتویٰ دیا جائے گا یا نہیں یا کہ جو حیلہ اس میں ہو سکتا ہے وہ معلوم ہو جائے یا یہ کہ وقت تقابض کے برضا مندی باہمی بیع فسخ کر کے اس ہی قیمت پر بائع سے خرید لیں مگر اس میں بائع پر ایک جبر مشتری کی جانب سے ہوگا۔ اس واسطے کہ بعد فسخ کے عندالشرع بائع کو اختیار افزونی ثمن ہوگا مگر بسبب تمسک کے جو اول مرتبہ لکھا گیا ہے۔ بائع کو مجبوراً پہلی قیمت پر دینا پڑے گا یا یہ کہ اول روپیہ قرض دے دے اور جس وقت کہ رس قابل وصول کے ہونے اس کا مقرر کر لے یا اور کوئی شکل ہو تو لکھ دیجئے تاکہ عام لوگوں کو مسئلہ سے اطلاع ہو۔ فقط

(جواب) رس کی بیع جو اس دیار میں ہوتی ہے یہ ہرگز درست نہیں نہ بطور بیع کے کہ بیع معدوم ہے اور نہ بطور مسلم کے کہ وجود مسلم فیہ کا وقت عقد کے ضرور ہے پس یہ معاملہ فاسد ہے۔ البتہ حیلہ یہ کرنا کہ ان کو روپیہ قرض دیا جائے اور بوقت مال تیار ہونے کے ایک مقدار مقرر کر کے لیا جاوے اور قرض میں محسوب کر لیا جاوے تو درست ہو سکتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) جس چیز کی بیع مسلم ہوئی ہے اس کو عقد کے وقت سے موجود ہونا ضروری ہے۔

(۲) محل کے وقت سے۔

راب کے موسم کے پہلے کسی موضع کے نرغ سے کم مقرر کرنا

(سوال) یہاں پر دستور ہے کہ نرغ مال راب کا ماہ اسازھ میں مقرر کر لیتے ہیں اور ایک گاؤں شاہ نگر ہے وہاں کے نرغ سے ایک روپیہ یا بارہ آنہ فی من کی پر مقرر کیا جاتا ہے اور شاہ نگر کے نرغ پر نرغ ٹھہرایا جاتا ہے اور کسی قدر روپیہ یا نرغ راب کو دیا جاتا ہے بعد کو بروقت تیاری راب کے روپیہ دیا جاتا ہے یہ نرغ شاہ نگر پر مقرر کرنا اور کمی فی من بارہ آنہ یا آٹھ آنہ مقرر کر لینا کیسا ہے آیا حرام ہے یا سود یا جائز ہے۔

(جواب) اس طرح سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بیع فاسد ہے فقط

پھول پھل کی تیاری سے پہلے نرغ مقرر کرنا

(سوال) بہار باغ بروقت آنے مول یعنی پھول کے اس کی بیع کر دے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بروقت پختہ ہونے عنقریب چنگلی ثمر اس کی کے بیع کر دے تیسری شکل یہ ہے کہ بروقت آنے پھول درختاں انبہ معہ جملہ اراضی اس کی خواہ ایک سال خواہ دو سال کو بیع کر دے۔ اندر میں صورت جیسا کہ حکم شریعت ہو محرر فرماویں۔ چونکہ یہ امر دینی ہے اس واسطے آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ بہار باغ میں سب شے ہے اور وہ وقتاً فوقتاً آتی ہے اس کے بلا مین آنے بہار کے غیر موسم میں مع درخت تین چار سال کو بطور ٹھیکہ کے دیا گیا۔ اب وہ اس طور سے جیسا کہ مندرجہ عریضہ ہے شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟

(جواب) جواب آپ کے مسائل کا یہ ہے اول بیع کرنا مول کا درست نہیں اور یہ بیع کرنا باطل ہے اس واسطے کہ بیع یہاں ثمر ہے اور اس کا کہیں وجود نہیں اور معدوم کی بیع باطل ہے۔ فقط

دوسرے اگر ثمر نکل آیا اور وہ قابل نفع کے ہو گیا تو اس کی بیع جائز ہے اسی وقت کاٹ لے اور اگر شرط رکھنے کی ہوگی جیسا کہ دستور ہے تو بیع فاسد ہوگی اور اگر ثمر ایسا ہو گیا کہ اب زیادہ نہ بڑھے گا تو اس کی بیع درست ہے کیونکہ اس کے سب اجزاء موجود ہو چکے ہیں۔ فقط تغیر وصف باقی ہے۔ اور یہ اخیر شکل امام محمد صاحب کے یہاں درست ہے اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ بھی درست نہیں مگر امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں دیا گیا اور زمین مع درخت کے بیع کرنا ایک دو سال کے واسطے یہ بیع فاسد ہے اس واسطے کہ اس میں شرط بعد دو سال ہٹا لینے کی ہے اور یہ شرط مفسد عقد بیع ہے۔ لہذا درست نہیں اور اگر فقط درختوں کو اجارہ دیا گیا ایک

سال یا دو سال یا کم زیادہ کے لئے تو یہ بھی درست نہیں۔ کیونکہ اجارہ درختوں کا جائز نہیں البتہ اگر زمین مع درختوں کے اجارہ دی جاوے۔ میعاد معین تک تو درست ہے اس صورت میں جتنا کچھ پیداوار زمین کی یا درختوں کی ہوگی وہ مستاجر لیوے گا اور اجارہ معین الگ ملے گا اس طرح سے شرح مذاہب اس واسطے ذکر کیا ہے کہ مولوی محمد شفیع صاحب وہاں ہیں۔ شاید دیکھ کر ان کو اشتباہ پیدا ہوتا۔ فقط والسلام۔

### کتب کا حق تصنیف ہبہ یا بیع کرنا

(سوال) حق تصنیف کتب کا ہبہ یا بیع یا ممنوع کرنا جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) حق تصنیف کوئی مال نہیں جس کا ہبہ کرنا یا بیع ہو سکے۔ لہذا یہ باطل ہے لا یحوز الا عتیاض عن الحقوق المجردة اشباہ (۱) واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کسی کے مال سے خرید کردہ چیز کی بیع کا حکم

(سوال) مال کسی سے خرید کردہ شے کو خریدنا درست ہے یا نہیں؟  
(جواب) یہ مال حرام ہے اور اس کی خرید و فروخت نادرست ہے۔ فقط

### چوری کا مال خریدنا!

(سوال) چوری کا مال خریدنا درست ہے یا نہیں؟  
(جواب) جب چوری کا مال یقیناً معلوم ہے تو اس کا خریدنا ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بازار میں عموماً ملنے والی چیز کے نمونہ پر نرخ مقرر کرنا

(سوال) جو چیز بازار میں ہر وقت فروخت ہوتی ہیں، ان کے نمونہ پر معاملہ بیع کر کے معین وقت میں مشتری کو دینا جائز ہے یا نہیں بیع مطلق ہو یا مسلم۔

(جواب) جو شے بازار میں ہر وقت فروخت ہوتی ہے مگر بائع کی ملک بالفعل نہیں اس کی بذریعہ نمونہ بیع مطلق کرنی درست نہیں بقولہ علیہ السلام ولا بیع (۲) فیما لیس عندک اور سلم کرنا بشرائط مسلم اگر سب شرائط موجود ہوں درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) مجرد حقوق کا عوض لینا جائز نہیں۔ اشباہ۔

(۲) جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس میں خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ ۱۲۔

## باب: بیچ میں کون سی چیز داخل ہوتی ہے اور کون سی نہیں

عام سڑک میں سے کچھ حصہ میں مکان یا مسجد بنانا

(سوال) سابق سے ایک شاہراہ عام تھا اس کے کچھ حصہ میں ایک شخص نے اپنے مکان کے آگے اس راستہ میں کچھ چبوترہ بنایا۔ اہل محلہ نے سرکار میں عرضی دی حاکم وقت نے موقع دیکھا اس شخص نے جھوٹا اظہار کیا کہ یہ چبوترہ پندرہ یا بیس برس کا بنا ہوا ہے تو یہ اس شخص نے جھوٹ بیان کیا کیونکہ ایک سال کا تھا نہ بیس سال کا مگر تب بھی حاکم نے حکم دیا کہ اس چبوترہ کا نصف حصہ دو کر دو پھر اس نے کاٹ کر بعد چند روز کے پھر سابق سے بھی زیادہ تیار کیا پھر وہاں پر کچھ تھوڑے سے حصہ میں ایک جانب کو ایک مسجد تیار کی۔ اور غالباً قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد چونکہ لائق تعظیم کے ہے تو شاید مسلمان اس پر عرضی حاکم کے یہاں نہ دیں تو میرا چبوترہ بھی بہانہ مسجد سے رہ جائے گا۔ اب بعد کو اس موقع پر کلکٹر آیا اس نے جو شخص عرضی دہندہ تھے ان سے کہا کہ راستہ تو اب بھی وسیع ہے تمہارا کیا حرج ہے۔ جاؤ چلے جاؤ۔ اب بعد دو سال کے اس شخص نے چبوترہ کا مکان بنوایا تو جو شخص بروقت تعمیر اس چبوترہ کے نالغ ہوئے تھے ان سے دریافت کیا کہ اب تم لوگ اجازت دیتے ہو کہ میں مکان بنا لوں ان مانعین نے اجازت دے دی اور رضامندی ظاہر کی اول میں یہ راستہ اتنا وسیع تھا کہ تین گاڑی برابر ایک دفعہ ہی نکل جاتی تھیں۔ اب بھی راستہ بخوبی ہے ڈیرھ گاڑی کا ہے۔ اگر وہ دو گاڑی ایک وقت آجاویں تو ایک دفعہ نہ نکل سکیں گی بلکہ دس پانچ قدم پیچھے ہٹا کر جہاں راستہ وسیع ہے نکال لیں گے۔ اس راستہ کے مالک اول زمیندار تھے ایام بندوبست میں سرکار جبراً مالک ہو گئی تو حضور فتویٰ دیں کہ یہ مکان و مسجد جائز ہے یا نہیں اور وہ شخص غاصب ہے یا نہیں اگر اجازت زمیندار ان کافی ہے تو سب کی اجازت چاہئے یا بعض کی بھی کافی ہے کیونکہ زمیندار ان مشترک ہیں۔

(جواب) جب سب لوگ رضامند ہو گئے ہیں تو وہاں مسجد بنانا درست ہے (۱) اور مکان بھی بنانا درست ہے جھوٹ کا گناہ اس شخص پر ہے مگر مکان و مسجد میں کوئی خرابی نہیں ہے اور یہ شخص غاصب نہیں ہے مگر سب کی رضامندی درکار ہے چند کی رضامندی کافی نہیں ہے۔

(۱) ترجمہ فتاویٰ ابوالیث میں ہے کہ اگر راستہ میں وسعت ہو اور اہل محلہ نے مسجد بنالی اور اس سے راستہ میں کچھ نقصان نہیں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

## سڑک کا ایک کونہ مکان میں داخل کرنا

(سوال) ایک کوچہ بند کے درمیان میں ایک شخص کا مکان ہے اور اس مکان کے سامنے ایک گوشہ پڑا ہوا ہے اگر وہ شخص اس گوشہ کو بلا اجازت سرکار اور بلا اجازت اہل محلہ اپنے مکان میں ملا ليوے تو عند اللہ ماخوذ ہوگا یا نہیں۔

(جواب) اگر کسی کا حرج نہ ہو تو اس قطعہ کے شامل کرنے میں مضائقہ نہیں ہے اور اگر حرج ہوتا ہو یا باوجود عدم حرج کے اگر مزاحمت کریں تو پھر شامل نہیں کر سکتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سڑک میں سے کچھ حصہ مکان کے لئے لینا

(سوال) شارع عام کس کی ملکیت ہے شرعاً اور کس کی اجازت سے کچھ حصہ اپنے مکان میں داخل کرنا یا اس میں مسجد بنوانا جائز ہے جو زمیندار یا اہل محلہ اس پر ہوتی ہے کی تعمیر کے وقت خاموش رہے ان کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں جو شخص کہ بروقت تعمیر مانع ہوا تھا اگر وہ قلب میں راضی ہو اور ظاہراً اجازت نہ دی ہو تو اس کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں رضامند کرنا انہیں لوگوں کا ضرور ہے جو بروقت ابتداء تعمیر کے مزاحم تھے یا جواب بعد تمام ہونے کے اور چند سال کے بعد غیر رضامندی ظاہر کریں تو ایسوں کا رضامند کرنا بھی ضروریات سے ہے یا نہیں کیونکہ پہلے سے اس نے اپنی نارضامندی کیوں ظاہر نہ کی اس قبضہ میں اکثر جاگتا رہتا ہے کہ جتنا اس موقع متنازع میں ہے اب حضور قول فیض تحریر فرماویں۔

(جواب) شارع عام کسی کی ملک نہیں ہوتا جو لوگ خاموش ہے وہ بھی رضامند ہی رہے ہوں گے صریح زبانی اجازت درکار نہیں ہے بلکہ اعتراض نہ کرنا اور سکوت کرنا کافی ہے مگر سب کی رضا مندی درکار ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ملفوظات

### شارع عام میں سے کچھ حصہ مکان کے لیے لینا

۱۔ شارع عام میں سے کچھ اپنے مکان میں شامل نہیں کر سکتے خاص کر جب کہ اور لوگ ناخوش ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۔ بعد خریدنے مکان کے جو روپیہ نکلا وہ بائع ہی کا ہے کیونکہ اس نے روپیہ نہیں بیچا صرف مکان بیچا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## باب: سود کے مسائل کا بیان

منی آرڈر سے روپیہ بھیجنا

(سوال) مسئلہ ہمارے دیار میں علماء کے دو فرقہ ہیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ روپیہ منی آرڈر بلا ملانے پیسہ کے حرام اور سود ہے البتہ اگر پیسہ مل جاوے گا تو مباح اور جائز ہے دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ حلال مطلق اور جواز میں کچھ شبہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم سرکار کو مزدوری دیتے ہیں۔ آپ محاکمہ شرع شریف کی رو سے جو کچھ بیان فرمیں۔

(جواب) روپیہ منی آرڈر میں بھیجنا درست نہیں ہے خواہ اس میں کچھ پیسہ دیئے جائیں یا نہ دیئے جائیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

منی آرڈر میں روپیوں کے ساتھ پیسے بھیج دیں تو جائز ہوگا یا نہیں

(سوال) منی آرڈر میں کچھ روپے ہوں اور کچھ پیسے تو جواز کے لئے یہ حیلہ کافی ہے یا نہیں؟  
(جواب) منی آرڈر درست نہیں جیسا ہنڈی درست نہیں دونوں میں معاملہ سود کا ہے۔ فقط

کفار سے سود لینا

(سوال) ان بلا وجر بہ میں نصاریٰ کو اپنا روپیہ دے دینا اور اس پر سود لینا جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) کفار سے بھی سود لینا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

منی آرڈر کا محصول ادا کرنا

(سوال) منی آرڈر کرنا اور محصول منی آرڈر کا دینا جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) بذریعہ منی آرڈر روپیہ بھیجنا درست ہے اور داخل ربوہ ہے اور یہ جو محصول دیا جاتا ہے نادرست ہے۔

منی آرڈر کے جواز کے لئے حیلہ شرعی

(سوال) اس زمانہ میں جو منی آرڈر کے بھیجنے کا رواج ہو رہا ہے اس کے جواز کے لئے بھی کوئی حیلہ شرعی ہے یا نہیں کہ اس میں عام و خاص جبتلا ہو رہے ہیں۔



(جواب) حیلہ بندہ کو معلوم نہیں فقط۔

منی آرڈر کے بجائے رقم بھیجنے کا دوسرا طریقہ

(سوال) اگر منی آرڈر منخ ہے تو پھر روپیہ کس طرح بھیجنا چاہئے؟

(جواب) روپیہ بھیجنے کی آسان ترکیب نوٹ کور جسٹری یا بیمہ کرا دینا ہے۔

منی آرڈر اور ہنڈوی کا فرق

(سوال) منی آرڈر اور ہنڈوی میں کچھ فرق ہے یا دونوں کا ایک حکم ہے اور منی آرڈر اور ہنڈوی کرنا اگر ناجائز ہے تو روپیہ کس طرح بھیجیں اور کتابوں کا محصول وی پی اے میں جو دیا جاتا ہے یہ بھی ایسا ہے یا فرق ہے اس کی تفصیل منظور ہے۔

(جواب) منی آرڈر اور ہنڈوی میں کچھ فرق نہیں دونوں کا ایک حکم ہے منی آرڈر کرنا سود میں داخل ہے اور جو شخص کسی کے پاس روپیہ بھیجنا چاہئے بطور بیمہ کے یا نوٹ خرید کر بھیج سکتا ہے اور کتابیں جو منگائی جاتی ہیں اس میں حیلہ ہو سکتا ہے کہ اس شے کی اجرت محصول و بلیوے اے میں کا خیال کیا جاوے اور منی آرڈر میں خیال حیلہ کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عین شے نہیں پہنچتی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہنڈوی کے عدم جواز کی وجہ

(سوال) ہنڈوی کی اجرت جائز ہے اور ضمان خواہ بوجہ غلط ہے یا شرط لغو؟

(جواب) ہنڈوی جو کرتے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ ہنڈوی والا وہ روپیہ جو دیتا ہے روانہ نہیں کرتا بلکہ یہ روپیہ بطور قرض اس کو دیا جاتا ہے اور بقال اس کا حوالہ دوسرے اپنے حوالہ دار پر کرتا ہے پس اس صورت میں اجرت ہنڈوی کی کچھ معنی نہیں بجز ربوا کے کیونکہ سو روپیہ کی ہنڈوی کرنے والے نے ہنڈوی کرا کر تو سو روپیہ لیا ایک روپیہ ہنڈاوان جو دیا اور لیا وہ زاید تھا تو ایک سو ایک کی جگہ سو آیا یہ ربوا ہوا اور بقال کا غلط کرنا کیا مضر ہے جب وہ مستقرض ہو کر بعد قبض مالک ہو گیا اب جو چاہے کرے ضمان بقال سے قرض لینے سے ہوا نہ غلط سے اب شرط ضمان لغو ہوئی خواہ غلط کرے یا نہ کرے شرط ہو یا نہ ہو بہر حال ضمان ہو گیا اور عقد ربوا ہوا ہاں کوئی حیلہ کرے اور ربوا سے بری ہو جاوے تو دوسری بات ہے اس واسطے فقہا ہنڈوی کو حوالہ میں لکھتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

## بینک میں روپیہ رکھنے کا مسئلہ

(سوال) میرا ارادہ ہے کہ آٹھ چار صد روپیہ محکمہ ڈاک خانہ میں رکھ کر سود حاصل کروں جس طرح قانون ڈاک خانہ ہے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب دہلوی اور بہت سے علماء لاہور نے بھی فتویٰ اخذ رو نصاریٰ سے دیا ہے چونکہ از کتب (۱) فقہ مثل محیط و قیہ وغیرہ ظاہر میثود کہ اخذ روئی از نصاریٰ و اہل حرب جائز شدہ و نیز تعریف دار سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان دارالہرب ہے اور نصاریٰ از بی پس بہو جب فقہ شریف بیضاوی تو جروا۔

(جواب) بینک میں روپیہ داخل کرنا جیسا کہ بعض علماء دار کہتے ہیں درست نہیں ہے اور یہ عدم جواز عام ہے خواہ سود لے یا نہ لے دونوں صورتوں میں نادرست ہے اور صورت ثانیہ عبداللہ صاحب لاہوری وغیرہ علماء جم غفیر نے اگرچہ اس کو جائز رکھا ہے مگر واقع میں یہ بھی اعلاۃ علی المصیۃ ہونے کی وجہ سے نادرست ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سود نہ لیتے ہوئے بینک میں روپیہ رکھنا

(سوال) بینک میں روپیہ جمع کرنا جب کہ سود نہ لیوے جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) بینک میں روپیہ داخل کرنا نادرست ہے خواہ سود لے یا نہ لے۔

## بینک کے سود کا صحیح مصرف

(سوال) ایک شخص کو سرکار کے بینک گھر سے اس کے روپیوں کا سود آتا ہے آیا اگر یہ سرکار سے سود لے لیا کرے اور آپ نہ کھاوے محتاجوں کو دے دیا کرے یا کسی غریب جنگدست کے گھر میں کنواں لگوا دے تو یہ شخص سود خوروں میں گنا جاوے گا یا نہیں اور محتاجوں کو روپیہ سود کا یا کنویں کا پانی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں فقط۔

(جواب) سود لینا کسی حال میں جائز نہیں سود کا لینا ہر حال میں حرام ہے۔ چنانچہ قرآن شریف و حدیث میں اس کے قبائح مذکور ہیں سو بندہ کسی طرح اجازت نہیں دے سکتا مگر ایک حیلہ شرعی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ سرکار بہت سے محصول اپنی رعایا سے لیتی ہے کہ ہماری شریعت میں اس کا لینا جائز نہیں گو قانون انگریزی سے وہ خلاف نہیں ہیں مگر شرعاً محمد ﷺ میں ظلم ہے اور ناجائز ہے اور مستحق رو ہے سو یہ شخص یوں خیال کرے کہ جو غریب رعایا سے سرکار (۱) چونکہ کتب فقہ مثل محیط و قیہ وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہارنی اور اہل حرب سے سود لینا جائز ہے۔

نے محصول خلاف شرع لیا ہے اس کو میں سرکار سے مسترد کرتا ہوں اور پھر اس کو وصول کر کے انہیں لوگوں پر تقسیم کر دے جن سے سرکار نے کچھ بلا اذن شرع لیا تھا ایسی نیت میں شاید حق تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں

(سوال) ہند بقول امام یا صاحبین کیا دارالحرب ہے اگر نہیں تو مولانا محمد اسماعیل صاحب دہلوی نے صراط مستقیم میں کس وجہ سے عصر ماضیہ میں اکثر کی نسبت ایسا لکھا ہے اور فقہ سابقہ میں اکثر اکابر اعلیٰ کلمۃ اللہ کی طرف کیوں مائل تھے اگر مستثنین قرار دے کر ارتقاع امام کو علت کہا جائے تو یہ بھی محل تامل ہے۔

(جواب) ہند کے دارالحرب ہونے میں اختلاف علماء کا ہے بظاہر تحقیق حال بندہ کی خوب نہیں ہوئی حسب اپنی تحقیق کے سب نے فرمایا ہے اور اصل مسئلہ میں کسی کو خلاف نہیں اور بندہ کو پھر خوب تحقیق نہیں کہ کیا کیفیت ہند کی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کل کی بنی ہوئی چیزیں کس عدد میں ہیں

(سوال) کل کی بنی ہوئی چیزیں جن میں باعتبار نمبر و کارخانہ وغیرہ کی صورت و صفت و قیمت میں کچھ فرق نہیں ہو تا عددی متقارب ہیں یا نہیں؟

(جواب) کل کی بنی ہوئی شے عددی ہے کیونکہ حد متقارب یہ ہے کہ اس کے اعداد میں تفاوت بے ہر ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کوڑیاں اور پیسے جزء روپیہ ہیں یا نہیں

(سوال) گنڈے روپیہ کے جزء نہیں پس ان میں تقاضل بابت ہے یا نہیں مگر آنے روپیہ کے اجزاء نہیں اور تقاضل ان میں مستنع۔

(جواب) گنڈے خواہ فلوس کے ہو ویں خواہ خر مہرہ کے جزء روپیہ کے نہیں ہاں نسبت روپیہ کے سے ہوتے ہیں البتہ دو آنہ کی چاندی اور چار آنہ کی چاندی جو شکوک چاندی ہے وہ جزء روپیہ اگر کہا جاوے تو بجا ہے پس اس کے بعد اس کے معلوم ہو کہ فلوس و خر مہرہ سب عددی ہیں۔ اگر اپنی مثل سے مبادلہ کیا جاوے مثلاً ایک فلوس عوض ایک فلس یا دو کے تو درست ہے کیونکہ اتحاد جنس ہے

مگر کیل و وزن نہیں تو تفاضل سب درست ہے مگر نیہ حرام ہے اور فلوس نقدیہ اجزاء روپیہ کے ہونے سے فلسیہ سے نہیں نکلتے اور مس سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ پس بہر حال تفاضل روا ہے مگر دست بدست ہونا چاہئے اور یہ مذہب شیخیں کا ہے اور یہ قوی ہے ثمنیہ رائے امام محمد کی ہے اس فلوس میں بطور گندے اور بطور آنے کے ہر حال تفاضل سے بیع کرنا روا ہے۔ بشرطیکہ یہ ایدہ ہو اس میں کچھ فرق نہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کافر کو سود دینا

(سوال) کافر سے قرض روپیہ لے کر اس کو سود دینا ایسی حالت ضرورت میں کہ جائیداد اپنی اگر فی الحال فروخت کرتا ہے تو ہزار کا مال پانچ سو روپیہ میں کم و بیش میں بکتا ہے۔ الغرض غبن فاحش ہوتا ہے جائز ہے یا مکروہ تنزیہی یا تحریمی یا حرام مثل سود لینے کے گناہ صغیرہ یا کبیرہ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ مسلمان سے روپیہ لے کر اس کو سود دینا تو گناہ ہے لیکن ہندو یا کافر کو سود دینا گناہ نہیں اس سبب سے کہ سود کا لینا اصل میں گناہ ہے باقی اوروں پر جو حدیث شریف میں وعید وارد ہوا ہے تو سبب اس کا یہ ہے کہ وہ وبال و باعث ایک مسلم کے ارتکاب گناہ سود خوری کی ہوئے جس صورت میں لینے والا مکلف باشرع نہیں ہے۔ پھر دلالت پر گناہ نہ ہوئے لہذا کافر کو سود دینا ممنوع نہیں مومن کو اس گناہ میں مبتلا کرنا البتہ گناہ ہے۔

(جواب) غبن فاحش سے بیع کرنا چاہئے مگر ربوہ دینا نہیں چاہئے کیونکہ نقصان مال سہل ہے نقصان دین سے کیونکہ ربوہ ایسی حال میں بھی کراہت اور حرام ہی ہے ربوہ دینا مسلمان اور کافر کو دونوں کو حرام ہے۔ ہجوم الص اور یہ تقریر مسائل غلط ہے۔

### اصلی علت سود

(سوال) جو مقدار بطور نمونہ عطر میں صرف ہوتی ہے معتبر نہیں اور چاندی میں اس قدر زیادتی ربوہ ہے اور چاندی امتحان میں سوخت ہو جاتی ہے اور لختی زیادتی جو اہرات میں ربوہ ہے۔ (جواب) ربوہ کی علت جنس و قدر ہے اگر دونوں جمع ہو جاویں تو تفاضل و نساء دونوں حرام ہیں۔ پس دس روپیہ کا جو زیور خرید کیا جاوے اس میں مطلقاً زیادہ نہ ہووے اور جو امتحان میں مثلاً آگ میں کچھ کم ہو گیا وہ بیع سے خارج ہے اس کا اعتبار نہیں اور جو سونے کا زیور ہے اس سے زیادہ لینا درست ہے اگر دست بدست ہو۔ علیٰ ہذا دیگر اشیاء کا حال ہے۔ اور جو اہرات کو اس ہی قسم کے

جواہرات سے بدلنے میں یہ رعایت رہے گی اور عطر کو لیتے ہیں اور عطر کو اور جواہرات کو عوض روپیہ کے خرید کرتے ہیں اس میں کچھ ضرورت مساوات کی نہیں نہ یاد ابید کی فقط چاندی میں زرہ دو ذرہ کو اعتبار سے خارج کیا ہے تو ایسی مقدار باہم جنس بدلنے میں تو مفید ہے اور اس قدر سے زیادہ اگر ایک جانب ہووے اس کی رعایت ضروری ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

آٹے میں ملاوٹ ہو تو کیا کیا جائے

(سوال) کبھی سے آٹا خرید کیا پکانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں میل تھا اس کو جب واپس کیا گیا تو اس نے اور آٹا زائد اسی میں کا دے دیا یہ لینا درست ہے یا نہیں۔  
(جواب) اگر وہ ملاوٹ اسی قدر تھا تو اس کا معاوضہ لینا درست ہے اور اگر سیر فرق تھا تو اس کے عوض میں اس قدر تاوان لینا درست نہیں ہے۔ فقط

## باب: بدلتنی کا بیان

کوڑیوں اور پیسوں میں بدلتنی جائز ہے یا نہیں

(سوال) کوڑیوں و مروج پیسہ ٹن میں داخل ہیں یا نہیں اور سلم ان میں جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) خرمہرہ اور فلوس نقد میں داخل نہیں عندا شیخین رحمہما اللہ اس کی سلم بھی درست ہے مگر امام محمد رحمہ اللہ فلوس کو نقد فرماتے ہیں اور سلم کو اس میں ناجائز کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ سلم حسب مذہب شیخین درست ہے مگر موجب تہمت اور عوام کے نزدیک سبب طعن کا تو احتیاط چاہئے۔ فقط رشید احمد عفی عنہ۔

## باب چیزوں سے الٹ پھیر کرنے کی بیع کا بیان

سونار کا نیارہ چاندی سونے کا کیسے خریداجائے

(سوال) سونار وغیرہ کا نیارہ چاندی سونے کا ہوتا ہے تو کس طور سے بیع و شرا کرنی درست ہے۔  
(جواب) یہ بیع سونے چاندی یعنی روپیہ اشرفی سے تولنا جائز ہے لیکن پیسے اگر قیمت میں دیئے جاویں تو جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

روپیہ کو خوردہ سے بدلنا

(سوال) آج کل صرف لوگ روپیہ کے تبادلہ میں پیسے کی سے دیتے ہیں روپیہ کا مبادلہ پیسوں اور خوردہ سے درست ہے یا نہیں بعض علماء مثل سود کے فتویٰ دیتے ہیں؟  
(جواب) روپیہ کا مبادلہ اگر خوردہ (۱) سے ہو تو اس میں کمی زیادتی نادرست ہے اور اگر پیسوں سے مبادلہ ہو تو کمی زیادتی درست ہے یعنی روپیہ کے ۱۴ بھی درست ہیں اور ۱۵ بھی فقط۔

کلاتبویٰ خرید و فروخت

(سوال) کلاتبویٰ جو بنتا ہے سو تولہ میں قریب باسٹھ ۶۲ روپے کے تو چاندی اور قریب سستیس ۳۷ روپیہ کے ریشم اور قریب ایک تولہ کے سونا ہے اگر دس روپیہ کا ہم نے آٹھ روپیہ بھر کلاتبویٰ کو خرید اتو اس کی وزن سے یہ کلاتبویٰ کا خریدنا جائز ہے یا نہیں اس زیادتی قیمت کے ہونے اور ریشم سے تاویل ہو جائے گی یا نہیں اور بعض کلاتبویں بجائے ایک تولہ کے چھ ماشہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی درست ہو گا یا نہیں؟

(جواب) سونا اس کے اندر مستحکم ہو جاتا ہے اور وہ ریشم اس قدر قیمت کا نہیں ہے کہ روپیہ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ حرام تو نہیں مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ کذافی الہدایہ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ملفوظ

جانماز و درمی وغیرہ اگر سرکار قیدیوں سے بنوائے تو اس کا استعمال کرنا اور اس پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر ملازمین قہر انہود میں اس کو خریدنا اور اس پر نماز پڑھنا جائز ہے بیچ صرف زبان سے ایجاب و قبول کرنے سے ہو جاتی ہے اور بیچ میں قبضہ شرط نہیں ہے صرف ایجاب و قبول کرنے سے ملک مشتری کی ہو جاتی ہے اور ہبہ بغیر قبضہ کے منعقد نہیں ہوتا ملک و اہب اس شے پر باقی رہتی ہے۔ والسلام۔

(۱) یعنی اس جنس کے چھوٹے جیسے اشیا چونیاں وغیرہ۔

## کتاب الدعوی

### دعویٰ کے مسائل

#### مہر کا دعویٰ سسر پر

(سوال) زید بھرا کیس ۲۱ سال باپ کی حیات میں لا ولد فوت ہو گیا اور وہ باپ سے علیحدہ رہتا تھا باپ نے کچھ جائیداد وغیرہ میں سے اس کو حصہ نہیں دیا۔ اب زید و اثاثا البیت چھوڑ کر مرا اس کی زوجہ کے پاس رہا اب زوجہ مذکورہ اپنے خسر سے مہر طلب کرتی ہے آیا از روئے شرع شریف کے اس کو خسر سے پہنچتا ہے یا دعویٰ اس کا باطل ہے۔ فقط

(جواب) چونکہ زید رو برو اپنے والد کے فوت ہو گیا ہے والد کے ترکہ میں سے زید کو کچھ نہیں مل سکتا بلکہ زید کے ترکہ میں سے بعد ادائے دین مہر زوجہ اور تجہیز و تکفین شرعی اور وصیت اگر کی ہو تو تین ربع اس کے والد کو ملتے ہیں اور ایک ربع اس کی زوجہ کو پس مہر زوجہ کا ترکہ زید پر ہے نہ اس کے باپ پر پس باپ زید سے طلب کرنا زوجہ کا مہر اپنا بالکل غلط اور دعویٰ باطل۔ البتہ اگر والد زید نے زید کے ترکہ میں سے کچھ لے لیا ہو اور ترکہ مقدار مہر سے کم ہو تو اس شے کو والد زید سے زوجہ زید واپس لے سکتی ہے اور نہ والد زید پر کچھ حق زوجہ زید کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### کسی کا سکوت اس کے قبول کرنے کی دلیل ہے یا نہیں

(سوال) ملازم نے اپنی تحریر بھیجی کہ میری تنخواہ پر اگر اس قدر ترقی کرو تو تمہارے پاس رہوں گا ورنہ نہیں اور سکوت آپ کا تسلیم کی جگہ جانا جاوے گا نہیں تو مجھے ابھی علیحدہ کر دو اس تحریر کی بعد وہ مالک ساکت ہو گیا اور یہ ملازم ترقی کے گمان میں رہا بلکہ اپنے احباب میں ترقی کی اطلاع دے دی اب علیحدگی کی نزاع ہوئی پس دعویٰ زید کا بموجب تحریر مسطور کے شرعاً صحیح یا غیر صحیح؟

(جواب) اس کا دعویٰ درست نہیں۔

## کتاب: اجرت کے مسائل

کلام اللہ کے ختم کا ہدیہ

(سوال) اجرت پر ختم کلام اللہ شریف کرنا ایسے لوگوں سے جنہوں نے محض اپنی روزی اس کو ہی ٹھہرایا ہے ناجائز ہے یا نہیں؟

(جواب) قرآن کے پڑھانے کی اجرت کے جواز پر تو فتویٰ متاخرین کا ہے سو اس میں کیا تکرار ہے مگر ایصال ثواب کرنے کو پڑھ کر اجرت لینا حرام ہے کہ اجرت علی الطلحہ ہے تعلیم کی اجرت تو ضرورہ جائز کی گئی ہے ایصال ثواب میں نہ ضرورت ہے نہ کوئی حرج دنیا دین کا متصور ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرآن شریف کے ختم پر نذرانہ لینا

(سوال) زید کہتا ہے کہ قرآن پر اجرت لینا خوب ہے اور ثواب اس کے پڑھنے کا جو کہ اجرت لے کر پڑھا جاتا ہے مردہ کو پہنچتا ہے اور دلیل اس کی حدیث سے ثابت کرتا ہے اور مضمون حدیث یہ ہے کہ ایک جگہ پر اصحاب رسول ﷺ گئے تھے وہاں ایک شخص کو سانپ نے کاٹا تھا ان صاحبوں نے تمیں بکری ٹھہرائیں اور اس پر الحمد شریف پڑھی اور حضرت ﷺ نے اپنا حصہ اس میں ٹھہرایا یہ بھی تو قرآن پر اجرت ہوئی اور کیا ہوا اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مزدوری خوب ہے بکر یہ کہتا ہے کہ اجرت پر قرآن پڑھنے کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچتا ہے اصل کس طرح پر ہے اور یہ حدیث کس طور پر ہے اور قرآن اجرت پر پڑھنے والا گنہگار ہے یا نہیں اور پڑھوانے والا اور اجرت دینے والا گنہگار ہے یا نہیں؟

(جواب) قرآن کی تعلیم پر اجرت لینے کا فتویٰ متاخرین نے دیا ہے مگر قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانے کی اجرت کسی کے نزدیک حلال نہیں ہے اور سانپ کاٹے پر پڑھ کر پھونکنا علاج ہے نہ عبادت علاج کرنا مباح ہے نہ مستحب نہ واجب پس علاج مباح کے واسطے پڑھنے میں ثواب نہیں بلکہ توکل کر کے علاج کا ترک اولیٰ کے پس اس پڑھنے پر جواز مباح ہے اور ترک اس کا اولیٰ ہے قیاس کرنا عبادت کے پڑھنے کو بڑے تعجب کی بات ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے پس زید کا قول غلط ہے وہ حدیث کا مضمون نہیں سمجھا کہ علاج کو عبادت کا مقبیس علیہ



بناتا ہے۔ فقط

## قرآن شریف کے ختم کا ہدیہ لینا

(سوال) زید کہتا ہے کہ وہ جو اجرت پر قرآن پڑھ کر ثواب مردہ کو بخشا ہے دو یا چار روپیہ لیتا ہے کون سی خطا کرتا ہے حدیث قرآن کے پڑھانے والے تو چالیس ۴۰ چالیس ۴۰، پچاس ۵۰ پچاس ۵۰ روپیہ لیتے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا یہ بھی تو اجرت قرآن پر ہوئی بکر خاموش ہے اس کا جواب جناب سے چاہتا ہے۔

(جواب) کتب فقہ میں پڑھانے و تعلیم کی اجرت کو جائز لکھا ہے اور مردہ پر پڑھنے کی اجرت کو حرام لکھا ہے اور وجہ اس کی علماء و محدثین جانتے ہیں جہاں کا کام مسئلہ کتب میں دیکھنے کا ہے نہ حجت پوچھنے کا حکم خدا تعالیٰ کا ماننا چاہئے نہ دلیل مانگنی اب وہی بتا دے کہ ظہر عصر کی چار رکعت اور مغرب کی تین کیوں فجر کی دو کیوں ہوئی سب نماز فرض ہی تو ہے۔ مغرب کا چار کرنا کیوں حرام ہے پس یہ ہی کہے گا کہ یوں ہی حکم ہے سو یہاں بھی یہی سمجھے کہ یونہی حکم ہے۔ فقط

## تعلیم دین کی اجرت

(سوال) قرآن اور حدیث پڑھا کر اجرت لینا درست ہے یا نہیں اور اگر درست ہے تو کس وجہ سے یا یہ متاخرین کا فتویٰ ہے اگر ہے تو کس قدر لینے پر اور اس کے لینے پر اس قسم کی تاویلات کرنا کہ ہم معقول کی پڑھائی لیتے ہیں نہ کہ حدیث اور قرآن کی اور ہم مدرسہ میں جانے کی نوکری پاتے ہیں نہ پڑھانے کی اور امام شافعیؒ کے مذہب میں درست ہے آپ کے نزدیک قرآن و حدیث پر اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ اور ایسے معاملات میں ایسی تاویل کرنا درست ہے یا نہیں اور سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ رکوع ۲۰ میں اور ۱۸ میں ارشاد فرماتا ہے اس کے مصداق کون لوگ ہیں۔

(جواب) اجرت لینا تعلیم علوم دین پر اصل حدیث سے نکلتا ہے اسی واسطے شافعیؒ کے نزدیک درست ہے حنفیہ قدامت سے منع کرتے تھے متاخرین نے امام شافعیؒ صاحب کا مذہب اختیار کیا اور فتویٰ جواز کا دیا بسبب اندیشہ تلف علم کے تاویلات کی حاجت نہیں ضرورت میں دوسرے مجتہد کا مذہب لینا جائز ہے آخر وہ بھی حدیث سے کہتا ہے سو قدیم مذہب حنفی تقویٰ ہے اور مذہب شافعی پر عمل فتویٰ ہے اشتراکاً آیات اللہ جو حرام ہے یہ ہے کہ روپیہ کے واسطے آیت کے معنی بدل دیوں

جیسا یہود کرتے تھے یہ اب بھی حرام ہے باتفاق تمام امت کے۔ فقط

وعظ کرنے کے لئے نذرانہ لینا

(سوال) واعظ کو وعظ کہنے پر لینا کیسا ہے یعنی بغیر لئے وعظ نہیں کہتا؟

(جواب) وعظ کی اجرت کو بھی بسبب ضرورت کے متاخرین نے جائز لکھا ہے۔

دلالی کی اجرت لینا!

(سوال) کسی سے کہا کہ اگر تیرا معاملہ کرادوں تو اپنی دلالی لوں گا یہ درست ہے یا نہیں اور بائع

مشتری کو اس کی اطلاع دینی ضروری ہے یا ایک سے ٹھہرا لینا کافی ہے پھر اگر دونوں سے خفیہ یا

صراحتہً ٹھہرا کر لے لیوے تو کیسا ہے؟

(جواب) اجرت دلالی کی درست ہے مگر فریب و دھوکہ نہ ہو۔ فقط

باغ کو سیراب کرنے کی اجرت

(سوال) باغ سے پانی سینچنا مکان اپنے پاس سے خس پوش کرنا کسی کو پانی بقدر ضرورت معلوم

دیا کرنا ایک جماعت کو شکم سیر کھانا معین قسم کا کھلایا کرنا کسی مکان کی روشنی یا صفائی کا اجارہ لینا جائز

ہے یا نہیں اس وجہ سے کہ یہ سب اموال اگرچہ غیر معین ہیں مگر وسائل و ذرائع و آلات میں نہ

معقود علیہ ہے بلکہ معقود علیہ اثر ہے۔ واللہ اعلم۔

(جواب) پہلے مسئلہ میں اگر یہ صورت ہے کہ زید کو نوکرا جیر خاص بنایا کہ تالاب چاہ سے پانی

باغ میں دیا کرے تو درست ہے کہ زید کے سبب منافع ملک مستاجرہ کی ہوئی اب جو کام کرتا ہے وہ

ملک مستاجر ہووے گا استاجر لیصد لہ او یحتطب فان وقت لذلک وقتا جاز

ذلک الخ در مختار (۱) اور جو یہ صورت ہے کہ زید کا شرب یا زہر مملوک کو اجارہ لیا کہ باغ کو

پانی دیا جاوے تو یہ اجارہ فاسد ہے لم یصح اجارۃ الشرب بوقوع الاجارۃ علی

استہلاک العین الخ رد المحتار (۲) دیگر جو نہر کی ارض کو بھی اجارہ لیوے تو فتویٰ جواز پر

(۱) اگر کسی نے اس بات پر کسی کو زہر و زہر لیا کہ اس کے لئے شکار کر کے لائے یا لکڑی چن کر لائے گا اور اگر اس کے لئے

کوئی وقت مقرر کیا تو جائز ہے۔

(۲) پینے کو اجرت پر ٹھہرانا صحیح نہیں ہو سکتا جب کہ یہ اجرت چشمہ کے ختم کرنے پر واقع ہوئی ہے۔

ہے جاز اجارۃ القناتۃ والنہر مع الماء بہ یفتی لعموم البلوی درمختار (۱) دوسرے مسئلہ میں مکان خس پوش ہوتا ہے معقود ہے پس اگر شرط خس کی اجیر پر ہوے جائز ہے کہ آلات وغیرہ عمل میں داخل ہیں بشرطیکہ تحدید ہو جاوے جیسا مسئلہ صاع میں ہے پانچویں چھٹے مسئلہ کا بھی یہی حال ہے بشرط تعین کی تیسرے مسئلہ میں اگر تعین آب واجرت ہوگی تو درست ہے مگر چوتھے مسئلہ شکم سیر کھلانے میں درست نہیں کیونکہ معقود علیہ سیری نہیں سیری قول اجیر سے نہیں ہوتی بلکہ کھانے سے ہوتی ہے یہاں معقود علیہ طعام ہے وہ اجارہ ہلاک کا ہے اور زرخ منع کا حیلہ کیا جاوے تو منع مجہول ہے کہ اشتہار ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے بہر حال یہ صورت فاسد غیر مشروع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### سواری کو کرایہ پر دینا

(سوال) زید نے بکر سے ایک جہاز جس پر مال بھرا تھا خرید پھر اس جہاز کے مالک سے بائع ہو یا اور کوئی جہاز کرایہ یا باعارہ لے لیا اب ضروری نہیں ہے کہ مال اتار کر پھر اس پر لاداجاوے بلکہ وہی عقد اجارہ جہاز قبضہ متصور ہوگا یا نہیں۔

(جواب) ہوگا کیونکہ تخلیہ مبیع کا مشتری کی طرف ہو گیا کذا فی در المختار ثم التسليم یكون بالتخلية علی وجه من القبض بلا مانع ولا حائل انتھی (۲) واللہ تعالیٰ اعلم۔

### درخت کو کرایہ پر دینا

(سوال) درخت کا اجارہ جائز ہے یا نہ اس لئے کہ نصوص شبہ اجارہ عموم و اطلاق پر شاہد ہیں پر باوجود عرف عام و حاجت و رسد بلوی و اعراض اجارہ تخصیص و اتباع کی کیا حاجت؟

(جواب) درخت کا درست نہیں کیونکہ اجارہ منافع کا ہوتا ہے اعیان و زوائد کی بیع ہوتی ہے پس درخت کو اگر کوئی اجارہ لے دے گا تو غرض اس کے ثمر کی تحصیل ہے سو وہ زوائد میں ہیں نہ منافع میں تو وہ فی الحقیقت بیع ہوئی اور بیع معدوم ناجائز ہے اور ارض زراعت کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ارض کے منافع مقصود ہیں زراعت تخم سے نکلتی ہے۔ پس زراعت زوائد نہ ہوئی۔ بلکہ تخم ملک مستاجر کا نما ہے زمین کے منافع اجارہ لئے گئے ہیں۔ اور بس پس صاف ظاہر ہوا کہ اجارہ

(۱) آب پاشی کی تالی اور نہر کو اجرت پر لینا پانی کے ساتھ جائز ہے اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے بوجہ عام بلوی کے۔

(۲) پھر تسلیم کرنا تخلیہ سے اس طرح پر ہوتا ہے کہ بغیر کسی مانع و حائل کے قبضہ ممکن ہے۔

اشجار اجارہ نہیں بلکہ بیج بلفظ اجارہ ہے اور بیج باطل ہوتی ہے بسبب معدوم ہونے کے بیج کے بس دلائل و نصوص شبہ اجارہ اپنے عموم پر ہیں تخصیص کی ضرورت نہیں اور بلوی خلاف نصوص قابل اعتبار نہیں فقط

### غیر مسلم کے پاس ملازمت

(سوال) عام کفار کے یہاں کی عام نوکری جائز ہے یا نہیں۔ نصاریٰ کے یہاں کی وہ نوکری کرنا کہ جس کی تنخواہ چنگلی سے ملتی ہو۔ جیسے طبیب وغیرہ تو یہ نوکری جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) کفار کی نوکری جس میں خلاف شرع نہ ہو درست ہے اور باقی ناجائز ہے اور چنگلی سے تنخواہ یعنی طبیب کو درست ہے۔ فقط

### سود کھانے والے کے پاس ملازمت

(سوال) بیانِ درشوتِ خور کی نوکری کرنا درست ہے یا نہیں؟  
(جواب) جس کے گھر کا مال حرام ہو اس کے یہاں نوکری دعوت وغیرہا سب حرام ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### رہن شدہ چیز کا کرایہ لینا

(سوال) اس مکان کو کرایہ پر لینا جو کسی کے پاس گرویں ہو جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) مرتہن سے مکان کرایہ پر لینا بشرط رضامندی راہن کے درست ہے اور مستاجر کو اس میں رہنا جائز ہے مگر اجرت اس کی ملک راہن کی ہے نہ مرتہن کی اگر مرتہن اس کو اپنے تصرف میں لاوے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ مستاجر پر کچھ گناہ نہیں البتہ اگر دین میں محسوب کر لیوے تو درست ہے۔ فقط

### مکان کو رہن رکھ کر مالک کی اجازت سے کرایہ پر لینا

(سوال) مکان کو گروی رکھنا اور اس کا کرایہ لینا جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) مکان کا گروی رکھنا اور اس کو بشرط رضامندی مالک کے کرایہ پر لینا جائز ہے اور کرایہ اس کا مالک مالک کی ہے نہ مرتہن کی۔ فقط

مکان کو ناجائز کاموں کے لئے کرایہ پر دینا

(سوال) مکان وغیرہ ایسے لوگوں کو کرایہ پر دینا کہ جو شراب و دیگر مجرمات اس میں فروخت کرتے ہوں یا خود افعال خلاف شرع ممنوعات اس میں کریں یا کفار کہ وہ اس میں بت پرستی کریں منع اور داخل اعانت علی المعصیت ہوگا یا نہیں؟

(جواب) ایسی کو کرایہ پر دینا مکان کا درست نہیں حسب قول صاحبین کے اور امام صاحب کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کرایہ پر دینا گناہ نہیں گناہ بفعل اختیاری مستاجر کے ہے مگر فتویٰ اسی پر ہے کہ نہ دیوے کہ اعانت گناہ کی ہے۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ناجائز اشیاء بیچنے والوں کو مکان دکان کرایہ پر دینا

(سوال) نشہ فروش کو واسطے فروخت مسکرات کے مکان یا دکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں اور اس میں حنفیہ کا مذہب صحیح کیا ہے؟

(جواب) صحیح اور فتویٰ اس پر ہے کہ نہ دیوے فقط

زمین کو کرایہ پر دینا

(سوال) زمین کرایہ پر دینا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) زمین کو کرایہ پر دینا درست ہے خواہ نقد سے دیا جاوے خواہ غلہ سے مگر غلہ اس زمین کا نہ ٹھہرانا چاہئے بلکہ مطلق ہونا چاہئے جس جگہ کا چاہے ہو۔ فقط

کھیت کی عملداری کرنا

(سوال) اگر عملداری زمیندار نے کھیت کی کر دی بعدہ جب کہ اناج تیار ہوا تو اتنا ہوا کہ جتنی زمیندار نے عملداری کی تھی اور اس نے وہ اناج اپنے حصہ کا لے لیا اور جو حصہ کاشتکار کا تھا اس کو کچھ بھی نہ بچا کیونکہ کاشتکار کی رضا مندی سے عملداری ہوئی تو یہ اناج زمیندار کو لینا جائز ہے یا نہیں یا کاشتکار کو کس قدر دینے سے جواز ہوگا اور اگر اتنا اناج پیدا ہو کہ نہ حصہ زمیندار کے موافق ہے یعنی بعد ہونے عملداری کے در رضا مندی فریقین کے اناج جو وزن کیا تو دونوں فریق کے

حصہ سے کم ہے جب کہ ایک کا حصہ بھی پورا نہ ہو تو اس اناج کا کیا کیا جاوے کہ جو عند الشرع جائز ہو۔

(جواب) عملداری کے معنی کیا ہیں اگر اجارہ کے ہیں تو یہ اجارہ درست ہے اور جس قدر پر ہو گیا ہے اس قدر میندار لے سکتا ہے کاشتکار کو کچھ بچے یا نہ بچے اور اجارہ کی زمین میں کچھ بھی پیدا نہ ہو تب بھی کاشتکار کے ذمہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے جہاں سے چاہے پورا کرے اگر مطلقاً کچھ پیدا نہ ہو تب بھی کاشتکار اپنے پاس سے وہ اجارہ پورا کرے گا ہاں اگر زمین بٹائی پردی گئی ہے تب حسب حصہ اس کی پیداوار سے لے سکتا ہے نہ زیادہ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

فرائض پورے ادا نہ کر کے تنخواہ لینا

(سوال) عالم اگر نماز میں سستی کرتا ہو اور ترک جماعت بھی کرتا ہو اور کام متعلقہ خواندگی مدرسہ کاتین بجے شام سے لے کر اور چار بجے مدرسہ بند کر دے اور سات آٹھ بجے صبح سے کام شروع کرے اور دس بجے مدرسہ بند کر دے اور مہتمم مدرسہ و نیز طلبہ بھی شاکی ہوں کہ خواندگی نہیں ہوتی تو ایسے عالم کو با عمل کہا جاوے یا بے عمل؟

(جواب) خلاف قاعدہ مقررہ ایسا کرنا خیانت ہے اور اجرت میں کراہت ہووے گی بلکہ دفعات مقررہ مدرسہ کے موافق کرنا واجب ہے۔ فقط

اجرت میں فاسد شرط نہ کرنی چاہئے

(سوال) یہ شرط اگر چند روز پہلے نوکری کے اطلاع نہ دو گے تو اس قدر جرمانہ دینا ہوگا۔ ممتا عقد سے ہے اور لازم؟

(جواب) اجارہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتا ہے اور یہ شرط خلاف مقتضائے عقد کی ہے لہذا عقد کو فاسد کر دیوے گی اور اس کا ذکر نہ کرنا چاہئے:- تفسد الاجارۃ بالشروط المخالفة لمقتضى العقد در مختار اور یہ شرط ظاہر ہے (۱) کہ اجیر کو مضر اور مستاجر کو نافع ہے اور عقد کے خلاف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) اجارہ فاسد ہو جاتا ہے ان شرط سے جو مقتضی عقد کے خلاف ہوں۔

کسی کو مال دے کر مقررہ قیمت سے کم و زیادہ لینے کی اجازت دینا

(سوال) زید نے بکر کو کچھ مال دیا کہ بیچے اور قیمت قرار دادہ سے جو کم و بیش ہو وہ بکر کا ہے اور بکر ہلاک و استہلاک میں ضامن ہے اور زید و بکر دونوں کو اختیار ہے کہ جب چاہیں مال واپس کر دیں؟

(جواب) یہ صورت اجارہ فاسدہ کی ہے بکرا جیر ہے اور قیمت مقررہ سے جو زیادہ فروخت کر کے اس کی اجرت ہوے گی۔ وہ زیادہ مجہول ہے اور سب کتب میں مذکور ہے کہ اجارہ اجرت مجہول کا فاسدہ ہے اجیر امین ہے امانت میں شرط ضمان، باطل کذا قالوا پس اگر بکر نے وہ شے فروخت کر دی سب ٹمن رند لیوے اور اجرت مثل بکر کو دیوے اور ہلاک کی صورت میں ضمان باطل ہے۔ استہلاک میں البتہ بسبب تعدی کے ضمان ہوے گا۔ واللہ اعلم۔

ملازمین کا ایام رخصت کی تنخواہ بلا مالک کی اجازت کے لینا

(سوال) ایک نوکر اپنے گھر بضرورت بس بارہ روز کی رخصت پر آیا تھا نہ اس کا ارادہ نوکری چھوڑنے کا تھا آقائے صاحب کر کے بیباق کیا جس سے علیحدگی سمجھی جاتی اور وہ شخص گھر آتے ہی بیمار ہو گیا اور قریب ایک ماہ کے بیمار رہا اور ایسی صورت میں اتنی رعایتی رخصت مل جانے کا قاعدہ بھی نہ تھا۔ پس صورت مرقومہ بالا میں بلا کئے کام ایام مرض کے نوکری لے سکتا ہے یا نہیں؟ (جواب) جس دن وہاں سے آیا ہے اس دن سے تنخواہ بلا رضامندی آقا نہیں لے سکتا۔

ملفوظ

قرآن شریف پڑھانے کی اجرت ختم قرآن میں  
شیرینی مسجد کے مال سے دینا

قرآن شریف پڑھانے کی اجرت یعنی درست ہے مگر رمضان شریف میں جو قرآن شریف تراویح و نوازل میں سنایا جاتا ہے اس کی اجرت یعنی دینی دونوں حرام ہیں اور آمدنی مسجد سے یہ خرچ اور بھی زیادہ برا ہے بلکہ متولی پر اس کا ضمان آوے گا یعنی جس قدر اس کام میں مال مسجد سے صرف کر دیا ہے اس کے ذمہ ہے کہ پھر اپنے پاس سے وہ روپیہ مسجد میں دے۔ ایسے ہی ختم قرآن کے ذمہ ہے کہ پھر اپنے پاس سے وہ

روپیہ مسجد میں دے۔ ایسے ہی ختم قرآن میں شیرینی وغیرہ اپنے پاس سے دے تو درست ہے اگر اس کو ضروری نہ خیال کریں مگر مال مسجد سے یہ اخراجات ہرگز روا نہیں ہیں فقط۔

## باب: فیصلہ اور حکم کرنے کے مسائل

حکم کے حکم سے کب پھر سکتے ہیں

(سوال) جب کسی شخص کو کسی معاملہ میں بیخ اور حکم کر دیا ہو بعد اس کی تجویز کے اور پچھتائے کے پھر جانے کا اختیار کسی کو شرعاً ثابت ہے یا نہیں؟

(جواب) حکم حکم سے پہلے پھر جانا ایک جانب کا یا دونوں کا درست ہے مگر بعد حکم کرنے کے نہیں پھر سکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔



## کتاب الرہن رہن کے مسائل!

رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا

(سوال) جو لوگ زمین رہن رکھتے ہیں اور اس کا نفع کھاتے ہیں شرعاً جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) جو شخص اس شرط پر رہن رکھتے ہیں کہ اس کا نفع خود حاصل کریں اور قرض میں وضع نہ کریں وہ ربوا خور کے حکم میں ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

رہن شدہ چیز سے نفع اٹھانا

(سوال) مکان گروی رکھنا اور خود اس گھر میں رہنا جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) مرہون مکان کو اپنے تصرف میں لانا اور اس میں رہنا درست نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مکان رہن رکھ کر اس میں رہنا

(سوال) ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ مکان گروی رکھ کر خود رہنا جائز ہے کیونکہ مشارق الانوار (۱) میں ایک حدیث آئی ہے کہ گھوڑا یا گائے و بکری و بیل وغیرہ کا گروی رکھنا اور ان جانوروں کو دانہ گھاس کھلا کر گھوڑے بیل کی سواری کرنا اور گائے بکری کا دودھ پینا جائز ہے پس اس طرح پر اگر مکان گروی رکھا اور خود اس کی مرمت ٹوٹی پھوٹی کی کرتا رہا یا پھر صرف سائی پوتائی کرتا رہا تو اس کو رہنا جائز ہے اگرچہ اس کی مرمت میں تھوڑا ہی صرف ہو بندہ کی عرض ہے کہ یہ حدیث شریف آئی ہے یا نہیں اور کہنا ان صاحب کا صحیح ہے یا غلط؟

(جواب) ان صاحب کا قول غلط ہے اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر راہن خود اپنے تصرف میں لاوے تو بشرط رضامندی مرہن درست ہے یا یہ معنی ہیں کہ جس وقت راہن نے رہن رکھا۔ اس وقت ان کے خیال میں بجز رہن کرنے کے اور کچھ نہ تھا بالکل کسی قسم کے تصرف کے شرط وغیرہ سے رہن معرقتی پھر بعد تمام ہونے رہن کے اگر مرہن باجائز راہن اس کو کام میں

(۱) رہن رکھنے والا اپنے خرچے سے سواری کرے اور دودھ پئے جب کہ وہ جانور رہن ہو اور اس کا خرچ اس پر ہوگا جو سواری کرے اور پئے۔

لاوے تو جائز ہے اور یہاں جو رہن ہوتی ہیں ان کا قیاس اس رہن پر جو حدیث شریف میں مذکور ہے درست نہیں کیونکہ یہاں انتفاع مرتہن معروف ہے اور اس معروف کا لمشرط ہوتا ہے اور انتفاع مرتہن کو شے مرہون سے حرام اور داخل ربوہ ہے کیونکہ یہ منفعت خالی عن العوض اور قرض جوفع سے ہے۔ واللہ اعلم۔

### مسکونہ مکان کو رہن دغلی لینے کا مطلب

(سوال) مکان مسکونہ کو رہن دغلی لینا اور اس میں سکونت اختیار کرنا بلا کرایہ جائز ہے یا حکم سود میں ہے یا مکروہ تنزیہی یا تحریمی ہے اور گناہ اس کا کبیرہ ہے یا صغیرہ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ مکان کو دغلی رہن لینا جائز ہے سود نہیں اس سبب سے کہ رہن کے بعد مرہونہ پر قبضہ کرنا جائز ہے اور سکونت و قیام کے معاوضہ میں مرمت مرتہن کرتا ہے اگرچہ مکان لیاقت پانچ روپیہ ماہوار کرایہ کی رکھتا ہے اور مرمت میں چار آنہ ماہوار خرچ ہوتا ہے تاہم جائز ہے بدیں وجہ کہ راہن نے فقط مرمت پر قناعت کی اسی کو کرایہ تصور کیا۔ فقط

(جواب) انتفاع رہن سے حرام مثل ربوہ کے ہے کسی فقیہ نے یہ نہیں لکھا کہ سکونت حلال ہے بلکہ قبض کہا ہے قبض کو سکونت لازم نہیں اور یہ سب صورت ناجائز اور حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم

چیز رہن رکھتے وقت رہن رکھانے والے کو ادائے خراج کا ذمہ دار بنانا (سوال) راہن جب زمین رہن کرتا ہے تو حاکم وقت خراج مرتہن سے لیتا ہے اگر مرتہن خراج دینے میں کچھ عذر کرے تو مرتہن کا مال نیلام کر کے خراج وصول کیا جاتا ہے اگر مال نہ ہو تو زمین چھین لی جاتی ہے راہن سے کچھ مواخذہ نہیں ہوتا اور اگر زمین لیتے وقت راہن سے یہ کہا جاوے کہ اس کا خراج تمہارے ذمہ رہے گا تو وہ ہرگز ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ یہ شرط قرار پاتی ہے کہ نفع نقصان بذمہ مرتہن ہیں اور درختار اور طحاوی میں لکھا ہے کہ راہن کی اجازت سے مرتہن کو نفع جائز ہے اس قول پر فتویٰ ہے اور نفع نہ لینا اجازت سے بھی تقویٰ ہے۔ اور یہ قول تقویٰ بعض کا قول لکھا ہے اور زمین جب رہن لی جاوے ویران ہوتی ہے جب اس میں مشقت کی جاتی ہے جب اس میں پیدا ہوتا ہے اور بعض دفعہ نقصان بھی رہتا ہے۔ اس لئے نفع جائز ہے یا نہیں اور قول کتاب کیا ہے۔ بینوا تو جروا۔

(جواب) رہن کا انتفاع مرتہن کو جائز نہیں اگرچہ اس کا خراج بھی دیتا ہے اور طحاوی میں جو لکھا

ہے مسئلہ وہ نہیں ہے جو مسئول عنہا ہے بلکہ وہ ہے کہ جس وقت رہن رکھا ہے اس وقت رہن اور مرتہن کی نیت انتفاع کی نہ تھی پھر بعد کو اجازت دی گئی اور اگر وقت رہن کے ارادہ انتفاع کا ہو یا شرط کر لی ہو یا عرف اس طرح ہو تو حرام ہے المعروف کا لشرط (۱) رہن بشرط انتفاع بالاتفاق حرام ہے اس میں کسی کو خلاف نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

مکان رہن لے کر رہنا یا کرایہ سے دینا

(سوال) مکان رہن لے کر اس میں رہنا یا کرایہ کو دینا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) مکان رہن میں رہنا حرام ہے۔ فقط

(۱) مشہور بات شرط کے شمس ہوتی ہے

## کتاب: بخشش کے مسائل

### ملفوظ

(۱) تملیک اور ہبہ میں بہت بڑا فرق ہے اور جو ہبہ کہ لفظ تملیک سے کیا جاوے اس کا حکم مثل ہبہ کے ہے۔

(۲) راہ کے معنی ہیں کہ جس وقت اس پر عمل کرے اس کو حق اور صحیح جانے غلط جان کر اور ناحق اعتقاد کر کے اس پر عمل نہیں کر سکتا پھر یہ کہ مقلد کے مذہب غیر پر عمل کرنے میں روایتیں مختلف ہیں اور ہر دو کی صحیح کی گئی ہے۔

(۳) جس سے غلبہ ظن حاصل ہے وہ معتبر ہے پس اگر چہ اخبار اور خطوط کا اعتبار نہیں ہے مگر بوجہ کثرت و تواتر خطوط و رجسٹری ہا کے اگر غلبہ ظن حاصل ہو جائے تو اس پر عمل جائز ہونا چاہئے۔ چنانچہ خیر فاسق پر بعد تحریر کے عمل درست ہے۔ کیونکہ بعد تحریر کے عمل مضاف بجانب تحری ہوگا۔ نہ فاسق کی طرف البتہ اگر کثرت سے خطوط و رجسٹری ہا میں بھی یہ احتمال ہو کہ کسی شخص دیگر غیر مکتوب مند کی ہے اس کی کارروائی ہو سکتی ہے تو اس پر عمل درست نہیں اور یہی وجہ ہے کہ خط پر عمل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اس کا نوشتہ مکتوب الیہ کو ہونا یقین نہیں ہے۔ بلکہ احتمال تزویر اور گمان غلط بھی ہے۔

## باب: قرض کے مسائل

اس شرط پر روپیہ قرض لینا کہ منافع فی روپیہ دے گا

(سوال) کسی کا روپیہ اس شرط پر لینا کہ اس روپیہ کا خرید کردہ مال فروخت ہو گیا تو فی روپیہ ایک آنہ یا دو آنہ نفع دیں گے درست ہے یا نہیں اگر نہیں درست ہے تو جواز کی صورت ہے یا نہیں؟

(جواب) اس طرح قرض لینا اور یہ نفع دینا حرام ہے۔ فقط

کوشش کے باوجود قرضہ ادا نہ کر سکتا

(سوال) اگر قرض باوجود قصد و فکر و کوشش کے بوجہ افلاس ادا نہ ہو سکے اور انتقال کر جاوے تو اس پر حق العباد رہے گا یا بوجہ مجبوری ماخوذ نہ ہوگا؟

(جواب) ایسی حالت میں اس کے ورثہ کو چاہئے کہ دین اس کا دیویں کہ وہ وارث مالک ہو گئے اور جو دینے کی طاقت نہ ہوئی اور عزم دینے کا رکھتا ہے تو خدا تعالیٰ چاہے معاف کر دیوے یا اعمال اس کے دلا دیوے گا۔ اس کی مشیت میں ہے خالص نیت والے کے واسطے معافی کا حکم حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

ادھار ایک قسم کی جنس لے کر دوسری جنس دینا

(سوال) جواریا جو یاد گیر کم قیمت والا اس اقرار پر ادھار دینا کہ جب فصل ربیع چل پڑے گی جس قدر جواریا جو تم نے مجھ سے ادھار لئے ہیں اس قدر وزن میں گندم تم سے لے لوں گا۔ چنانچہ ادھار لینے والا اس شرط کو منظور کر لیتا ہے یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) کوئی غلہ ادھار پر دینا کہ اس کے عوض اور جنس کا غلہ فصل پر لیا جاوے درست نہیں فقط

ایک جنس قرض لے کر دوسری جنس فصل پر ادا کرنے کا وعدہ

(سوال) پیاز اور آلو خوردنی بطور قرض دے دینا کہ بروقت آنے فصل کے ایک من پیاز کے ایک من دھان دے دوں گا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) یہ درست نہیں۔

ایک قسم کی جنس کے بدلے دوسری قسم کی جنس کے وعدہ پر ادھار لینا

(سوال) ایک شخص ایک من گندم یا باجر بطور قرض لے گیا اور یہ وعدہ کر گیا کہ بعد دو مہینے کے ایک من گیہوں یا باجر ادوں گا ایسا معاملہ درست ہے یا نہیں؟

(جواب) جو شخص کوئی جنس قرض میں دیوے اور اسی جنس کا ادا کرنا بعد ایک ماہ کے مقرر کر دے تو درست ہے اگرچہ مدت مقرر نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی لے سکتا ہے۔ فقط

## باب: جوئے کا بیان

اپنی حقیقت کو مقدمہ لڑنے پر فروخت کرنا!

(سوال) زید نے عمرو سے کہا کہ اپنی حقیقت جو فلاں شخص کے قبضہ اور تصرف میں ہے اور غیر منقسمہ ہے اس شرط پر میرے ہاتھ بیچ کر دے کہ اگر میں اس حقیقت کو شخص قابض سے مقدمہ لڑا کر اپنے قبضہ میں لے آؤں تو اس میں ہم تم دونوں آدھوں آدھ کے شریک ہیں اور جو مقدمہ نہ پاؤں تو روپیہ میرا گیا تجھ سے تعلق نہیں بایں وجہ اس شخص نے اپنا حق اس کے ہاتھ فروخت کر دیا اور بیچ نامہ لکھ دیا سو ایسا معاملہ کرنا جائز ہے۔ یا نہیں؟

(جواب) یہ معاملہ شرعاً درست نہیں کہ قمار کی قسم ہے واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ رشید احمد ۱۳۰ھ الجواب صحیح محمد عبداللطیف عفی عنہ۔

### لاٹری ڈالنا

(سوال) چھٹی ڈالنا کسی چیز کی بیع و شراء کے واسطے جائز ہے یا ناجائز چھٹی ڈالنا اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مثلاً ایک شخص کو کلواریا سب وغیرہ کوئی چیز بیع کرنا منظور ہے تو اس نے چند آدمیوں سے دس ۱۰ یا بیس ۲۰ سے مثلاً ایک روپیہ وصول کر لیا بطور قیمت بیع کے اور پھر ان خریداروں کی جنہوں نے ایک ایک روپیہ دیا ہے نام تحریر ایک ایک روپیہ دیا ہے نام تحریر ایک ایک پرچہ پر علیحدہ کریں پھر بطور قرعہ جس کے نام کی چھٹی برآمد ہوئی اسی کو وہ شے بلیعہ ملے گی باقی سب کا ایک ایک روپیہ ضائع ہو گیا ایک شخص ہی ایک روپیہ میں مالک شے بلیعہ کا ہو گیا۔

(جواب) صورت چھٹی پھینکنے کی جو سوال میں درج ہے بالکل قمار و ناجائز ہے۔

## باب: رشوت کا بیان

حوالدار کا گاؤں سے دودھ یا گنے لانا

(سوال) حوالدار جو اپنے گاؤں سے گنے وغیرہ یا عمید کو دودھ وغیرہ لاتے ہیں اور وہ اس ترکیب سے وصول کرتے ہیں کہ برکاشنکار کے گھر سے خوشی اس کے دودھ تھوڑا تھوڑا یا ہر ایک کھیت میں سے پانچ پانچ گنتے وصول کرتے ہیں کاشنکار کو ناگوار ہوتا ہے بوجہ اس کی ملازمت کے اور اگر زمیندار جو اس کا آتا ہے وہ بھی آ کر اشیاء مذکورہ حوالدار کو لاتے ہوئے دیکھ لے تو وہ زمیندار بھی منع نہیں کرتا ہے نہ صراحت اجازت ہے تو ایسے مال کا کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) یہ مال حرام ہے اس کا کھانا بھی حرام رشوت ہے۔ فقط

مقررہ تنخواہ کے علاوہ ملازمین سرکار کا زائد لینا

(سوال) حوالدار کی نسبت تحریر ہے کہ دودھ گنے رس وغیرہ رشوت ہیں جب کہ مالک زمین کہ جس کا یہ نوکر ہے وہ بھی منع نہیں کرتا تو کیوں ناجائز ہے اور بعض حقوق متعین شدہ ہیں وہ بھی ناجائز ہیں یا نہیں یا زمینداری کا مسئلہ یہ ہے کہ سوائے آمدنی اناج یا ٹھیکہ زمین کے مالک زمین یعنی زمیندار کو بھی اور کچھ وصول کرنا برضا مندی بھی جائز نہیں اور اگر اس کو جائز ہے تو حوالدار کو جو ملازم ہے اس کا اور اس کے سامنے ہی وہ کاشنکاروں سے برضا مندی لیتا ہے یا شاید وہ دل میں ناراض ہوتے ہوں تو کیوں ناجائز ہوتا ہے بلکہ بعض زمیندار کاشنکار کے ساتھ یہ احسان کرتے ہیں کہ اس کے مویشی چرانے کو جنگل یا محصول دیتے ہیں اس کے عوض میں بھی جائز ہے یا نہیں مگر زمیندار سب نہیں دیتے ہیں اور آمدنی حسب مذکورہ بالا سب کرتے ہیں۔ فقط

(جواب) جس حق کی مالک زمین کی طرف سے اجازت ہے اور داخل تنخواہ سمجھی جاتی ہے وہ درست اور آپ نے مسئلہ تھانیدار حوالدار ملازمان سرکاری کا پوچھا تھا تو سرکار کی طرف سے اگر کسی شے کی اجازت ہے وہ درست ہے اگر دینے والا جو شے دے یا پہلے سے اس شے کا دینا اس کے ذمہ ملازم ہو۔

ملازمین پولیس کا عام لوگوں سے مانگنا

(سوال) ملازمین پولیس جو چیز کہ عام لوگوں سے مانگ کر لے آتے ہوں اگر وہ بھی مانگ لیں تو یہ رشوت ہے یا نہیں؟

(جواب) جو شے ہر ایک شخص حسب العادت مانگ لاتا ہے اور دباؤ وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہے یا اس شے کا لینا دینا اس ملازمت سے پہلے ہے یا غیر لوگوں جو اس سے واقف نہ ہوں اس کے قصبہ کے نہ ہوں اس سے لینا درست ہے اور جو تعلقات صرف ملازمت سے پیدا ہوئے ہیں ان کی وجہ سے لینا درست نہیں ہے۔

بادشاہ، نواب، پیر، ولی کو نذر دینا

(سوال) بادشاہ یا نواب کو نذر دینا کیسا ہے اور جو پیر یا ولی کو نذر کی جاتی ہے وہ کیسی ہے؟

(جواب) بادشاہ یا نواب کو جو ہدیہ دیا کرتے ہیں اگر رشوت یا بوجہ معصیت کے نہیں بلکہ محض اخلاق مندی ہے تو درست ہے اور بزرگوں کو بھی جو دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے درست ہے اور جو اموات اولیاء کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے درست ہے اور جو نذر بمعنی تقرب ان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم

اہل عملہ ملازمین محکمہ کو خوشی سے دینا

(سوال) رشوت وغیرہ حاکم کو لینا حسب التحریر مفصلاً معلوم ہوا کہ حرام ہے علاوہ حاکم کے دیگر اہل عملہ کہ کچھ ہری میں نوکر ہیں۔ مثلاً سرشتہ دار ناظر سپاہی وغیرہ کو اگر اہل مقدمہ یا علاوہ ان کے کوئی شخص بلا طلب محض اپنی خوشی سے اگر دیوے تو جائز ہے یا حرام یا مکروہ تحریمی یا تنزیہی یہ مسئلہ مفصلاً معلوم ہونا ضروری ہے۔

(جواب) سب اہل خدمت سپاہی تک کو رشوت حرام ہے بطلب ہو یا بلا طلب مقدمہ ہو یا نہ ہو۔ فقط

ظلم سے بچنے کے لئے رشوت دینا

(سوال) دفع ظلم کی غرض سے رشوت دینا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) دفع ظلم کے واسطے رشوت دینا درست ہے۔ فقط واللہ اعلم

کسی کام کی کوشش کا عوض

(سوال) ایسے کام میں سعی کرنے کا عوض لینا جو اس پر لازم ہے نہ اس میں کسی مستحق کے حق تلفی

ہے اور نہ دروغ و فریب ہے رشوت ہے یا نہیں؟

(جواب) اگر مباح میں سعی کی اور کچھ لیا بشرطیکہ کسی وجہ سے ساعی کے ذمہ پر واجب نہ ہوے تو



درست ہے اور رشوت نہیں سعی له عند السلطان و اتم امره لا باس بقبول هديته بعده  
وقبله بطلبه سحت و بدلونه مختلف فيه و مشائخنا على انه لا باس به انتهى (۱) در مختار  
مگر در فظلم اور اعانت ملہوف ہر مسلمان پر واجب ہے حاکم عاقل ہو یا عاوی۔ فقط واللہ اعلم۔

زمینداروں کا قصاب سے گوشت ستالینا

(سوال) قصاب جو گوشت مثلاً چھ پیسہ میر فروخت کرتے ہیں زمیندار لوگ چار پیسے کے نرخ  
سے ان سے باعث رعایا ہونے کے لیتے ہیں مگر وہ خوشی سے نہیں دیتے یہ لینا زمینداروں کو  
درست ہے یا نہیں؟

(جواب) ناجائز ہے۔ فقط

### ملفوظات

جس چیز کا لینا پہلے سے معروف نہ ہو اس کا بعد ملازمت لینا دینا، اسٹنٹ  
صاحب کو جو شیرینی دی جائے، گیارہویں کی شیرینی قبضہ پنج شنبہ و محرم کا  
طعام، رعایا سے مکان کرایہ پر لینا وغیرہ، حکام کو جو دیا جاتا ہے اس کا حکم۔

۱۔ جس چیز کا لینا دینا پہلے سے معروف نہ تھا اس کا لینا دینا بعد ملازمت نادرست ہے اور جو  
کچھ لینا پہلے سے معروف تھا وہ بعد ملازمت بھی درست ہے فقط واللہ اعلم۔

۲۔ وہ شیرینی جو اسٹنٹ صاحب کو ملتی ہے اگر چاہل عملہ دیویں یا رعایا بلا مقدمہ وہ سب  
رشوت ہے تم اس کو مت کھانا۔ گیارہویں کی شیرینی صدقہ ہوتی ہے مساکین کو اس کا کھانا درست  
ہے اور جو شیرینی قبضہ کہ اس کو خود رکھتے ہیں اس میں یہ صدقہ بھی نہیں ہوتا وہ سب کو درست ہے  
اگر چہ غنی ہو کیونکہ وہ ملک اسٹنٹ کی ہے اسی طرح جواب طعام پنج شنبہ و محرم کا ہے غرض یہ طعام  
نہ صدقہ نہ امانت قلب اس میں ہووے گا۔ مکان جو کرلیہ رعایا سے لیا تو مکان کا قیام درست

۳۔ حکام کو جو دیا جاتا ہے وہ رشوت سے خالی نہیں ہے ایسے ہی حکام بالا کو جو کچھ بھی دیا جاوے وہ  
اصل رشوت ہے۔

(۱) اگر بادشاہ کے پاس کوشش کرے اور اس کا کام پورا ہونے کے بعد ہدیہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں اور پہلے لینا سود  
ہے اور بغیر کسی لینے میں اختلاف ہے اور ہمارے مشائخ کا یہ قول ہے کہ اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔

## کتاب: امانت کے مسائل

### رقم امانت کی تبدیلی

(سوال) اگر امانت خواہ مسجد یا مدرسہ یا دیگر کسی کی ہو مبادلہ یعنی روپیہ کے پیسے اور پیسوں کے

روپیہ کر ليوے ضرورتاً درست ہے یا خیانت میں داخل ہے؟

(جواب) امین کو تصرف کرنا درست نہیں خواہ مال مسجد و مدرسہ ہو خواہ کسی شخص کا اگر ایسا کرے گا

تو ضامن ہو جاوے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

### امانت کو اپنے ذاتی خرچ میں لا کر دوسری رقم دینا

(سوال) اگر کسی کا روپیہ امانت ہو یا چندہ مسجد کا کسی کے پاس جمع ہو اور وہ خاص روپیہ اپنے صرف میں کر

کے اس کے عوض دوسرا روپیہ مالک کو دے دے یا مسجد کے صرف میں کر دے تو یہ شخص کچھ گنہگار ہو گا یا نہیں؟

(جواب) یہ تصرف نادرست ہے مگر اگر اس نے اجازت لے لی تو درست ہے اور مال وقف

میں کسی طرح بھی ایسا تصرف نادرست ہے۔

### کسی کے پاس رقم امانت جمع کرا کر کسی کو دلانے کا صحیح طریقہ

(سوال) زید شہر آگرہ میں مقیم ہے اور ہزار روپیہ مثلاً یا کم دبیش شہر دہلی میں ایک شخص کے پاس

املتہ جمع کر دیا ہے زید یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس روپیہ کا مالک اپنی زوجہ کو بنا دیوے اندر میں صورت

شرعاً کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر اس روپیہ کی موجودگی کے فقط زبان کے اقرار سے یا کاغذ تحریر

کرنے سے وہ روپیہ مذکور زید کی ملک سے خارج ہو کر اس کی زوجہ کی ملکیت میں داخل ہو جائے یا

اس روپیہ کو زید حاضر کر کے زوجہ کو دست بدست دیوے تب ہی زوجہ اس روپیہ کی مالک بنے اس

روپیہ کے حاضر کرنے کی ضرورت ہے یا فقط زبانی اقرار بطور ایجاب و قبول کافی ہے۔

(جواب) ملک زوجہ کی خاص اس روپیہ میں بغیر قبضہ کے نہیں ہو سکتی۔ فقط

## کتاب اللقطۃ گری پڑی چیز کے مسائل

مسجد میں گری ہوئی رقم خادم کھالے تو کس طرح ادا کرے

(سوال) ایک شخص کو کچھ روپیہ مسجد میں بھول گیا پانے والے نے خادم مسجد کو دے دیئے کہ جو شخص تلاش کرنے کو آوے دیدینا جب وہ روپیہ والا آیا خادم مسجد نے اس سے کہا یہاں روپیہ نہیں ہے وہ مایوس ہو کر چلا گیا یہ روپیہ خادم مذکور نے اپنے صرف میں خرچ کئے بعد مدت کے اس کو خوف آیا کہ صاحب روپیہ سے معاف کرانے چاہئیں اب نہ تو وہ موجود ہے کہ معاف کرائے جاویں اور نہ روپیہ ہے کہ اس کو دیا جاوے اور یہ غریب آدمی ہے کہ کسی طرح ادا نہیں کر سکتا ہے اب وہ کیا کرے؟

(جواب) یا تو اس شخص سے معاف کرایا جاوے اور اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے وارثوں سے معاف کرایا جاوے دونوں امر نہ ہو سکیں تو اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اس قدر مال صدقہ کرایا جاوے اگر ان صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر آخرت کا مواخذہ بظاہر یقینی ہے مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اس شخص کا معاملہ صاف ہو تو وہ اپنے فضل و کرم سے صاحب حق کو کوئی نعمت دے کر معاف کر اوے۔ فقط

کوئی شخص دکان پر کوئی چیز بھول جائے تو کیا کرے

(سوال) اگر کوئی شخص دکان پر کوئی چیز اپنی بھول جاوے تو دکاندار کو اس چیز کا رکھنا جائز ہے یا نہیں اور کب تک اور اس کا انتظار کرے اور وہ چیز اگر کھانے کی ہو اس کو کیا کرنا چاہئے اور در صورت نہ آنے مالک کے اس کو کب خیرات کرے؟

(جواب) جب تک امید اس کے ملنے کی ہو احتیاط سے رکھے اور تحقیق کرتا رہے جب نا امید ہو جاوے صدقہ کر دیوے مگر بعد صدقہ کے اگر آ گیا تو دینا پڑے گا اور بگڑنے کی شے ہے تو جب اندیشہ فساد ہو اس وقت صدقہ کرے۔ فقط

## کتاب: کسی کو مجبور کرانے کے مسائل

حرام کھانے اور کفر کے کام کرنے پر کسی کو مجبور کرنا  
(سوال) اگر حاکم ظالم کسی کو کفر و شرک یا حرام شے کھانے کو مجبور کرے ایسے موقع پر جان دے  
دے یا اس کے جبر کو مان لے۔

(جواب) ایسی حالت میں جب کہ اپنی جان کا واقعی اندیشہ ہو جاوے اور وہ حاکم اس کے  
مار ڈالنے پر قادر ہو تو حرام کام کے فعل پر اور حرام شے کے کھانے پر مواخذہ نہیں ہے مگر کفر و شرک  
ایسے حال میں بھی نہ کرے اور مر جاوے تو زیادہ ثواب ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

## باب: زبردستی چھیننے کے مسائل

دریا سے مچھلی پکڑنے والوں سے دریا کے مالک کا مچھلیاں لینا  
(سوال) ماہی گیر جو ماہی دریا سے پکڑتے ہیں مالک دریا ان سے کسی قدر مچھلی لے لیتا ہے کہ  
ہمارے دریا سے پکڑی ہیں یہ لینا درست ہے یا نہیں اور مالک دریا مالک مچھلیوں کا ہے یا نہیں؟  
(جواب) مالک دریا کا مالک مچھلیوں کا نہیں ہے اور اس کو لینا درست نہیں۔ فقط۔

حاکم کا کسی چیز کو کسی سے زبردستی لے کر کسی کو بخش دینا  
(سوال) اگر اس زمانہ میں حاکم وقت کسی کو کوئی شے کسی کی خود غصب کر کے دے تو یہ شے  
مغصوبہ بلا رضامندی مالک کے درست ہو جاوے گی یا نہیں؟  
(جواب) اگر ظلماً دلا دیوے تو حرام ہے اور جو اول خود غصب کر لیا حاکم کافر نے اور پھر بعد اپنی  
ملک سے دوسرے کو دیا تو مباح ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

## کتاب: وقف کے مسائل

### واقف کی اجازت کے بغیر موقوفہ میں تصرف

(سوال) چندہ دہندگان مسجد بہت شخص تھے اور سب کا روپیہ ایک ہی جگہ جمع ہوا اور باقی شدہ روپیہ کسی کا علیحدہ نہیں دو شخصوں سے کہا کہ روپیہ باقی میں آپ اجازت دیتے ہیں کہ مسجد میں گھنٹہ خرید لیں کیونکہ اوقات جماعت پر جھگڑا رہتا ہے ایک شخص نے کہا خرید لو اور ایک شخص نے منع کیا اور کہا کہ میرا روپیہ تو مسجد میں صرف کرنا حضور نے نوازش نامہ سابق میں اجازت خریدنے گھنٹہ کی دیدی ہے لہذا ایسی حالت میں حضور کا کیا ارشاد ہے اور اجازت لینا غیر ممکن ہے بعضوں سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ روپیہ باقی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو کسی کارنیر میں صرف کر دیں گھڑی کا ذکر نہ کریں تو ایسی اجازت کا کیا مطلب ہے؟

(جواب) جن لوگوں کی اجازت خرید گھنٹہ کی ہو اس کے حصہ میں خرید سکتے ہیں بعد کارنیر سے اگر اجازت ہوگی تو اس سے گھنٹہ خریدنا درست ہے بشرطیکہ تصریحاً وہ گھنٹہ کو منج نہ کر چکے ہوں۔ فقط

### وقف کے بعد بیع

(سوال) مدعی مذکور کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے آرام کے لئے چھوڑی ہے کیونکہ ہمارے مکان اس سے ملحق ہیں اور ہم کو اپنے مکانوں میں تنگی ہے اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل جگہ مسجد کر لو مگر غسل خانوں کی جگہ ہم کو قیمتاً دے دو چونکہ ہم متولی مسجد ہیں ہم فلاں فلاں شخص کو متولی کرتے ہیں وہ ہم کو یہ زمین غسل خانوں کی بیع کر دے تو ہم کو بھی فرانی مکان کی ہو جاوے گی ورنہ ہم عدالت انگریزی میں اپنے بیع نامہ کے ذریعہ سے ناش کر کے کل جگہ لے لیں گے لہذا اب نمازیان مسجد کی یہ رائے ہے کہ ناش میں چند قسم کا نقصان ہے پھر نہ معلوم کہ حاکم کیا فیصلہ کرے گا اس سے یہی بہتر ہے کہ غسل خانوں کو فروخت کر کے اسی مسجد کے لئے چاہے ہوا لیا جاوے کیونکہ پانی کی بھی نمازیوں کو تکلیف ہے اور اس رضامندی سے بھی کل جائے باقی ماندہ وہ مسجد کو دیتے ہیں پھر نہ معلوم عدالت سے کیا حکم ہووے یہ سمجھتے ہیں کہ جو روپیہ ہم عدالت میں خرچ کریں گے اس روپیہ سے غسل خانوں کی جگہ خرید لیں گے اور اس جگہ کی بیع سے مسجد میں کچھ تکلیف نہیں لہذا حضور تحریر فرماویں کہ اس جگہ کا فروخت کرنا اور غسل خانوں کی بیع

جائز ہے یا نہیں اور کس طرح سے شرعاً فروخت کئے جاویں کیونکہ اس سے رفع شر بھی ہے اور روپیہ مسجد کو ملتا ہے۔

(جواب) جو جگہ وقف ہو چکی ہے وہ اب بیع نہیں ہو سکتی پس غسل خانوں کی جگہ بھی بیع نہیں ہو سکتی۔ فقط

### مسجد کی موقوفہ زمین پر مکان بنانا

(سوال) زمین نام نہاد عید گاہ و مسجد پر مدت تک نماز عیدین وغیرہ ہوئی ہو سکتی تعمیر مکان وغیرہ کے کام میں لائی جاوے یا نہیں در صورتیکہ عید گاہ کے واسطے اس زمین سے عمدہ جگہ دی جائے۔

(جواب) جو زمین مسجد کے لئے وقف ہو چکی ہے اس میں مکان بنانا یا کھیتی کرنا درست نہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

### واقف کی اجازت کے بغیر ایک مسجد کا مال دوسری مسجد میں صرف کرنا

(سوال) مسجد کا فرش لوٹے وغیرہ دیگر مسجد میں ضرورتاً لے جانا اور بعد رفع ضرورت واپس کر دینا جائز ہے یا نہیں ارقام فرمادیں؟

(جواب) ایک مسجد کا مال دوسری مسجد میں لے جانا درست نہیں مگر جو دینے والا دیتے وقت اجازت دیوے تو مضائقہ نہیں کہ وہاں حاجت روائی کر کے واپس کر دیوے مگر جو زائد اشیاء ہوں اور خراب ہونے کا احتمال ہو تو یہ قیمت دوسری مسجد میں دے دیوں تو درست ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

### متولی کی اجازت کے بغیر مسجد کی آمدنی صرف کرنا

(سوال) زید مرحوم نے ایک مسجد بنائی اور عمر واس کا متولی ہے اور بکرا اس کا امام ہے اور خالد اس کا خادم ہے اور مسجد کی آمدنی اخراجات مسجد سے بہت زیادہ ہے۔ اور بعض ایسے خرچ ہوتے ہیں کہ ان کو متولی مسجد مذکور سے امام مذکور و ہر چند کہتا ہے۔ لیکن متولی باعث کفایت شعاری بالکل خیال نہیں کرتا مثلاً پنکھا یا گھڑی یا خادم مسجد کی تنخواہ کی قلت یا مثل اس کے تو ایسی حالت میں امام مذکور بعض آمدنی مسجد سے بطور خود بلا اطلاع متولی کچھ وصول کر کے صرف ہائے مذکور میں خرچ کرے جائز ہے یا نہیں در انحالیکہ متولی مذکور کو اگر خبر ہو گئی تو اندیشہ ہے کہ وہ خفا ہوگا کہ تم نے ہماری

بلا اجازت کیوں تحصیل کی اور کیوں خرچ کیا۔

(جواب) امام کو بدو ن رضا متولی کے کہیں صرف کرنا آمدنی مسجد کا درست نہیں فقط واللہ اعلم۔

مسجد کا مال اپنے مال میں ملا لینا

(سوال) اگر متولی و مہتمم مسجد آمدنی مسجد کو دیگر مال میں خلط کر لیوے یا خرچ کر لیوے کہ ضرورت مسجد میں وقت پر صرف کر دوں گا تو یہ تصرف جائز ہے یا خیانت میں داخل ہوگا ارقام فرمادیں

(جواب) یہ تصرف ناجائز اور خیانت میں داخل ہے ضمان اس کا متولی کے ذمہ واجب رہے گا اور گنہگار بھی ہووے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

مسجد کے بور یہ اور تیل کا بیچنا

(سوال) اشیاء مسجد فرش وغیرہ بعد خراب ہو جانے کے یا بوجہ زائد ہونے کے دوسری مسجد میں صرف کرنا قیمت یا بلا قیمت جائز ہے یا نہیں اور تیل مسجد حجرہ مسجد میں جلانا جائز ہے یا نہیں کیونکہ دینے والا کچھ تصریح حجرہ کی نہیں کرتا ہے؟

(جواب) فرش بور یہ وغیرہ مسجد کا جب مسجد میں اس کی حاجت نہ رہے یا ٹوٹ کر خواب بیکار ہو جاوے تو مالک کا ہو جاتا ہے مالک جس نے اول ڈالا تھا تو وہ چاہے تو فروخت کر کے اس مسجد میں صرف کر دیوے یا دوسری مسجد میں دے دیوے خواہ خود کام میں لاوے اس پر فتویٰ بعض علماء نے دیا ہے اور تیل مسجد کا حجرہ میں جلانا درست نہیں عام لوگوں کی نیت مسجد میں جلانے کی خاصہ ہوتی ہے اگر دینے والا تصریح حجرہ میں جلانے کی کر دیوے تو درست ہے ورنہ دراصل عرفاً خاص مسجد میں دینا غرض ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

مسجد کا مال اپنے ذاتی استعمال میں لانا

(سوال) مسجد کی کوئی چیز اپنے صرف کے لئے لانا بعد کو رکھ آنا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) مسجد کا مال اپنی حاجت میں لا کر صرف کرنا درست نہیں۔ اس میں گنہگار ہوتا ہے فقط واللہ اعلم۔

### مدرسہ کے چندہ کا خرچ

(سوال) جب کہ چندہ لوگوں نے ایک مدرس کے واسطے دیا ہو بعد معزولی اس کے پچھلے مدرس کو دینا دلانا کیسا ہے یعنی وہ روپیہ کہ لوگوں نے پہلے کے واسطے دیا تھا۔  
(جواب) اس خاص مدرس کی کچھ تعیین نہیں ہے بلکہ جو وہاں مدرس ہو وہ تنخواہ پاوے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

### قبرستان میں مسجد بنانا

(سوال) مسجد بنانا قبرستان میں یا دیگر کوئی مکان حجرہ وغیرہ برائے راحت رسبانی درست ہے یا نہیں؟

(جواب) جو قبرستان وقف قبور کے واسطے ہوا ہے اس میں مکان یا مسجد بنانا درست نہیں کہ وہ سب زمین قبور کے واسطے وقف ہوئی ہے خلاف شرط واقف کے کوئی تصرف درست نہیں۔ کذافی العالگیریہ۔ (۱) فقط واللہ اعلم۔

### قبرستان کی زمین کا حکم

(سوال) قبرستان کی جو زمین خریدی جاتی ہے اگر بیع ہے تو تصرف و قبضہ نہیں اور اگر اجارہ ہے تو تعیین مدت نہیں پھر یہ کیا ہے؟

(جواب) قبرستان وقف ہوتا ہے اور اس کی خرید و فروخت اور اجارہ و فن میت کا دونوں ناروا ہے۔ ہمارے ملک میں دستور نہیں۔ اگر وہاں یہ امر ہوتا ہے تو ظلم ہے کہ قبرستان جب وقف ہوا ہر عام اس میں مردہ کو دفن کر سکتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### رقم چندہ محصل چندہ یا مہتمم کے ذاتی اخراجات میں صرف کرنا

(سوال) مہتمم مدرسہ یا محصل چندہ کو اپنے صرف میں لانا رقم چندہ میں سے درست ہے یا نہیں؟  
(جواب) مہتمم کو خرچ ضروری کرنا یہ وغیرہ اس میں سے لینا جائز ہے فقط۔

(۱) عالگیریہ میں ایسا ہی ہے ۱۲۔



## مسجد کا تیل

(سوال) کروغن مسجد کا فروخت کر کے بلا اجازت واقف کے مؤذن اس مسجد کے صرف میں لانا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر مسجد کا تیل مسجد کی حاجت سے زائد ہو تو اس کو فروخت کر کے مسجد کے خرچ میں لانا درست ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

## مسجد کی خراب اشیاء کا مسئلہ

(سوال) مسجد کی اشیاء جو بالکل خراب قابل پھینکنے کے ہوں ان کو اپنے کام میں لے آوے یا نہیں؟

(جواب) مسجد کی کسی شے کو اپنے ذاتی کام میں نہ لاوے نہ اپنے گھر لے جاوے البتہ اگر وہ بیکار ہوگئی ہوں تو اس کی قیمت کرا لے اور متولی مسجد سے خرید کر پھر اپنے کام میں لے آوے فقط

## ملفوظات

## کسی مسجد کا چندہ دوسری مسجد میں صرف کرنا

۱۔ جس مسجد کے لئے چندہ فراہم کیا گیا ہے اسی میں صرف کرنا چاہئے دوسری مسجد میں بلا اجازت چندہ دہندگان صرف کرنا درست نہیں ہے البتہ اس مسجد کے جس مصارف ضروریہ میں کریں درست ہے۔

۲۔ جب کسی شخص نے چندہ مسجد اور روپیہ میں ملا لیا تو گنہگار اور غاصب ہوا پھر جب وہ روپیہ مسجد میں لگا دیا وہ گنہگار نہ رہا گناہ معاف ہو گیا اب کسی سے اجازت کی حاجت نہیں ہے۔

۳۔ چندہ مسجد سے زمین واسطے مسجد کے خریدنا اسی وقت درست ہے کہ چندہ دہندگان کی

اجازت ہو۔

## باب: مساجد کے احکام کا بیان

مسلمان بھنگی کا مال مساجد میں لگانا

(سوال) بھنگی مسلمان کہ جس کا پیشہ پاخانہ اٹھانے کا ہے اور اس کی بیچ ہی ہوتی ہے اس کے یہاں کا کھانا اور اس کا مال تعمیر مساجد میں صرف کرنا منع ہے یا نہیں؟

(جواب) پاخانہ اٹھانے کی اجرت مباح ہے وہ مال بھی حلال ہے اگر کوئی فساد عمد میں نہ ہو لہذا تعمیر مساجد میں صرف کرنا بھی درست ہے اس کی اجرت صفائی مکان کی ہے پاخانہ کی قیمت نہیں جو شبہ کراہت کا ہو۔ فقط واللہ اعلم

شیعہ کی بنوائی ہوئی مسجد

(سوال) اگر کوئی شیعہ مسجد اپنے مال سے بناوے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اس میں نماز پڑھنے سے مسجد کے برابر ثواب ہوگا یا نہیں اور اس مسجد کو حکم مسجد کا ہے یا مثل دیگر مکانات کا ہے؟

(جواب) شیعہ مسجد لوجہ اللہ تعالیٰ بناوے تو وہ مسجد ہے ثواب مسجد کا اس میں ہوگا۔ فقط

تعمیر مسجد کے لئے کافر سے چندہ وصول کرنا

(سوال) ایک مسجد کسی مسلمان نے تعمیر کی تھی وہ ناتمام ہے اس کی تعمیر کے واسطے چندہ شیعہ یا ہندو سے لینا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) تعمیر و مرمت مسجد میں شیعہ و کافر کا روپیہ لگانا درست ہے۔ فقط

کافر کی بنوائی ہوئی مسجد

(سوال) کوئی کافر نصرانی یا ہندو غیرہ مسجد بناوے تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے آیا ثواب مسجد کا حاصل ہوگا یا نہیں اور اس مسجد کو حکم مسجد کا ہے یا نہیں؟

(جواب) جس کافر کے نزدیک مسجد بنانا عمدہ عبادت کا کام ہے اس کے مسجد بنانے کو حکم مسجد کا ہوگا۔ فقط

## طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد

(سوال) مسجد طوائف نے بنائی اب کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ قرض سے بنائی ہے یا خود مال حرام سے بعینہ پرانی مسجد ہے نماز اس میں کیا حکم رکھتی ہے؟  
(جواب) ہرگز نہ پڑھے۔ فقط

## مسجد کے لئے کافر کا چندہ

(سوال) شیعہ یا ہندو یا نصاریٰ یا یہود مسجد بنا دے یا اس کی مرمت کرے یا چندہ مسجد وغیرہ میں شریک ہو تو جائز ہے یا نہیں؟  
(جواب) اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے مسجد ان لوگوں کی بنائی بحکم مسجد ہے اگر یہ لوگ مسجد میں روپیہ لگانا ثواب جانتے تو ان کا وقف درست ہے ایسے ہی اوپر کی عمارت میں شریک ہوں تب بھی درست ہے۔ فقط واللہ اعلم

## مرائی و طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد

(سوال) مرائی یا طوائف اگر مسجد بنا دیں مال بعینہ سے بغیر حیلہ قرض کے نماز اس میں مکروہ ہے یا نہیں۔

(جواب) اس مسجد میں نماز مکروہ تحریمہ ہوگی وہ مسجد نہیں۔ فقط

## مسجد و مدرسہ میں کافر کا روپیہ لگانا

(سوال) تعمیر مسجد و اجراء مدرسہ میں ہنود کا روپیہ لگانا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) مدرسہ و مسجد میں ہنود کا روپیہ لگانا درست ہے۔ فقط واللہ اعلم

## مسجد میں کافر کا روپیہ لگانا

(سوال) ہندو کا مسجد میں روپیہ لگانا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) ہندو کا دیا ہوا چندہ مسجد میں صرف کرنا درست ہے جب کہ وہ بہ نیت ثواب دیتا ہو۔

رمضان شریف میں مساجد میں زیادہ روشنی کرنا

(سوال) رمضان شریف میں مسجدوں کو آراستہ کرنا اور تراویح کے وقت اور دنوں کی بہ نسبت

زیادہ روشنی کرنا کیسا ہے؟

(جواب) مساجد کا صاف کرنا تو بہتر ہے مگر روشنی اندازہ سے زیادہ کرنا اسراف ہے اور اگر زیادہ روشنی بسبب کثرت آدمیوں کے ہے کہ حاجت ہے تو درست ہے۔ فقط واللہ اعلم

مسجد میں رمضان میں ضرورت سے زیادہ روشنی

(سوال) روشنی کرنا رمضان کی شب ختم قرآن میں حاجت سے زائد جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) حاجت سے زیادہ روشنی ہر روز ہر وقت حرام اسراف ہے اور ایسی برکت کے وقت میں زیادہ موجب خسران کا ہے۔ فقط واللہ اعلم

کافر کی بنوائی ہوئی مسجد

(سوال) کافر کی تعمیر کردہ مسجد میں ثواب مسجد کا ملے گا یا نہیں؟

(جواب) اگر کافر لوجہ اللہ مسجد بنا دے تو اس میں نماز کا ثواب مثل اور مساجد کے ہوگا۔ فقط

مسجد میں ضرورت سے زیادہ روشنی

(سوال) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور وہ

مسجد قدیل سے روشن تھی آپ نے حضرت عمرؓ کو دعادی تو تراویح کی شب میں ہر روز یا ختم قرآن شریف میں اگر کوئی بنظر اس روایت کے چند فتاویٰ قدیل روشن کرے جائز ہے یا نہیں یا مسجد کے تیل کو صرف اپنے پاس سے کرے یا وعظ وغیرہ اگر کسی عالم سے کہلاوے اس میں بنظر ادب وعظ کے چند قدیل روشن کرے جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) حضرت عمرؓ سے جو روشنی کرنا چرانہوں کا مسجد میں منقول ہے کسی جگہ سے کسی روایت

سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ وہ حاجت سے زائد تھی بلکہ قدر حاجت تھی کہ اگر اس سے کم

ہو جاتی تو بعض مسجد میں روشنی نہ رہتی اور اگر حاجت سے زیادہ ہوتی تو اسراف میں داخل

ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کیونکر گمان ہو سکتا ہے کہ وہ خلاف قول اللہ تعالیٰ: لا تسرفوا

ان اللہ لا یحب المسرفین (۱) کے کرتے اور فقہاء کی کتب میں روشنی زیادہ از حد ضرورت کو

اسراف میں داخل کیا ہے کیونکہ منظور ہو سکتا ہے کہ یہ فعل حضرت عمرؓ کا فقہاء کو معلوم نہ ہوا لی اصل

(۱) اور حاجت سے زیادہ خرچ نہ کرو اللہ تعالیٰ حاجت سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

نہ حضرت عمرؓ سے اس قدر روشنی ثابت ہوئی جو حاجت سے زیادہ اور داخل اسراف ہو اور اصل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکرؓ کے وقت میں مسجد میں چراغ نہ جلتے تھے۔ حضرت عمرؓ کے وقت میں وسعت

ہوئی بعض صحابی بیت المقدس کا حال دیکھ کر آئے حضرت عمرؓ نے بھی بسبب وسعت کے مسجد میں روشنی قدر حاجت کرائی کیونکہ مسجد بہت طول طویل تھی دو چار چراغوں سے وہاں تمام مسجد میں روشنی نہ ہو سکتی تھی۔ لہذا متعدد چراغ روشن کرائے مگر وہ کثرت قدر حاجت سے زیادہ نہ تھی پس اس سے اگر کوئی جاہل یہ سمجھ جاوے کہ بکثرت چراغ جلانے جائز ہیں تو سراسر جہل اس کا ہے بدون فہم کلام علماء اپنے قیاس فاسد کو دخل دے کر اسراف کا مرتکب ہونا ہے لہذا ہرگز جائز نہیں کہ تراویح میں یا ختم قرآن میں یا وعظ میں قدر حاجت سے زیادہ روشنی کی جاوے۔ فقط واللہ اعلم

### مساجد میں مٹی کا تیل یا دیا سلائی جلانا

(سوال) مٹی کا تیل مسجدوں میں جلانا یا دیا سلائی مسجد میں سلگانا جائز ہے یا نہیں کہ ان دونوں میں بدبو ہے اور اگر لیمپ میں مٹی کا تیل ہو کہ اس میں بدبو روشنی کے وقت نہ آتی ہو مسجد میں یا حدیث شریف پڑھاتے ہوئے یا قرآن شریف پڑھتے ہوئے اپنے مکان میں درست ہے یا نہیں؟

(جواب) مٹی کا تیل جلانا اور دیا سلائی مسجد میں حرام ہے اور جگہ جہاں ذکر ہو اولیٰ نہیں ہے اور اگر لیمپ میں کہ اس کی بوبا ہر نہ نکلے تو غیر مسجد میں جلانا مباح ہے مگر مسجد میں حرام ہے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ فقط

### مسجد میں دیا سلائی جلانا

(سوال) مسجد میں دیا سلائی جلانا یا طاق مسجد میں بیٹھ کر جلانا کہ جو خارج سے ہو جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) مسجد میں بدبو دار شے لانا حرام ہے ایسے ہی دیا سلائی بھی جلانا حرام ہے۔ طاق مسجد بھی داخل مسجد ہے۔

### مساجد میں مٹی کا تیل جلانا

(سوال) مٹی کا تیل مسجد میں روشن کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟

(جواب) مٹی کا تیل مسجد میں جلانا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے اور ہر بودار شے کا مسجد میں داخل کرنا ممنوع ہے حدیث میں ہے کہ جو کوئی پیاز، لہسن خام کھاوے مسجد میں داخل نہ ہوے اور علیٰ ہذا کپڑے اور بدن کی بدبو کے ساتھ مسجد میں آنے کو منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ ملائکہ اذیت پاتے ہیں اس چیز سے جس سے اذیت پاتے ہیں انسان لہذا اس تیل کے جلانے میں بھی چونکہ جن و انس و ملائکہ کو اذیت ہے اس کا جلانا حرام ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

الجواب صحیح عنایت اللہ الجواب صحیح ابو الحسن عفی عنہ۔ اس تیل کا جلانا البتہ مساجد میں مکروہ ہے ابو الحسنات حبیب الرحمن عفی عنہ۔ الجواب صحیح والحبیب کحج ابو القاسم محمد عبدالرشید انصاری سہارنپوری۔ فقط

### مساجد میں زیب و زینت کرنا

(سوال) مساجد کے بلند کرنے اور زیب و زینت و نقش و نگار طلائی و نقرئی وغیرہ جو کچھ عوام کرتے ہیں احادیث صحیحہ کثیرہ میں اس کی ممانعت وارد ہے اور فعل یہود سے مشابہت دی گئی ہے) چنانچہ ابوداؤد میں ہے امرت بتشید المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها کما زخرفت اليهود والنصارى (۱) لہذا حسب احادیث امور مذکور ممنوع و حرام ہوں گے پھر اگر جواز یا احتباب جیسا کہ معمول زمانہ ہے اگر ہو تو ارقام فرمائیں۔

(جواب) فخروریا سے مساجد کا اونچا کرنا حرام ہے اور جو شوکت و زینت اسلام کے واسطے کرے مباح ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہ کسی صحابی نے ان پر انکار و رد نہ فرمایا اگرچہ آثار سابق کی بقا کو تحسن جانتے تھے یہی دلیل جواز کی ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

### مسجد کے اس گوشہ کی تعمیر جو خارج از مسجد ہو

(سوال) جو جگہ مسجد کے ایک کونہ کی کسی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہو اور نالی اور دیوار اور فرش اس کو محیط ہو یعنی یہ جگہ فرش کے ایک جانب کو ہو ایسی جگہ پر وضو کر لینا درست ہے یا نادرست۔

(جواب) جو کہ نہ مسجد کا خارج رہا وہ مسجد ہی ہے تا قیامت اس پر وضو وغیرہ کرنا درست نہیں بلکہ

(۱) مجھ کو مساجد کے مضبوط و بلند بنانے کا حکم دیا گیا ہے لیکن عباس نے فرمایا کہ تم اس کو ضرور مخرن کرو گے جس طرح کہ یہود و نصاریٰ نے مخرن کیا ہے۔

اس کی عظمت ویسے ہی رکھنا چاہئے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### صحن مسجد میں قبور قدیم پر مسجد کے لئے حوض بنوانا

(سوال) قبور قدیمہ کے مردود ہو رہے، ہموار ہو گئی ہوں اور صحن مسجد میں واقع ہوں ان پر حوض یا دوسری شے مصالح مسجد کے واسطے بنانا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر قبرستان وقف ہے تو یہ امر درست نہیں اور جو ایسا ہی دفن واقع ہوا تھا اور استخوان مردگان و محدود ہو گئی تو درست ہے اور فرش مسجد میں ادخال ایسی زمین کا بعد ہمواری زمین کے بھی درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### سود کے مال سے مسجد کا بنوانا

(سوال) بیاج کے روپیہ سے مسجد یا چاہ کا بنانا درست ہے یا نہیں یا دو شریک ہو کر بنا دیں جس میں ایک کاروبیہ بیاج کا ہے دوسرے کا مال طیب ہے۔

(جواب) جو مسجد کہ اس میں حرام روپیہ لگا اس میں نماز مکروہ تحریمہ ہوتی ہے اور ثواب مسجد کا نہیں ملتا واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مسجد میں خرید و فروخت کرنا

(سوال) مسجد میں خرید و فروخت کر لینا اور قیمت باہر جا کر دے لینا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) مسجد میں کوئی سودا خریدے تو درست ہے مگر اسباب وہاں نہ ہو اور اس کام میں کثرت اور اس میں زیادہ مشغول وہاں نہ چاہئے کہ مسجد کی بے حرمتی ہے احیاناً کسی سے ایسی بات چیت کر لی جاوے تو درست ہے فقط۔

### مسجد کو فروخت کرنا

(سوال) ایک مسجد تعداد دو گز کی طویل ہے اور ایک گز کی عرض ہے اور ویران ہے نماز اور اذان کبھی اس میں کچھ نہیں ہوتی ہے تو اگر اس کو متولی مسجد فروخت کر کے دوسری مسجد کہنہ کلاں میں قیمت اس کی لگا دیں یا اینٹیں اس کی لگا دیں اور زمین میں اس کی دوکان واسطے صرف مسجد کہنہ کے بنوادیں تو یہ جائز ہے یا نہیں یا تحریر فرمائیے کہ اس کی زمین کو خالی کیا جاوے جب کہ اینٹیں وغیرہ کی اجازت حضور کی دوسری مسجد کو ہو جاوے۔

(جواب) مسجد کی بیع حرام اور باطل ہے کہ کسی حال بیع نہیں کر سکتے خواہ وہاں اذان و نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو اور آ باد ہو یا ویران ہو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرام مال سے بنائے ہوئے مکان میں نماز

(سوال) اگر مال حرام سے ایک مکان بنایا گیا لیکن زمین اس کی پاک ہے وہ مال حرام سے نہیں خریدی گئی بلکہ وہ مکان سرکاری زمین کے اندر باجائز سرکار بنایا گیا ہے اندر میں صورت مکان مذکور میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور قیام و سکونت کرنا اس میں کیا حکم رکھتا ہے اس مکان کے صحن و کوٹھہ ہر دو ۲۰ میں نماز مکروہ ہے یا فقط جہاں تک تعمیر ہو کر وہ ہے باقی صحن میں نماز بلا کراہت جائز ہے۔

(جواب) جس مکان کی زمین حلال ہو اور بناء حرام ہو اس میں نماز مکروہ ہوتی ہے مگر ایسی جگہ کہ اثر بناء کا نہ ہو اس میں کراہت نہ ہوگی فقط کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی عفی عنہ رشید احمد ۱۳۰۱ علی ہذا القیاس سکونت و قیام اس مکان میں مکروہ تحریمی ہے فقط محمد روشن عفی عنہ حضرت مولانا سلمہ سے تحقیق کر لیا ہے فقط۔

حرام مال سے مسجد کا غسل خانہ بنانا

(سوال) جن لوگوں کے پاس روپیہ حرام سے اکٹھا ہوتا ہے اگر ان کے روپیہ سے غسل خانہ یا پاخانہ مسجد کے متعلق بنایا جائے جائز ہے یا ناجائز نیز مسجد میں روشنی وغیرہ ان کے روپیہ سے کرنا فقط۔

(جواب) سب ناجائز ہے اور استعمال اس کا نادرست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد کی تعظیم

(سوال) مال طوائف کی مسجد تعمیر شدہ میں نماز تو جائز نہیں لیکن تعظیم اس کی مسجد کی سی چاہئے یا مثل دیگر مکانات کے ہے حتیٰ کہ بول و غائط بھی اس میں درست ہے یا نہیں۔

(جواب) نماز اس میں مکروہ ہے مگر چونکہ اس نے اس کو مسجد بنایا ہے لہذا تعظیم اس مکان کی رعایت رکھے فقط۔

مسجد کاروپیہ کنویں کی مرمت میں لگانا

(سوال) جس مسجد کے واسطے چندہ جمع کیا تھا اس کے قریب جو کنواں ہے اور اس سے اہل محلہ



بھی پانی بھرتے ہیں اور اس میں سے مسجد میں پانی آتا ہے اور یہ وہی کنواں ہے کہ جس کو لکھا تھا کہ کتے کا جھوٹا پانی اس کے اندر گیا تو اس روپیہ کو اس کنویں کی مرمت میں لگانا بغیر اجازت چندہ دہندگان کہ جو مسجد کے نام سے وصول کیا تھا جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) مسجد کا روپیہ اس کنویں میں لگانا درست نہیں۔

### مسجد کے پھلدار درختوں کا مسئلہ

(سوال) اگر مسجد میں امرود کا درخت ہو اس کو نمازی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔  
(جواب) جو درخت کسی نے نمازیوں کے کھانے کو لگایا ہو اس میں سے کھانا درست ہے۔

### مسجد کا بچا ہوا تیل

(سوال) خادم مسجد بچی ہوئی چیز تیل لکڑی وغیرہ اپنے صرف میں لاسکتا ہے یا نہیں۔  
(جواب) مسجد کا بچا ہوا تیل لکڑی وغیرہ اپنے کام میں نہیں لاسکتا البتہ اجرت خدمت لینا چاہئے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور متولی سے وصول کر لیا کرے فقط۔

### مسجد کا حجرہ بنانے کی جہت

(سوال) ایک مسجد میں نمازیوں کو وضو کی سخت تکلیف گر مابین رہتی تھی کہ کوئی جگہ سایہ وغیرہ کی نہیں تھی ایک شخص نے ایک سردری بنوانی شروع کی اور مسجد میں کسی طرف کو حجرہ مسجد کے اسباب کے واسطے بنوانا چاہتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں بیٹو! تو جروا۔

(جواب) مسجد کے متعلق غسل خانہ و حجرہ و سردری وغیرہ اگر بنوایا جائے تو مسجد کے فرش سے بالکل علیحدہ اور ایک طرف کو ہوتی کہ اگر کوئی کڑی یا ستون مسجد پر رکھا جاوے گا تو جائز نہ ہوگا اور جو ستون بنایا گیا ہو تو اس کو تڑوا دینا چاہئے علیٰ ہذا یہ تعمیر جس میں مسجد کا فرش کا مین آوے گا اس کا لینا جائز ہرگز نہ ہوگا اور اگر کچھ بنایا گیا ہو اور اس میں مسجد کا فرش کچھا گیا ہو تو اس کو تڑوا دینا چاہئے۔

### مسجد کی زمین میں حجرہ بنانا

(سوال) مسجد بوجہ چھوٹی ہونے کے بڑھائی گئی کسی قدر زمین کہنہ مسجد کی بچ رہی اس میں حجرہ وغیرہ بنا سکتے ہیں یا نہیں۔

(جواب) یہ جگہ مسجد کی بچی ہوئی کسی دوسرے کام میں نہیں آسکتی نہ یہاں حجرہ بنانا درست ہے

نہ غسل خانہ وغیرہ جس طرح ہو مسجد میں شامل کر دیں نہ ہو سکے تو احاطہ بنا کر ویسے ہی پڑا رہنے دیں فقط۔

### مسجد کی افتادہ زمین کا مسئلہ

(سوال) ایک مسجد کے محن کے آگے کچھ جگہ عرصہ دراز سے پڑھی ہوئی ہے اور اس میں ایک جانب غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور ایک جانب کو اس جگہ میں آمدورفت کو دروازہ مسجد کا ہے اور ایک دروازہ آمدورفت کا دوسری طرف کو بھی ہے بعض اہل محلہ کہتے ہیں کہ جگہ ہماری ملک ہے اور دیگر اشخاص بلکہ اکثر اشخاص شہر کہتے ہیں کہ یہ جائے افتادہ متعلق مسجد کے ہے اور ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے مگر قبضہ اہل محلہ کا بھی رہا جیسا کہ جائے افتادہ میں گاڑی کھڑی کر دی کباڑ کھدیا اور ایسا تصرف جائے افتادہ میں اکثر کر لیا کرتے ہیں مدعی مذکور کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے بیع نامہ میں ہے اور غسل خانہ ہم نے رعایتاً بنوادینے تھے مگر بیع نامہ دکھلاتے نہیں ہیں تو حضور جائے بیع مذکور عند اللہ مسجد کی قرار دی جاوے یا کس کی اور مسجد ہو سکتی ہے یا نہیں مولوی اشرف علی صاحب نے یہ جواب لکھا ہے کہ وقف میں تسامع و شہرت حجتہ ہے اگر بیع نامہ دکھلا دیں تب بھی یہ جگہ متعلق مسجد کے ہے۔

(جواب) جب تک وہ لوگ اپنی ملک کا کوئی ثبوت معتبر اور کافی نہ دیں گے اس وقت تک وہ جگہ مسجد کی ہی سمجھی جاوے گی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مسجد میں چار پائی بچھانا

(سوال) مسجد میں چار پائی بچھانی درست ہے یا نہیں۔

(جواب) چار پائی مسجد میں بچھانی درست ہے۔ (۱) فقط۔

### مساجد میں ذکر جہری

(سوال) صوفیاء کرام جو بعد نماز مغرب مساجد میں حلقہ کرتے ہیں اور کودتے چلاتے اور ہوتی

(۱) علمائے دین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ مسجد میں چار پائی پر سونا جائز ہے یا منع حکم شریعت کے مطابق تحریر فرمادیں۔ حوا مصوب جائز ہے اس لئے کہ آنحضرتؐ کے لئے مسجد میں ایک تخت رکھا جاتا تھا اور آپ بزمانہ اعتکاف اس پر آرام فرمایا کرتے تھے جیسا کہ سفر سعادت میں ہے اور ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ جب اعتکاف فرمایا کرتے تو آپ کے لئے کچھوٹا بچھایا جاتا یا ستون توبہ کے پاس آپ کا تخت ڈال دیا جاتا واللہ تعالیٰ اعلم اس کو محمد عبدالحی عفی عنہ نے لکھا ہے ۱۱۔

کرتے ہیں کہ جس سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور مسجد میں شور و غل پڑ جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں اور اشعار وغیرہ تو حید اور ذوق شوق کے پڑھے جاتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) بعض علماء نے مسجد میں رفع صوت کو اگرچہ بڑ کر ہو مگر وہ لکھا ہے لہذا مسجد میں اس کا نہ ہونا مستحسن ہے خصوصاً ایسی صورت میں کہ تماشا گاہ عوام ہو جاوے یا مسجد کا نقصان ہو اگرچہ ذکر خیر یا کاء اور نالہ مسجد میں جائز بھی ہو فقط۔

### مسجد میں راستہ داخل کرنا

(سوال) راستہ میں سے بچہ ضرورت کے کچھ مسجد میں داخل کر دینا کیا حکم رکھتا ہے اور اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد ہے کہ جائے مسجد کا تا قیام قیامت یکساں حال ہے۔  
(جواب) راہ کو مسجد میں لانا بشرطیکہ چلنے والوں کو تنگی نہ ہو درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم اس کے عکس کو بھی بعض علماء نے درست کہا ہے مگر بے تعظیسی مسجد کی درست نہیں لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مسجد کے لئے جبراً جگہ لینا

(سوال) ایک مسجد کا محن کم ہے اور نمازی کثرت سے آتے ہیں اور باہر مسجد کی جگہ ہے ایک مسلمان کی وہ شخص بہ قیمت بھی جگہ نہیں دیتا ہے اس صورت میں زبردستی جگہ لے کر بہ قیمت اگر مسجد میں شامل کریں تو درست ہے یا نہیں۔  
(جواب) در حالت تنگی و ضرورت جبراً جگہ لے کر مسجد میں بڑھانا درست ہے۔ فقط۔

### مسجد کی حفاظت کے لئے جہاد

(سوال) یہاں چار کوس پر ایک موضع میں ایک مسجد خام کہنہ ہے اس کو ایک کافر شہید کرا کر بت خانہ بنوانا چاہتا ہے تو حضور مسلمانوں پر اس کا روکنا فرض ہے یا مستحب ہے اور اس کافر کا مقابلہ کرنا اور یا اس میں لڑ کر شہید ہو جانا فرض ہے یا مستحب غرض یہ ہے کہ کس درجہ مسلمان اس کافر خبیث ظالم کا مقابلہ کریں یا خاموش رہیں اگر مارنا اور مرنا ضروری ہے تو خاص اس موضع مسجد کے مسلمانوں پر ضرور ہے یا جو مسلمان کہ اس قصہ کو سنے۔

(جواب) اس مسجد کی صیانت سب مسلمانوں پر فرض ہے مگر لڑنا ہرگز درست نہیں ہے حسب

قاعدہ سرکاری طور سے سرکاری طرف رجوع کرنا چاہئے فقط۔

### مسجد میں زیادتی کے لئے تغیر

(سوال) مسجد کو بعد انہدام قبلہ کی جانب اور زیادہ کر لینا اور اندرون مسجد کو فرش میں داخل کر دینا کیسا ہے۔

(جواب) زیادتی فی المسجد اور اس طرح تغیر جائز ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مسجد کا ثواب اندر و باہر

(سوال) مسجد کے اندر باہر نماز کا ثواب برابر ہے یا کم و بیش۔

(جواب) اندر باہر مسجد کا ثواب برابر ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مسجد کے اندر وضو کرنا

(سوال) مسجد کے اندر باعث دھوپ یا بارش بیٹھ کر وضو کرنا درآئیں لیکہ پانی بھی وضو کا مکن مسجد میں پھیلے جائز ہے یا نہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) مسجد کے اندر وضو کرنا کہ غسلہ مسجد میں گرے حنفیہ کے نزدیک منع اور گناہ ہے اور تیمم دیوار مسجد سے کرنے کو بھی بعض کتب فقہ میں مکروہ لکھا ہے فقط۔

### مسجد کی رقم سے گھنٹہ وغیرہ خریدنا

(سوال) مسجد کا روپیہ جو مرمت سے باقی رہ گیا ہے اگر اس روپیہ کو بہ اجازت چندہ دہندگان اس مسجد میں واسطے جھگڑے جماعت اور پابندی جماعت کے اس روپیہ جمع شدہ چندہ سے جو بنام مرمت مسجد کے سابق میں جمع کیا تھا اور اس مرمت سے روپیہ باقی رہ گیا اگر اس روپیہ کی گھڑی یا گھنٹہ خرید کیا جاوے تو حضور کیا حکم دیتے ہیں۔

(جواب) جو روپیہ مرمت مسجد کے لئے آیا ہے اس میں امام یا مؤذن مقرر لینا درست ہے اور گھنٹہ خریدنا بھی درست ہے فقط۔

### مسجد میں ختم قرآن کی رات ضرورت سے زیادہ روشنی

(سوال) ختم قرآن کی رات کو روشنی حد سے زیادہ کرنا یعنی صدہا چراغ جلانا اسراف میں

داخل ہے یا نہیں۔

(جواب) روشنی زائد از حد ضرورت داخل اسراف اور حرام ہے خواہ ختم قرآن میں ہو یا اور کسی مجلس میں اور ایسی جگہ جانا درست ہے فقط۔

مسجد میں دیا سلائی جلانا

(سوال) دیا سلائی گندھک کی جس سے چراغ روشن کرتے ہیں اور بوقت روشن کرنے کے اس سے بدبو نکلتی ہے مسجد میں جلانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) جس شے میں بدبو ہو اس کو مسجد میں لے جانا اور بدبو کا مسجد میں پیدا کرنا منع ہے یہاں تک کہ پیاز کھا کر بدبو دار دہن کے ساتھ دخول مسجد کو حرام لکھا ہے پھر گندھک کی بدبو مسجد میں پھیلانا کس طرح درست ہوگا۔ چراغ خارج مسجد روشن کر کے لے جاوے یا موم کی دیا سلائی سے روشن کرے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسجد میں چار پائی بچھانا

(سوال) مسجد میں واسطے سونے کے مسافر یا مقیم کو چار پائی بچھانا کیسا ہے۔

(جواب) مسجد میں چار پائی بچھانا مسافر اور مقیم دونوں کو درست ہے۔ فقط

## باب: نذر اور قسم کا بیان

نذر کا پورا کرنا کب واجب ہے

(سوال) اگر کسی شخص نے نذر کی تو قبل حصول منذور کے ایفاء نذر کا واجب ہو جاتا ہے یا بعد میں۔

(جواب) قبل حصول مراد ایفاء نذر درست ہے مگر واجب نہیں ہوتا و جب بعد حصول کے ہوتا ہے فقط۔

نذر اللہ کا کھانا کون کھا سکتے ہیں

(سوال) ایک غریب حاجت مند و بے روزگار نہایت مایوس ہے اور ایک متمول نے کہا کہ چند روپیہ واسطے نذر کے مقرر کر کے ہم کو دو، ہم نذر اللہ کریں گے شخص حاجت مند نے حسب فرمائش عمل کیا اور حاجت پوری ہو گئی روپیہ مذکورہ حق مساکین ہے یا آشنایان و دوستان۔ صاحب متمول مذکور اور صاحب متمول در صورت خورد و نوش مواخذہ دار ہوئے یا نہیں۔

(جواب) نذر کا مال فقراء کو دینا واجب ہے اگر دوست آشناء مالداروں شہدوں کو دے گا تو ان کو ان کا کھانا حرام ہے اور نذر کرنے والے کے ذمہ سے ادا نہیں ہوتا۔

نذر کا کھانا نذر کرنے والا کھا سکتا ہے یا نہیں

(سوال) یہ کہا کہ اگر میرا فلاں عزیز اچھا ہو جاوے تو کھانا یا جانور ذبح کر کے نذر دوں گا اب یہ نذر ماننے والا خود بھی کھا سکتا ہے یا نہیں۔

(جواب) ایسے نذر و منت کی اور جو شے ہو اس میں سے کھانا حرام ہے اور کسی غنی کو نہ دینا چاہئے نذر کنندہ کے ماں باپ اور بیٹا بیٹی کو اس میں سے کھانا درست ہے (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

نذر کارو روپیہ اغنیایا اعزہ کو کھلانے کا حکم!

(سوال) ایک شخص نے نذر آٹھ آنہ کی شیرینی مسجد میں دینے کی مانی اب اس نے نصف مسجد میں دی، نصف اہل خانہ اپنے میں تقسیم کی یہ درست ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ نذر اس کے ذمہ واجب ہوگی اب آٹھ آنہ نقد یا اس کی کوئی شے اللہ فقراء کو دینی چاہئے مسجد میں اغنیا کو دینا یا اپنے گھر اپنے ماں باپ اولاد کو یا میاں بیوی کو یا ایسے لوگوں کو دینا جو غنی ہوں ہرگز کافی نہیں ہو سکتا ہے (۱) فقط۔

### مسجد میں کھانا بھیجنا

(سوال) کوئی شخص کھانا پکا کر واسطے نمازیوں کے مسجد میں بھیجے اس کھانے کو مؤذن مسجد اپنا حق جان کر اوروں کو نہ دے یہ کیسا ہے کہ بعض نمازی مؤذن کو دینا چاہیں بعض خود لینا بخیر نذر و ناذر کے پاس ثواب کس صورت میں زیادہ ہے ایک کے کھانے میں یا تقسیم میں۔

(جواب) اس کا مدار دینے والے کی نیت پر ہے جس کو دینے کی نیت ہو اور اگر وہ کھانا نذر کا ہے تو فقراء کو جائز اغنیا کو حرام فقط۔

### کسی کے نام پر مرغایا بکرا ذبح کرنا

(سوال) کسی کے نام کا بکریا مرغایا بکرا ذبح کرنا کیسا ہے زید کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر ہو حرام ہے عمرو کہتا ہے کہ جو ذبح کے وقت اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے تو حرام ہو جاتا ہے اور وقت میں نام لینے سے حرام نہیں ہوتا ہے اگر غیر وقت میں نام لینے سے حرام ہو جایا کرے تو سب نیل بکری حرام ذبح ہوتے ہیں اس لئے کہ جو کوئی بکرا پالتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بکرا اس پر بھی اللہ کے سوا غیر کا نام آ گیا اس کا جواب صحیح کس طرح پر ہے۔

(جواب) جو جانور غیر کے نام کا ہو اس کو اس ہی نیت سے ذبح کرنا بم اللہ کہہ کر بھی حرام ہے اور جانور حرام ہی رہتا ہے ایسے جانور کو ذبح نہ کرے اور کسی کا بکرا کہنا بوجہ مالک ہونے کے درست ہے مگر کسی کی تعظیم و قربت کا کہنا حرام ہے اگر یہ نیت ہو کہ اس کا ثواب بوجہ اللہ کسی کو پہنچے اس میں کچھ حرج نہیں تعظیم غیر پر ذبح سے حرام ہوتا ہے نہ مالک ہونے سے کسی بشر کے دونوں میں فرق ہے فقط۔

### نا جائز اشیاء بیچ کر نذر اللہ کرنا

(سوال) ایک شخص زمانہ سابق میں تعزیہ بنانا تھا پھر اس نے تعزیہ بنانے سے توبہ کی اور اس کے

(۱) ۱۷۷ مسائل میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔

متعلق جو ڈھول تاشے اور طبل وغیرہ تھے اس کو تعزیہ داروں کے ہاتھ فروخت کر کے اس کی قیمت سے اللہ کے نام کی نذر کی تو اس نذر و نیاز کا کھانا درست ہے یا نہیں اور ایسے مال کی نیاز شرعاً جائز ہے یا نہیں اور ایسی نذر و نیاز سے امید ثواب رکھنا کیسا ہے۔

(جواب) جس شے سے گناہ کرتے ہوں اس کی بیع حرام ہے اور ڈھول تاشا معصیت کا آلہ ہے اس کی بیع بھی حرام ہے اور قیمت اس کی بھی حرام اس سے نذر و نیاز بھی کرنا حرام ہے اور اس کھانے کا کھانا بھی مکروہ تحریمیہ ہے اور توقع ثواب بھی ایسے کھلانے کا گناہ اور اندیشہ کفر ہے مگر کفر نہیں کہہ سکتے واجب تھا کہ آلات کو توڑ کر جلا دینا فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### اللہ کے سوا کسی کی نذر کرنا

(سوال) کسی بزرگ اور ولی کی زیارت کو جانا اور مدد و حاجت روائی میں چاہنا اور نذر کرنی کہ اگر یہ کار و حاجت میری برآوے گی تو دس روپیہ مثلاً خیرات و صدقہ کروں گا روا ہے یا نہیں۔

(جواب) زیارت بزرگوں کی درست ہے مگر بطریق سنت ہمارے اور مدد مانگنا (۱) اولیاء سے حرام ہے مدد حق تعالیٰ سے مانگی چاہئے سوائے حق تعالیٰ کے کوئی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سو غیر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اگرچہ ولی ہو یا نبی شرک ہے اور یہ نذر کرنا کہ اگر حق تعالیٰ میرا کام کر دیوے تو دس روپیہ حق تعالیٰ کے نام پر صدقہ کروں گا درست ہے اور جو یوں کہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو ولی کے نام دس روپیہ دوں گا تو یہ نذر حرام اور ناجائز ہے کیونکہ نذر عبادت ہوتی ہے اور عبادت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی درست نہیں۔ ہاں اگر یوں کہے کہ اگر حق تعالیٰ میرا کام کر دیوے تو دس روپیہ کا ثواب حق تعالیٰ کے واسطے فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا تو مضائقہ نہیں کہ اس میں نذر غیر اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے ثواب پہنچانا ہے نذر حق تعالیٰ ہی کی ہے۔

(۱) ابو حامد غزالی اہیاء میں فرماتے ہیں کہ قبروں کا چومنا یہود و نصاریٰ کی عادت ہے اور زعفرانی نے فرمایا کہ قبر پر ہاتھ رکھنا اور اس کو چھونا اور اس کو چومنا اور اس کو چومنا ان بدعتوں میں سے ہے جو منکر ہیں شرعاً اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کی قبر مبارک پر رکھے ہوئے ہے تو انہوں نے اس کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں ہم اس بات کو نہیں جانتے تھے اور امام مالک و شافعی و احمد رحمہم اللہ نے ان باتوں کو برا کہا ہے اور منادی نے شرح جامع صغیر میں کہا ہے کہ قبر کو نہ چھوا جائے اور نہ اس کو چومے کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے اور مضمرات میں کہا ہے کہ قبروں کو نہ چوما جائے کیونکہ یہ نصاریٰ کی عبادت ہے اور تاتار خانہ میں لکھا ہے کہ قبروں کو نہ چوما جائے کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے اور فتاویٰ کبریٰ اور مفید المستفیدہ میں ہے کہ قبروں کو نہ چوما جائے کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔ (صواعق الہیہ)



## ملفوظ

اگر کسی نے نذر کی تو اس کے پورا کرنے کے لئے اس پر جبر جس شخص نے التزم فی جوڑہ ایک فلوس کا کیا ہے وہ اس کا محض احسان و صدقہ ہے اس پر جبر نہیں اگر فی الحال اس نے انکار کر دیا خیرات و صدقہ ترک کیا اس میں جبر نہیں ہو سکتا اور اگر اس نے نذر کر لی ہے تاہم اداء نذر پر کسی کو جبر نہیں پہنچتا۔

## کتاب: شکار اور ذبح کے مسائل

دریائی جانور ادو بلاؤ کے انڈے

(سوال) ایک جانور دریائی ادو بلاؤ ہوتا ہے اس کے انڈے خوشبودار ہوتے ہیں اور مشک کے مشابہ ان کا استعمال درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر وہ جانور دریائی ہے تو اس کے اجزاء پاک ہیں۔ (۱) فقط

## جھینگوں کا کھانا

(سوال) جگری اور جھینگوں کا کھانا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) جھینگا خشکی کی حشرات میں ہے حرام ہے اور دریائی غیر ماہی کا ہے سوائے ماہی کے سب دریائی جانور حنفیہ رحمہم اللہ کے نزدیک ناجائز ہیں اور جگری کو بندہ نہیں جانتا کیا شے ہے فقط خرگوش کا حکم

(سوال) خرگوش دو قسم کے ہیں دونوں قسم کے گوشت کھانا درست ہیں یا نہیں بعض کے کان بلی کی طرح کے ہیں اور بعض کے بکری کی طرح فقط۔

(جواب) خرگوش دونوں قسم کے مباح ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## بگلے کا حکم

(سوال) بگلا حلال ہے یا نہیں؟

(جواب) بگلا حلال ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) فتاویٰ رشیدیہ میں یہ تفصیل دریائی جانور غیر ماہی کی حلت او طہارت مرقوم ہے اور اصل دلیل پر اہل لکم صید البحر تمہارے لئے دریائی شکار حلال ہے آیت ۱۲۔

## اوجھڑی کا کھانا

(سوال) اوجھڑی کھانا ایسا ہے؟

(جواب) اوجھڑی کا کھانا حلال ہے۔

## اوجھڑی یعنی آنت یا جگری کھانا

(سوال) اوجھڑی یعنی آنت اور اس کو جگری بھی کہتے ہیں کہ پیٹ میں ہوتی ہے اور اس میں

پیشاب و گوبر رہتا ہے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اوجھڑی کھانی درست ہے۔ فقط

## اوجھڑی اور کھیری کا کھانا

(سوال) گائے کی اوجھڑی اور بکری کی کھیری کھانی درست ہے یا نہیں۔

(جواب) درست ہے۔ فقط

## حلال جانور کی حرام اشیاء

(سوال) حلال جانور کے گوشت مثل بکری و گاؤ و طیور وغیرہ میں کون کون چیز حلال ہے کون کون

حرام ہے۔

(جواب) سات چیزیں حلال جانور کی کھانی منع ہیں ذکر، فرج مادہ، مٹانہ، غدود حرام مغز۔ پشت

کے مہرہ میں ہوتا ہے۔ خصیہ، پتہ مراد جو کھجی میں تلخ پانی کا ظرف ہے۔ اور خون سائل قطعی حرام

ہے۔ (۱) باقی سب اشیاء کو حلال لکھا ہے۔ مگر بعض روایات میں گردے کی کراہت لکھتے ہیں۔ اور

کراہت تزیہہ پر عمل کرتے ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## ملفوظات

### بوم کی حلت

۱۔ بوم حلال نہیں ہے اور جن فقہاء نے اس کو حلال لکھا ہے ان کو اس کے حال کی خبر نہیں

ہوتی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ مورخہ ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۲۱ھ۔

ہندو اور کافر کے گھر کی شئی کی حلت و حرمت اور ذبیحہ کے متعلق اس کا قول۔

۲۔ ہندو کی اور کافر کے گھر کی شئی اگر بظن غالب حلال ہے تو کھانا اس کا درست ہے مگر قول حل و حرمت میں کافر کا معتبر نہیں تو ذبیحہ میں قول کافر کہ ذبح کردہ مسلم ہے لغو ہوا اور اس کے گھر کے طعام میں جو بظن غالب و یقین حلال ہے حلت ہوئی نہ بقول کافر بلکہ بعلم خود اگر ذبیحہ میں بھی یہی کیفیت پیش آوے کہ وہ کافر کچھ نہیں کہتا بلکہ مسلمان اپنے علم و تحقیق پر ذبیحہ مسلم جانتا ہے تو حلال ہوتا ہے تو پس فرق واضح ہے کہ مسئلہ کی بناءً قول کافر کے غیر معتبر ہونے میں ہے اور بس فقط ورنہ کفار کے گھر کا گوشت خود فخر عالم علیہ السلام نے بھی کھایا تھا۔ فقط والسلام

## کتاب: قربانی اور عقیقہ کے مسائل

قربانی کب واجب ہوتی ہے

(سوال) مسئلہ جس شخص کے پاس بغیر زمین زیور وغیرہ نصاب زکوٰۃ نہ ہو قربانی اس کے حق میں واجب ہے یا مستحب۔

(جواب) اگر کسی کے پاس زمین اس قدر ہے کہ سال بھر روٹی اس کی اور اس کے عیال کی اس سے چلتی ہو اور بقدر پچاس روپیہ کے بچر بھی ہوں تو ان دونوں پر قربانی واجب ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قربانی کا جانور کس عمر کا ہو

(سوال) قربانی اور عقیقہ کے بکری یا بھیڑ کا بچہ فریبہ چھ ماہ یا سات ماہ کا قربانی کرنی درست ہے یا نہیں (جواب) بکری سال سے کم کی درست نہیں مگر بھیڑ، دنبہ، چھ مہینہ کا اگر خوب فریبہ ہو تو درست ہے۔

میت کی طرف سے قربانی کرنے پر گوشت کی تقسیم کسے ہو!

(سوال) قربانی اگر میت کی طرف سے کی جاوے، بوجہ اس کی وصیت کے یا بغیر وصیت کے اس گوشت کو اپنے طرف میں لانا اور اقرباء کو تقسیم کرنا چاہئے یا صرف فقراء اور مساکین کو ہی تقسیم کر دینا چاہئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قربانی کرے تو اس میں سے اپنے طرف میں لانا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) قربانی کسی میت کی طرف سے یا فخر عالم علیہ السلام کی طرف سے یا کسی شیخ و مقرب کی طرف سے کرنا درست ہے مگر جو وصیت ہو اس کا گوشت سب کا سب فقراء کو تقسیم کرنا لازم ہے اور جو خود اپنی طرف سے کرتا ہے اس کا حال مثل اپنی قربانی کے ہے خود کھاوے چاہے ہدیہ

دیوے چاہے مساکین کو دیوے فقط کذا فی کتب الفقہ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۱)

میت کی طرف سے قربانی کرنا اس کا گوشت کھانا

(سوال) میت کی طرف سے قربانی کرنے میں خود کھا سکتا ہے یا نہیں؟

(جواب) میت کی طرف سے بغیر اس کی وصیت کے اپنے پاس سے بطور شغل جو قربانی کی

جاوے اس میں سے جس قدر کھاوے یا کسی کو دے درست ہے اور جو قربانی نذر مان کر کی جاوے

اس سے کھانا نادرست ہے۔ فقط

قربانی کی کھال کے دام مسجد میں صرف کرنا یا مؤذن کو دینا

(سوال) قربانی کی کھال کے دام مسجد کے صرف میں جیسا کہ پانی بھرنا پانی گرم کرنا یا ڈول،

رسی لینا جائز ہے یا نہیں یا اس کی قیمت مؤذن کو دینا اس لئے کہ مؤذن کہتا ہے کہ میرا حق ہے اگر

مؤذن کو نہ دے تو خفا ہوتا ہے مؤذن کو ہی حق جان کر دیا جاوے یا اور مساکین کو دیا جاوے۔

(جواب) قربانی کی کھال اجرت میں مؤذن کو دینی جائز نہیں اور نہ اس کی قیمت قربانی کی کھال

کی قیمت فقیر پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور کسی جگہ صرف جائز نہیں فقط۔

قربانی کی کھال مہتمم مدرسہ کو دینا

(سوال) اگر قربانی والے مہتمم مدرسہ کو کھالوں کا مالک بنا دیویں پھر وہ تنخواہ مدرسین میں یہ روپیہ

دے دے یا نہیں اور مدرس کو لینا کیسا ہے۔

(جواب) درست ہے۔ فقط

عقیدہ مباح ہونے کا مطلب

(سوال) عقیدہ کو مباح لکھا ہے تو اس کا اباحت سے ثواب نکلتا ہے یا نہیں؟

(جواب) حضرت امام صاحب سے یہ روایت ہے کہ عقیدہ مباح ہے پس مباح میں ثواب جب

ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی نیت سے کیا جاوے پس امام صاحب کے قول سے مراد یہ ہے کہ باواجب

میں ثواب ہوتا ہے وہ اس میں نہیں رہا اور سب آئمہ کے نزدیک عقیدہ مستحب ہے۔

## کتاب: جواز و حرمت کے مسائل

اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا

(سوال) کتاب حارق الاشرار صفحہ ۱۰۵ حاشیہ تذکیر الاخوان مجتہبی دہلی میں لکھا ہے کہ سفر کرنا واسطے زیارت بزرگان دین کے یعنی بجائے مکہ و مدینہ شریف کے جائز نہیں ہے زید کہتا ہے کہ جب کہ زیارت کرنا سنت مقرر ہو تو سفر دور دراز کرنے میں کیا نقصان ہے قول حارق الاشرار والے کا ضعیف معلوم ہوتا ہے یہ کہنا زید کا کیسا ہے۔

(جواب) قبور بزرگان کی زیارت کو سفر کر کے جانا مختلف فیہ ہے بعض علماء درست لکھتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہے اس میں نزاع و تکرار نہیں چاہئے مگر ہاں عرس کے دن زیارت کو جانا حرام ہے۔

بزرگوں کے مزارات پر جانا

(سوال) اپنے گھر سے مدینہ منورہ کو یا بغداد یا گنگوہ کو یا اجمیر کو یا پیران کلیئر کو خاص زیارت کے واسطے جانا جائز ہے یا نہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مدینہ منورہ کو جاوے تو مسجد نبوی کا قصد کرے زیارت شریف کا قصد کر کے نہ جاوے آیا یہ بات اس کی سچ ہے یا خلاف اور یہ لوگ کس مذہب اور کس دین کے ہیں اور علماء سنت والجماعت کا اس میں کیا حکم ہے۔ (از احمد سعید خاں صاحب مراد آبادی)

(جواب) زیارت بزرگان کے واسطے سفر کر کے جانا علماء اہل سنت میں مختلف ہے بعض درست کہتے ہیں اور بعض ناجائز دونوں اہل سنت کے علماء ہیں مسئلہ مختلف ہے اس میں تکرار درست نہیں فقط اور فیصلہ بھی ہم مقلدوں سے محال ہے۔ فقط

میلوں اور بازاروں میں وعظ کرنا

(سوال) میلوں اور بازاروں میں وعظ کہنا جائز ہے یا نہیں یہ طریقہ سنت ہے یا بدعت۔

(جواب) وعظ کہنا میلے اور بازار میں درست ہے آپ کا جامع میں جا کر اشاعت و تبلیغ کرنا ثابت ہے مگر میلے میں ایسے شخص کا جانا درست نہیں ہے کہ جس سے اور بھی میلے کو رونق اور میلے والوں کی کثرت ہو جائے۔

اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کو جانا

(سوال) زیارت قبور اولیاء پر سفر کر کے جانا سفر بشرطیکہ کوئی خلاف شرع کام نہ کرے درست ہے یا نہیں۔

(جواب) محض زیارت کے لئے جانا جائز ہے اگر اس میں اختلاف ہے مگر عرس وغیرہ کے دنوں میں ہرگز نہ جاوے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

مسلمانوں کے میلوں میں سوداگری کے لئے جانا

(سوال) مسلمانوں کے میلوں میں جیسے پیران کلیر وغیرہ میں واسطے سوداگری یا خریداری کے جانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) درست نہیں۔

ملازمین سرکار کا بغرض انتظام کفار کے میلوں میں جانا

(سوال) مجمع اہل ہنود میں شریک ہونا اہل پیشہ خواہ نوکران سرکار کو جیسے آج کل باعث انتظام سب انپکٹران وغیرہ تماشائی محرم یا ہولی ودیوالی میں مقرر کر دیئے جاتے ہیں جائز ہے یا نہیں مکروہ تحریمی یا تنزیہی حرام ہے یا غیر حرام فقط۔

(جواب) مجمع میلہ کفار و فساق و روافض میں جانا خواہ تجارت کی وجہ سے ہو خواہ انتظام کے واسطے ہو خواہ تماشے کے واسطے سب حرام کہ تکثیر و رونق اس میلہ کی ہوتی ہے۔

کفار کے میلوں میں بغرض تجارت جانا

(سوال) کفار کے میلوں میں مثل گنگا و ہردوار وغیرہ میں جا کر مال فروخت کرنا درست ہے یا نہیں۔ اگر قرض دار ہو اور امید فروختی مال کی ہو کہ قرض ادا ہو جائے گا تو کیا کرے۔

(جواب) ہرگز جانا درست نہیں گناہ کبیرہ ہے اگرچہ قرض دار ہو اور امید فروخت مال اور نفع کی کثیر ہو مطلقاً شرکت ایسے مواقع کی گناہ اور حرام ہے۔

میلوں اور عرسوں میں تجارت کے لئے جانا

(سوال) میلہ ہنود و عرس مسلمانوں میں جیسا ہردوار و پیران کلیر و اجمیر ہے واسطے سوداگری یا

خریدنے کسی شے کی ضرورت کے خاص و عام کو جانا کیسا ہے۔  
 (جواب) میلوں میں ہنود و مسلمانوں کے جانا تجارت کے واسطے بھی حرام ہے اگرچہ جو مال فروخت ہو اس میں حرمیت نہیں ہوتی۔

### نفع لینے کی شرعی حد

(سوال) نفع لینا شرع میں کہاں تک جائز ہے۔  
 (جواب) نفع جہاں تک چاہے لے لیکن کسی کو دھوکہ نہ دے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### نفع لینے کی شریعت میں مقررہ حد

(سوال) نفع لینے کی تحدید شرعاً تو نہیں ہے مثلاً ایک فلوس کی شے دو فلوس کو دینے لگے اور حالانکہ اس کی دکان کے قریب دوسری دکان پر وہی شے ایک فلوس کو ملتی ہو تو اس صورت میں بائع کا مشتری کو خبر دار کر دینا کہ میں اتنے کو دیتا ہوں اور فلاں آدمی اتنے کو دیتا ہے ضروری ہے یا نہیں۔

(جواب) نفع کی کچھ حد نہیں مگر اس کو اطلاع دینا چاہئے۔ ورنہ دھوکا ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### دلالی کا مسئلہ

(سوال) ایک شخص کو بازار سے سودا خریدنے بھیجا سودا خریدنے کے بعد اس نے دوکاندار سے دلالی دستور روکن لی یہ درست ہے یا نہیں۔

(جواب) نہ دستوری دلالی روکن لے سکتا ہے۔

### کمیشن کا مسئلہ

(سوال) ایک شخص نے مال منگایا ہم نے اس کو مال اپنے یہاں سے اور دوسرے دوکاندار سے خرید کر روانہ کر دیا اور اپنا نفع کمیشن لگا لیا مگر منگانے والے نے کمیشن یا نفع کی اجازت نہیں دی تھی لہذا یہ درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر منگانے والے نے اس کو دکیل نہیں بنایا ہے اور اس خریدنا منظور ہے تب تو یہ شخص اپنا منافع لگا سکتا ہے اور اگر اس کو دکیل بنایا ہے کہ خرید کر بھیج دو تو نفع نہیں لے سکتا۔

دلالی کب طے کرنا چاہئے

(سوال) اگر پہلے خریدنے سے دلالی طے کر لی جاوے تو درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر یہ اشیاء لے گا تو اسی کے پاس بھیجی جاوے گی جس نے شے منگوائی ہے۔ فقط

مشتبہ چیز کا خریدنا

(سوال) بازار میں کوئی چیز کوئی شخص فروخت کرتا ہو اور وہ چیز روپیہ کی آٹھ آنہ پر بیچتا ہو اور گمان

اس امر کا ہو کہ چوری کی نہ ہو اس کا خریدنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر اس چیز کی ملک اس شخص کی نسبت محتمل ہو اور ظن غالب اس کی صلاح کا ہو خریدنا

درست ہے اور جو قابل اس کے نہیں کہ ایک چمار مفلس ہزار روپیہ کی گھڑی فروخت کرے تو نہ

لیوے کہ بظاہر چوری کی ہے۔ فقط

حکیم کا عطار سے حصہ لینا

(سوال) جو حکیم عطاروں سے حصہ معینہ لیتے ہیں تو عطار کافر کہتے ہیں کہ مریض سے بھی ہم

قیمت نسخہ کی زیادہ لیتے ہیں ورنہ کم لیتے ہیں اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح قیمت زیادہ

لیتے ہیں تو ایسے اقرار زبانی عطار کافر سے طبیب کو حصہ چہارم عطار سے لینا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) حکیم کو عطار سے لینے کی نسبت پہلے بھی لکھا گیا ہے کہ یہ نادرست ہے ہرگز لینا

درست نہیں اب عطار سچ کہے تب بھی نادرست ہے اور جھوٹ بولے تب بھی نادرست ہے فقط۔

طبیب کا نذرانہ

(سوال) جو شخص کہ طبیب کو نذرانہ اس نیت سے دے کہ طبیب مریض کو مکررہ کر دیکھنے آوے

اور طبیب بھی قیاس سے یہ ہی سمجھ لے کہ پھر بھی بلانا اس اجرت میں چاہتا ہے اور باعلان طاہر نہ

کیا اور طبیب نے اسی وقت یہ سمجھ لیا کہ اس اجرت میں پھر نہیں آؤں گا یہ نذرانہ طبیب کو لینا جائز

ہے یا نہیں۔

(جواب) جو کچھ طبیب کو دے چکا ہے وہ بظاہر حال ایک دفعہ کی اجرت ہے۔

بے بیانی عورت کا حمل گرانا

(سوال) ایک بے بیانی عورت کو حمل رہ گیا اب بوجہ بے عزتی کے خفیہ کرنا اور ساقط کرنا چاہتی



ہے ایسی صورت میں علاج اسقاط کرنا اور کرنا گناہ ہو گا یا نہیں۔

(جواب) اگر اس میں جان پڑ گئی ہے تو پھر اسقاط میں سعی کرنا بے شک سخت گناہ ہے اور مجکم قتل ہے ہرگز ایسی دوا دینا درست نہیں۔

کسی شخص کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا اور پاؤں چومنا

(سوال) کسی شخص کی تعظیم کو کھڑا ہو جانا اور پاؤں پکڑنا اور چومنا تعظیماً درست ہے یا نہیں۔

(جواب) تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے فقط۔

پیشہ وکالت

(سوال) وکیل اور آرن کل کے وکیل کہ جو اپنے موکل کی ایمانداری اور سچ ہونے پر کچھ لحاظ نہیں کرتے بلکہ محض اپنا مختانہ مقدم سمجھتے ہیں چاہے فریقین کی بے ایمانی ہو چاہے فریق ثانی کی حق تلفی ہو جھوٹی گواہی دیں اور دلوائیں صرف اپنے مختانہ کی غرض سے جیسے کہ آج کل کے وکیل ہیں تو فرمائیے کہ ان کے یہاں کا کھانا اور ان سے محبت رکھنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اس زمانہ کی وکالت اور مختانہ حلال نہیں۔ ان کا کھانا بھی اچھا نہیں مگر بتاویل فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

کسی مسلمان کی عزت بچانے کے لئے جھوٹ بولنا

(سوال) اگر کوئی شخص گرفتار ہوتا ہو اور وہ گرفتاری ناحق ہو یا اس کی بے عزتی ہوتی ہو تو اس کو جھوٹ بول کر چھڑا لینا جائز ہے یا نہیں عند اللہ مواخذہ ہو گا یا نہیں۔

(جواب) اس کا بھی یہی جواب ہے اور احیاء العلوم میں ایسے مواقع پر کہ قتل مسلم ناحق ہوتا ہو اور بدون کذب کے نجات نہ ہو تو کذب کو فرض لکھ دیا گیا ہے۔

کچھری میں جھوٹ بولنا

(سوال) ایک مقدمہ امر واقعی اور سچا ہے اور قاعدہ قانون انگریزی کے خلاف ہے اس میں اپنے استیعفائے حق کے واسطے اگر تھوڑا سا کذب ملایا جاوے تو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) احیاء حق کے واسطے کذب درست ہے مگر تا امکان تعریض سے کام لیوے اگر ناچار ہو

تو کذب صریح بولے ورنہ احتراز رکھے فقط۔

اپنا حق ثابت کرنے کے لئے جھوٹ کہنا یا کسی سے کہلوانا

(سوال) اپنا حق ثابت کرنے کے واسطے خود جھوٹ بولنا یا دوسروں سے جھوٹ بولنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر راستی سے حق تلف ہوتا ہو تو تعریض سے جھوٹ بول کر احیاء حق کرنا مباح ہے مگر صریح کذب سے بچے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

برادری کے قوانین کا مسئلہ

(سوال) ایک قوم میں چند چودھری مقرر ہوئے برادری میں یہ بندوبست کیا گیا کہ جو کوئی غیر قوم کی عورت لاوے یا ایک عورت کے اوپر دوسرا نکاح کرے تو اس کے اوپر پچیس روپیہ جرمانہ ہو دیگر جو بھاجی تقسیم ہو برادرانہ جو اس کو واپس کرے سو روپیہ جرمانہ دے جرمانہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کھانا سب کے پاس تقسیم نہ ہونے پاوے تھا جو پہلے سے بعض آدمی کھانا شروع کر دیتے تھے تو ایک طرح بد انتظامی تھی کھڑے ہو کر مانگنے لگا کرتے تھے اور بعض آدمی پہلی بیویوں کو کسی رنج کے باعث نہیں لے جاتے ہیں اس باعث سے یہ قید جرمانہ کی لگائی گئی ہے جب سے یہ قید لگی ہے برادری کا اچھا انتظام ہو گیا ہے اور جرمانہ کر کے بعد دس اپانچ نرز کے جرمانہ واپس بھی کر دیا ہے تو اس صورت میں جرمانہ کرنا از روئے شرع جائز ہے یا نہیں دیگر ایک جگہ بھاجی تقسیم ہوئی چند جگہ سے واپس آئی عورتوں نے واپس کر دی مردان کے موجود نہ تھے بعد ازاں ایک چودھری نے مکر..... بھاجی بھیجی یہ بات قائم ہو چکی تھی کہ جو بھاجی دوبارہ بھیجے گا سو روپیہ جرمانہ دے گا بعد ازاں ان چند آدمیوں کو چودھر پولی نے پنچایت کے رو برو بلا کر دریافت کیا کہ تمہارے یہاں سے بھاجی کیوں واپس آئی انہوں نے حلف سے بیان کیا کہ بروقت پنچایت کے ہم موجود نہیں تھے صبح کو ہم کو خبر ہوئی باہر باہر بازار چلے گئے بعد میں بھاجی تقسیم ہوئی گھر میں انہوں نے لاعلمی سے واپس کر دی ہمارا کچھ قصور نہیں ہے اور بھائی اگر قصور مند تصور فرماتے ہیں تو اللہ کے واسطے ہمارا قصور معاف فرماؤ۔ آئندہ انشاء اللہ ایسا نہ ہوگا اس کے اوپر چودھریوں نے کچھ غور نہ فرمایا۔ عمرو نے ان کی طرف سے عرض کیا کہ بھائیو جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ خطا معاف دیتے ہیں تو بھائی بھی ان کی خطا اللہ کے واسطے معاف کر دیں تو

اس کے اوپر تمام برادری کے سامنے ایک چودھری صاحب نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ ورسول معاف کر دیتے ہیں مگر بیچ معاف نہیں کرتے ہیں عمر وہی کلمہ سن کر خاموش ہو رہا اس وقت ان آدمیوں پر پنی کس سوارو پیہ جرمانہ کر دیا اور جس چودھری نے دوبارہ بھاجی بھیجی تھی اس سے چشم پوشی اختیار کی تو اس صورت میں ان کو ظلم یا نا انصاف کوئی کہہ دے تو آیا جائز ہے یا نہیں اور اگر کسی نے کہہ دیا تو اس پر جرمانہ کرنا یا اس کو جرمانہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ از روئے شرع شریف۔

(جواب) یہ چودھریوں کے قواعد ہی خلاف شرع ہیں اور سب لوگ اس کے قبول کرنے والے بے انصاف اور ظالم ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ رشید احمد ۱۳۰۱۔

الجواب صحیح حکیم ابوالقاسم محمد عبدالرشید انصاری سہارنپوری عفی عنہ، الجواب صحیح ابوالحسن عفی عنہ جواب جو حضرت مولانا مخدوم وزمان حضرت مولانا رشید احمد نے تحریر فرمایا ہے درست ہے اور یہ واضح ہو کہ ایک جماعت اہل سلام کی متفق ہو کر قواعد خلاف شرع شریف کے تجویز کرے اور برادری کا دستور العمل اس کو قرار دے نہایت مذموم ہے اور اس گناہ سے زائد ہے کہ ایک شخص اس حرکت کا مرتکب ہو اہل اسلام کا خطاوار ہونا کسی امر میں اور بات ہے اور قواعد خلاف شرع شریف ایجاد کرنا اور امر ہے سرکار نے قانون خلاف اسلام ایجاد کیا وہ جائے تجب نہیں کیونکہ وہ اسلام کی پابندی نہیں مگر اہل اسلام کی شان سے خلاف شرع قانون ایجاد کرنا بہت بعید ہے احمد علی عفی عنہ۔

## فاسق کی تعریف

(سوال) فاسق کی تعریف کرنا جائز ہے یا نہیں اور وہ کون سا فسق ہے کہ جس کے قائل کی اقتداء درست نہیں اور فاسق معین کی تعریف کرنے والا گنہگار ہے یا نہیں۔

(جواب) فاسق کی تعریف درست نہیں مگر جو اس کے کسی خاص امر کی مدح کرے جو فسق سے تعلق نہیں رکھتی اور اس کے فسق کی مؤید بھی نہیں تو مضائقہ نہیں اور مطلقاً فاسق کی امامت مکروہ ہے۔ فاسق کی ایسی تعریف کہ اس کے فسق کی مدح ہووے گناہ اور حرام ہے۔

## کافر و فاسق کی تعریف کرنا

(سوال) کافر یا فاسق کی مدح اگر اس کی صفات حمیدہ مثل حسن خلق وصدق حیا وغیرہ کے کہ حدیث شریف میں وارد ہے الحیاء شعبة من الایمان (۱) درست ہے یا ممنوع و حرام بوجہ

(۱) یہ ان کی شاخ ہے۔

حدیث شریف اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالیٰ واهتز له العرش. (۱)  
 (جواب) بہ تخصیص یہ کہنا کہ فلاں شخص میں یہ صفت اچھی ہے اگرچہ وہ کافر ہے تو بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ البتہ مدح مطلق کرنا گناہ ہے کہ اس میں تعظیم فاسق کافر کی ہوتی ہے اور ہم کو حکم ان کی توہین کا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### فاسق و فاجر کی غیبت

(سوال) فاسق و فاجر کی غیبت کرنا جائز ہے یا نہیں مکروہ ہے تحریمی یا تنزیہی حرام ہے یا غیر حرام۔  
 (جواب) فاسق کی غیبت بوجہ اللہ تعالیٰ اور تحذیر مسلمانوں کے واسطے درست ہے یا وہ کہ اس فعل کو ہنر جانتا ہو جیسے مرثیہ رشوت کو کمال جانتے ہیں۔ فقط

### مردوں کو ہنڈولے میں جھولنا

(سوال) واسطے فرحت طبع کے ہنڈولے میں جھولنا مردوں کو کیسا ہے۔  
 (جواب) تھوڑی سی دیر کو جھولنا مباح ہے زیادہ مشغول نا جائز ہے۔

### قرآن یا قل ہو اللہ یا تبت وغیرہ نام رکھنا

(سوال) اگر زید اپنے بیٹے کا نام قرآن یا قل ہو اللہ، یا اپنی دختر کا نام تبت یا الحمد رکھ دیوے تو کچھ نقصان اس نام کے رکھنے سے ہوگا یا نہیں۔  
 (جواب) نام رکھنا قرآن یا اسمائے سوائے قرآن کے بھی مکروہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مغرب کے بعد سو جانا

(سوال) درمیان مغرب و عشاء کے سونا کیسا ہے۔  
 (جواب) اگر نماز جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو کسی طرح اس کا انتظام کر لے تو پھر مابین مغرب و عشاء سونا گناہ نہیں ہے۔

### امام مسجد کا مغرب کے بعد سو جانا

(سوال) اگر امام مسجد ہر روز مغرب و عشاء کے درمیان سو جایا کرے اور اذان بھی ہو جایا کرے

(۱) جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غصہ میں آتا ہے اور اس کے لئے عرش حرکت کرنے لگتا ہے۔

حجرہ مسجد میں رہتا ہو اور بغیر اٹھائے نماز کو نہ آتا ہو تو یہ فعل امام کا درست ہے یا نہیں یا کہ امام کو پہلے مقتدیوں سے آجانا مسجد میں بہتر ہے۔  
(جواب) اگر سونے سے امام کے حرج مقتدیوں کا نہیں تو کچھ حرج نہیں۔

مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے سونا  
(سوال) درمیان مغرب و عشاء کے سونا کیسا ہے۔

(جواب) مغرب و عشاء کے درمیان سونا درست ہے اگر جماعت عشاء فوت نہ ہو اگر اندیشہ فوت ہو تو مکروہ ہے۔

اونچا مکان بنانے کی حد

(سوال) مکان بنوانا کس قدر اونچا درست ہے زید کہتا ہے کہ چھ گز سے زیادہ مکان بنوانا نہ چاہئے۔

(جواب) قدر گز اور ضرورت سے زیادہ تعمیر ناپسند ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بناء وبال الا مالا بد منه یعنی جو تعمیر ہے وہ سب وبال اور خرابی ہے مگر جس قدر کہ ضروری ہو مگر پانچ چھ گز قید نہیں ہے ہر شخص کی ضرورت مختلف ہے فقط۔

انسان کے اجزاء کا استعمال کرنا

(سوال) آدمی کی ہڈی یا سر کے بال جلا کر استعمال دوا میں کرنا یعنی لیپ کرنا جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) انسان کے اجزاء کا استعمال درست نہیں کہ آدمی معظم ہے اور استعمال میں اس کا ابتذال ہے۔

ضرورت کے لئے غلہ روکنا

(سوال) بیج کی نیت سے کہ وقت تخم ریزی کے فروخت کروں گا غلبہ بیج کا بند کرنا کیسا ہے۔  
(جواب) اپنی ضرورت کے واسطے غلہ روکنا درست ہے۔

کسی مقام کو شریف کہنا

(سوال) لفظ شریف کا سوائے حرمین کے اور جگہ کے ساتھ ضم کرنا درست ہے یا نہیں مثلاً اجمیر

شریف یاد بلی شریف لکھنا کیسا ہے۔

(جواب) سب جگہ درست ہے جہاں کچھ شرافت ہو۔

مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا استعمال کرنا

(سوال) زید کسی غیر وطن میں اپنے عزیزوں کے یہاں شادی میں گیا وہاں نہایت ہی معززانہ سامان تھے اور کھانے عمدہ کپے تھے مگر سامان فرش وغیرہ بلا اجازت مالک کے نوکروں سے لا کر بچھلایا تھا اور دودھ وغیرہ بطریق رشوت لایا گیا تھا اور چاول وغیرہ بھی لہذا زید کو اس دعوت کا کھانا جائز ہے یا نہیں جب کہ معلوم ہو کہ جو کھانا کھاتا ہوں اس میں حلال زیادہ ہے اور حرام کم اور فرش پر بیٹھنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) ان اشیاء کا استعمال نادرست ہے جب کہ ان کے آقا کی اجازت نہیں ہے اور ان کھانوں کا کھانا بھی نادرست ہے اور کثرت قلت کا اعتبار وہاں ہے کہ جہاں خاص کھانے کی نسبت یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام اور جب یہ بات ہے کہ اس کھانے میں دودھ مثلاً حرام کا ہے یا گھی حرام کا ہے یا مٹھائی حرام کی ہے تو وہ کھانا کسی طرح درست نہیں ہے اس میں حرام گو کتنا ہی تھوڑا ہو۔

پیتل کے بلا قلعی برتن میں کھانا

(سوال) پیتل کے برتن میں کہ جو بلا قلعی کا ہو کھانا پینا مذہب امام ابوحنیفہؒ جائز ہے یا نہیں اور کپڑے میں چاندی سونے کے ٹن لگا کر استعمال کرنا حنفیہ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) پیتل کے ظروف میں کھانا درست ہے مگر اولیٰ نہیں اور اگر مشابہت کفار ہنود سے ہو تو بسبب مشابہت کے منع ہے۔

برہمنی برتنوں میں کھانا کھانا

(سوال) ظروف برہمنی میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ فقط

(جواب) کھانا سب ظروف میں درست ہے مگر وہ ظروف کہ کافرو مشرک کا خاص ہو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حقہ پینا

(سوال) حقہ پینا مکروہ ہے یا مکروہ تحریمہ۔

(جواب) حقہ پینا مباح ہے مگر اس کی بدبو سے مسجد میں آنا نادرست ہے فقط واللہ اعلم۔

حقہ پینے والے کا درود شریف

(سوال) زید کہتا ہے کہ جو شخص حقہ پیوے اس کا درود قبول نہیں ہوتا صحیح ہے یا غلط ہے۔

(جواب) زید غلط کہتا ہے حقہ نوش کی نماز اور درود سب قبول ہوتا ہے البتہ اس حقہ کی بو کا ازالہ نہ کرنا اور منہ میں رکھنا مکروہ ہے۔

تمباکو کھانا۔ سوگھنا یا حقہ پینا

(سوال) حقہ پینا۔ تمباکو کا کھانا یا سوگھنا کیسا ہے حرام ہے یا مکروہ ہے تحریمہ یا مکروہ تزیہہ ہے اور تمباکو فروش اور نیچے بند کے گھر کا کھانا کیسا ہے۔

(جواب) حقہ پینا۔ تمباکو کھانا مکروہ تزیہہ ہے اگر بو آوے ورنہ کچھ حرج نہیں اور حقہ تمباکو فروش کا مال حلال ہے ضیافت بھی اس کے گھر کھانا درست ہے۔

حقہ نوش کا درود شریف

(سوال) حقہ نوش جو درود شریف پڑھتا ہے وہ مقبول ہے یا نہیں۔

(جواب) حقہ کی وجہ سے کوئی عبادت رد نہیں ہوتی البتہ جس وقت حقہ پینے والے کے منہ میں بدبو ہو اور درود شریف پڑھے تو گنہگار ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

پان میں تمباکو کھانا اور حقہ پینا

(سوال) حقہ پینا کیسا ہے اور پان میں تمباکو کھانا کیسا ہے اور حقہ پینا اور تمباکو کو کھانا دونوں مساوی ہیں یا کچھ کم و بیش ہیں۔

(جواب) حقہ پینا و تمباکو کھانا درست ہے مگر بدبو سے مسجد میں آنا حرام ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

نمبر دار کے حقوق تلف ہونا

(سوال) مسئلہ یہاں قاعدہ ہے کہ نمبر دار جمع سرکاری اپنے پٹہ کی سرکار میں داخل کرتا ہے اگر کوئی

اپنی زمین کی باقی کاروبار یعنی جمع سرکار نمبر دار کو نہ دیوے تو اس کا مواخذہ قیامت میں ہوگا یا نہیں

(جواب) نمبر دار جب اس کی طرف سے خود سرکاری روپیہ دیتا ہے تو اس کو رکھنا درست نہیں

کیونکہ اس میں حق تلفی نمبردار کی لازم آوے گی۔ فقط

حکام دریا و جنگل کا اشیاء جنگل و دریا پر محصول لگانا

(سوال) حکام دریا و جنگل کا اہتمام کریں اور اس کے مخارج پر محصول ٹھہرائیں تو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جنگل پہاڑ کی اشیاء مباحہ ملک عامہ ہیں اس پر محصول لگانا حاکم کا ظلم ہے حرام واللہ اعلم۔ والحبط ان كان في غير ملك فلا باس به ولا يضر نسبة الى قرية او جماعة مالم يعلم ان ذلك ملك لهم. (۱) رد المحتار واللہ تعالیٰ اعلم۔

پولیس کا باغ بہاری کولوٹنا

(سوال) پولیس کے ملازمان ہندو کی برات میں باغ بہاری لوٹنے پر متعین ہوتے ہیں ان کو وہاں جانا اور لوٹنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جب ایسے کام میں حسب ضرورت انتظام سرکار شرکت ہو جاوے اس پر گناہ نہیں ہے اور جس شے کے لوٹنے کی سرکار سے اور مالک کی طرف سے اجازت ہے اس کا لوٹنا درست ہے فقط۔

ریل میں بلا اجازت سامان زیادہ لے جانا

(سوال) ریل میں بلا اجازت زیادہ اسباب رکھ لینا درست ہے یا نہیں علیٰ ہذا جنگی سے چھپا کر مال لے جانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) سامان اجازت سے زیادہ لے جانا درست نہیں ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مقدمہ میں سچی گواہی کو چھپانا

ایک شخص نے اپنے مقدمہ میں شاہد گردانا اس نے اس وجہ سے شہادت سے انکار کیا کہ آج کل کچھ بیویوں میں وکلاء لوگ شاہدوں سے جرح اور قدح کے سوال کر کے اپنی تیز بیانی سے شاہدوں پر شہادت کو مختلط اور متلبس کرتے ہیں اس وقت اس کو تمیز حق باطل میں نہیں رہتی ہے

(۱) لکڑی اگر غیر ملک میں ہے تو اس میں کچھ جرح نہیں اور کسی گاؤں میں یا جماعت کی طرف نسبت کوئی نقصان نہیں کرتی ہے جب تک یہ نہ جانے کہ یہ ان کی ملک ہے۔



اور اس مقدمہ میں اس شاہد کے سوا اور بھی بہت سے شاہد ہیں مگر یہ شخص احتیاطاً ادائے شہادت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھری میں شاہد نہیں بن سکتا مجھ کو وکلاء کے سوال و جواب کی طاقت نہیں سواں صورت میں یہ شخص مرتکب کتمان شہادت کا تو نہیں علیٰ ہذا القیاس ایک عالم اختلاف مسائل کی وجہ سے فتویٰ پر مہر نہیں کرتا یہ گنہگار تو نہیں۔

(جواب) در صورتیکہ اس مقدمہ کے شاہد موجود ہیں تو یہ شخص کا تم حق نہ ہوگا البتہ اگر احیاء حق اس کی ہی شہادت پر موقوف ہو تو اس وقت حق بات کہنی اور جرح و قدح و کلاء پر نظر نہ کرنا ضروری ہے اس وقت میں ہو سکتا ہے ایسا ہی حال عالم کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

بزرگوں کو قبلہ و کعبہ وغیرہ لکھنا

(سوال) قبلہ و کعبہ یا قبلہ دارین و کعبہ کونین یا قبلہ دینی و کعبہ دنیوی یا قبلہ آمال و حاجات و قبلہ رسالت یا قبلہ مصوری و کعبہ معنوی یا دیگر مثل ان الفاظ کے القاب آداب میں والد یا عموی کو یا اخوی کو کعبہ دنیوی تحریر کرنے جائز ہیں یا نہیں، حرام ہے یا نہیں مکروہ ہے یا تحریمی یا تنزیہی معہ عبارت و دلائل تفصیل ارقام فرمادیں۔

(جواب) ایسے کلمات مدح کے کسی کی نسبت کہنے لکھنے مکروہ تحریمی ہیں لقولہ علیہ السلام لا تنظرونی (الحدیث) (۱) جب زیادہ حدشان نبوی سے کلمات آپ کے واسطے ممنوع ہوئے تو کسی دوسرے کے واسطے کس طرح درست ہو سکتے ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

وعدہ کو پورا نہ کرنا

(سوال) ایفاء وعدہ نہ کرنا کیسا ہے اس مسئلہ کو بہ ثبوت حدیث شریف اور فقہ کے زینب قلم فرما کر بہت جلد مرحمت فرمادیں اور کوئی دقیقہ باقی نہ رہ جاوے۔ فقط

(جواب) ایفاء وعدہ ضرور ہے اگر عذر سے وفانہ ہو تو معاف ہے اور جو وعدہ کے وقت سے ہی ارادہ عدم ایفاء کا ہے تو مکروہ تحریمہ ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

خط میں القاب قبلہ و کعبہ کا لکھنا

(سوال) خط میں القاب قبلہ و کعبہ لکھنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) قبلہ و کعبہ کسی کو لکھنا درست نہیں ہے۔

(۱) میرے لئے زیادہ بڑائی کے الفاظ نہ استعمال کرو۔ ۱۲ بخاری و مسلم۔

## معافی طلب کرنے والے کو معاف نہ کرنا

(سوال) اگر زید بکر کو یہ بہتان لگا دے اور انہوہ کثیر میں یہ کہتا پھرے کہ مجھ کو بکرنے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ میں بباعث شرم کے نہیں کر سکتا ہوں اور بکر زید سے دریافت کرے کہ اگر میں نے کوئی کلمہ ناشائستہ ایسا کہا ہوتا تو مجھ کو مطلع کر دتا کہ میں معافی ساتھ توبہ کے چاہوں مگر زید بباعث کسی وجہ معقول یا غیر معقول کے نہ کہے تو اس صورت میں خطا وار کون ہے۔

(جواب) اگر معافی چاہنے والے کو معاف نہ کرے تو یہ معاف نہ کرنے والا خاطی ہے۔

## وعظ کے بعد واعظ سے مصافحہ

(سوال) واعظ سے بعد وعظ کے مصافحہ کرنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) واعظ سے بعد وعظ کے مصافحہ کرنا جائز ہے مگر اس کا التزام کرنا اور ضروری سمجھنا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## شادی میں نکاح کے وقت کھجور لٹانا

(سوال) شادی میں وقت نکاح کے خرموں کا لٹانا اور لوٹنا جائز ہے یا نہیں اور حدیث انس رضی اللہ عنہ کی جو کہ مؤید لوٹنے چھوہاروں کی ہے معتمد ہے یا نہیں اور فقہاء کا اس میں کیا مذہب ہے ارقام فرمائیے۔

(جواب) ایسے جزئی عمل کو کرنا کچھ ضروری نہیں اگرچہ ایسا لوٹنا درست ہو مگر یہ روایت چنداں معتمد نہیں اور اس کے فعل سے اکثر چوٹ آجاتی ہے اگر مسجد میں نکاح ہو تو بے تعظیمی مسجد کی بھی ہوتی ہے۔ لہذا حدیث ضعیف پر عمل کر کے موجب ازیت مسلم کا ہونا ہے اور مسجد کی شان کے خلاف فعل ہونا مناسب نہیں اور اس روایت کو لوگوں نے ضعیف لکھا ہے فقط واللہ اعلم۔

## نکاح کے وقت کھجور لٹانا

(سوال) بے وقت نکاح چھوارے لٹانا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) چھوارے لٹانے وقت نکاح کے مباح ہیں مگر اس وقت میں نہ چاہئے کہ تکلیف ہوتی ہے حاضرین کو۔

## رسم بسم اللہ کا مسئلہ

(سوال) ابتدائے مکتب میں بسم اللہ بچوں کی خاص چار سال اور چار ماہ اور چار ہی روز میں کرنا ثابت اور جائز ہے یا نہیں اور رسول اللہ ﷺ کا سن شریف ابتداء انشراح صدر کیا تھا۔ ارقام فرمائیں۔

(جواب) ابتداء مکتب کی کوئی قید نہیں اور شرح صدر اول چار سال کی عمر میں تھا فقط واللہ اعلم۔

## بچوں کی سالگرہ منانا

(سوال) بچوں کی سالگرہ اور اس کی خوشی میں اطعام الطعام کرنا جائز ہے یا نہیں۔ (۱)

(جواب) سالگرہ یا داشت عمر اطفال کے واسطے کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا اور بعد سال کے کھانا بوجہ اللہ تعالیٰ کھلانا بھی درست ہے۔

## ڈوم کے گھر کا کھانا

(سوال) ڈوم وغیرہ کے گھر کا کھانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) ڈوم وغیرہ کے گھر کی دعوت بھی درست نہیں ہے فقط۔

## طلبہ کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا

(سوال) طلبہ کا کھانا جو کسی جگہ مقرر ہوتا ہے اور وہ وہاں سے لاتے ہیں صاحب نصاب کو وہ کھانا بحسب رغبت طلبہ جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) طلبہ کا کھانا جو مقرر ہوتا ہے اگر وہ واجب مثل کفارہ اور عشر اور نذر اور زکوٰۃ نہیں ہے تو طلبہ کے ساتھ ان کی اجازت سے غنی بھی کھا سکتا ہے اور اگر ان میں سے کسی میں کھانا مقرر ہوا ہے تو جب وہ طالب علم کسی کو مالک بناوے اس وقت غنی اس کھانے کو کھا سکتا ہے صرف ساتھ کھلانے سے کھانا اس کا درست نہیں ہے فقط۔

## شادی کے پہلے کا کھانا کھانا

(سوال) شادی سے پہلے کھانا کرنا جیسا رواج ہے اور اس کو چوٹی کا کھانا کہتے ہیں کیسا ہے اور اس کھانے کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے۔

(جواب) خوشی میں عزیزوں دوستوں کو کھانا کھلانا درست ہے جب تک فخر و ریاء نہ ہو اور نہ اس کو رسم واجب جیسی جانے۔

### گانے والے کی دعوت

(سوال) مولوی عبدالحی صاحب اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ مغنیہ کی دعوت جب قبول کرے اور کھاوے جب کہ اس نے قرض لے کر وہ مال تیاو کیا ہو خواہ پھر وہ رٹھی اپنے کسب حرام سے وہ قرض ادا کرے تو حضور فرمادیں کہ ڈوم رٹھی وغیرہ کا مال لے کر اپنے قرض دار کو دے دینا یا وہ قرض لے کر ہی دے اور پھر وہ مال اسے لینا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر کوئی شخص قرض لے کر کسی کار خیر میں لگا دے یا کسی کو صدقہ اور ہدیہ دے کر وہ کام بھی ہو جاوے اور اس موہوب لہ، کو یہ صدقہ اور ہدیہ بھی لینا درست ہے مگر جب واہب مدیون اپنا قرض حرام مال سے ادا کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا اور اصل مالک کا دیندار رہے گا اور ایسے ہی یہ حرام مال کا قرضہ میں لینے والا بھی اگر مسلمان ہے تو سخت گنہگار رہے گا۔ فقط اللہ علم۔

### نعت یا حمد کے اشعار بلند آواز سے پڑھنا

(سوال) نعت یا حمد کے غزل عاشقانہ کو جس میں کوئی کذب اور لغو نہ ہو بلند آواز سے کہ جس میں نشیب فراز بھی ہو طبعی یا کسی پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) ایسے اشعار کا پڑھنا محسن صوت درست ہے اگر اس سے کوئی مفسدہ پیدا نہ ہو فقط۔

### بغیر باجے کے راگ وغیرہ سننا

(سوال) سمع اور غنا اور راگ یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں یا غیر اور یہ تینوں چیزیں بلا حرام امیر کے سننا جائز ہیں یا نہیں درآئحالیکہ گانے والا انکا موافق قواعد موسیقی کے گاوے۔

(جواب) یہ ہر سہ الفاظ ایک معنی رکھتے ہیں بلا حرام امیر راگ کا سننا جائز ہے اگر گانے والا محل فساد نہ ہو اور وہ مضمون راگ کا خلاف شرع نہ ہو اور موافق موسیقی کے ہونا کچھ حرج نہیں۔

### راگ کے مسئلے

(سوال) راگ کس کو کہتے ہیں اور مکروہ ہے یا حرام اگر اشعار مثل مولانا جامی و مولانا نظامی و مولانا سعدی و مولانا روم رحمہم اللہ وغیرہ کے پڑھے جاویں تو کس طور سے راگ میں ہو جاویں اور

کس طور پر بلاراگ۔ ارقام فرمائیں۔

(جواب) راگ کہتے ہیں اچھی آواز کے ساتھ کچھ کہنے کو خواہ شعر ہو جامی و نظامی وغیرہ ماہلیم الرحمۃ کا خواہ اور کوئی کلام ہو۔ یہ ترجمہ غناء کا ہے اردو میں اور لوگوں کے نزدیک راگ جب ہوتا ہے کہ آواز کو بے موقعہ گھٹا بڑھا کر کچھ کہیں سو اس طرح کہ لفظ اپنے موقعہ پر ہیں اور خوش صورت ہو قرآن و حدیث کا بھی پڑھنا درست ہے بلکہ مستحب ہے اور ایسا کہ لفظ کم زیادہ کھینچے جاویں درست نہیں مگر اشعار میں کچھ حرج نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### چنگ در باب و ساز کا مسئلہ

(سوال) مزامیر معارف کی حرمت عام خاص تمام کے حق میں ہے یا لابلہ حلال وغیرہ حرام قول مشہور درست ہے اگر کسی شخص کو بجز محبوب حقیقی کے اور کسی شے سے محبت نہ ہو اور اس کو مزامیر و معارف سے ترقی حالت کرنا ہو قضاء تو ظاہر جائز نہیں ہو سکتا مگر دینا بے بھی جائز ہے یا نہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے سنا ہے اس مسئلہ کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ لوگوں سے اس کی تشبیہ کی جاوے میرا گمان یہ ہے کہ شاید ایسے شخص کو کسی وقت کسی حالت خاص میں رخصت ہو حاشاء وکلا اپنے گمان کو صحیح نہیں سمجھتا۔

(جواب) سب خاص و عام کو حرام ہے کسی کو حلال نہیں ایسی حالت میں بھی ہرگز جائز نہیں اور نہ بزرگوں نے سنا مگر بشریت سے اگر سنا تو وہ نہ معصوم تھے نہ انکے قول کی حجت ہے شریعت اور طریقت میں۔

### ڈومنیوں کو بیاہ میں گوانا

(سوال) ڈومنیوں سے بیاہ میں گوانا بشرطیکہ خلاف شرع نہ گاویں درست ہے یا نہیں۔

(جواب) عورتوں کے جمع میں اگر عورتوں کا گانا موجب فتنہ کا نہ ہو تو درست ہے ورنہ ناجائز ہے مگر فقہاء کو چونکہ فتنہ کا ہونا اکثر معلوم ہوا ہے وہ مطلقاً منع فرماتے ہیں اور مناسب بھی یہی ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عیدین میں بانسری تاشہ باجا وغیرہ بجانا

(سوال) بروز عیدین تاشا باجا یا فوج پیدل خواہ سوار سلاح بند اپنے ہمراہ لے کر نماز عید گاہ میں

جانا جیسا ریاست رامپور وغیرہ میں دستور ہے خصوصاً ریاست گوالیار میں کہ والی اس ریاست کا اہل ہند ہے اور وہاں تاشہ وغیرہ بھی اسی کی طرف سے مقرر ہے اور اگر ان کا تہوار ہوتا ہے تو بڑی شان و شوکت سے اپنے بتوں کو نکالتے ہیں تو یہ امر برائے شوکت دین اسلام جائز ہے یا نہیں مکروہ ہے تحریمی یا تاتزیہی حرام ہے یا غیر حرام اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اہل ہند کی آنکھوں میں حقیر ہوتے ہیں اور وہ لوگ حقیر جاننے لگتے ہیں۔

(جواب) معازف و مزامیر سب حرام ہیں چنانچہ حدیث و فقہ اس سے مملو ہے پس عید کے ترک میں حرام ہی ہوویں گے البتہ فوج پیدل و سوار سلاح بند کا جانا مباح ہے شوکت اسلام اس سے کافی ہے ڈھول تاشہ سے شوکت نہیں ہوتی اور نہ ترک محرکات شرعی سے کچھ حرج ہوتا ہے۔

ہندوؤں کے تہوار میں خوشی کے گیت گانا

(سوال) ہندوؤں کے لڑکوں کو ان کے تہوار ہولی یا دیوالی میں بطور عیدی ان کے تہوار کی تعریف میں کچھ اشعار بنا کر جس طور کہ میاں مچھی لوگ پڑھا کرتے ہیں پڑھنا درست ہے یا منع ہے۔ (جواب) یہ درست نہیں۔

آواز لگا کر چند لوگوں کا مناجات پڑھنا

(سوال) باہم آواز ملا کر چند آدمیوں کو خدا کی یا حضرت کی شان میں غزلیں پڑھنا درست ہے یا منع ہے۔

(جواب) اس طریق سے مناجات یا مدح پڑھنا بشرطیکہ کوئی فتنہ کا خوف نہ ہو نہ قید کسی وقت خاص کی ہو نہ مضمون خلاف شرع ہو نہ کسی دوسرے کی نماز یا ذکر میں حرج ہوتا ہو نہ پڑھنے والے کی نماز قضا ہو جانے یا جماعت رہ جانے کا خوف ہو الغرض تمام مفاسد شرعیہ سے خالی ہو تو مباح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرام مال سے بنائے ہوئے مکان میں رہنا

(سوال) مولانا اس جگہ مکان کی نہایت درجہ تکلیف ہے چھپر کے مکانات اکثر ہیں آج کل موسم بارش میں کمال تکلیف ہے کتابیں و جامہائے پوشیدنی ضائع ہونے کا اندیشہ قوی ہے اس نظر سے ایک مکان تعمیر شدہ طوائف میں چند روز سے قیام کیا ہے پس سکونت و اذکار و اشغال

تلاوت قرآن مجید و نماز نفل وغیرہ اس مکان پر حرام ہے یا مکروہ تحریمی یا تنزیہی اور طعام طوائف اور قیام و سکون مکان تعمیر شدہ طوائف مساوی ہیں گناہ و حرمت میں یا فرق ہے۔  
(جواب) جو مکان حرام مال سے بنایا گیا اس کا قیام و سکونت بھی مکروہ تحریمیہ بلکہ حرام ہووے گا جیسا طعام خریدہ از حرام کا حال ہے کچھ فرق نہیں۔

### حرام مال سے کنواں بنوانا

(سوال) اگر طوائف مال حرام سے چاہ پختہ یا خام بنوادئے تو اس کا پانی پینا اور وضو و غسل کرنا جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) اس کنویں سے وضو و غسل کرنا باعتبار فتویٰ درست ہے اور باعتبار تقویٰ نادرست ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حرام مال والے کا ہدیہ قبول کرنا

(سوال) جس شخص کے ہاں مال حلال و حرام ہر قسم کا ہو تو اس کے یہاں سے ہدیہ وغیرہ اگر لیوے یا روپیہ پیسہ بطور اجرت تو اس سے گیرندہ کو استفسار واجب ہے۔ اس پر عمل کرنا لائق ہے۔  
(جواب) استفسار کر لیوے مہل نہ چھوڑے یہ تجسس نہیں بلکہ تحقیق ہے فقط۔

### حرام مال سے بنا ہوا مکان خریدنا

(سوال) نیز مکان مذکور کسی حیلہ شرعی سے خریدنا یا مستعار یا کرایہ پر لینا درست ہے یا نہیں ارادہ احقر ہے کہ اہل و عیال کو بلا کر اس میں قیام کیا جاوے بشرطیکہ گناہ نہ ہو۔  
(جواب) اس کا کچھ حیلہ مجھ کو معلوم نہیں جو لکھوں۔

### حرام میراث

(سوال) اگر ورثاء کو بعد انتقال مورث کے علم ہوا کہ فلاں شے ہماری میراث ہمارے مورث نے حرام طور سے حاصل کی تھی اب ان کے حق میں حلال ہو سکتی ہے یا نہیں۔  
(جواب) درش حرام ہے صدقہ کریں یا معلوم ہو تو مالک کو دیویں واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حرام پیشے والے کی دعوت قبول کرنا

(سوال) جن کے پیشے حرام ہیں اگر قرض لے کر کسی کو کھانا کھلا دے یا اور کوئی امر خیر کرے تو

ثواب حاصل ہوتا ہے یا نہیں اور کھانا اس کا حرام ہے یا مکروہ وغیرہ۔  
(جواب) اس حیلہ کو بعض کتب میں جائز لکھا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ جائز نہیں۔

### حرام آمدنی والے کا ہدیہ

(سوال) ایک شخص مواضع کا حوالدار ہے تنخواہ تین روپیہ ماہوار ہے اور خرچ چھ روپیہ ماہوار کا دوسرے شخص کو چار روپیہ ماہوار آمدنی اور خرچ پانچ روپیہ ماہوار تو خرچ زائد جو علاوہ تنخواہ سے ہے یہ آمدنی ناجائز سے ہے کہ جس میں کچھ آمدنی باجائز مالک ہے اور کچھ بلا اجازت اور سب روپیہ مشترک خرچ ہوتا ہے کچھ تمیز نہیں کہ کون سا روپیہ آمدنی جائز کا ہے اور کون سا ناجائز کا تو ایسے شخص کا روپیہ مسجد میں لگانا یا حق اجرت میں لینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) جس کا غالب مال حلال ہے اس کے مال میں سے لے لینا درست ہے اور جس کا غالب مال حرام ہے اس میں سے لینا درست ہے اور جس کا مال جس قدر حلال ہے اسی قدر حرام بھی ہے اس کا مال نہ لینا چاہیے مگر یہ سب اس وقت تک ہے کہ جب خاص اس شے کا حال معلوم ہو جو اس نے دی ہے اور اگر جو شے اس نے دی ہے وہ معلوم ہو کہ مال حرام سے ہے تو اس کا لینا کسی حال میں بھی درست نہیں ہے اگرچہ ہندہ کا اور سب مال حلال کی کمائی کا ہو فقط۔

### سود کی آمدنی والے کا ہدیہ

(سوال) ایک شخص کا دار و مدار بر اوقات کا آمدنی سود پر ہے اگر ایسے شخص کے یہاں سے کچھ ہدیہ وغیرہ آئے تو لینا جائز ہے یا نہیں اور اگر لے لیا اور واپس بھی نہ ہو سکے تو کس کو اس مال کا لینا درست ہے۔

(جواب) ذکر جہر سے اگر ریاب پیدا ہوتا ہو تو اس کے رفع کے واسطے لاجول بکثرت پڑھا کریں مگر اس کے لئے ترک جہر مناسب نہیں ہے البتہ عذر مرض کی وجہ سے تا زوال مرض ترک رکھنا اور اخفا پر اکتفا کرنا مناسب ہے جس شخص کی کل آمدنی حرام طریقہ سے نہیں اس کی ضیافت و ہدیہ لینا درست نہیں ہے مگر جب تحقیق ہو جاوے کہ یہ شے خاص حرام کمائی سے نہیں ہے اگر لے لیا اور اب کوئی صورت اس کی واپسی کی نہیں ہے تو فقراء پر صدقہ کر دے فقط۔



## تھانیدار کا ہدیہ

(سوال) جو تھانیدار وغیرہ مرتشی ہو اور وہ کوئی ہدیہ دے یا کوئی چیز فرمائی دے اور وہ چیز ظلم سے نہ ہو بلکہ باعث ان کی حکومت و افسری کے ہو کیونکہ ہر ایک شخص کو ان کا لحاظ ہوتا ہے ان کا فرمان پورا کرتے ہیں تو ایسے شخصوں کے یہاں کا مال لینا کیسا ہے یا یہ کہ جو کچھ وہ دیں اس کی تحقیق کرنا چاہئے یا بلا تحقیق ہی استعمال کرے یا یہ کہ ایسا شخص دعوت کرے اور یہ ظاہر کرے کہ گوشت ان کے یہاں بازار کے نرخ عام سے دو پیسے کم کو آتا ہے تو ان کی دعوت کھادیں یا نہیں۔

(جواب) یہ ہی حکم تھانیدار کی کمائی کا ہے کہ اگر خاص اس شے کا حال نہ معلوم ہو تو اعتبار اکثر کا ہے اور جب وہ نرخ کم لگاتے ہیں تو اس شے کا کھانا درست نہیں ہے۔ فقط

## دوا میں شراب کا استعمال

(سوال) اگر کسی قسم کی شراب استعمال میں دوا کے کی جاوے تو درست ہے یا نہیں۔

(جواب) شراب کا استعمال حرام ہے اور کسی قسم کی شراب کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

## حرام کسب والے کا ہدیہ

(سوال) کسب حرام کرنے والے نے بطور ہدیہ کچھ دیا اگر اس کی نارضکی کے باعث لے لیوے تو اس کا کیا کرے۔

(جواب) جس کی کمائی حرام ہے اس کا تحفہ ہدیہ نہ لینا چاہئے اگرچہ اس کا دل برا ہوتا ہو فقط۔

## انگریزی پڑیا کا رنگ

(سوال) رنگ انگریزی پڑیا کا جو بکس میں آتا ہے رنگنا کپڑے اس سے درست ہے یا نہیں اگر ناجائز ہے تو بوجہ رنگت کے یا کسی اور وجہ سے اراقام فرمائیں۔

(جواب) رنگ انگریزی میں شراب پڑتی ہے لہذا اس رنگ کا استعمال درست نہیں اور یہ امر واقف لوگوں سے معلوم ہوا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سرخ پڑیا کا حکم

(سوال) سرخ پڑیا کے رنگ کا کپڑا اور سرخ نول کا استر لگانا درست ہے یا نہیں اور اس کپڑے

سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔

(جواب) پڑیا کارنگ تو بہ سبب نجاست شراب کے مرد و عورت دونوں کو درست نہیں اور مرد کے واسطے سرخ رنگ سوائے معصفر کے مختلف فیہ علماء حنفیہ میں ہے احتیاط ترک میں ہے مگر فتویٰ بعض علماء کا جواز پر ہے اگر اس پر عمل کرے تو بھی درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

انگریزی پڑھنا پڑھانا

(سوال) انگریزی پڑھنا اور پڑھانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) انگریزی زبان سیکھنا درست ہے بشرطیکہ کوئی معصیت کا مرتکب نہ ہو اور نقصان دین میں اس سے نہ آوے۔

کفار کو سلام کرنا

(سوال) کفار کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں اگر کسی ضرورت کے سبب ہو۔

(جواب) کفار سے سلام نہ کرے مگر بضرورت مباح ہے۔

آریہ سماج کا لکچر سننا

(سوال) آریہ سماج کا لکچر سننا اور اس موقع پر کہ سڑک پر ہو رہا ہو ایک کھلے مکان میں کھڑا ہو جاوے تو گناہ تو نہیں ہے۔

(جواب) آریہ کے واعظ کو نہ سنے کہ احتمال فساد دین کا ہے مگر جو عالم ہے اور رد کرے تو کھڑا ہونا جائز ہے ورنہ منع ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

انگریزی ادویہ

(سوال) اکثر ادویات انگریزی مثل عرق وغیرہ جو تیار ہو کر آتا ہے بظاہر اس میں اختلاط شراب جو بوجہ سرعت نفوذ تاثیر کے باوصف قلت مقدار جو خصائص شراب سے ہے اور بعض واقف لوگوں سے بعض عرق و بسکٹ وغیرہ میں اختلاط شراب معلوم ہوا بھی ہے ایسی حالت میں استعمال اس کا منع ہے یا نہیں۔

(جواب) جس میں خلط شراب یا نجس شے کا ہے اس کا استعمال باوجود علم کے حرام ہے اور لا علمی میں معذور ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

بسکٹ نان پاؤ کا مسئلہ

(سوال) جو نان پاؤ یا بسکٹ وغیرہ نجیر تاڑی ہو جو مجملہ مسکرات ہے کھانا اس کا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ مسئلہ مختلف ہے امام محمد کی روایت نجاست و حرمت کی ہے اور شیخین کی جواز کی تحقیق اور فتویٰ دونوں جانب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہندوؤں کا ہدیہ قبول کرنا

(سوال) ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاذ یا حاکم یا نوکر کو کھلیس یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں۔

(جواب) درست ہے۔

ہندوؤں کی شادی میں جانا

(سوال) ہندوؤں کی شادی برات میں جانا جائز ہے یا نہیں نمبر ۲ مسمریم سے جو حالات معلوم ہوتے ہیں ان کو ٹھیک جانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) یہ دونوں امر نادرست اور حرام ہیں مرتکب ان کا فاسق ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

ولایتی قند اور تر و خشک مٹھائی کا حکم

(سوال) ولایتی قند اور مٹھائی تر یا خشک کھانی درست ہے یا نہیں۔

(جواب) جس کی نجاست یا حرمت تحقیق ہو یا غالب گمان ہو وہ نہ کھاوے اور جس کا حال معلوم نہ ہو اس کا کھالینا درست ہے۔ فقط

ہندوؤں کے پیاء کا پانی پینا

(سوال) ہندو جو پیاء پانی کی لگاتے ہیں سوئی روپیہ صرف کر کے مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اس پیاء سے پانی پینا مضائقہ نہیں۔

## حضرت حسینؑ کی مجلس غم منانا

(سوال) مجلس غم مقرر کرنا جیسے شہادت امام حسینؑ یا وفات نامہ وغیرہ خاص کر روز عاشورہ میں بوجہ غم کے مجلس مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں ارقام فرمائیں۔

(جواب) غم کی مجلس تو کسی کے واسطے درست نہیں کہ حکم صبر کرنے کا اور غم کے رفع کرنے کا ہے تعزیر و تسلیہ اسی واسطے کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف غم پیدا کرنا خود محصیت ہوگا اور شہادت حسینؑ کا ذکر جمع کر کے سوائے اس کے مشابہت و روافض کی بھی ہے اور تشبہ انکا حرام ہے لہذا عقد مجلس غم کسی کا درست نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## رافضیوں سے مراسم رکھنا

(سوال) روافض سے انس رکھنا اور اتحاد رکھنا اور رسم دوستی ادا کرنا اور اس کی دعوت کرنا اس کے یہاں دعوت کھانا باوجودیکہ اس سے دین و دنیا کا کوئی مطلب نہ ہو جائز ہے یا نہیں اور جو شخص بلا ضرورت روافض سے اتحاد رکھے وہ کیسا ہے اور ثقات کو اس کی معیت میں اکل و شراب بلا کراہت جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) روافض خوارج اور سب فساق سے ربط ضبط مودت کا حرام ہے مگر بسبب معاملہ ناچاری کے معذور ہے اور ان سے مودت کرنے والا مدامن فی الدین عاصی ہے۔

## حسینؑ کی تصویر گھر میں رکھنا

(سوال) صورتوں امام حسینؑ علیہ السلام کا گھر میں رکھنا کیسا ہے اور ان کا فروخت کرنا اچھا ہے یا نہیں اور آگ میں جلادینا مناسب ہے یا نہیں۔

(جواب) کسی نبی یا ولی کے نام کی صورت گھر میں رکھنی حرام ہے اس کو جلادے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## حسینؑ کا غم کرنا

(سوال) غم کرنا امام حسینؑ کا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) غم اس وقت تھا جب آپ شہید ہوئے تمام عمر غم کرنا کسی کے واسطے شرع میں حلال نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

رشید احمد گنگوہی، غنی عند رشید احمد ۱۱۳۰ھ الجواب صحیح محمد عبداللطیف عفی عنہ۔

## تعزیه داری

(سوال) ریاست گوالیار میں والی ریاست و سرداران ریاست و جملہ حاکماں و افسران ریاست ماہ محرم میں تعزیه داری کرتے ہیں اور چالیس روز تک بڑی خیر خیرات کرتے ہیں اور اس سبب سے جملہ مساکین کو بڑی مدد پہنچتی ہے اور فقیر فقراء کا گزارہ ہو جاتا ہے اور مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہیں اگر ان مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے اور وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً تمام اہل ہنود چھوڑ دیں گے اور اگر اہل ہنود چھوڑیں گے تو یہ خیر خیرات موقوف ہو جائے گی تو تمام فقراء کا روزیہ نہ جاتا رہے گا اور ان تمام مساکین کو کمال تکلیف ہوگی اس صورت میں انکا منع کرنے والا عند اللہ ماجور ہوگا یا نہیں۔

(جواب) رزق حلال طرح سے حاصل ہونا ضروری ہے اور تلوث معصیت ہر حال حرام پس معرکہ تعزیه داری گوالیار بخیرہ کا حرام ہے اور ایسی خیر خیرات بھی حرام ہے کہ یہ خیر خیرات نہیں بلکہ رسم ہے جو خیرات بھی ہو تو بھی مرکب حرام و حلال سے حرام ہوتا ہے سو یہ سب معرکہ حرام ہے اور سب حیلہ خرافات غیر مسموع ہے جہاں یہ وہابیات نہیں ہوتی وہاں کے فقیر بھی بھوکے ہو کر نہیں مر گئے۔

## مرثیوں کی کتابوں کا جلانا

(سوال) مرثیہ جو تعزیه وغیرہ میں شہیدان کربلا کے پڑھتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس ہوں وہ دور کرنا چاہے تو ان کو جلادینا مناسب ہے یا فروخت کرنا فقط۔  
(جواب) ان کو جلادینا یا زمین میں دفن کرنا ضروری ہے۔

## شیعہ کا ہدیہ قبول کرنا

(سوال) رافضی کا ہدیہ دعوت اور جنازہ کی نماز میں شرکت جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) رافضی کا ہدیہ دعوت کھانا گودرست ہے مگر حضور نماز جنازہ اور ان سے محبت نادرست ہے اس لئے دعوت وغیرہ بھی نہ کھانی چاہئے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مالدار آدمی کا سوال کرنا

(سوال) جو لوگ تندرست تو انا کھاتے پیتے ہیں اور انہوں نے اپنا پیشہ گدائی اور فقیری اور محتاجی

کا اختیار کر لیا ہے اور در بدر شہر بشہر بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور ہرگز محنت و مزدوری وغیرہ نہیں کرتے اگرچہ مالدار ہیں لہذا ایسے لوگوں کو بھیک مانگنا اور سوال کرتے پھرنا حلال ہے یا حرام اور اگر حرام ہے تو انکو دینا بھی بوجہ اعانت علی الحرمت حرام اور ممنوع ہے یا نہیں جیسے کہ مسجد میں سوال اور اس کی عطاء کو کتب فقہ میں حرام و مکروہ فرمایا ہے چنانچہ در مختار میں مرقوم ہے و یسحرم فیہ السؤال و یکرہ الا عطاء۔ (۱)

(جواب) جس کے پاس ایک روز و شب کی خوراک موجود ہو یا وہ شخص صحیح و تندرست کمانے کے قابل ہو تو ان کو سوال کرنا اور دینا دونوں حرام ہیں اور دینے والے اگر ان کی حالت سے واقف ہو کر پھر دیں تو وہ گنہگار ہوں گے خصوصاً ان فقیروں کو دینا جو طبل وغیرہ بجا کر سوال کرتے ہیں ان کو تو بالکل نہ دینا چاہئے بقول علیہ السلام۔

من سال الناس ولہ ما یغنیہ جاء یوم القیمة ومسألته فی وجہہ خموش  
او خلدوش او کدوح وقال علیہ السلام من سال الناس وعنده ما یغنیہ فانما  
یستکثر من النار قال النقیل وما الغنی الذی لا ینبغی معہ المسئلة قال قدر ما  
یغنیہ وبعشیہ وقال یكون له شیع یوم اولیلة ویوم رواہ ابو دائود و فی حاشیة  
المشکوۃ لا ینبغی للانسان ان یسال وعنده قوت یومہ کذا فی التاتارخانیة  
(وفیہا ایضاً) ومن ملک قوت یومہ یحرم علیہ السؤال و فی رد المحتار  
لا یحل ان یسال شیئاً من له قوت یومہ بالفعل او بالقوة کاالصحیح  
المکتسب و یا ثم معطیه ان علم بحالہ لا عانتہ علی المحرم (۲) او فی جلد  
سوم مجموعۃ الفتاویٰ لمو لوی عبدالحمی المرحوم سوال سائلیکہ طبل زدہ برد

(۱) اس میں سوال کرنا بھی حرام اور دینا بھی مکروہ ہے۔

(۲) رسول اللہؐ کے فرمانے کی وجہ سے کہ جس نے لوگوں سے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر موجود ہے جس کی بنا پر وہ لوگوں سے مستغنی رہ سکتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرے میں چھڑھایا ہوگی اور یہ بھی رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو لوگوں سے سوال کرے اور اس کے پاس اس قدر ہے جو اس کو کافی کرتی ہے تو وہ آگ کی زیادتی کر رہا ہے نفل سے عرض کیا کہ وہ غناہ کس قدر ہے جس کی موجودگی میں اس کو سوال نہ کرنا چاہئے تو ارشاد فرمایا کہ اس قدر جو اس کو حج و شام کھلا دے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس سے وہ ایک دن یا ایک دن و رات پیٹ بھر کر کھالے اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ کے حاشیہ میں ہے کہ کسی انسان کو جائز نہیں کہ اس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اور وہ سوال کرے اور در مختار میں ہے کہ جائز نہیں اس شخص کو جس کے پاس دن کی غذا بالفعل موجود ہو بالقوة جیسے تندرست کمانے والا کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے اور اس کو دینے والا اگر اس کے حال کو جان کر دے تو گنہگار ہوگا کہ اس نے حرام کی اعانت کی۔

رہا سوال میںندائیں کسب جائزست یا نہ جواب:- جائز نیست در مدارج النجوة می آرد و نباید داد مسائل را که طبل زده بر درها میگرد و مطرب از همه فحش است اتھی۔ وفي الكنز و لا یستل من له قوت يوم الخ وفي حاشية الكنز قوله ولا یسال لقوله ص الله علیه وسلم من سال وعنده ما یغنیه فانما یستکثر جمر جهنم قالوا یا رسول الله ما یغنیه قال ما یغذیه و یعشیه فالقدرة علی الغداء والعشاء بحرم سوال الغداء والعشاء الخ و فتح المبین قوله من له قوت یومہ ای بالفعل او بالقوة کالصحیح المكتسب و یا ثم معطیه ان علم بحاله لا عانته علی المحرم انتهى مختصراً بقدر الحاجة. (۱)

غرض کہ بلا ضرورت شرعیہ سوال جائز نہیں اور وقت ضرورت میں جائز ہے بلا کراہت و حرمت لہذا حکم الکتاب واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب حرره العبد المسلمین محمد علیم الدین غفرلہ المؤمنین آمین۔ عفا عنہما لعین محمد علیم الدین۔

فی الواقع جس شخص کے پاس ایک دن کا قوت یا قوت کے کسب کی طاقت ہو اس کو سول کرنا شرعاً حرام ہے اور دینے والے کو جو اس کے حال سے بخوبی واقف ہو اس کو دینا بھی ناروا ہے لیکن ناواقف ہونے کی حالت میں دینا حرام نہیں اور نیز زبان درازی اور بد گوئی کے دافع کے خیال سے دینا جائز ہے چنانچہ در مختار اور اس کے ترجمہ میں مذکور ہے۔ والنسی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطعی الشعراء ولمن یخاف لسانہ و کفی بسہم المؤلفۃ من الصلقات دلیلاً علی امثالہ۔ (ترجمہ) اور رسول اللہ ﷺ شاعروں کو اور جس کی زبان درازی اور بد گوئی سے خوف کرتے تھے اور اس کو مال عطا فرماتے تھے اور مؤلفۃ القلوب کا حصہ مقرر ہونا اموال زکوٰۃ سے ایسے مسائل کی دلیل ہونے کے واسطے کفایت کرتا ہے مؤلفۃ القلوب رؤساء کفار تھے جن

(۲) اور مولوی عبدالحی مرحوم کے مجموعہ فتاویٰ جلد سوم میں ہے۔ سوال:- جو مسائل کہ فقارہ مجاہد دروازدوں پر سوال کرتا رہتا ہے یہ کمانی جائز ہے یا نہیں۔ جواب:- جائز نہیں مدارج النجوة میں ہے کہ اس مسائل کو نہ دینا چاہئے جو فقارہ بجاتے ہوئے دروازدوں پر پھرتا ہے اور گانے والا تو تمام میں فحش ترین ہے اور کتر میں ہے کہ وہ شخص سوال نہ کرے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور کتر کے حاشیہ میں ہے اور سوال کرے اور بید رسول اللہ کے اس ارشاد کے کہ جس نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر ہے جو اس کو بے فکر کر سکے ہے تو جہنم کی چنگاریوں کو زیادہ کر رہا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا مقدار ہے جو اس کو بے فکر کر دے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس سے وہ صبح اور شام کا کھانا کھالے تو دن اور رات کے کھانے کی قدرت دن اور رات کے کھانے کے سوال سے بے فکر بنا دیتی ہے اور فتح المؤمنین میں ہے کہ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ جس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اس کا مطلب بافضل یا بالقوة ہے جیسے قدرت مکملنے والا اور اس کو دینے والا اگر کسی کی حالت کو جانتا ہو تو گنہگار ہے۔ بوجہ حرام پر اعانت کے (مختصر بقدر ضرورت نقل کیا گیا ہے)۔

کو حصہ تالیف قلوب کے واسطے دیا جاتا تھا ابتداء اسلام میں حاشیہ شامیہ میں لکھا ہے۔ (کسان يعطى الشعراء) (۱) فقد روى الخطابي عن الغريب عن عكرمة مرسل قال اتى شاعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اقطع لسانه عنى فاعطاه اربعين درهماً والله تعالى اعلم بالصواب ثمنه العبد المذنب محمد لطف الله عفى عنه رسول الله خادم شريعت مفتي محمد لطف الله ۱۲۹۸ھ ہجری۔ مفتی ریاست رامپوری ابن مفتی مولانا محمد سعد اللہ مرحوم۔ الجواب صواب نظام الدین الجواب واضح کلاہما صحیحان۔ الجواب صواب والجیب مثاب احمد امین عفی عنہ خان محمد محمد معز اللہ۔

سوال مذکور پر مولوی احمد رضا خان صاحب کا علیحدہ جواب۔

(جواب) جو اپنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہو یا اس کے کسب پر قادر ہے اسے سوال حرام ہے اور جو اس حال سے آگاہ ہو اسے دینا حرام اور لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار و بتلائے آٹام صحاح میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی حلال نہیں ہے صدقہ کسی غنی کے لئے نہ کسی قوی تندرست کے لئے (رواہ الاثمة احمد والدارمی والا ربعة عن ابی ہریرہ قرضی اللہ تعالیٰ عنہ)۔ (۲)

نیز صحاح میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں من سأل الناس وله ما یغنیہ جاء یوم القیمة ومسلته فی وجهه خموش جو لوگوں سے سئل کرے اور اس کے پاس وہ شے ہو جو اسے بے نیاز کرتی ہو روز قیامت اس حال پر آئے گا کہ اس کا وہ سوال اس کے چہرہ پر خراش و زخم ہو رواہ الدارمی والا ربعة عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (۳) نیز فرماتے ہیں ﷺ من سأل الناس اموالہم تکثر فانما یسال جمر جہنم فلیستقل منه یتکثر جو اپنا مال بدھانے کو لوگوں سے ان کے مال کا سوال کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کے ٹکڑے مانگا ہے اب چاہے تھوڑی لے یا بہت رواہ احمد و مسلم و ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ (۴) نیز فرماتے ہیں ﷺ من سأل من غیر فقر فانما یاکل

(۱) (اور نبی ﷺ) شعراء کو عطا فرمایا کرتے تھے چنانچہ خطابی نے روایت کیا ہے غریب احادیث میں عکرمہ سے بطور مرسل کہ ایک شاعر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسے بلال میری طرف سے اس کی زبان کاٹ دے تو انہوں نے اس کو چالیس درم دے دیئے۔

(۲) اس کو احمد و دارمی و چاروں اصحاب حدیث نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

(۳) اس کو دارمی اور چاروں اصحاب حدیث نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔

(۴) اس کو احمد و مسلم اور ابن ماجہ نے ابی ہریرہ سے روایت کیا ہے۔



الجمر جو بے حاجت و ضرورت شرعیہ سوال کرے وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے۔ رواہ احمد وابن ماجہ وابن خزیمہ والضیافی المختار عن حبش بن جنادۃ رضی اللہ عنہ بسند صحیح تنویر الابصار (۱) و در مختار میں ہے لا یحل ان یسال شیئا من القوۃ من له و قوت یومہ بالفعل او بالقوۃ کا لصحیح المکتسب و یائم معطیہ ان علم بحالہ لاعانتہ علی المحرم الخ (۲) و تمام الکلام فی هذا المقام مع دفع الا وهام فی فتاوانا وقد ذکرنا شیئا منه فیما علقنا علی رد المختار واللہ تعالیٰ یقول جد مجدہ ولا تعاونوا علی الائم والعدوان (۳) واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا بریلوی عفی عنہ بمحمد بن المصطفیٰ النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم..... جناب مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ سوال کرنا حرام ہے۔  
بے نظیر ۱۳۰۰ شگفتہ محمد گل۔

اس میں شک نہیں کہ ضرورت سے زیادہ سوال کرنا شرعاً درست نہیں محمد نعیم الدین عفی عنہ ماقال الحیجی فہو الصواب محمد قاسم علی۔ خلف مولانا محمد عالم علی ۱۲۹۶۔ عفی عنہ مفتی دامام شہر مراد آباد رشید احمد۔ ۱۳۰۱

الجواب صحیح محمد حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد و مدرس اول حال ریاست بھوپال الجواب صحیح بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔

گھوڑے سوار مسائل کا سوال کرنا

(سوال) ایک سائل مالدار ہے اور گھوڑے پر سوار ہے اس کو دینا چاہئے یا نہیں۔

(جواب) سوال کرنا مالدار کو حرام ہے اس کو دینا بھی در مختار میں حرام لکھا ہے کہ اعانت حرام پر ہے اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو اور مال اس کا سفر میں تلف ہو گیا گھر سے دور ہے اور گھوڑا فروخت سردست نہیں ہو سکتا ناچار ہو کر جان بچانے کو سوال کرے تو درست ہے اس کو دینا بھی درست ہے ورنہ نہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

- (۱) اس کو احمد ابن خزیمہ اور ضیائی نے مختارہ میں حبش بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔  
(۲) جس کے پاس ایک دن کی غذا بائٹل یا بالقوۃ (جیسے تندرت کمانیوالا ہے) موجود ہو اس کو جائز نہیں کہ کسی چیز کا سوال کرے اور اس کو دینے والا اگر اس کی حالت سے واقف ہے تو گنہگار ہوگا پوجہ امر حرم پر اعانت کے۔  
(۳) اور اس مقام میں مکمل کلام مع دفع اوہام کے جو ہمارے فتاویٰ سے پیدا ہوئی ہے اور ہم نے اس میں سے ان تعلیقات میں ذکر کر دیا ہے جو رد المختار پر لکھی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ ”اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے۔“

## سوال کرنا کس کو جائز ہے

(سوال) ایک شخص سائل ہے اور کہتا ہے کہ میرا مال چوری ہو گیا تنگ دست ہوں میرا کچھ پیشہ یہ نہیں ہے لہذا اس کے سنے بازار سے چندہ کرادیا جاوے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔  
(جواب) اگر اس شخص کے کہنے کا یقین اور اعتبار ہو تو اس کے لئے چندہ کر دینا درست ہے اور ایسے ضرورت والے کو سوال بھی درست ہے اور اس کو دینا بھی درست ہے اور جن سائل کو دینا حرام ہے وہ وہ ہے کہ جس کو وسعت ہو اور روپیہ موجود ہو اور سوال کرے یا اس میں کمانے کی استطاعت ہو اور پیٹ بھرنے کے لئے مانگتا پھرنا ہو اس کو سوال بھی حرام ہے اور ایسی ضرورت کے لئے مانگنا اور دینا درست ہے جیسے درج سوال ہے۔

## مردوں کا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا

(سوال) لباس سرخ کا استعمال مردوں کو کرنا سوائے کسم کے خواہ کسی قسم کا ہو مثلاً ٹول و مخمل وغیرہ کے جائز ہے یا نہیں اور نماز میں اس کے کوئی نقصان واقع ہوگا یا نہیں محقق مذہب اس میں کیا ہے اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحبؒ نے از بعین میں تحریر فرمایا ہے کہ جمادیہ میں لکھا ہے روایت کی حسن نے نبی ﷺ سے آپ نے فرمایا کہ دور ہو رنگ سرخ سے کہ رنگ سرخ زینت شیطان ہے اور تذکیر الاخوان حصہ دوسرے تقویۃ الایمان میں حدیث نقل فرماتے ہیں اخروج الترمذی و ابوداؤد عن عبد اللہ بن عمر قال مر رجل وعلیه ثوبان احمران فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرد علیہ (۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رنگ سرخ بالکل ممنوع ہے کہ آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اس میں صحیح مذہب کیا ہے مدلل ارقام فرمادیں۔

(جواب) سرخ غیر مصفر میں روایات مختلفہ ہیں اور ہر ایک جانب دلائل مذکور ہیں احوط مطلقاً سرخ کا ترک ہے اور رخصت جواز استعمال سوائے مصفر کا ہے جو مسئلہ اول قرن سے مختلف ہو اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اس حدیث میں جو ثوبان احمران وارد ہے اس کو مجوزین مصفر پر حمل کرتے ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) ترمذی و ابوداؤد نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص کزرا جس پر دوسرے کپڑے تھے اس نے نبیؐ کو سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔

دولہا کو گوٹہ لچکا لگا کر کپڑا پہننا!

(سوال) نوشہ کو خسرال کی طرف سے جو جوڑا ملتا ہے اس میں گوٹہ لچکا بھی لگا ہوتا ہے اس کو پہننا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگر گوٹہ لچکا چار انگشت ہے تو یہ لباس مرد کو درست ہے اگر زیادہ ہے تو ناجائز گوٹہ لچکا ٹھہر پہننا مرد کو مطلقاً چار انگشت تک جائز ہے نکاح ہو یا بغیر نکاح فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مرد کا گوٹے کناری لگا ہوا کپڑا پہننا

(سوال) گوٹہ کناری جس کو عورات کپڑوں پر لگاتی ہیں اس کا استعمال مردوں کو بھی بقدر چار انگشت یا دو انگشت کے کپڑوں پر کے درست ہے یا نہیں اگر اس کا کپڑا بنا ہوا پہنے تو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) گوٹہ کناری چار انگشت تک مردوں کو جائز ہے خواہ کپڑے کے ساتھ بنا ہو خواہ ٹانگہ دیا ہو خواہ بدون سینے کے کپڑے سے متصل کر دیا ہو اس میں وزن کا اعتبار نہیں بلکہ مساحت کا اعتبار ہے چار انگشت درست اور زائد ممنوع ہے خالص چاندی کا پتھر بھی یہی حکم رکھتا ہے کذافی کتب الفقہ۔ (۱) واللہ تعالیٰ اعلم۔

سرخ رنگ ٹول یا پڑیا کا حکم

(سوال) سرخ رنگ ٹول یا پڑیہ پختہ کا ہو کوئی مباح کوئی حرام کہتا ہے تو ایسی صورت میں مفتی یہ کیا ہے۔

(جواب) کسبہ کا سرخ اور زرد اور گلابی مرد کو حرام ہے اور سوائے اس کے سرخ خام یا پختہ اکثر علماء کے نزدیک درست ہے اگر پہنے درست ہے احتیاط اولیٰ ہے۔

عالم کا سرخ کپڑے پہننا

(سوال) اگر عالم کپڑے مطلق سرخ پہنا کرے اس واسطے کہ درست و مباح ہیں اور یہ ضرور ہے کہ عام آدمی اس عالم کی دیکھا دیکھی کریں گے پس اس صورت میں استعمال کپڑے سرخ کا خاص عالم کے واسطے کیا ہے۔

(۱) کتب فقہ میں اسی طرح ہے۔

(جواب) اگر معصفر ہے تو گنہگار ہے ورنہ کچھ حرج نہیں کہ اس کے جواز پر فتویٰ اکثر علماء کا ہے۔

### مردوں کو سرخ رنگ کا کپڑا استعمال کرنا

(سوال) زید کہتا ہے کہ مطلق سرخ رنگ کسم کا ہو یا غیر اس کا پختہ ہو یا خام ابرہ میں ہو یا استر میں علماء محققین کے نزدیک مکروہ تحریمہ ہے اور جو علماء جواز کہتے ہیں ایک ان میں شیخ ابوالکارم ہے کہ وہ فقہاء کے نزدیک ایک آدمی مجہول اور حاطب اللیل ہے اور دوسرے فقیہ زاہدی کہ وہ معتزلہ ہے پس قول ان کے معتبر نہ ہوں گے یہ عمل صحیح کس طور پر ہے۔

(جواب) سرخ معصفر بالاتفاق حرام ہے اور سوا معصفر کے علماء کا اختلاف ہے دونوں جانب محققین ہیں عبداللہ بن عمر اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما دونوں جواز کے قائل ہیں صاحب درمختار کی رائے بھی جواز کی طرف ہے اور مولانا مولوی شاہ رفیع الدین صاحب نے بھی اپنے رسالہ میں جائز لکھا ہے لہذا تقویٰ ترک میں ہے اگر کوئی اس کا استعمال کرے تو جائز ہے اور دونوں قول قوی ہیں۔ (۱)

### بغیر کسم کا رنگا ہوا کپڑا مردوں کو پہننا

(سوال) لباس احمر بغیر معصفر خواہ ٹول و مجمل وغیرہ مردوں کو درست ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصنف شرح موطا میں فرماتے ہیں مکروہ نیست لباس مصبوغ بمشوق و نحو آن در حق مردان و در حق زنان واللہ اعلم یا نہیں۔

(جواب) لباس احمر بغیر معصفر مرد کو پہننا جائز ہے علی سبیل الفتویٰ اور ترک اولیٰ ہے بنا بر تقویٰ اور معصفر مرد کو مکروہ تحریمی ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) ترجمہ:- اور ابی حنیفہ سے مروی ہے کہ سرخ اور سیاہ رنگے میں کوئی حرج نہیں ہے اور قاضی خان میں ہے سرخ کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مکروہ ہے مردوں کو زعفران و ورس و کسم کے رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہننا اور شاہ محمد اعظم صاحب فرماتے ہیں۔

اور جو لباس کہ سرخ رنگ کا بجز کسم کے ہو مختلف فیہ ہے اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے اور مولانا نواب سید صدیق حسن صاحب فرماتے ہیں اور کسم کپڑے کو سرخ رنگ رنگ دینا ہے جو ایک خالص کسم کا ہوتا ہے جس کو وہ حدیث معارض نہیں ہوتی ہے جو مطلق سرخ رنگ کے کپڑے میں وارد ہوئی ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے حضرت برائے سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ میاتہ قد تھے آپ کے دونوں موٹھوں کے درمیان کشادگی تھی آپ کے سر کے بال کا ٹوکی لوٹک تھے میں نے آپ کو سرخ لباس میں دیکھا کہ اس سے بہتر دنیا میں میں نے کوئی چیز نہ دیکھی اور اس باب میں کئی احادیث ہیں جو اس بات کو ترجیح کرتے ہیں کہ ممنوعہ و سرخ ہے جو کسم سے رنگا ہوا اور مباح و سرخ ہے جو اس سے نہ رنگا گیا ہو۔

مردوں کا رنگین کپڑے پہننا وغیرہ

(سوال) رنگین کپڑے پہننا نیلا تہہ باندھنا موٹی تسبیح رکھنا بال سر کے بڑھانا اس خیال سے کہ اگلے پیشواؤں کا یہ فعل ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت ہے یا نہیں۔  
(جواب) ان بیہیات میں کوئی محصیت نہیں بری نیت سے برا۔ بھلی نیت سے بھلا ہے۔

سوائے زعفران کے زرد رنگت کا کپڑا مردوں کو پہننا

(سوال) رنگ زرد سوائے زعفران کے مثل تن وغیرہ کے استعمال کرنا بالخصوص مردوں کو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) علیٰ ہذا زرد رنگ سوائے زعفران کے مردوں کو مختلف فیہ ہے راجح اس میں جواز ہے اور سرخ و زرد کی بحث مردوں کے ہی واسطے ہے عورتوں کو سب درست ہے لہذا اعلیٰ بالخصوص مردوں کو درج سوال ہے یہ زائد ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مردوں کو ٹول رنگ کا کپڑا استعمال کرنا

(سوال) ٹول کا رنگ مرد کو کیسا ہے اس کا استر رضائی کے نیچے لگانے سے نماز میں نقصان ہوتا ہے یا نہیں۔

(جواب) ٹول کا رنگ پختہ ہے مرد کو جائز ہے مگر بہتر ہے کہ مرد نہ پہنے فقط۔

ٹول اور پڑیہ کا رنگ مردوں کو استعمال کرنا

(سوال) ٹول اور پڑیہ پختہ مرد کے واسطے درست ہے یا نہیں۔

(جواب) ٹول اور پختہ سرخ رنگ مرد کے حق میں مختلف فیہ ہے بعض علماء سوائے معصفر کے سب کو مباح لکھتے ہیں اور بعض مطلق سرخ کو منع لکھتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) اور گلاب کے پھول میں یا اسی قسم کے پھول میں رنگے ہوئے کپڑے کو پہننا مردوں اور عورتوں کو مکروہ نہیں ہے۔  
سوال: عنب، بانات، سرخ اور کھاردا اور رنگ نگرانی اور پیازی کا استعمال درست ہے یا نہیں جواب درست ہے اس لئے کہ ہر سرخ رنگ حرام نہیں ہے بلکہ کم کے رنگ میں رنگا ہوا حرام ہے تو مولانا عبدالحی صاحب۔

مردوں کو تن اور کسم کارنگ ملا کر استعمال کرنا

(سوال) تن اور کسم کارنگ ملا کر مرد کے واسطے جائز ہے یا نہیں بشرطیکہ تن کارنگ کسم پر غالب ہو۔

(جواب) اگر تن کے رنگ میں گل معصفر کارنگ دب جاوے تو پھر درست ہے جس کے نزدیک تن کارنگ درست ہے مرد کو اور جو لوگ کہ تن کو بھی منح کرتے ہیں وہ اجازت نہ دیوں گے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

گیر و میں رنگے ہوئے کپڑے پہننا!

(سوال) کپڑے گیر و میں رنگنا جیسے صوفی لوگ رنگتے ہیں کیسا ہے۔

(جواب) گیر و میں کپڑے رنگنا درست ہے بشرطیکہ ریاء نہ ہو فقط واللہ تعالیٰ اعلم رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ رشید احمد ۱۳۰۱ھ الجواب صحیح محمد عبداللطیف عفی عنہ محمد عبداللطیف۔

مردوں کو چاندی کی لیس کا پہننا

(سوال) لیس نقرئی جس پر سونے کا ملمع ہو اور نیز کلاہ ترکی غیرہ پہننا جائز ہے یا نہیں اور لیس کس انداز سے چاہیے۔

(جواب) لیس سونے کا ہو یا چاندی کا اگر چار انگشت کی قدر ہو یا اس سے کم تو جائز ہے اور اگر اس سے زیادہ ہو تو ناجائز ہے کلاہ ترکی کا استعمال اس جگہ میں جہاں شعاع کسی خاص قوم کا اقوام غیر اہل اسلام یا اہل ہوا میں سے نہ ہو جائز ہے اور جس جگہ شعاع کسی خاص قوم یا فرقہ باطلہ کا ہونا جائز ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ترکی ٹوپی پہننا

(سوال) ترکی ٹوپی کا اوڑھنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) ٹوپی ترکی اصل شعاع نیچریوں کا ہے مگر جب دوسرے لوگوں میں بھی شائع ہو جاوے تو مضاقت نہیں ہے۔

گول ٹوپی

(سوال) گول ٹوپی اوڑھنا کہ جس پر ڈوپٹہ باعث دب جانے ٹوپی کے نہ باندھ سکتا ہو اور

درمیان میں خلار ہے یعنی سر پر درمیان میں نہ لگے تو اس کا استعمال کیسا ہے۔  
(جواب) گول ٹوپی درست ہے مگر جس میں مشابہت کسی قوم بدین کی ہو وہ درست نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے جبہ کی مقدار

(سوال) حضرت ﷺ کا جبہ شریف کس قدر نچا تھا زید کہتا ہے کہ زمین پر گھسٹا تھا یعنی ٹخنوں سے نچا تھا قول زید صحیح ہے یا غلط۔

(جواب) آنحضرت ﷺ نے ٹخنے سے نچا کپڑا لٹکانے کو مردوں کو منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے پس آپ خود ایسا کپڑا ہرگز نہ پہنتے تھے جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کا جبہ زمین پر گھسٹا کرتا تھا وہ کوئی بڑا جاہل ہے اور نادانف۔

کرتہ کی گھنڈی یا بٹن کھلا رکھنا

(سوال) کرتہ کی گھنڈی یا بٹن کھلا رکھنا جس سے سینہ بھی کھلا ہے سنت ہے یا نہیں۔  
(جواب) درست ہے احیاناً رسول اللہ ﷺ نے کھولے رکھے ہیں۔

مردوں کو چاندی کے بوتام

(سوال) بوتام چاندی کے درست ہیں یا نہیں اگر درست ہیں تو کس وجہ سے اور جب گھڑی چاندی کی جائز ہے یا نہیں فقط۔

(جواب) بوتام چاندی سونے کے درمختار میں درست لکھے ہیں اور قاعدہ شرع سے جواز ثابت ہے اور گھڑی چاندی کی درست نہیں گھڑی ایک طرف مستقل ہے اور بوتام تابع کپڑے کے ہیں مثل گوڑ ٹھپے کے فقط۔

چاندی کے بٹن کا مسئلہ

(سوال) بوتام چاندی کے ایک یہ کہ کپڑے پر ٹانگ دیئے جاویں دوسرے یہ کہ سوراخ کر کے مع رنجیروں کے داخل کپڑے میں کئے جاویں کہ ہر وقت نکال اور ڈال سکتے ہیں یہ دونوں صورتیں جواز میں یکساں ہیں یا نہیں۔

(جواب) بوتام چاندی کے دونوں طرح درست ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

## چاندی سونے کے بٹن استعمال کرنا

(سوال) چاندی سونے کے بٹن انگرکھ یا کرتہ میں لگانا اور یہ امر یقینی ہے کہ وزن کئی تولہ ہوتا ہے جب کہ زنجیر بھی ایک اس میں ہوتی ہے لگانے جائز ہیں یا نہیں حرام ہے یا غیر حرام مکروہ ہے۔ تزکیہ یا تحریمی معہ عبارت کتاب نقل فرمادیں۔

(جواب) چاندی سونے کے بٹن درست ہیں اس میں مساحت کا اعتبار ہے نہ وزن کا وزن خاتم میں معتبر ہے اور بٹن تابع ثوب کا ہے مثل ٹھپہ گوڈ کے اس میں مساحت کو لکھتے ہیں نہ وزن کو ازراد الذهب در مختار (۱) کے باب الحظر والکراہۃ (۲) میں جائز لکھتے ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## چاندی کے بٹن

(سوال) چاندی کے بٹن انگرکھے میں لگانا جائز ہے یا منع ہے۔  
(جواب) جائز ہے جیسے کہ گوڈ بقدر شروع جائز ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## لکڑی کے کھڑاؤں پہننا

(سوال) کیا پہننا کھڑاؤں چوبیس کا بدعت ہے۔  
(جواب) کھڑاؤں چوبیس کا پہننا بدعت نہیں بلکہ بسبب نفع کے اور اس کی اصل ہونے کے کہ جو تہ اور موزہ بھی درست ہے البتہ بسبب مشابہت جو گئیہ کے کسی وقت منع لکھا تھا مگر اب یہ کافرو مسلم میں شائع ہو گئی ہے اب مشابہت اس میں ممنوع نہیں رہی واللہ تعالیٰ اعلم۔

## کھڑاؤں کا مسئلہ

(سوال) نعلین چوبی کو مولیٰ عبدالحی صاحب لکھنوی نے بدعت لکھا ہے اتخاذا النعل من الخشب بدعة كما في القنية والحما دية (۳) اس کا وہی مطلب ہے جو حضور نے فرمایا ہے یا یہ کتب غیر معتبر سے ہیں یا اس عبارت کی اور کوئی تاویل ہو سکتی ہے۔  
(جواب) کسی وقت میں ناجائز تھی اب درست ہو گئی کہ عام استعمال اس کا ہو گیا فقط واللہ اعلم۔

(۱) سونے کے بٹن۔

(۲) حرمت و جواز کا باب۔

(۳) لکڑی کی چوبی پہننا بدعت ہے جیسا کہ قلیسا اور صادیہ میں ہے۔



## کمر میں سوت باندھنا

(سوال) کمر میں سوت باندھنا جیسا کہ بعض ملک میں باندھتے ہیں درست ہے یا نہیں۔  
 (جواب) سوت اگر کسی غرض کے واسطے باندھیں تو درست ہے اور اگر کچھ اثر اعتقاد کر کر باندھے تو درست نہیں اور اگر بلا کسی وجہ کے باندھے تو فضول ہے اس لئے چھوڑنا چاہئے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مردوں کو مہندی لگانا

(سوال) ایک شخص بایں قیاس کہ حدیث میں پھوڑے پھنسی میں مہندی کا استعمال جائز ہے گرمی اور خشکی کی حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگالیتا ہے کبھی خالی کبھی کیکر کے پتے ملا کر اس کو مہندی کے استعمال سے آرام ہو جاتا ہے اس صورت میں اس کو مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں۔  
 (جواب) حنا پاؤں لگانے میں تشابہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے لہذا درست نہیں دوسرا علاج کرے اور پھوڑے پر رکھنا موجب مشابہت نہیں ہوتا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## بالوں کو سیاہ کرنا

(سوال) کلف سر اور داڑھی کو لگا کر بالوں کو سیاہ کرنا کیسا ہے اور کتم کس چیز کو کہتے ہیں یہ جو آیا ہے کہ بڑھاپے کو ڈھانپو ساتھ کتم اور حنا کے اس کا کیا مطلب ہے۔  
 (جواب) بالوں کو خضاب کرنا کسی چیز سے سوائے سیاہ کے سب قسم درست ہے اور کتم ایک بوٹی ہے بعضوں نے کہا نیل ہے اس کا خضاب چونکہ سبز ہوتا ہے لہذا بعد کسی چیز کے ملانے کے استعمال میں لاوے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## اچکن وانگر کھا پہننا

(سوال) رسول خدا اور اصحاب رسول خدا کا لباس کیسا ہوتا تھا اور اب اس زمانہ میں جو انگر کھ کرتے پانچامہ و اچکن و کوٹ سادہ وانگریزی وغیرہ پہننا اور کاج کرتے ہیں لگانا درست ہے یا نہیں۔  
 (جواب) جناب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کا لباس قمیص تھا اور اب اس زمانہ کے اچکن وانگر کھ وغیرہ کا حکم یہ ہے کہ جو لباس کسی غیر قوم کے ساتھ مخصوص اور اس کا شعار ہونا جائز ہے لباس کے بارے میں کلیہ ہے سب کا حکم اسی سے نکل آویگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

اچکن وانگر کھا کا حکم

(سوال) اچکن کا انگر کھ پہننا کیسا ہے۔

(جواب) اچکن پہننا درست ہے۔

داڑھی کے بالوں کا کتر وانا

(سوال) داڑھی کے بال برابر ہو جانے کی غرض سے کچھ تھوڑے تھوڑے کتر وادیتا باوجود یکہ

داڑھی بھی ایک مشت سے کم ہو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) مجموعہ داڑھی ایک مشت سے کم نہ ہو اگر بعض بال کم ہیں حرج نہیں فقط۔

داڑھی کی شرعی مقدار

(سوال) داڑھی رکھنا کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک منع ہے۔

(جواب) داڑھی ایک مشت سے کم رکھنا منع ہے اور ایک مشت سے زائد کو اگر کاٹ دیوے درست ہے

ننگے سر ننگے پیر رہنا

(سوال) سر برہنہ اور پاؤں برہنہ رہنا سنت ہے یا نہیں اور بعض صوفی ان افعال کو سنت جان کر

کرتے ہیں سو یہ افعال فی الحقیقت سنت ہیں یا نہیں۔

(جواب) احیاناً پاؤں برہنہ ہونا مضا فقہ نہیں ورنہ آپ علیہ السلام اکثر اوقات نعلین یا موزہ پہنتے تھے

اور سر برہنہ ہونا احرام میں ثابت ہے سوائے احرام کے بھی احیاناً ہو گئے ہیں نہ انما چلتے پھرتے۔

بوجہ گرمی سر میں پان کھلوانا

(سوال) سر کے بالوں میں بوجہ گرمی پان کھلوانا جائز ہے یا نہیں اس واسطے کہ بالوں میں گرمی

معلوم ہوتی ہے اس کے کھلوانے سے گرمی نکل جاتی ہے۔

(جواب) سارے سر کے بال منڈاوے یا سارے سر کے رکھے بعض کار کھنا اور بعض کا منڈانا

منع ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

سر میں پان بنوانا

(سوال) درمیان سر کا منڈوانا جس کو عرف عام میں پان کہتے ہیں بوجہ بیماری کے جائز ہے یا

نہیں اور جس کے سر پر پان ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی کیسی ہے۔

(جواب) پان سر میں رکھوانا یعنی کچھ سر بیچ میں سے منڈوانا باقی بال رکھ لینا درست نہیں بلکہ گناہ ہے ایسے کی امامت مکروہ ہے فقط۔

بیماری کے عذر سے بیچ سے سر منڈانا

(سوال) بیماری کے عذر سے بیچ میں سر منڈوانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) بیچ میں سر منڈانا کسی حالت میں درست نہیں ہے۔

گردن کے بال منڈوانا

(سوال) گردن کے بال منڈانا درست ہیں یا نہیں اور یہ سر میں شامل ہے یا الگ ہے اگر الگ ہے تو کس مقام سے اور دائی کا خط بنوانا جائز اور ثابت ہے یا نہیں اور پنڈلی اور ران کے بالوں کا موونڈنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) گردن جدا عضو ہے اور سر جدا لہذا گردن کے بال منڈانا درست ہے سر کا جوڑ علیحدہ کان کی لو کے پیچھے معلوم ہوتا ہے اس سے نیچے گردن ہے ریش کا خط درست کرنا درست ہے اگر کسی کے بال رخسار پر بے موقع ہوں اور نہ منڈانا اولیٰ ہے اور پنڈلی اور ران کے بال کا دور کرنا درست ہے کہ آپ علیہ السلام تمام بدن پر سوائے چہرہ کے نورہ کرتے تھے واللہ تعالیٰ اعلم۔

گردن کے بال منڈوانا

(سوال) گردن کے بال کانوں سے جو نیچے ہیں منڈوانا جائز ہیں یا نہیں، مکروہ تحریمی ہیں یا تنزیہی مع عبارت کتاب تحریر فرمادیں۔

(جواب) گردن دوسرا عضو ہے سر کی حد سے نیچے کے بال گردن کے منڈوانے درست ہیں یعنی سر کے بال لینے اور بعض چھوڑنے مکروہ ہیں تحریراً بقولہ علیہ السلام نھی عن القرعۃ الحدیث۔ (۱) واللہ تعالیٰ اعلم۔

صرف گردن کے بال منڈوانا

(سوال) اگر سر کے بال نہ منڈوائے جائیں اور گردن کے بال منڈوائے جائیں تو درست ہے یا نہیں۔

(جواب) گردن کے بال منڈوانے اگر چہ سر کے نہ منڈوائے درست ہیں البتہ بہتر نہیں ہے۔

(۱) نبی ﷺ کے ارشاد کی وجہ سے آپ نے قرعہ سے منع فرمایا ہے۔

نوٹ: قرعہ کہتے ہیں سر کے کچھ بال لینا کچھ چھوڑ دینا۔

## کاکلوں کا مسئلہ

(سوال) بال سر کے گردن کے نیچے لٹکا لینا جن کو کاکلیں بھی کہتے ہیں جائز ہے یا نہیں۔ اور کاکلوں کو جو فعل یہود اور منع حدیث میں فرمایا ہے اس کے کیا معنی ہیں اور بال کانوں سے نیچے رکھنا جو سنت سے ثابت ہیں اس کے کیا معنی ہیں اور کاکل بمعنی فعل یہود اور مشابہت عورات سے ہیں یا نہیں۔

(جواب) بال سر کے جہاں تک چاہے بڑھالے درست ہے مگر بعض سر کا منڈانا اور بعض کا رکھنا مشابہت یہود ہے یہ مکروہ ہے اور تمام سر کے بال بڑھانا نہ یہ کاکل ہے اور نہ یہ ممنوع ہے واللہ تعالیٰ اعلم کاکل بمعنی حلق بعض وترک بعض فعل یہود کا اور منع ہے اور بال بڑھانا جو سنت سے ثابت ہے وہ معنی نہیں ہے (۱) ان کو کاکل کہنا اصطلاح جدید ہے اور مشابہت عورتوں کی جب ہووے گی کہ عورتوں کی طرح چوٹی گوندھے ورنہ کوئی مشابہت نہیں نہ کراہت فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## قینچی سے زیر ناف کے بال لینا

(سوال) مونے زیر ناف کو مقرض سے لینا جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو عدم جواز کی کیا دلیل ہے اور اگر جائز ہے تو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کیوں منع فرماتے ہیں یعنی کمالات عزیزی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے برا خواب دیکھا اس پر حضرت مولانا نے فرمایا کہ تیری عورت مقرض لیتی ہے منع کر دے۔

(جواب) یہ قصہ غلط ہے تو مولانا شاہ عبدالعزیز کا منع فرمانا غلط ہے اس کی دوسری صورت ہے اور بالوں کا دفعیہ مقرض سے جائز ہے مگر چونکہ استیصال اچھی طرح نہیں ہوتا اس واسطے مستحسن نہیں ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## خط بنوانا

(سوال) رخسار کے بال منڈوانا جس کو خط کہتے ہیں جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) رخساروں کے بال منڈوانا جائز ہیں مگر خلاف اولیٰ ہے فقط۔

## سینہ اور پیٹ کے بال منڈوانا

(سوال) سینہ اور پیٹ پر کے بال اور رخساروں کے بال منڈوانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) سینہ اور شکم کے بال منڈوانا درست ہیں اور رخسار کے بال دفع کرنا ترک اولیٰ ہے۔

(۱) بعض بال منڈوانا بعض کا چھوڑ دینا۔

## عورتوں کو قبر پر جانا

(سوال) قبروں پر عورت کو جانا محض حرام مگر مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں کل زیارت پر عورت جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔

(جواب) عورتوں کو قبر پر جانا مختلف فیہ ہے اکثر علماء منع کرتے ہیں بسبب فساد کے اور جو فساد نہ ہو تو اکثر کے نزدیک جائز ہے حرمین میں اس پر ہی عمل ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## شرعی پردہ

(سوال) اگر حجاب شرعی موجب بدگمانی و شرفساد کے نہ ہو سکے تو ان اجنبیوں سے جو اس کے چچا تایازاد بھائی یا دیور جیٹھ یا بہنوئی ہیں یا بہنوئی یا جیٹھ دیور یا زارتیجے و علی ہذا القیاس اور رشتہ دار ہوں تو ان سے فقط ستر پر کفایت کرنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) حجاب شرعی کا ترک کرنا ہر حال میں موجب گناہ ہے شرفساد کے اندیشہ سے ترک کرنا حجاب کا جائز نہیں ہو سکتا البتہ چہرہ کا ڈھلنا اگر بوجہ اندیشہ شر ترک کر دیا جائے بشرطیکہ ترک میں فتنہ ہو تو کچھ حرج نہیں کیونکہ یہ حجاب بوجہ مصلحت وقوع فتنہ ہے اور وہ اعضاء جن کا ستر واجب ہے ان کا کھلنا کسی حال میں جائز نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## بلا قصد کسی محرم کا دیکھنا

(سوال) بازار میں ایک عورت آرہی ہے ایک بیک اس پر نگاہ پڑ جاوے تو گناہ تو نہیں ہے۔

(جواب) فوراً نگاہ کو روک لیوے تو گناہ نہیں اگر دوبارہ قصد اُدیکھے گا تو گناہ ہے۔

## عورتوں کو پیر کے سامنے آنا

(سوال) مستورات کو اپنے پیر و مرشد کے سامنے آنا کیسا ہے اور سلام کرنا کیسا ہے فقط۔

(جواب) سامنے آنا پیر و مرشد کے مستورات کو حرام ہے ہرگز ہرگز کسی صورت میں جائز نہیں کلام کرنا اگر خوف فتنہ نہ ہو تو جائز ہے اگر خوف فتنہ ہو تو حرام و ممنوع ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ہندوستان کی کافرات کا حکم

(سوال) ملک ہندوستان مملوکہ نصاریٰ اور ممالک محروسہ نوابان ہند اور راجگان دار حرب ہے یا دارالسلام اور کافران ملکوں کے حاکم ہوں یا محکوم حربی ہیں یا ذمی خواہ ہندو ہوں وہ کافر یا غیر ہندو

اور کافرات حریمات ہیں یا ذمیات مثلاً در باب ستر مسلمہ کافرہ سے لکھا ہے۔ فی روضة النور فی نظر السلمیة الی المسلمة وجہان اصحہما عند الغزالی الجواز کالمسلمة واصحہما عند البغوی المنع حاشیة بیضاوی شریف جلد ثانی فی (۱) صفحہ ۷۹ پس ہندوستان کی کافرات کو حریمات سمجھنا چاہئے یا ذمیات اور نیز اور بہت احکام ہیں تو ان احکام میں یہاں کی کافرات کو ذمیات سمجھنا چاہئے یا حریمات اور مسلمہ ستر مسلمہ کا کافرہ سے بھی تحریر فرمائیے کہ یہ ستر ضروری ہے یا نہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہودیہ آئی تھی اور عذاب قبر کی گفتگو ہوئی تھی۔

(جواب) (۲) سب ہندوستان بندہ کے نزدیک دارالحرب ہے اور یہاں کی کافرات حریمہ ہیں اور ستر کرنا مسامت کو ان سے ضروری ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جو یہودیات حاضر ہوتی تھیں تو بدن مستور اس وقت میں آپ کا ہوتا تھا یہ حاضر ہونا ستر کے خلاف نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

عورتوں کا ناک کان چھدوانا

(سوال) عورتوں کے ناک کان چھدوائیں یا نہیں۔

(جواب) عورتوں کے کان چھدوانے درست ہیں اور ناک چھدوانے میں بعض علماء نے کلام کیا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

عورتوں کو تعزیت کے لئے جانا

(سوال) عورتوں کو تعزیت و عیادت درست ہے یا نہیں۔

(جواب) عورت کو عورت کی یا اپنے محرم کی عیادت و تعزیت درست ہے۔ (۳) فقط

عورتوں کو اونچی ایڑی کا مردانہ جوتا پہننا

(سوال) ایڑی والی جوتی مثل مردوں کے عورت پہن لے تو درست ہے یا نہیں کیونکہ زنانی

(۱) روضۃ النوری میں ہے کہ ذمیہ کا مسلمان عورت کو دیکھنے میں دو حکم ہیں ان دونوں میں زیادہ صحیح غزالی کے پاس جواز ہے جیسے مسلمان عورت کا اور بغوی کے پاس ان دونوں میں سے صحیح ہے حاشیہ بیضاوی شریف جلد ثانی صفحہ ۷۹۔

(۲) مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اپنے رسالہ قاسم اطوم جلد نمبر ۳۱، نمبر ۳۵ میں فرماتے ہیں اس ناکارہ کے نزدیک

یہی راجح ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔

(۳) (ترجمہ فتویٰ عبادیہ میں اسی طرح ہے واقعات حسامیہ از بعین سے نقل کرتے ہوئے)

جوتی بیٹھویں سے مردانی جوتی نمازی عورت کے واسطے پاؤں کو نجاست سے بچانے کے واسطے بہت خوب ہے جیسا کہ حکم ہو تحریر فرماویں۔

(جواب) جو جوتی کہ مردانی ہے اس کا پہننا عورت کو حرام ہے قال علیہ السلام لعن اللہ المشیہات بالرجال (۱) رواہ ابو ذؤود۔ اور چونکہ مردانی جوتی پہننے میں عورت کو تشبہ مردوں سے پیدا ہو جاتا ہے لہذا اس کا پہننا حرام ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### کانچ کی چوڑیاں عورتوں کو پہننا

(سوال) کانچ کی چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں جائز ہیں یا نہیں۔

(جواب) درست ہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ الایۃ (۲) واللہ تعالیٰ اعلم۔

### نامحرم مرد جس جگہ نہ ہو وہاں عورت کو بلبہ والا زیور پہننا

(سوال) جس گھر میں مرد نامحرم نہیں ہے بلبہ دار زیور پازیب پائل عورتوں کو پہننا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) جس جگہ نامحرم نہ ہوں وہاں آواز کا زیور پہننا درست ہے اور ستر عورت نماز میں شرط ہے سر سے پاؤں تک ڈھلکنا فرض ہے نامحرم موجود ہو یا شوہر فقط۔

### عورتوں کو پیتل تانبہ کا زیور پہننا

(سوال) زیور پیتل، تانبہ وغیرہ کا عورتوں کو پہننا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) زیور سب قسم کا عورتوں کو درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عورتوں کو چاندی سونے کے علاوہ زیورات کا پہننا

(سوال) عورتوں کو سوائے سونے چاندی کے اور دوسری چیزوں کے زیورات پہننا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) عورتوں کو سب قسم کا زیور پہننا جائز ہے بشرطیکہ اس میں مشابہت کسی بددین کی نہ ہو اللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں سے مشابہت کریں۔

(۳) ترجمہ آیت کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو حرام کیا ہے۔

زیور کے لئے کلمہ کار و پیہ تڑوانا

(سوال) کلمہ کے روپیہ کا تڑوانا زیور کے واسطے درست ہے یا نہیں۔

(جواب) کلمہ کے روپیہ کا تڑوانا زیور وغیرہ کے واسطے جائز ہے۔

عورتوں کا کانچ کی چوڑیاں پہننا

(سوال) عورتوں کو چوڑیاں کانچ و گلٹ کی پہننا درست ہیں یا نہیں۔

(جواب) عورتوں کو ہر قسم کی چوڑیاں پہننا جائز ہیں۔

چیتے وغیرہ جانوروں کی کھالوں کا مسئلہ

(سوال) چیتے وغیرہ سباع جانوروں کے چمڑوں پر بیٹھنے اور سوار ہونے سے جو احادیث کثیرہ

میں ممانعت فرمائی گئی ہے چنانچہ ترمذی شریف میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی

عن جلود السباع ان تفتش انتھی اور ابوداؤد میں ہے نہی رسول اللہ صلی اللہ

(۱) علیہ وسلم عن میاثر النمر و نہی عن جلود السباع. (۲) ان احادیث کا مطلب

کیا ہے کیونکہ بالعموم عوام و خواص اس کو مصلی بنانے میں و دیگر ضروریات بستر فرش وغیرہ میں

استعمال کرتے ہیں بالخصوص اہل علم و فضل اور کوئی کراہت تک بھی نہیں خیال کرتا لہذا وجہ عدم

کراہت در صورت جواز استعمال کیا ہے۔

(جواب) استعمال غیر مدبوغ جلد سباع کا تو حرام ہے اور بعدد باغت کے استعمال اس کا مکروہ

تزیہی ہے بوجہ عادت متکبرین کے اور اثرید جانور کے اور استعمال ان کا جائز ہے حرام نہیں اگرچہ

ترک اولیٰ ہے واللہ اعلم۔

چھلی کا شکار کرنے کے لئے گھینسے کو کام میں لانا

(سوال) ایک کیڑے کو جس کا نام گھینسا ہے اس کو توڑ توڑ کر اور کاٹنے میں لگا کر شکار مانی کا

کرتے ہیں پس ایسا شکار کرنا اور چھلی کا کھانا کیسا ہے۔

(جواب) اول اس کو مار کر پھر کلڑے کر کے کاٹنے میں لگانا درست ہے اور زندہ کو لگانا منع ہے کہ

(۱) نبی ﷺ نے درندوں کی کھالوں کو بچھانے سے منع فرمایا ہے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے چیتوں کی کھالوں اور درندے جانور کی کھالوں سے منع فرمایا ہے۔



اذیت ذی روح کی مکروہ تحریمہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

کھیتی کی حفاظت کے لئے کتا پالنا

(سوال) کتا کھیتی کی حفاظت کے لئے پالنا چاہئے یا مطلق حفاظت کے لئے۔

(جواب) مطلق حفاظت کے لئے کتا پالنا جائز ہے خواہ جان ہو یا مال فقط۔

دوا میں بحری جانور کا استعمال کرنا

(سوال) بقول اطباء حیوان بحری کا کھانے کی دوا میں استعمال جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) استعمال اس کا جائز ہے اور وہ پاک ہے اگرچہ وہ غیر مانی ہو کہ دیگر ائمہ کے نزدیک

وہ جائز ہے اور ضرورتاً احناف کے نزدیک بھی جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

قاضی کو عیدین میں ہاتھی پر سوار کرنا

(سوال) قاضی کو ہاتھی پر سوار ہو کر بروز عیدین نماز کو جانا برائے ترک دین متین خصوصاً ریاست

مذکورہ میں جائز ہے یا نہیں مکروہ تحریمی یا تنزیہی حرام ہے یا غیر حرام فقط۔

(جواب) قاضی اگر فیل پر سوار ہو کر جاوے درست ہے کہ سواری فیل کی جائز ہے مباح امر

سے شوکت حاصل کرنا جائز ہے بشرط عدم غلط کسی محذور شرعی کے۔

بیل کو خصی کرنا

(سوال) بیل کو بدھیا کرنا یعنی نر سے مادہ کرنا کیسا ہے۔

(جواب) بیل کو بدھیا کرنا بسبب ضرورت کے جائز ہے کہ بدون بدھیا کے کام نہیں دیتا۔

نچر پیدا کرنے کا طریقہ استعمال کرنا

(سوال) بعض آدمی گھوڑی کو گدھے سے باردار کراتے ہیں اس سے جو بچہ ہوتا ہے اس کو نچر

کہتے ہیں یہ فعل اس طرح پر کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس بچہ کا جو اس طرح پیدا ہوا ہے فروخت کرنا

جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) گھوڑی پر گدھے کا ڈولوانا درست ہے اور اس کا فروخت کرنا بھی درست ہے۔

## گھوڑوں کو خصی کرنا

(سوال) گھوڑوں کا آختہ کرنا یعنی بدھیا کرنا باعث کرنے شوخی کے جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) گھوڑے اور بکرے وغیرہ کو آختہ کرنا درست ہے۔

## جوں کو گرم پانی یا دھوپ میں مارنا

(سوال) جوں کا مارنا گرم پانی میں یا دھوپ میں جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) جوں کا مارنا گرم پانی میں یا دھوپ میں جائز ہے کچھ حرج نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## حلال کو اکھانا

(سوال) جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کو اکھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب۔  
(جواب) ثواب ہوگا۔

## بھڑوں کا جلانا

(سوال) بھڑوں کا جلانا منع ہے مگر بعض جگہ کہ جہاں بکثرت آدمی آتے جاتے ہیں اور یہ کاٹی ہیں اور بغیر جلانے کسی تدبیر سے دور نہ ہوں تو ایسے موقع پر جلانا جائز ہے یا نہیں۔  
(جواب) اور تدبیر نہ ہو تو جلانا درست ہے۔

## ملفوظات

## بھاگلپوری کپڑے

(۱) بھاگلپوری کپڑے ریشمی ہیں ان کا حکم ریشمی کا ہے مگر یہ موٹا ریشم ہے اور معروف ریشم ریشم کی عمدہ قسم ہے پس اگر تانا بانا دونوں ریشم کے یا بندہ کے ہوں خواہ صرف بانا ریشم کا ہو تو دونوں صورتوں میں نادرست ہے اور اگر دونوں ریشمی نہ ہوں بلکہ صرف تانا ریشمی ہو تو درست ہے جیسا ریشم کا بھی یہی حکم ہے حاصل یہ کہ بندہ ریشم ہے چھال نہیں ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ذوق و شوق پیدا ہونے کا وظیفہ اور جس شئی کی  
ماں باپ کی طرف سے صراحت ہو

(۲) مجھے کوئی وظیفہ ایسا معلوم نہیں کہ جس سے ذوق و شوق پیدا ہو ہاں دنیا سے بے رغبتی اور  
اللہ کی طرف توجہ کرنا اس کے لئے مفید ہے جس شے کی ماں باپ کی طرف سے بہ صراحت یا  
بدالات اجازت ہو اس کا لینا مضا تقہ نہیں ہے اور بلا عرضی ان کے مال میں تصرف درست نہیں۔

جو ظروف و سب زین و مرد کو حرام ہیں ان کا بنانا

(۳) ایسے ظروف جن کا استعمال سب زین و مرد کو حرام ہے بنانے نہیں چاہیں کہ بلا آخر  
سب مصیب ہو جاتا ہے اور جو انگوٹھی زن و مرد دونوں پہنتے ہیں وہ بیچنا اور بنانا درست ہے اور جو  
مردوں کو درست ہے یا عورتوں کو درست ہے اس کا بنانا اور بیچنا بھی درست ہے۔

سیاہ خضاب مرد کے لئے اور عورتوں کو نماز میں

پشت پا اور پشت دست کا ڈھکنا

(۴) سیاہ خضاب مرد کو درست نہیں ہے کسی وجہ سے بھی اور عورتوں کو نماز میں پشت پا کا  
ڈھکنا اور پشت دست کا ڈھکنا فرض نہیں فقط والسلام۔

فقراء کو غلہ تقسیم کرنا

(۵) فقراء کو غلہ تقسیم کرنا درست ہے مگر پابندی رسم و رواج اور نام و نمود کا خیال کرنا گناہ

(۱) فتاویٰ اربعین مولانا محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی مسئلہ ۲۹ جو چیز کا از تقسیم نقد و غلہ اور کچی ہوئی ہو جنازہ کے ہمراہ میت  
کے بعد فقراء کو تقسیم کرنے کے لئے جانا جائز ہے یا نہیں۔ جواب۔ نقد اور غلہ کا تقسیم کرنا جو کچھ میت کے بعد اس کے  
ترکہ سے ثواب کے لئے جائز ہے بشرطیکہ اس کے وارث بڑے ہوں راضی ہوں اس کے دینے سے اور اگر ورثہ میت  
چھوٹے ہوں تو بغیر تقسیم ترکہ کے میراث جائز نہیں اور چیزوں کا جنازہ کے ساتھ لے جانا جہالت کی رسم ہے شرع سے  
ثابت نہیں جس چیز کی نظیر اصل شریعت میں نہ پائی جائے اس کا کرنا مکروہ ہے یا حرام لیکن فقیروں اور مسکینوں کو میت کے  
ثواب کے لئے جنازہ کے ساتھ لے گئے بغیر میراث کرنا جائز ہے اس لئے کہ جو چیز میت کے ثواب کے لئے لے لی جاتی ہے اس کو  
دیں مستحب یہ ہے کہ بغیر ریا اور بغیر تعین وقت اوروں کے ہو ورنہ بدعت ہو جاتا ہے اس صورت میں ان کا دینا کراہت  
سے خالی نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راست کی طرف ہدایت کرتا ہے فقط ملاحظہ فرمائیے۔  
اور حاشیہ مرقا الفلاح میں لکھا ہے کہ ابن الحاج نے مدخل کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہے ایسے ہی مقبرہ میں غلہ لے جانا بھی نادرست ہے ہاں تقسیم کر دینا البتہ ثواب ہے جب کہ اس میں کوئی شائبہ پابندی رسم و رواج اور نام و نمود کا نہ ہو پس بقدر دے دینا بہتر ہے۔

سارے سر پر بال ہوں اور مرض ہو تو ان کا منڈوانا۔

مسلمان کا ذبیحہ اگر تحقیق ہو تو اس کا کھانا اور داڑھی کتنی کٹوائے۔

(۶) سارے سر پر باز ہوں اور مرض ہو تو سارے منڈوا ڈالے بعض کا حلق کرنا ناجائز ہے اور کتر وانا اگر ایسا ہو کہ پت کرادیوے تو حلق کے حکم میں نہیں اور جو جڑ سے کتر وادے تو حلق کے حکم میں ہے فقط۔ اگر تحقیق معلوم ہو کہ مسلمان نے ذبح کیا تھا تو کھانا درست ہے اور جو کافر کے قول سے یہ امر دریافت ہوا تو درست نہیں پس دونوں مسئلہ کا جواب اس سے حاصل ہو گیا فقط ٹھوڑی کے نیچے سے اعتبار ہووے گا اور ہر چار طرف سے بھی چار انگشت سے کم کونہ کاٹنے فقط دلیل اس کی اغفوا کی۔ (ترجمہ) بڑھاؤ داڑھیوں کو اٹخ۔ پس زائد چار انگشت کو لینا بھی درست جو ہو دوسری روایت سے ہو اور نہ اس میں تو مطلقاً اعفاء کا حکم ہے فقط اور مجوس کی اور مخنثوں کی مخالفت بھی ضروری ہے فقط والسلام۔

حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں رہنا۔ اور کافر کا غائبانہ گوشت

جو بچے اس کا لینا۔

(۷) پیر جو محمد بخش صاحب کو بیعت میں قبول کرتا ہوں مگر مناسب ہو تو تم تو یہ کرادینا اور شغل نفی اثبات چندے کر کر جب اشہر آ جاوے پاس انفاست تلقین کرادینا اور دیگر اور صبح شام کے بتلا دینا جیسا احادیث میں آیا ہے اور آپ کو مولوی صاحب مرحوم نے بتایا ہوگا فقط جو مکان حرام مال سے بنا اس میں رہنا مکروہ ہے اگرچہ بیجا ہو مگر جو کچھ مقرر نہ ہونا چاہی ہے کافر جو غائبانہ

(باقیہ حاشیہ) جنازہ کے سامنے روٹی اور بکری کے بچے رکھے جاتے ہیں اور اس کا نام ”قبر کی معافی رکھتے ہیں“ جب قبر کے پاس بھیجتے ہیں تو دفن کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کو جڑو کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں اور سی کے مثل مناوی نے اربعین کی شرح میں اس حدیث کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔ ہر ما کا مطلب یہ ہے کہ ”جس نے ہمارے اس معاملہ میں کوئی ایسی نئی چیز پیدا کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ رد اور اس کا نام کفارہ رکھتے ہیں اور یہ بہت بڑی بدعت ہے ابن امیر حاج نے کہا ہے کہ اگر اس کو گھر میں خفیہ تقسیم کر دیں تو عمل صالح ہوتا اور اگر وہ بدعت سے بچ جاتا یعنی یہ کہ لوگ اس کو سنت یا عادت بنا لیں اس لئے کہ وہ ان لوگوں کے افعال سے نہیں ہے جو گزر چکے ہیں اور پوری بھلائی ان کی اتباع میں ہے یعنی شرع ہدایہ اور رخصت شرح و رخصت میں اسی طرح ہے۔

گوشت بیع کرتا ہے اس سے نہ لینا چاہئے مرد ارملاد یوے فقط والسلام۔  
عورتوں کو ہر قسم کی چوڑیاں پہننا اور عدت میں عورتوں کو زینت کا ترک کرنا اور  
جس کی آمدنی نو روپیہ حلال ہو دس روپیہ حرام یا برعکس یا مساوی اس کا ہدیہ یا  
ضیافت قبول کرنا۔

(۸) عورتوں کو چوڑیاں ہر قسم کی پہننا درست ہے خواہ کچھ کی ہوں خواہ سونے چاندی نو ہے  
تانبے پیتل کی ہوں جو شے زینت کی ہے خواہ لباس ہو یا زیور وہ عورتوں کو حالت عدت میں  
نا درست ہے اس لئے بوقت عدت چوڑیاں وغیرہ پھوڑ دی جاتی ہیں بعد عدت اگر کوئی عورت  
پہنے تو مضائقہ نہیں جس کی آمدنی نو روپیہ حلال ہو دس روپیہ حرام خواہ برعکس یا دونوں مساوی  
ہوں اس کا ہدیہ وغیرہ دعوت ضیافت سب نا درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

لوہے اور پیتل کی انگوٹھی مرد و عورت دونوں کے لئے۔

(۹) لوہے اور پیتل کی انگوٹھی میں مرد و عورت یکساں ہیں اور کراہت ان کے پہننے کی تزیینی  
ہے نہ تحریمی کہ مسئلہ مجتہد فیہا ہے اور شافعی صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مردوں کو بھی درست ہے  
فقط۔

پیرنا محرم اور عورت بہت بڑھیا نہ ہو تو اس کو پیر کے سامنے آنا ہاتھ سے مس کرنا  
(۱۰) اگر پیرنا محرم اور عورت بہت بڑھیا نہ ہو تو اس کو پیر کے سامنے آنا اور اس کے ہاتھ  
سے ہاتھ مس کرنا اور کسی جزو بدن کو ہاتھ لگانا ہرگز درست نہیں ہے البتہ زبان سے بیعت ہو جانا  
اور پس پردہ اور اشخاص کی موجودگی میں زبانی بات چیت کر لینا درست ہے خلوت لاجبیہ کے  
ساتھ حرام ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہمزاد سے بات کرنا

(۱۱) اگر ہمزاد سے اس طرح کہنا مفید ہوتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

تہقہہ اور ضحک کافرق

(۱۲) جس ہنسی میں آواز نہیں نکلے اگرچہ بدن کا لرزہ اچھی طرح محسوس ہوا ہو وہ تہقہہ نہیں

ہے نہ ضحک ہے۔

ناخن کاٹنے کے کٹوائے۔ چوہڑے چمار کے گھر کی روٹی۔

(۱۳) ناخن آپ کاٹنے یا دوسرے سے کٹوالے دونوں حال سنت ادا ہوگی۔ چوہڑے چمار کے گھر کی روٹی میں حرج نہیں ہے اگر پاک ہو فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

خچر بنانا۔ خصی کرانا۔

(۱۴) خچر بنانا حنفیہ کے نزدیک بکراہت تزیہ درست ہے تجارت کرے خواہ خود رکھے کذا فی کتب الفقہ (۱) واللہ تعالیٰ اعلم خصی کرنا سب بہائم کا نفع کے واسطے یا دفع سرز کے واسطے درست ہے سوائے آدمی کے کہ حرام ہے اور گھوڑے میں خلاف ہے راجح یہ ہے کہ دفع ضرر ناس کے واسطے جائز ہے ورنہ ناجائز کذا فی کتب الفقہ واللہ تعالیٰ اعلم۔

جس گھڑی کا چاندی سونے کا کیس ہو یا چاندی سونا اس پر غالب ہو اس کا استعمال۔

(۱۵) جس گھڑی کا کیس چاندی کا ہو یا سونے کا ہو یا چاندی سونا اس میں غالب ہو اس گھڑی کا استعمال چلانا کو کتنا اس میں ساعت کا دیکھنا منع ہے اگر ہاتھ نہ لگاوے جیسے آئینہ چاندی سے منہ دیکھنا چاندی کی دوات میں سے قلم سے سیاہی لے کر لکھنا اور جو جیب میں رکھے اور پھر چلاؤ نہیں کچھ حرج نہیں جیسا روپیہ جیب میں رکھنا درست ہے فقط ان دو نظیر سے آپ کو معلوم ہو جاوے گا کہ ظرف ساعت سے مراد اس کے کیس ہیں اور جو گھڑی کے اوپر کا خانہ چاندی کا ہو اس کا بھی یہ حکم ہے فقط والسلام۔

کتاب: وراثت کے مسائل

پوتوں کا حصہ

(سوال) ایک عورت فوت ہوئی ایک بھتیجا یعنی بھائی کا بیٹا اور چار پوتے اس نے چھوڑے ترکہ کس کو پہنچے گا۔

(جواب) سب ترکہ چاروں پوتوں کو ملے گا اور برادر زادہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

وصیت کے مسائل

(سوال) پہلے ایک امر ضروری لکھنا ضرور ہے بعد اس کے جواب دفعات مسائل کا دیا جاوے گا

(۱) کتب فقہ میں اسی طرح ہے۔

اگرچہ سوال میں اور بھی امور قابل استفسار ہیں مگر چونکہ مسائل نے اسی قدر کو دریافت کیا ہے لہذا طویل مناسب نہیں زید نے وقت موت عمر اپنے پسر کلاں کو وصی ترکہ اور اپنی اولاد صغار و دیگر ورثہ پر بنایا ہے چنانچہ عبارت سوال سے ظاہر ہے کہ تربیت اولاد کی اور خدمت گزاری ازواج کی اور محافظت اموال کی سپرد عمر و کے کی ہے۔ انت وصیی او سلمت الیک الا ولا بعد موتی او تعهد اولادی بعد موتی او ماجری مجری هذه الا لفاظ یکون وصیا انتھی۔ (۱) رختار عقارات کے باب میں اگرچہ کچھ نہیں کہا مگر جب ایک امر کا وصی بنایا تو سب امور کا وصی ہو جاتا ہے۔ ولو جعل رجلا وصیافی نوع صار وصیافی الانواع کلھا انتھی (۲) رد مختار میں عمرو وصی اپنے پسر کامکانات و جاگیر میں اور اموال منقولہ میں اور اولاد و دیگر ورثہ کے باب میں ہو گیا سوا ب تصرف عمر و کا سب امور میں اپنے حصہ میں مالکانہ ہوگا اور حصص دیگر ورثہ زید میں وصی ہونے کی وجہ سے چنانچہ ظاہر ہے پس بعد اس کے جواب دفعات مسائل کا یہ سچ (دفعہ نمبر ۱) جو اراضیات عمر و نے اپنے تعویذ گندہ اور مریدین اور غیر مریدین سے اور فروخت زیورات اہلیہ اپنے سے خریدیں یا رہن کرائی ہے اور جو اس کو بطریق ہبہ مرید یا غیر مرید سے اور جو موسیقی اور پارچہ وغیرہ بطور شراہ یا ہبہ اس کو پیدا ہوئی ہیں باقی ورثہ بھی اس میں شریک ہیں یا نہیں۔

(جواب) جو کچھ عمر و کو خاص اس کے مریدین نے دیا اس نے اپنے زیور یا مال خاص سے خرید کیا یا مریدان پدر نے بالخصوص عمر و کو ہی دیا عقارات یا روپیہ یا ادواب یا کوئی شے وہ سب خاص ملک عمر و کی ہے اس میں کسی وارث زید کا کچھ دخل نہیں من اعطی شیئاً فھو لہ (۱) پس وہ خاص عمر و کی ہے۔

(دفعہ نمبر ۲) حویلی پختہ کلاں دوبارہ تعمیر شدہ جس طرح زید نے ہر ایک وارث کو دی ہوئی تھی چنانچہ والدہ خالد نے کہا کہ ہمارا حصہ تعمیر نہ کر اؤ اسی طرح پر رہنے دو۔ آیا یہ اسی طرح پر منقسم رہے گی یا اور دوسری تقسیم جاری ہوگی۔

(جواب) حویلی پختہ جس کو زید نے تعمیر کیا تھا اور سب ورثہ اس میں رہتے تھے وہ بظاہر ملک سب ورثہ میں ہے اور میراث میں داخل ہے کیونکہ مسکن زید کے ذمہ پر ازواج اور اولاد صغار کا

(۱) تو میرا وصی ہے یا یہ میں نے اولاد کو اپنی موت کے بعد تیرے حوالہ کیا یا میرا ہوت کے بعد میری اولاد کی نگرانی کریا ایسے الفاظ کہے جو ان الفاظ کے قائم مقام ہیں تو وصی ہو جائے گا۔  
(۲) اور اگر اس نے کسی شخص کو ایک قسم میں وصی بنایا تو تمام اقسام میں وصی ہوگا۔  
(۳) جس کو کوئی چیز دی جائے وہ اسی کی ہوگی۔

واجب تھا جس مکان میں جس کا چاہا رکھا اس سکنی سے ہبہ ثابت نہیں ہو سکتا جب تک الفاظ ہبہ کے ثابت نہ ہوں یا قرآن والذی پر ہبہ ثابت نہ ہوں معہذا مشاع کا ہبہ موجب ملک نہیں ہوتا سو حویلی مذکور بہ سبب مشاع ہونے کے اس کے درجات مشترکہ ملک موہوب لہم کے نہیں ہو سکتی۔ شرائط صحتہا فی الموہوب ان یکون مقبوضا غیر مشاع ممیزا غیر مشغول ورکنہا الا یجاب والقول انتہی (۱) درمختار اور عبارت سوال سے کوئی صورت ہبہ حویلی کی ثابت نہیں ہوتی لہذا میراث کی طرح مجملہ میراث تقسیم ہووے گی اور والدہ خالدہ کا یہ کہنا کہ ہمارا حصہ تعمیر مت کرو مفید تقسیم اور ہبہ کا نہیں ہو سکتا فرض کرو کہ وہ اپنے ذہن میں ملک ہی جان رہی تھی مگر شرعا اس کی ملک جب ہووے گی ثبوت ہبہ غیر مشاع مفرغ کا ہو جاوے لہذا میراث ہی رہے گی باقی تعمیر کرنا عمرو صی کا سوا اگر عمر و نے ترکہ کی آمدنی سے تعمیر کیا ہے تو کچھ کلام ہی نہیں اور جو اپنے ہال خاص سے تعمیر کیا ہے تو رجوع ورشہ پر کرے گا اگر نیت رجوع ورشہ کی تھی۔ انفق الوصی من مال نفسه علی الصبی وللصبی مال غائب فهو متطوع فی

الانفاق استحسانا الا ان یشہد انہ یرجع علیہ لان قول الوصی لا یقبل فی

الرجوع فی شہد لذلك وفي العناویقویکیفیہ النیة فیما بینہ وبين اللہ تعالیٰ انتہی اشہاد (۲) کی ضرورت قضاء ہے مفتی کو یہی کافی ہے کہ نیت رجوع ہووے تو صورت سوال سے بھی نیت رجوع حصہ ورشہ میں معلوم ہوتی ہیں لہذا رجوع عمرو کا تعمیر کے خرچ میں ورشہ پر درست ہوگا اور مکان میراث کی طرح تقسیم ہوگا۔

(دفعہ نمبر ۳) حویلی خورد متصل حویلی کلاں اور دیگر مکانات جو عمر و نے زمین مشترکہ میں تیار کرائے ہیں ان کی تقسیم کس طرح کی جاوے گی۔

(جواب) علیٰ بذہ حویلی خورد عمر نے مشترکہ میں بنائی وہ سب ورشہ کی ہے میراث اس میں جاری ہووے گی اور جواب ز تعمیر کا اوپر کی دفعہ سے واضح ہے: ا کہ اگر ترکہ سے دیا ہے تو کچھ رجوع نہیں اور جو عمر و کا مال خالص خرچ ہوا بشرط نیت رجوع کی رجوع ورشہ حصہ ورشہ میں کرے گا۔

(دفعہ نمبر ۴) خدمت مریدین اولاد پیر کو جو سجادہ نشین ہو یا غیر اس کا یا آمدنی تعویذ گندہ یا دیگر

(۱) موہوب میں اس کی صحت کے شرائط یہ ہیں کہ مقبوض ہوں غیر مشترکہ ہو، ممیز ہو اور مشغول نہ ہو اور اس کارکن ایجاب و قبول ہے۔

(۲) اگر کسی نے لڑے پر اپنا ذاتی مال خرچ کیا اور لڑکے کا مال غائب سے تو وہ وصی کا خرچ کرنا احتسابا خیرات ہوگا الا اینکه وہ اس بات پر گواہ کرے کہ وہ اس مال پر رجوع کرے گا کیونکہ وصی کا قول رجوع کے بارے میں قبول نہیں کیا جائے گا تو اس کے لئے وہ گواہ کرنے اور غنایہ میں ہے کہ اس کے لئے وہ نیت کافی ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہوگی۔



اشخاص جس کی کریں اسی کی ہوتی ہے یا دوسری اولاد کو بھی اس میں اشتراک ہے۔

(جواب) مریدان پیر جو خدمت سجادہ نشین کی کرتے ہیں اس میں نیت خدمت کرنے والوں کی دیکھنی چاہئے کہ کیا ہے اگر سب ورثہ کی نیت ہے تو سب ورثہ حصہ برابر مالک ہوویں گے میراث کے سہام اس میں نہ ہوویں گے۔ کیونکہ یہ میراث نہیں بلکہ ہمہ مشترکہ ہے اور جو حفظ سجادہ نشین کو خاص کر دیا ہے تو وہ ہی مالک ہے اور اگر نیت کی تحقیق نہیں ہو سکتی تو عرف کا اعتبار ہووے گا۔ وضعوا ہدیاء الختان بین یدی الصبی فما یصلح للصبی کالثیاب فالہدیۃ لہ والافان کان المہادی من اقرباء الاب او معارفہ فللاب او من معارف الام فلام قال هذا للصبی اولو لوقال اہدیت للاب اوللام فالقولہ انتہی۔ (۱) در مختار اس سے صاف معلوم ہوا کہ اول اعتبار نیت کا جو معلوم ہو جاوے گا ورنہ عرف و قرینہ ظاہر پر مدار ہے سو مریدین پر اولاد پیر کی بظاہر سب کی ہی خدمت چاہئے۔ مگر چونکہ سجادہ نشین وحی اور سب کا کار گزار ہے اس کو ہی دیتے ہیں۔

(دفعہ نمبر ۵) خدمت مریدین اولاد پیر کو یا آمدنی تعویذ گنڈہ اور دیگر اشخاص جو خدمت سجادہ نشین کرتے ہیں شرع شریف اس کو کیا مقرر کرتی ہے۔

(جواب) خدمت مریدین اولاد پیر کو شرع ہمہ کا حکم دیتی ہے اور اجرت تعویذ گنڈہ کی اجرت کے حکم میں ہے پس اجرت خاص اس شخص کو ہووے گی جو تعویذ لکھتا ہے اور نذرانہ کی شرح اوپر کے سوال سے واضح ہوئی کہ نیت دینے والوں کی دیکھو ورنہ عرف پر رہے گا اور عرف میں سب اولاد پیر کی خدمت کرنا منظور ہوتا ہے اگرچہ پیش کش سجادہ نشین کے کیا جاتا ہے اور جو اس ملک کا دوسرا عرف ہو تو ویسا حکم ہووے گا المعروف کالمشروط (۱) قاعدہ مقرر شرع کا ہے۔

(دفعہ نمبر ۶) جو کچھ جائیداد مثل زیورات اور پارچات اور برتن مسی اور مال مویشی جس وارث کے پاس بطور قبضہ حین حیات زید میں تھا اسی کا ہوگا جس کا قبضہ تھا یا تقسیم ہونا چاہئے

(جواب) جو کچھ زیور پارچہ وغیرہ اشیاء منقولہ کسی وارث کے پاس زید کی وقت کی مقبوض ہے وہ اس قابض کی ہی ملوکہ ہووے گی کیونکہ ایسی اشیاء عرف میں ملک کر کے دیتے ہیں نہ عاریت معہذ الفاظ زید کی بھی دلیل صریح ملک پر ہیں چنانچہ سوال مذکور میں ہے کہ زید نے کہا کہ ہر ایک وارث کا حصہ ادا کر کے راضی کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زید نے یہ اشیاء بطور ملک ہی

(۱) نختہ کے ہدیے جو بیچے کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو جو بیچے کے لائق ہیں جیسے پکڑے تو یہ تو اسی کے لئے نختہ ہو اور نہ اگر ہدیے والا باپ کے اقرباء یا اس کے دوستوں میں سے ہے تو ہدیے باپ کے ہوئے اور اگر ماں کے جاننے والوں کے ہوئے تو ماں کے ہوئے خواہ اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو کہ یہ بیچے کے لئے ہے اور اگر کہا کہ یہ ہدیے باپ کے لئے ہے یا ماں کے لئے ہے تو اسی کا قول معتبر ہوگا۔ (۲) معروف چیز مشروط کے مثل ہے۔

دیا تھا۔ اتخذ لو لدہ ثیا بار ادد فعھا لغیرہ لیس له ذلک مالم یلق وقت اتخاذا انها عاریة در مختار وفي رد المحتار ای لو لدہ الصغیر واما الکبیر فلا بد من التسليم (۱) پس بعد قبض کبیر کے اور نیت صغیر کے وہ اشیاء ملک موہوب لہ کی ہوگی اب اس میں میراث نہیں ہو سکتی اور نہ میراث میں محسوب ہو سکے اگرچہ زید کی یہ مراد ہو کہ ہر ایک کا حصہ دے دیا ہے باقی سب عمرو کا ہووے گا کیونکہ ترکہ مال باقی کو کہتے ہیں۔ کما قال التركة ما ترکہ المیت من الاموال صافیا عن تعلق حق الغیر بعین من لاموال اور ترکہ میں حصص سب ورثہ میں جاری ہوویں گے تخصیص کسی کی لغو ہے غیر معتبر شرعاً پس جو منقول متاع کسی وارث کی مقبوض ہے وہ خاص اس کی ہی ہے اس میں میراث کا کچھ دخل نہیں۔

(دفعہ نمبر ۷) کتب خانہ جو کچھ عمر و کا بعد انتقال زید کے خرید کیا ہوا ہے اور کچھ زید کے وقت کا ہے اور خراس جو واسطے آٹا پیسے مسافر خانہ اور خانگی کے زید کے وقت سے ہے اور حمام کہ وہ بھی زید کے وقت کا ہے تقسیم ہونا چاہئے یا نہیں اگر ہو تو کتا ہیں جو عمر و نے اور بعد انتقال زید کے خرید کری ہیں تقسیم سے علاوہ ہوں گی یا نہیں۔

(جواب) خراس اور حمام اور کتب متروکہ زید مجملہ میراث ہیں تقسیم ہوویں گی التركة ما ترکہ المیت الخ (۲) پس یہ بھی داخل ترکہ ہوویں گی اور جو کتب عمرو نے اپنے خاص مال سے خرید کیں وہ خالص ملک عمرو کی ہیں اور جو مال ترکہ سے خریدیں وہ داخل ترکہ ہوویں گی۔ کما هو ظاهر۔

(دفعہ نمبر ۸) جو باغ اور اشجار مشرور غیر مشرور نصب کردہ عمرو زین مشترکہ میں ہیں ان کی تقسیم کس طرح ہونی چاہئے۔

(جواب) اشجار نصب کردہ عمرو زین مشترکہ میں بھی مشترکہ سب ورثہ کے ہیں کیونکہ عمرو نے اپنے حصہ میں مالک ہو کر تصرف کیا اور دیگر ورثہ کے حصص میں وصی ہو کر اور تصرف نافع وصی کا سب کی طرف سے ہوتا ہے جیسا حویلی کے جواب میں گزراہاں خرچ باغ کا اگر اپنے مال سے کیا ہے تو رجوع کر سکتا ہے بشرط نیت رجوع کے چنانچہ اوپر واضح لکھا گیا پس بطور میراث تقسیم ہوویں گے۔

(دفعہ نمبر ۹) معافیات جو منجانب سرکار معاف ہیں واسطے مصارف فقراء کے متعلق مکان کے ذمی

(۱) اپنے لڑکے کے لئے کپڑا بنا پھروہ اور کسی کو دینا چاہا تو اس کو اس کا حق نہیں۔

(۲) جیسا کہ کہا ترکہ وہ ہے جس کو میت نے ان مالوں سے چھوڑا ہو جو غیر کے حق سے عین مال کا تعلق نہ ہے۔

(۳) ترکہ وہ ہے جس کو میت نے چھوڑ دیا ہو۔

چاہئے یا تقسیم ہونی چاہئے۔

(جواب) جو معافی صرف فقراء کے واسطے بنام مکان وقف ہے اس میں میراث جاری نہ ہووے گی۔ فاذا تم ولزم الوقف لا یملک ولا یملک ولا یرهن ولا یقسم انتھی

در مختار. (۱)

(دفعہ نمبر ۱۰) جو زمین زید کو ہبہ ہوئی اور کاغذات اس کے عمر و نے مرتب کرا دیئے ہیں اور بعض جگہ قبضہ بھی اسی نے کیا اس کی کس طرح تقسیم ہونی چاہئے۔

(جواب) جو زمین زید کو ہبہ ہوئی اور کاغذات اس کے عمر و نے مرتب کرا دیئے زید کی حیات میں کاغذ مرتب نہ ہوئے تھے اور جو زمین کہ قبض زید بھی نہیں ہوا تھا عمر و نے ہی قبضہ لیا ہے یہ سب اراضی میراث میں داخل ہو کر تقسیم ہوویں گی اس واسطے کہ تمامی ہبہ کی ایجاب قبول اور قبض تام پر ہے تحریر وثیقہ پر کچھ موقوف نہیں وثیقہ یادداشت اور انکار کے رفع کردینے کے واسطے ہوتا ہے اور

بس قال فی الدر: لمختار: تصح الهبة بايجاب وقبول وقبض انتھی' ملخصاً (۲) پس اول قسم میں تو عمر و نے وثیقہ ہی بنوایا ہے اور وہی کا یہ کام ہی ہے کہ تعادیر کر کے میت کی کرے کما مر اور قبض کرنے کی قسم میں اس واسطے کہ جو شے زید کو ہبہ ہوئی تھی اور بدون قبض زید کے ہبہ تمام رہا تھا تو اب ظاہر او اہب نے اس ہی نیت سے ہبہ کیا ہے کہ عمر و جانشین زید کا ہے گویا ورثہ زید کو ہبہ کیا ہے خصوصاً عمر و کو ہبہ نہیں ہوا جیسا او پر مذکور ہو چکا مگر ہاں اگر صراحتہً واہب نے یہ ہبہ خاص عمر و کو کیا ہو تو اس وقت بشرط ثبوت اس امر کی ملک خاص عمر و کا قرار دیا جائے گا ورنہ عمر و نائب زید کا ہے جو اس کو واہب نے قبض کرایا یہ سابق کی نیت سے ہی قبض کرایا چنانچہ معروف ہے اگرچہ شرعاً یہ سابق نا تمام ہو کر لغو ہو گیا تھا اور یہ سب حالات معافی وقف اور معافی بنام زید اور ہبات کے کاغذات سے دریافت ہو سکتے ہیں۔

(دفعہ نمبر ۱۱) برتن دیوان خانہ مسافرین کے تقسیم ہوں یا نہیں۔

(جواب) ظروف دیوان خانہ جو مسافرین کے کام میں آتے تھے ان کی تقسیم ہوگی۔

(دفعہ نمبر ۱۲) حویلی خام جو زید نے مسافروں اور درویشوں کے لئے بنا کرائی تھی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں۔

(جواب) خام حویلی جس میں مسافر قیام کرتے تھے وہ سب ملک زید کی تھی اب ان کی تقسیم کی

(۱) پس جب پورا ہو جائے اور وقف لازم ہو جائے تو نہ کوئی اس کا مالک ہو سکتا ہے اور نہ وہ چیز کسی کی ملک ہو سکتی ہے اور نہ عاریت دی جاسکتی ہے نہ رهن ہو سکتی ہے اور نہ تقسیم ہو سکتی ہے۔

(۲) در مختار میں کہا اور بیہیج ہوتا ہے ایجاب وقبول اور قبضہ سے۔

جاوے گی فقط کسی کے استعمال کے واسطے بنانے سے وقف نہیں ہو سکتا لہذا ترکہ میں داخل و تقسیم ہوگا رکن الوقف الا لفاظ الخاصة کارضی هذه صدقة موقوفة موبدة علی المساکین ونحوه من الا لفاظ انتھی درمختار.

(دفعہ نمبر ۱۳) جو چیز اولاد عمر کو وہیہ ہوئی ہو یا اس نے خرید کر لی ہو اس سے عمر کو یا دیگر ورثاء اولاد زید کو حیات ان کی میں تعلق ہے یا نہیں۔

(جواب) جو شے اولاد عمر کو خصوصاً وہیہ ہوئی یا انہوں نے خریدی اس میں کسی وارث زید کا علاقہ نہیں ہو سکتا کما مر۔

(دفعہ نمبر ۱۴) حسب اقرار و رشو وقت چہلم کہ نہ ہم حصہ لیتے ہیں نہ قرضہ دیتے ہیں ان کو اس جائیداد سے لا دعویٰ ہے یا نہیں اگر دعویٰ کے مستحق ہیں تو مبلغات ادا کردہ عمر و بابت قرضہ ان کو دینے ہوں گے یا نہیں۔ اور قول عمر و کا کہ کل کو اگر میں تنگ دست ہو گیا اور تم مالدار ہو گئے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم قرضہ کاروپہ دو اور خواستگار حصہ کے ہو عدم تحقیق استحقاق دعویٰ ان کی میں مؤثر ہے یا نہیں۔

(جواب) ورثہ کا وقت چہلم کے یہ کہنا کہ نہ ہم حصہ لیوں اور نہ قرضہ دیوں لغو ہے کچھ معتبر نہیں۔ قرضہ دیوں گے اور حصہ لیوں گے۔ کیونکہ یہ انکار اپنے حصہ لینے سے ہے نہ ابراء اور انکار سے ابراء لازم نہیں آتا اور اگر ابراء تصور کیا جاوے تاہم باطل ہے لان الابراء عن الاعیان باطل ہدایہ پس اس انکار سے حصہ ساقط نہ ہووے گا اور حصہ قرضہ موت کا دینا واجب ہووے گا علی ہذا عمر و کا قول موجب عدم استحقاق کا نہیں ہو سکتا حصہ لیوں گے اور قرضہ اپنے حصہ کا دیوں گے فقط واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و حکم۔

### بیوی بھائی لڑکی کے حصے

(سوال) ہمارے دادا صاحب کے پاس کچھ جائیداد مکان اور دوکان تھی اور ان کے امیر علی فرزند علی امداد علی تین لڑکے ہیں اور امداد علی کی ایک لڑکی تھی وہ فرزند علی کے لڑکے سے منسوب تھی اس لڑکی کا انتقال ہو گیا صرف امداد علی کی زوجہ حیات ہیں اور امیر علی کا ایک لڑکا وہ زندہ ہے اور امیر علی اور امداد علی کا انتقال ہو گیا اور فرزند علی زندہ سلامت ہیں اب امیر علی کے لڑکے کو کس قدر حصہ پہنچتا ہے اور امداد علی مرحوم کی زوجہ کو کس قدر پہنچتا ہے اگر مہر معاف کر دیا ہو تو کس قدر اور اگر معاف

(۱) وقف کے الفاظ خاص ہوتے ہیں جیسے میری یہ زمین صدقہ موقوفہ ہے ہمیشہ کے لئے مساکین پر ہے اور اسی قسم کے

نہیں کیا تو کس قدر اور جب سے امداد علی کا انتقال ہو گیا تب سے فرزند علی ان کی زوجہ کا خرچ اٹھاتے ہیں اب معلوم ہونا چاہئے کہ امداد علی کی زوجہ کو کس قدر حصہ ملے گا اور امیر علی مرحوم کے لڑکے کو کس قدر حصہ شرعاً ملنا چاہئے اور فرزند علی کو جو زندہ ہیں کس قدر ملنا چاہئے فقط۔

(جواب) اگر مہر زوجہ امداد علی کا معاف ہو چکا ہے اور امداد علی سے پہلے امیر علی کا انتقال ہو چکا تھا تو امداد علی کے ترکہ میں آٹھ حصہ کریں گے بعدہ اس میں سے ایک حصہ زوجہ کو اور سات ۷ حصے میں سے برادر کو تین سہام اور چار سہام دختر کو ملیں گے اور اگر دونوں بھائی امداد علی کی موت کے وقت زندہ تھے تو کل ترکہ سولہ ۱۶ سہام پر تقسیم ہو کر دو سہام زوجہ کے اور آٹھ دختر کے اور تین تین دونوں بھائیوں کو ملیں گے اور اگر مہر زوجہ نے منافع نہیں کیا تو اول ترکہ امداد علی سے اس کا مہر دیا جاویگا، بعد ازاں جو کچھ باقی رہے اس میں سے تقسیم ہوگی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

لا ولد میت کا وارث

(سوال) ایک متوفی شخص محض لا ولد نے صرف چھوٹا بھائی اور اسی بھائی کا بیٹا چھوڑا ترکہ کس قدر پر تقسیم ہوگا۔

(جواب) چھوٹا بھائی وارث ہوگا فقط۔

ملفوظ

ترکہ کی تقسیم

ملفوظ

ماں، بیوی، بھائی، بہن، بیٹی  
باب، زریبہ، اخوات، دختر، پسر  
 $\frac{4}{23}$   $\frac{2}{14}$   $\frac{3}{15}$   $\frac{3}{2}$   $\frac{1}{23}$   $\frac{1}{23}$   $\frac{2}{9}$   $\frac{3}{11}$

شرعاً صورت مندرجہ مسئلہ اولیٰ میں ترکہ متوفی بعد تقدیم ماحقہ التقسیم ازادائے دیون و تنفیذ وصایا بشرط حصر و رشہ وغیرہ کے بہتر سہام پر اور ترکہ متوفی مسئلہ دوم میں ایک سو بیس سہام پر منقسم ہو کر اس میں سے یہ تفصیل مندرج حصص نوشتہ آسامی دیئے جاویں گے یعنی ۱۲ سہام ماں کو اور ۹ بیوی کو اور دو بھائی اور ایک بہن کو اور ۲۳-۲۳ سہام ہر دو دختر ان کو مسئلہ اولیٰ میں دیئے

جاویں کے اور مسئلہ ثانیہ میں بیس ۲۰ سہام باپ کو اور پندرہ ۱۵ ازوجہ کو اور سترہ ۱۷ دختر کو اور ۳۳-۳۴ ہر دو پسران کو دیئے جاویں گے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ بندۃ رشید احمد غنی عنہ۔ رشید احمد ۱۳۰ (بنام حافظ عبدالرحیم صاحب مراد آبادی)۔

## کتاب: ذکر و دعا آداب قرآن و تعویذ کے مسائل! ذکر جہری

(سوال) ذکر سے یہ بات دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اب تجھ کو ہر شخص عابد زاہد جانے گا اس ریا کے دفع کی کیا تدبیر ہو آج کل آواز بیٹھ گئی ہے اگر حکم ہو تو آہستہ شروع کر دوں جب کہ آواز کو نفع ہوگا پھر جہری کروں گا۔ فقط

(جواب) ذکر جہری سے ریا پیدا ہوتا ہے تو اس کے واسطے لاحول بکثرت پڑھا کریں مگر اس لئے ترک جہر مناسب نہیں البتہ عذر مرض کی وجہ سے تا زوال مرض ترک رکھنا اور اختاپرا کتفاء کرنا مناسب ہے۔

### ذکر جہری کی حقیقت

(سوال) ذکر جہر کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے یا صوفیہ کرام نے اپنی طرف سے مقرر کر لیا زید کہتا ہے کہ ذکر جہر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدعت ہے عمرو کہتا ہے کہ جب ذکر جہر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدعت ٹھہرا تو بڑے بڑے خفی اس ذکر کرنے کی کیوں اجازت دیتے ہیں مفتی بہ کس طور پر ہے؟

(جواب) ذکر جہر اور خفی دونوں حدیث سے جائز معلوم ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے جہر کو بدعت اس موقع پر فرمایا ہے جہاں ذکر کا موقع ہے آپ عالیہ الصلوٰۃ وہاں جہر ثابت نہیں جیسا عید الفطر کی نماز کو جاتے ہیں اور مطلقاً ذکر جہر کو منع نہیں فرمایا ذکر ہر طرح درست ہے فقط۔

### ذکر جہری کا ثبوت

(سوال) ذکر جہر کون سی حدیث سے ثابت ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کس موقع پر بدعت اور کس جگہ جائز فرمایا ہے زید کہتا ہے کہ ذکر جہر کرنا کیا ضرورت ہے کیا اللہ بہرا ہے کہ چپکے سے نہیں سنتا ہے جناب اس مسئلہ کو مع ثبوت آیت و حدیث کے ارقام فرمادیں اور جس حدیث سے ثابت ہوا ہے وہ حدیث ضرور لکھ دیں اور وجہ بدعت ہونے اور جائز ہونے کی اور مفتی بہ ہونے کی زیب قلم فرمادیں اور جناب نے پہلے فتویٰ میں جو ذکر جہر کا ثبوت لکھا ہے وہ سمجھ میں

نہیں آیا؟

(جواب) السلام علیکم بندہ مفتی ہے مسئلہ حق جو اپنے نزدیک ہوتا ہے اس کو بتانا فرض ہی جانتا ہوں اور مسائل کے دلائل لکھنے کی ضرورت نہیں اور وہ واجب نہیں اس کی تحقیق کتب میں ہے۔ اگر علم ہو اس کو دیکھو ورنہ دلائل سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔

ذکر جہری

(سوال) ذکر جہر مذہب حنفیہ میں جائز ہے یا نہیں مدلل ارقام فرمادیں؟  
(جواب) ذکر جہری میں حنفیہ کتب میں روایات مختلفہ ہیں کسی سے کراہت ثابت ہوتی ہے غیر محل ثبوت میں اور بعض سے جواز ثابت ہوتا ہے اور یہی راجح ہے اور اس کی دلیل طلب کرنا بے سود ہے کیونکہ مجتہدین کا خلاف ہے سو اب کون فیصلہ کر سکتا ہے مگر جواز کی دلیل یہ ہے کہ قال اللہ تعالیٰ۔ اذ کوربک فی نفسک تضر عا وخیفۃ ودون الجہر الایۃ (۱) دون الجہر بھی جہری ہے کہ ادنیٰ درجہ ہے قال علیہ السلام اربعوا علی انفسکم (۲) الحدیث۔ اور یہ بھی ذکر جہری ہے رفیق کو فرمایا ہے۔ گلو پھاڑنے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات و حدیث بہت جواز پر دال ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

ذکر جہری

(سوال) ذکر جہر اور دعا جہر اور درود جہر خواہ جہر خفیف ہو یا شدید جیسے نماز میں نزدیک حضرات محدثین اور حضرات ائمہ اربعہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کیا حکم رکھتا ہے اور جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) ذکر خواہ کوئی ذکر ہو وے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سوائے ان مواقع کے کہ ثبوت جہر نص سے ہے وہاں مکروہ ہے اور صاحبین اور دیگر فقہاء و محدثین جائز کہتے ہیں۔ اور مشرب ہمارے مشائخ کا اختیار مذہب صاحبین علیہم الرحمۃ ہے۔ والسلام۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کیا کرو دعا جزئی سے اور خوف سے اور زیادہ پکار کر نہیں۔  
(۲) اپنے نفسوں پر قرآن پڑو۔ (حدیث)

## ذکر جہری میں ضرب کا طریقہ

(سوال) ذکر جہری میں ضرب اللہ کس قدر جہر سے قلب پر مارنا چاہئے کیا ایسی شدت ہو کہ آواز بیٹھ جاوے۔

(جواب) ایسی شدت کی ضرورت نہیں ہے۔

## ذکر کے وقت تصور

(سوال) مسئلہ یا باسط یا مغنی کے پڑھنے میں کیا خیال رکھے؟

(جواب) ان کے معنی کا دھیان رکھے۔

## ذکر جہری افضل ہے یا خفی

(سوال) ذکر جہر افضل ہے یا خفی بالہ لائل ارقام فرماویں؟

(جواب) دونوں میں فضیلت ہے من وجہ کسی وجہ سے جہر افضل ہے اور بعض وجہ سے خفی افضل

ہے اور دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حکم مطلق ذکر کا حکم فرمایا ہے اذ کرو اللہ ذکر اکثیراً (۱) مطلق کی فرو میں جو ہو مامور ہے اور فضائل خارجی مختلف ہوتے ہیں باعتبار ذکر اور وقت اور

کیفیت اور ثمرات کے۔ فقط

## حیض و نفاس کی حالت میں ذکر کرنا

(سوال) عورت حیض و نفاس کی حالت میں مراقبہ جیسا طریق نقشبندیہ میں دستور ہے کر سکتی ہے

یا نہیں اور اسی حالت میں حلقہ مرشد میں توجہ لے سکتی ہے یا نہیں؟

(جواب) عورت کو حیض و نفاس میں سوائے قرآن شریف کے سب اذکار درست ہیں۔ لہذا

مراقات و اشتغال مشائخ بھی جائز ہیں اور صحبت پیر میں بیٹھ کر اس کو توجہ لینا بھی درست ہے مگر

داخل مسجد حائضہ و نفاس کو حرام ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ قال فی الدر المختار فی

بیان الحيض مع الصلوة و صوم ما ودخول المسجد انتهى ثم قال لا باس لحائض

وجنب بقراءة اذعية ومسها وذكر الله تعالى لتسيحه انتهى. (۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔

(۲) درختار میں کہا حیض کے مسائل بیان کرتے ہوئے نماز روزہ اور مسجد میں داخل ہونے کے متعلق پھر کہا کہ کوئی حرج نہیں کہ حائضہ ناپاک دعا کو پڑھے اور سنے اور ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا اس کی تسبیح سے ۱۲۔



بغیر وضو کے ذکر کرنے کا مسئلہ

(سوال) ذکر بلا وضو جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) ذکر بلا وضو درست ہے۔ فقط

جن درودوں کا ذکر احادیث میں نہیں آیا ہے

(سوال) ایک شخص کہتا ہے کہ درود ماثورہ کا ثواب حسب ارشاد رسول اللہ ﷺ ملتا ہے اور جو درود بنائے دوسرے لوگوں کے ہیں ان کا ثواب نہیں ہوتا مثل ثواب ماثورہ کے مگر ایسا ہے جیسے نعت غزل پڑھتے ہیں۔ یہ مقولہ صحیح ہے یا نہیں؟

(جواب) بے شک درود شریف جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کا ثواب زیادہ ہے اور یہ ان کا خیال درست نہیں کہ اور درود شریف کا ایسا ہی ثواب ہے جیسے غزلیات کا فقط۔ واللہ اعلم۔

تراویح میں قرآن مجید کا اجرت پر سننا

(سوال) مسئلہ جو حافظ کہ اجرت پر قرآن بلا تعین کے سناوے اس قرآن کو وہ تراویح میں سنے اور وہ سامع کچھ نہ دے تو اس نادہندہ کو سننا ایسے قرآن کا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) جو حافظ اجرت پر سناتے ہیں وہ سنانا عبادت نہیں ہے پس اس کو سننا بھی نہیں چاہئے فقط واللہ اعلم۔

قرآن کے اوراق کی تعظیم کا طریقہ

(سوال) ورق قرآن کے کسی شخص کے پاس موجود ہوں اگر ان کی بے تعظیمی ہوتی ہو تو کیا کرنا چاہئے؟

(جواب) گھول کر پانی یا کسی شے میں پی لیوے یا ادب کے ساتھ پارچہ پاک میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ کہ پامال نہ ہوتی ہو دفن کر دے۔ فقط

قرآن کو تعویذ بنانا

(سوال) قرآن شریف تحدیداً روپیہ کی برابر اگر تعویذ موم جامہ میں کر کے گلے میں ڈالے تو درست ہے یا نہیں؟

(جواب) کچھ حرج نہیں۔ فقط

## قرآن مجید کے گرانے کا صدقہ

(سوال) یہ طریقہ جو اکثر عوام میں مروج ہے کہ اگر کلام اللہ شریف ہاتھ سے گر جاوے تو اس کی برابر وزن کر کے گندم و جو وغیرہ مساکین کو صدقہ کرتے ہیں۔ اور اس خاص طریقے کو ضروری لازم جانتے ہیں اگرچہ قرض کی نوبت ہو لہذا یہ خاص طور پر بالخصوص کیسا ہے اگرچہ صدقہ دیوے؟

(جواب) یہ امر کہیں ثابت نہیں اختراع عوام کا ہے البتہ صدقہ دینا ایسی حالت میں اچھا ہے کہ صدقہ سے کفارہ معاصی کا ہوتا ہے مگر واجب نہیں بشرط قدرت کے صدقہ کر دیوے خواہ کچھ ہو خواہ کسی قدر ہو سوائے اس کے دیگر سب لغو بے اصل ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

## بغیر وضو کے کلام اللہ کو چھونا

(سوال) حفظ کلام اللہ شریف میں بوجہ کثرت مزادلت پڑھنے و مس کرنے کلام اللہ کے وضو ہونا یا کپڑے سے مس کرنا ہر چند احتیاط رکھی جاوے تاہم ہر وقت دشوار ہوتا ہے ایسی صورت میں کسی طرح سے رخصت ہو سکتی ہے یا نہیں؟

(جواب) طفل نابالغ تو معذور غیر مکلف ہے مس مصحف بلا وضو اس کو درست ہوگا۔ مگر بالغ کو اجازت نہیں ہو سکتی پس با وضو ہو یا ثوب (کپڑے) وغیرہ سے تعلیب (الٹ پلٹ) اور اراق کرے۔ فقط واللہ اعلم۔

## حالت جنابت میں قرآن شریف کا چھونا

(سوال) حالت جنابت میں کلام اللہ شریف ایک مقام سے دوسرے مقام پر رکھ دینا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) جنابت کی حالت میں مصحف شریف کا اٹھانا جزو ان میں یا کسی شے سے پکڑ کر درست ہے اور مس کرنا حرام ہے۔ اگرچہ دوسری جگہ کے رکھنے کے واسطے ہو۔

## قرآن شریف کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا

(سوال) قرآن شریف کی تعظیم کے واسطے اٹھنا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) قرآن شریف کی تعظیم کے واسطے کھڑا ہونا درست ہے قرآن شریف کلام الہی تعالیٰ

شانہ ہے اس کی جس قدر تعظیم ہو، بجا ہے۔ فقط

چور معلوم کرنے کے لئے یسین شریف پڑھ کر لوٹا پھرانا

(سوال) نام کا نکلوانا جو طریقہ عالموں کا ہے کہ سورہ یسین وغیرہ پڑھ کر لوٹا وغیرہ گھومتا ہے کسی شخص معین کے نام پر یہ نام نکالنا اور اس پر اعتقاد کرنا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) یہ عمل کرنا اس غرض سے کہ چور خوف کر کے سر قہ دے دیوے تو درست ہے اور بایں وجہ کہ اس سے حال چور کا معلوم ہوتا ہے درست نہیں کہ علم غیب کا (۱) انہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

نماز فجر کے بعد تلاوت و ذکر کرنا

(سوال) تلاوت قرآن شریف کی بعد نماز صبح کے قبل طلوع کے کیسی ہے۔ زید کہتا ہے کہ فتاویٰ عالمگیریہ اور در مختار میں ہے کہ اس وقت ذکر اللہ کرنا مستحب ہے اور بعض کراہت کے قائل ہوئے ہیں۔ پس یہ قول زید کا سند کتب مذکورہ صحیح ہے یا غلط۔

(جواب) اس وقت قرآن شریف پڑھنا جائز ہے بلا کراہت ہے اور ذکر کرنا اولیٰ۔

وضو کی دعائیں

(سوال) جو لوگ وضو کے اندر ہر ہر عضو پر اذکار پڑھتے ہیں آیا کوئی اصل معتد اس کی ہے یا نہیں؟

(جواب) جو وضو کے اندر ہر ہر عضو پر اذکار پڑھتے ہیں ان کی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ لیکن روایات قابل عمل ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

ہیضہ کے لئے دعاء

(سوال) یہاں ہیضہ کی نہایت کثرت ہے کوئی خاص دعا و عمل بتلادیا جائے کہ جس کی برکت سے حافظ حقیقی محفوظ رکھے؟

(جواب) ہیضہ کے لئے مجھے کوئی خاص دعا تو معلوم نہیں ہے مگر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق (۲) ہر صبح و شام تین تین بار پڑھ لیا کریں۔

(۱) قول البخیلی مؤلفہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں اسی طرح ہے۔

(۲) میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا فرمایا ہے۔

## عہد نامہ کا پڑھنا

(سوال) عہد نامہ ایک چھوٹی کتاب ہے اور اس کے پڑھنے کا ثواب حد درجہ لکھا ہے۔ یہ عہد نامہ اور اس کی اسناد معتبر ہے یا غیر معتبر؟

(جواب) عہد نامہ کے پڑھنے میں کچھ حرج نہیں مگر اس کا ثواب جو لکھا ہے وہ غلط ہے۔

## ادائے قرضہ کی دعاء

(سوال) حدیث شریف میں لکھا ہے اللّٰهُمَّ انى اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين والقهر اس کو صبح و شام پڑھے قرض و غم رفع ہو لہذا عرض پر داز ہے کہ اگر حضور اجازت تحریر فرماویں تو پڑھ لیا کروں۔ فقط۔

(جواب) اس دعاء کے پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اس سے نفع ہوگا۔

## دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا

(سوال) بعد اختتام دعا کے ہاتھ منہ پر جو ہاتھ پھیرنے کی کیا وجہ ہے یعنی ہاتھ منہ پر کیوں پھیرتے ہیں۔ بیّنوا تو جروا۔

(جواب) بعد ختم دعاء ہاتھ منہ پر پھیر لینا درست اور ثابت ہے اور حصول برکت کے لئے یہ فعل کیا جاتا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## فرض نماز کے بعد دعا بلند آواز سے پڑھنا

(سوال) فرضوں کے بعد دعا جہر سے مانگنا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) بعد فرض نماز کے دعا جہر سے کرنا جائز ہے اگر کوئی مانع عارض نہ ہو۔ فقط

(۱) اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں بجز اور سستی سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں نامردی اور بخل سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبہ اور قہر سے۔

## ملفوظات

## خط کے ذریعہ بیعت

۱۔ خط پہنچا حال معلوم ہوا عزیزم احمد شفیع کے حالات سن کر مسرت ہوئی حق تعالیٰ برکت عطا فرماوے ان کی بیعت بندہ قبول کرتا ہے حتیٰ الوسع اتباع سنت کریں اور بدعات سے محترز رہیں مگر زیادہ اپنی توجہ تحصیل علم دین کی طرف رکھیں اور اس کے ماسوا کی طرف زیادہ رغبت نہ کریں حسب تحریر آپ کے ایک ایک تعویذ بھیجتا ہوں اگرچہ مجھے اس بارے میں کچھ مداخلت نہیں ہے بڑا تعویذ اپنی اہلیہ کے بازو پر باندھ دیں اور چھوٹا اپنے فرزند کے گلے میں ڈالیں سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا لب ناسور پر لگاتے رہیں۔ فقط واللہ اعلم والسلام۔

## تعویذ مرسل پیر

۲۔ تعویذ ارسال ہیں فقط والسلام۔ از بندہ محمد یحییٰ اعفی عنہ بعد سلام۔

مسنون گزارش ہے کہ تعویذ حسب طلب ارسال ہیں بڑا تعویذ اپنے بھائی کے بچے کے سامنے کھول اس کو دکھلا کر اس کے گلے میں ڈالیں۔ فقط والسلام ۲۹ صفر ۱۳۲۲ھ۔

## یا باسط یا مغنی دعائے ضرب الجھر کے اوقات

۳۔ یا باسط یا مغنی دعائے ضرب الجھر اگر فجر کے وقت نہ ہوں اور کسی وقت پوری کر دیا کریں البتہ سنت فجر اور اوقات میں کچھ کمی ہوگی اور قبل نماز فجر پڑھ لی جاویں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ البتہ نماز فجر باجماعت بنی مقررہ وقت پر ہو اس میں کچھ فرق نہ آوے۔ فقط واللہ اعلم۔

## باب حقوق کے مسائل

حقوق العباد میں روزہ دلایا جائے گا یا نہیں

(سوال) حقوق العباد میں روزہ نماز سب دلایا جاؤں گا۔ بروز قیامت یا روزہ نہیں دلایا جائے گا؟

(جواب) حقوق العباد میں روزہ بھی دلایا جاوے گا۔ فرض روزہ ہو یا نفل۔ فقط واللہ اعلم۔

کس قدر مقبول نمازیں کتنے قرضہ میں دلائی جائیں گی

(سوال) سنا ہے کہ ساٹھ وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ بدلہ تین پیسوں کے قرض دار کو دے گا جو نمازیں مقبول ہوں گی؟

(جواب) درمختار میں لکھا ہے کہ سات سو نمازیں مقبول عوض ایک وانگ کے دلائی جاویں گی

فقط

والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دینا

(سوال) اگر والدین نفسانیت سے یا بوجہ اپنے اطاعت نہ کرنے کے طلاق زوجہ کو کہیں نہ بوجہ

عذر شرعی کے تو پسر کو طلاق دینا ضروری ہے یا نہیں۔ فقط۔

(جواب) طلاق دے دینا چاہئے خواہ وہ کیسے ہی کہیں۔ فقط

والدین کے خلاف احکام شرع

(سوال) کسی پیر یا شہید یا استاد یا باپ کا قول خلاف شرع ہو مگر دنیاوی کوئی مصلحت ہو تو مان

لے یا نہیں؟

(جواب) خلاف شرع کسی کا قول ماننا درست نہیں۔ قول ماننا بکلم شرع درست ہے وہ ماننا جائز

ہے ورنہ ہرگز درست نہیں۔

والدین اور مرشد میں اگر اختلاف ہو جائے

(سوال) اتفاقاً اگر مرشد اور والدین میں کوئی تفیض و نزاع واقع ہو جاوے اور باہم صلح کرانا بھی

ممکن نہ ہو تو کیا کرے اور کس کی طرف داری کرے درانحالیکہ مرشد کہے والدین کو چھوڑ دے اور

والدین کہیں مرشد کو چھوڑ دے اور یہ مرشد بھی کامل ہو اور خلاف شرع بھی کوئی کام نہ کرتا ہو۔  
(جواب) اگر مرشد حق کہے تو اس کا چھوڑنا گناہ ہے والدین کی اطاعت اس میں نہ کرے اور والدین کی خدمت اور امر مباح کا تسلیم کرنا بھی واجب ہے ترک اس کا گناہ ہے مرشد کے کہنے سے گناہ بھی نہ کرے۔

**خفیہ نکاح کرنے کے بعد بیوی سے احکام شرع کی تعمیل کرانا**

(سوال) مسئلہ اگر کسی نے عورت سے نکاح خفیہ کر لیا ہو لیکن بوجہ اخفائے امور وغیرہ کے احکام شرع کی تعمیل وہ نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں دیوث ہو گیا یا نہیں؟  
(جواب) جس نے کسی عورت سے نکاح کر لیا خواہ خفیہ یا ظاہر اگر وہ اس کے بارے میں احتیاط نہ کرے گا دیوث ہوگا۔ فقط واللہ اعلم۔

**زنا حقوق اللہ میں ہے کہ حقوق العباد میں**

(سوال) مسئلہ عورت شوہر دار اور عورت بیوہ اور عورت لاوارث کسی وغیرہ ہر سہ عورت کے ساتھ زنا میں کیا تفاوت ہے ان میں کس کے ساتھ زنا کرنا حق اللہ ہے اور کس کے ساتھ زنا کرنا حق العبد ہے؟

(جواب) زنا ہر سہ قسم کی عورتوں کے ساتھ حق اللہ ہے حق العبد نہیں ہے۔ فقط

**مہر بخشوانے کا طریقہ**

(سوال) مہر بخشوانے کے واسطے کوئی خاص شرائط کی طرفین سے ضرورت ہے زوجہ خلوت میں مہر زوج کو بخش دے تو معاف ہو جائیگا یا نہیں کوئی نقصان تو نہ رہے گا زیادہ۔

(جواب) مہر بخشوانے کے لئے کوئی شرط درکار نہیں ہے صرف اس کا معاف کر دینا کافی ہے۔

**محلہ کی مسجد کی بجائے جامع مسجد کو جانا**

(سوال) مسجد محلہ چھوڑ کر جامع مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا نہیں؟

(جواب) مسجد محلہ چھوڑ کر جامع مسجد میں نہ جانا چاہئے البتہ احیاناً ایسی حالت میں کہ جماعت مسجد محلہ میں اس کے چلے جانے سے حرج نہیں آتا مضافاً فقہ نہیں ہے کہ جامع مسجد میں نماز پڑھ لیا کرے۔

## والدین کے احکام کی تعمیل کے حدود

(سوال) اگر والدین کہیں کہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو تو ضرور ہے کہ چھوڑ دے یا نہیں؟  
(جواب) ازوجہ کو چھوڑ دے مگر اولاد کو چھوڑنا درست نہیں ہے۔

## ہمسایہ کے حقوق بنا میں کیا کیا ہیں

(سوال) ایک شخص نے مکان نیا بنایا اور اس کا پرنا لہ ہمسایہ کی جانب کو کیا وہ لوگ بوجہ اس شخص کی زبردستی کے کچھ نہ کہہ سکے منع کیا بھی مگر بند نہ کر سکے اگر یہ شخص فقط پانی اپنی چھت کا اس طرف کو جاری رکھے کسی قسم کا قبضہ اراضی پر نہ کرے نہ چاہے بلکہ وصیت نامہ اپنے پاس لکھ کر رکھے کہ میں پانی جاری کرنے کا اس طرف کو مستحق ہوں باقی کسی قسم کا اراضی سے سوا پانی جاری کرنے کے کچھ نفع میرے بعد جس کو بھی یہ مکان منتقل ہو کچھ منصب نہیں اگر یہ شخص پانی روک دے اور پرنا لہ بند کر دے مگر اس کے گھر سے نشان نہ توڑو وادے کیونکہ نصف حق اراضی میں اس کا بھی ہے تاکہ بعد عدم نشان کے نشان بھی دیوار پر نہ ڈالنے دیں گے اور اس نشان کا بھی ایک وصیت نامہ تحریر کر دے کہ میں اس جانب کو سوائے نمایاں ڈالنے کے پانی وغیرہ کا مستحق نہیں ہوں یہ نشان پرنا لہ کا ناحق ہے اس پر کوئی آدمی جس پر یہ مکان منتقل ہو وہ کچھ دعویٰ نہ کرے اب بعد اس وصیت نامہ کے جو اس کے پاس رکھا ہوا تھا اس کے وراثت اس پرنا لہ کو جاری کیا اور زمین بھی اس نے دعویٰ سے لے لی ہو وصیت نامہ تحریر کنندہ کچھ عند اللہ مواخذہ دار ہے یا نہیں؟

(جواب) اگر اس کی زمین اس طرف چھوٹی ہوئی ہے تو اس کو پرنا لہ اتارنے کا حق ہے اور اگر اس کی زمین اس طرف چھوٹی ہوئی نہیں ہے تو وہ پرنا لہ نہیں اتار سکتا اس صورت میں اس طرف پرنا لہ اتارنا سراسر ظلم ہے اور وصیت نامہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ امر بے جا خلاف منشاء مالک ہر حال حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

## میت کے حقوق کی ادائیگی

(سوال) میت پر جو حقوق اللہ اور مثل فرائض واجبات کے ہوں اگر وارثان ادا کریں تو ساقط ہو جاویں گے یا نہیں اور طریقتہ استقاط مروجہ عوام جو حیلہ وغیرہ کرتے ہیں اس کا وجود خیر القرون میں تھا یا نہیں باوجود نہ ہونے کے بدعت ہے یا نہیں؟

(جواب) حقوق مالیہ تو ادائے حقوق سے ادا ہو سکتے ہیں اور حقوق بدنیہ جیسے نماز روزہ تو ہر نماز اور



روزہ کے بدلے نصف صاع گیہوں اور ایک صاع جواد کرنے سے امید ادا ہے انشاء اللہ باقی رہا یہ اسقاط موجب محض لغو اور بیہودہ حیلہ ہے اور اس کا خیر القرون میں کچھ اثر نہیں ہے۔ فقط

## بزرگان دین سے حق تلفی کا مواخذہ

(سوال) ایک شخص ہمیشہ صوم داؤدی (۱) رکھتا ہے اور تہجد اور نوافل بھی کل پڑھتا ہے اور درویشی بھی خوب کرتا ہے اور اچھا پہنتا ہے اور چار نکاح بھی اس نے کئے ہیں اور یاد خدا بھی ہر وقت کرتا ہے اور ایک شخص نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اپنے والدین سے اور اپنی زوجہ سے تعلق کامل رکھتا ہے اور درحقیقت اس کو اپنے متعلقین کا ہونا ہی بار ہے اور یہ شخص عاقل ہے نہ مجذوب بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات سما گئی ہے کہ سوائے یاد خدا کے کچھ باقی نہ رہے کسی سے کچھ تعلق نہ ہونہ مال ہونہ کھانا ہوا مل و عیال ہوں نہ والدین ہوں نہ عزیز واقارب ہوں کسی سے کچھ تعلق نہ ہو تہجد ہوتاوت ہویا یاد خدا ہو اور کچھ نہ سب سے کنارہ ہو تو اب استفسار طلب یہ امر ہے کہ ان دونوں شخصوں میں کون زیادہ بہتر ہے اور یہ شخص دوم کہ جس نے بالکل تعلقات دنیوی ترک کر دیئے ہیں اس سے اس کے متعلقین اور والدین کے کھانے کے واسطے جائیداد قدیمی بہت موجود ہے انکو کسی بات کی تکلیف نہیں ہے۔

(جواب) حق تلفی کا مواخذہ بزرگ سے بھی ہوویگا اور ہر شخص کا حال متفاوت ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون افضل ہے افضل وہ ہے کہ جس کا تقرب الی اللہ زیادہ ہو بعض کو تعلقات مانع ہیں اور بعض کو مانع نہیں بلکہ بعض کو معین ہیں اور پھر نسبت کا تفاوت ہے پس ایسے امور کا فیصلہ ممکن نہیں اسی ہی سبب سے حالات مشائخ کے بھی مختلف رہے ہیں۔

## دستوری کے احکام

(سوال) کوئی شے بیع کی مشتری کے ہمراہ ملازم وغیرہ نے کہا کہ ہمیں دستوری دوا لیے وقت دینی پڑتی ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) جہاں کا عرف و رواج دستوری لینے دینے کا ہو اور بائع و مشتری دونوں کو معلوم ہو وہاں تو دینی چاہئے اور جہاں یہ بات نہ ہو وہاں دینے والے کو اختیار ہے دے یا نہ دے۔ فقط

(۱) یعنی ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھے۔

## ملفوظ

نمازی کے نیچے سے بور یا کھینچنا

۱۔ نمازی کے نیچے سے بور یا کھینچنا تعدی کر کے ظلم ہے اور گناہ کبیرہ ہے الظلم ظلمات یوم  
القیامۃ۔ (۱) بور یا مسجد کا کسی کی ملک نہیں جو پہلے اس پر کھڑا ہو گیا وہ دوسرے سے احق ہے پس  
اس کو ڈھکیلنا اور بور یا چھین لینا ظلم ناحق ہے۔ واللہ اعلم۔

## کتاب: آداب اور معاشرت کے مسائل

کھانے کے پہلے اور بعد میں ہاتھ کا دھونا

(سوال) قبل غذا اور بعد غذا اگر ہاتھ پاک صاف ہو تو بھی ضرور دھوے یا نہیں؟  
(جواب) قبل غذا ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے البتہ ادب ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

سونے کے بعد اٹھ کر ہاتھ دھونا

(سوال) بعد سونے کے اگر ہاتھ پر نجاست کا شک ہو تو دھونا ہاتھوں کا مسنون ہے یا نہیں؟  
(جواب) اگر ہاتھ پر نجاست کا شک نہ ہو تب بھی سونے کے بعد وضو میں دھونا مسنون ہے  
فقط

سونے کے بعد اٹھ کر ہاتھوں کا دھونا

(سوال) بعد سونے کے اگرچہ ہاتھ پر نجاست کا شک نہ ہو تو دھونا ہاتھوں کا مسنون ہے یا نہیں؟  
(جواب) اگر ہاتھ پر نجاست کا شک نہ ہو تب بھی سونے کے بعد ہاتھوں کا دھونا مسنون ہے۔

بغیر طب پڑھنے کے اپنا اور دوسروں کا علاج کرنا

(سوال) جس شخص کی تحصیل علم وطب کافی نہ ہو اور شفا بہانہ دوا پر اعتقاد ہو اور اپنے مرض کا بھی  
علاج کرنا ہو یقین کامل ہو کہ اللہ شافی مطلق ہے اور بوجہ اس توکل کے بلا تشخیص کے مریض کا  
علاج کرے عند اللہ مواخذہ دار ہے یا نہیں اور خاص اپنے ترک علاج سے مصیب ہو گا یا نہیں۔

(جواب) بغیر واقفیت معالج کرنا درست نہیں ہے اور اپنا علاج نہ کرنا درست ہے۔

### بغیر سند کے علاج کرنا

(سوال) جو شخص فارسی پڑھا ہو طب کا علاج مریضوں کا کرے اور مطب بھی کیا ہو اور تشخیص مرض بھی بخوبی کرتا ہو مگر سند اس زمانہ کے حکماء کی نہ ہو تو بغیر سند اگر وہ علاج کرے تو وہ گنہگار ہوتا ہے یا نہیں اور اس شخص نے اپنے استاد سے بخوبی علم طب فارسی میں پڑھا ہے؟

(جواب) ایسے شخص کہ جس کا حال درج سوال ہے علاج کرنا درست ہے ہرگز گناہ نہیں اور سند کی حاجت نہیں فن طب سے ماہر ہونا چاہئے۔ واللہ اعلم۔

### طیب کی صفات

(سوال) حضور نے جو لکھا ہے کہ علاج مریض جب جائز ہے جب کہ ظن غالب صواب ہو ورنہ جائز نہیں تو یہ ظن کس درجہ کے طیب کا معتبر ہے؟

(جواب) یہ ظن غالب اسی شخص کا معتبر ہے جو فی الجملہ علم اور تجربہ بھی رکھتا ہو جاہل محض اور ناواقف کا ظن معتبر نہیں ہے میں ایسے طیب کے شروط اور تعریف کو کیا لکھوں جو اہل علم اور واقف ہے وہ طیب ہے اور اسی کے غلبہ ظن کا اعتبار ہے۔ فقط

### بدعتیوں اور مشرکوں سے تعلقات رکھنا

(سوال) بدعتی اور مشرکوں کا کوئی کام یا حاجت پوری کرنے سے یا اخلاق سے باتیں کرنے سے کچھ ثواب ہے یا عذاب بلکہ اخلاق و رسم سے تو فائدہ نصیحت وغیرہ کا معلوم ہوتا ہے اور تشریحی سے تو یہ متصور نہیں اور کلام کا نہ ہونا بالکل محروم نصیحت سے رکھنا ہے اور شرکت جنازہ سے تجہیز و تکفین مراد ہے یا جنازہ کے ساتھ جانا ہے اگر بدعتی کے جنازہ کی شرکت نہ کرے تو ثواب ہے؟

(جواب) جو شخص بوجہ گناہ ترک کرے گا اس کو زیادہ ثواب ہے اور جو بوجہ طعنہ یا کفالت وغیرہ ترک کرے گا تو اگر خدمت کا ثواب اس کو نہ ہو مگر گناہ سے وہ بچ گیا۔ فقط

### بدعتی نمازیوں کی امام کو خاطر تواضع کرنا

(سوال) اگر نمازیان مسجد بدعتی ہوں مگر بوجہ اس کے کہ اخلاق اور محبت ان سے کرنے سے وہ میری امامت سے خوش رہیں گے ورنہ بغض رہے گا اور جماعت میں فساد پڑے گا۔ لہذا ان سے

سلام و اخلاق وغیرہ کرنا اولیٰ ہے یا نہ کرنا؟  
(جواب) اس وجہ سے مدارات درست ہے۔

احسان کر کے ظاہر کرنا

(سوال) احسان کیا بوجہ از یاد محبت یا بغرض عوض اس کا اظہار کیا یا باہمی رسم جاری کرنے کو ظاہر کر دیا تو کچھ ثواب اظہار سے کم ہوگا یا نہیں؟

(جواب) اگر بوجہ اللہ نیت غیر سے ایک کام کو ظاہر کر دے تو مضائقہ نہیں ہے بلکہ بعض اوقات از یاد خیر ہے۔ فقط

زوجہ کو کب تک نماز کی نصیحت کرے

(سوال) کتنے دنوں تک ضرور ہے کہ خاوند زوجہ کو نماز کی نصیحت کرے جب کہ عرصہ تک نصیحت کرتا ہو اور وہ نہ مانے بعدہ کہنا چھوڑ دے تو گنہگار شوہر ہے یا نہیں؟

(جواب) اگر ماننے سے مایوس ہو جاوے تو چھوڑنے سے گنہگار نہیں ہے اور دنوں کی کچھ تعداد نہیں ہے۔ فقط

## ملفوظات

اندیشہ ضعف ہو تو غذا تر قوی کھانا

۱۔ اگر غذا تر اور قوی کھالیوے تو بہتر ہے کہ اندیشہ ضعف سے اطمینان ہو جاوے۔ فقط

سنت و فرض فجر کے درمیان تھوڑی دیر سو جانا۔

۲۔ سنت و فرض فجر کے درمیان اگر تھوڑی دیر لیٹ جاوے تو کچھ حرج نہیں ہے بلکہ اگر

رات کو زیادہ جاگنے کا اتفاق ہوا ہے تو دفع مکان کی وجہ سے بہتر ہے۔ فقط۔

## تمام شد

(۱) ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کے فرضوں کے پہلے دو رکعت پڑھ لے تو اپنے سیدھے بازو پر لیٹ جائے اس کو الحمد للہ دو درغی نے روایت کیا ہے اور بلسوغ المرام من ادلة الاحکام لے اس کی حج کی ہے اور سفر سعادت میں ہے اور جمہور علماء کہ سیدھا راستہ توسط کا اختیار کئے ہیں اور احتیاب کے قائل ہوئے ہیں۔